

أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا غَرَائِبَهُ (ابن جرير)

# مَعَارِفُ الْبَيِّنَاتِ

فِي

# أَعْرَابِ الْقُرْآنِ

مجلد ثالث (سورة مريم تا سورة الصف)

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

تأليف

أستاذ العلماء شيخ الحديث حضرت مولانا

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله  
حفظه الله

فاضل جامعة خير المدارس نمان

مدير: جامعة نور القرآن والسنة پل شاه نال لودھراں

واتاذا محيٹ: جامعة سراج العلوم لودھراں

ناشر

مکتبہ امدادیہ

مُلٹان، پاكِستان 061-4544965  
0300-7828402





## معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے  
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی  
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے  
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ [KitaboSunnat@gmail.com](mailto:KitaboSunnat@gmail.com)

🌐 [library@mohaddis.com](mailto:library@mohaddis.com)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا عَرَائِبَهُ (الحدیث)

# مَعَارِفُ الْبَيَانَ فِي اِعْرَابِ الْقُرْآنِ

جلدِ ثالث

سُورَةُ مَرْيَمَ تَا سُورَةُ الصَّافَّاتِ

تالیف

استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا

ابو اسامہ عبد الرحمن صاحب لودھروی حفظہ اللہ

فاضل: جامعہ خیر المدارس ملتان

مدیر: جامعہ نور القرآن والسنتہ پبل شاہ نال لودھراں

واستاد الحدیث: جامعہ سرانج العلوم لودھراں

ناشر

مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان

www.kitabosunnat.com

کتاب کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب **مَعَارِفُ الْبَيَانِ فِي اَعْرَابِ الْقُرْآنِ** جلد نمبر ۱

سُورَةُ مَرْيَمَ تَا سُورَةُ الصَّفَاتِ

تالیف : ابوالسامہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب لودھروی

مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان

فون نمبر ۰۲-۸۲۸۳۰۲-۰۳۰۰/۰۳۵۳۳۹۶۵-۰۶۱

المکتبۃ الرحمانیۃ

۹۹... ہے ماڈل ٹاؤن - لاہور

ملنے کے پتے

☆ کتب خانہ مجیدیہ ملتان ☆ ادارہ اشاعت الخیر ملتان ☆ مکتبہ حقانیہ ملتان

☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور فون ۰۳۲-۳۷۲۲۳۳۲۸/۳۷۲۲۱۳۹۵

☆ مکتبہ خلیل لاہور

☆ مکتبہ العلم اردو بازار لاہور فون ۰۳۲-۳۷۲۳۱۷۸۸/۳۷۲۱۱۷۸۸

☆ قدیمی کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی فون ۰۲۱-۳۲۲۱۲۲۲۱/۳۲۲۱۲۲۲۰

☆ مکتبہ الشیخ بہادر آباد کراچی

☆ کتب خانہ اشرفیہ کراچی فون نمبر ۰۲۱-۳۲۲۱۳۰۵۸


☆ دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون نمبر ۰۲۱-۳۲۲۱۳۷۶۸

بتعاون محمد حمزہ صدیق تشریحی صاحب

ضروری گذارش

اس کتاب کی چھٹی جلد کو پیش کرنا شروع کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی نے اس جلد کو خرید لیا ہے تو اسے بھیج کر دیا جائے۔ اگر کوئی اور جلد بھی خرید لیا ہے تو اسے بھیج کر دیا جائے۔





## سُورَةُ مَرْيَمَ

| صفحہ نمبر | عنوان             | صفحہ نمبر | عنوان             |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| ۱۹        | ترکیب رکوع نمبر ۴ | ۷         | ترکیب رکوع نمبر ۱ |
| ۲۳        | ترکیب رکوع نمبر ۵ | ۱۰        | ترکیب رکوع نمبر ۲ |
| ۲۷        | ترکیب رکوع نمبر ۶ | ۱۷        | ترکیب رکوع نمبر ۳ |

## سُورَةُ قَاطَةَ

|    |                   |    |                   |
|----|-------------------|----|-------------------|
| ۵۱ | ترکیب رکوع نمبر ۵ | ۳۰ | ترکیب رکوع نمبر ۱ |
| ۵۵ | ترکیب رکوع نمبر ۶ | ۳۵ | ترکیب رکوع نمبر ۲ |
| ۵۷ | ترکیب رکوع نمبر ۷ | ۴۱ | ترکیب رکوع نمبر ۳ |
| ۶۱ | ترکیب رکوع نمبر ۸ | ۴۷ | ترکیب رکوع نمبر ۴ |

## سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

|    |                   |    |                   |
|----|-------------------|----|-------------------|
| ۷۷ | ترکیب رکوع نمبر ۵ | ۶۳ | ترکیب رکوع نمبر ۱ |
| ۸۲ | ترکیب رکوع نمبر ۶ | ۶۶ | ترکیب رکوع نمبر ۲ |
| ۸۸ | ترکیب رکوع نمبر ۷ | ۷۱ | ترکیب رکوع نمبر ۳ |
|    |                   | ۷۴ | ترکیب رکوع نمبر ۴ |

## سُورَةُ الْحَجِّ

|     |                    |     |                   |
|-----|--------------------|-----|-------------------|
| ۱۰۷ | ترکیب رکوع نمبر ۶  | ۹۳  | ترکیب رکوع نمبر ۱ |
| ۱۱۰ | ترکیب رکوع نمبر ۷  | ۹۷  | ترکیب رکوع نمبر ۲ |
| ۱۱۳ | ترکیب رکوع نمبر ۸  | ۱۰۰ | ترکیب رکوع نمبر ۳ |
| ۱۱۵ | ترکیب رکوع نمبر ۹  | ۱۰۲ | ترکیب رکوع نمبر ۴ |
| ۱۱۸ | ترکیب رکوع نمبر ۱۰ | ۱۰۵ | ترکیب رکوع نمبر ۵ |

## سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

|     |                   |     |                   |
|-----|-------------------|-----|-------------------|
| ۱۲۳ | ترکیب رکوع نمبر ۲ | ۱۲۱ | ترکیب رکوع نمبر ۱ |
|-----|-------------------|-----|-------------------|

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۱۳۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ | ۱۲۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |
| ۱۴۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ | ۱۳۲ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴ |

### سُورَةُ التَّوْرِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۱۶۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ | ۱۳۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۱۶۹ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷ | ۱۵۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
| ۱۷۲ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸ | ۱۵۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |
| ۱۷۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹ | ۱۵۷ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴ |
|     |                      | ۱۶۲ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ |

### سُورَةُ الْفُرْقَانِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۱۸۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ | ۱۷۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۱۹۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ | ۱۸۰ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
| ۱۹۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ | ۱۸۴ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |

### سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

|     |                       |     |                      |
|-----|-----------------------|-----|----------------------|
| ۲۱۹ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷  | ۲۰۰ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۲۲۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸  | ۲۰۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
| ۲۲۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹  | ۱۰۴ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |
| ۲۲۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۰ | ۲۰۹ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴ |
| ۲۲۷ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۱ | ۲۱۲ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ |
|     |                       | ۲۱۶ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ |

### سُورَةُ النَّبْلِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۲۵۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ | ۲۳۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۲۵۴ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ | ۲۳۷ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
| ۲۵۷ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷ | ۲۴۲ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |
|     |                      | ۲۴۷ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴ |

### سُورَةُ الْقَصَصِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۲۷۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ | ۲۶۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۲۸۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷ | ۲۶۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
| ۲۸۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸ | ۲۶۷ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |
| ۲۸۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹ | ۲۷۰ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴ |
|     |                      | ۲۷۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ |

### سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۳۰۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ | ۲۹۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۳۰۶ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ | ۲۹۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
| ۳۱۰ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷ | ۲۹۷ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |
|     |                      | ۳۰۰ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴ |

### سُورَةُ الزُّمَرِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۳۱۹ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴ | ۳۱۲ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۳۲۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ | ۳۱۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
| ۳۲۷ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ | ۳۱۶ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |

### سُورَةُ الْقَمَرِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۳۳۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ | ۳۳۰ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۳۳۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴ | ۳۳۲ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |

### سُورَةُ السَّجْدَةِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۳۴۶ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ | ۳۴۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
|     |                      | ۳۴۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |

### سُورَةُ الْأَحْزَابِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۳۵۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ | ۳۴۹ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۳۵۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴ | ۳۵۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۳۷۰ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸ | ۳۶۰ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ |
| ۳۷۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹ | ۳۶۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ |
|     |                      | ۳۶۷ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷ |

### سُورَةُ تَابُوتِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۳۸۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ | ۳۷۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۳۸۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ | ۳۷۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
| ۳۹۰ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶ | ۳۸۲ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |

### سُورَةُ فَاطِمِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۴۰۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ | ۳۹۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۴۰۴ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ | ۳۹۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
|     |                      | ۳۹۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |

### سُورَةُ تَائِيَسِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۴۱۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ | ۴۰۹ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۴۲۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ | ۴۱۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
|     |                      | ۴۱۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |

### سُورَةُ الصَّفَاتِ

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| ۴۴۱ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ | ۴۲۶ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱ |
| ۴۴۳ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵ | ۴۲۸ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲ |
|     |                      | ۴۳۵ | ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳ |



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### تَرْكِیْبُ سُوْرَةِ مَرْیَمَ

رُكُوْعٌ اَحَدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ كَهَيْصَلِ

آیت نمبر ۱: كَهَيْصَلِ کی ترکیب سورۃ قمر میں گزر چکی ہے۔

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا ۝

آیت نمبر ۲: ذِكْرُ مصدر مضاف، رَحْمَتِ مصدر مضاف، رَبِّكَ مرکب اضافی مضاف الیہ عَبْدًا مرکب اضافی مبدل من ذِكْرٍ كَرِيْمًا بدل، مبدل من بدل رَحْمَتِ كَامِفْعُولٍ بہ، رَحْمَتِ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی قائل اور مفعول بہ سے مل کر ذِكْرٌ كَرِيْمٌ كَامِفْعُولٍ ہے، پھر مرکب اضافی ہو کر خبر ہے مبتدا مضاف ہوئی یٰهَذَا كِي، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدًا خَفِيًّا ۝

آیت نمبر ۳: اِذْ ظرف زمان مضاف نَادَى فعل ہو مستقر قائل رَبَّهُ مرکب اضافی مفعول بہ نِدًا خَفِيًّا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی رَحْمَتِ مصدر كَامِفْعُولٍ فیہ ہے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنْ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَاكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

آیت نمبر ۴: قَالَ فعل ہو ضمیر مستقر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے، یَا حرف ندا اَدْعُوْ کے قائم مقام، اَدْعُوْ فعل اَنَا ضمیر قائل ربّی متناہی مضاف منسوب تقدیم مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر علامہ اِن حرف تحقیق یَا ضمیر اس کا اسم وَهَنْ فعل الْعَظْمُ ذوالحال، مِنْ مِّنْ حرف جار نون برائے وقایہ، یَا ضمیر مجرور، جملہ باجور و ظرف مستقر کا اِن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال وَهَنْ كَامِفْعُولٍ، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوِ اعطفه اسْتَعَلَ فعل الرَّاسُ قائل شَيْبًا خبریہ، فعل باقائل و تیز جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِن کی خبر اِن کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب علامہ، علامہ باجواب جملہ انشائیہ علامہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَاوِ اعطفه اَكُنْ فعل ناقص اَنَا ضمیر مستقر اس کا اسم یَا حرف جار دُعَايِكَ مرکب اضافی مجرور، جملہ باجور و ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے شَقِيًّا کے شَقِيًّا صیغہ صفت اَنَا ضمیر مستقر قائل، صیغہ صفت باقائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنِّیْ وَهَنْ بہ معطوف ہے۔ رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے، یَا حرف ندا اَدْعُوْ کے قائم مقام، اَدْعُوْ فعل اَنَا ضمیر مستقر قائل ربّی مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مخرضہ ہوں۔

وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَ كَانَتْ اِمْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝

### يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقَبُ مِنْهُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

**آیت نمبر ۶:** واو عاظفان حرف تحقیق یاہ ضمیر اس کا اسم خیفٹ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل الموالی ذوالحال، من حرف جار وراوی مرکب اضافی مجرور، جار باجمر و طرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیانِ باہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ یعنی وہن کہ معطوف ہے۔ واو حالیہ اور اس کے بعد قد مقدّم ہے، کانت فعل ناقص امراتی مرکب اضافی اس کا اسم ہے، عاقیہ اسم فاعل ہی مستقر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص باہم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ الموالی سے حال ہے، فاء جزائیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اذاکان هذا حال، هب فعل امر آنت ضمیر مستقر فاعل ہی جار باجمر و متعلق اول ہوئے، من حرف جار لکن لک مرکب اضافی مجرور، جار باجمر و طرف لغو متعلق ثانی ہوئے ویثیا موصوف، یرث فعل ناقص هو مستقر فاعل نون برائے وقایہ، یاہ ضمیر منصوب مفعول بہ، ینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یرث فعل هو مستقر فاعل، من حرف جار ال یعقوب مرکب اضافی مجرور، جار باجمر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ویثیا کی صفت، موصوف با صفت هب کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اجعل فعل امر آنت ضمیر مستقر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ اول، رضییا مفعول بہ ثانی اور ربّ یہ اصل میں یا کرتی ہے اور یہ جملہ انشائیہ معترضہ ہے، اجعل فعل امر اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

### يُزَكَّرُ يَأْتِ اَنَابًا بَشِيرًا يَغْلِبُهُ اِسْمُهُ يَحْيَى لَوْلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

**آیت نمبر ۷:** یاہ حرف نداء اذعُو کے قائم مقام، اذعُو فعل انا مستقر فاعل زکرتیا کما منصوب مفعول بہ، ینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء بیانِ حرف تحقیق یا ضمیر اس کا اسم بُشیرُ فعل نَحْنُ مستقر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، یاہ حرف جار غلبہ موصوف اِسْمُهُ مرکب اضافی مبتداء، یحیی مرفوع تقدیر خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ غلبہ کی صفت اولی، لَمْ نَجْعَلْ فعل نَحْنُ مستقر فاعل لَمْ جار باجمر و طرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، من قبل جار باجمر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے سَمِيًّا صیغہ صفت هو ضمیر مستقر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف با مستثنین مجرور، جار باجمر و طرف لغو بُشیرُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیانِ باہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ثانیہ ہوں۔

### قَالَ رَبِّ اَنِي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتْ اَمْرًا اِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

**آیت نمبر ۸:** قال فعل هو مستقر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ربّ یہ اصل میں یا کرتی ہے اور یہ نداء ہے، اَنِي اسم استفہام کا کثرت کا مفعول فیہ ہو کر غلْمٌ کا حال مقدم ہے، غلْمٌ ذوالحال، ذوالحال باحال یَكُونُ کا اسم مؤخر ہے، لی جار باجمر و طرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، فعل ناقص باہم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ نداء کا جواب ہے، نداء با جواب نداء مفعول، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، واو حالیہ کانت فعل ناقص امراتی مرکب اضافی اس کا اسم عاقیہ صیغہ صفت ہی ضمیر مستقر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص باہم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَدْ علامت فعل، بَلَغْتَ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل من الْكِبَرِ جار باجمر و طرف لغو متعلق



ہوئے عیناً مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف علیہ کا حال ہے۔

**قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنَ ۚ وَقَدْ خَلَقْتَكُم مِّن قَبْلُ ۚ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝۹**

**آیت نمبر ۹:** قَالَ فَعَلْ هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، کَذَلِكَ جہا بجز در طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر مبتدا محذوف آلام کو کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہو کر قَالَ فعل مرکب انسانی فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، هُوَ ضمیر مبتدا علی جہا بجز در طرف لغو متعلق مقدم ہوئے هَٰئِنَ صفت مشبہ هُوَ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا و اذ عالیہ قَدْ علامت فعل خَلَقْتَ فعل تامہ مضمومہ ضمیر فاعل کان ضمیر منسوب مفعول بہ مین قَبْلُ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ہوا و اعلاظہ لَمْ تَكُ فعل ناقص آت ضمیر مستتر اس کا اسم شئیہ خبر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف هَٰئِنَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

**قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ اٰيٰتِكَ اَلَا تَكُنَّمُ النَّاسُ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝۱۰**

**آیت نمبر ۱۰:** قَالَ فَعَلْ هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یا رَبِّ ہے اور یہ ندا ہے، اجْعَلْ فعل امر آت مستتر فاعل لی جہا بجز در طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر مفعول بہ جانی مقدم ہے آيَةً مفعول بہ نازل موخر ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ مقولہ ہے، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا قَالَ فعل ہُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اٰيٰتِكَ مرکب اضافی مبتدا، اَنْ حرف مصدری و نصب لا تَكُنَّمُ فعل ناقص ضمیر مستتر فاعل النَّاسُ مفعول بہ ثَلٰثَ لَيَالٍ مرکب اضافی یا میز با ضمیر مفعول فیہ، سَوِيًّا "تکلمہ کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا ثَلٰثَ لَيَالٍ کی صفت ہے، لا تَكُنَّمُ فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

**فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝۱۱**

**آیت نمبر ۱۱:** فَأَاء عاظہ خَرَجَ فعل ہُوَ مستتر فاعل عَلَىٰ قَوْمِهِ جہا بجز در طرف لغو متعلق اول ہوئے مِنَ الْمِحْرَابِ جہا بجز در طرف متعلق جانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَأَاء عاظہ اَوْحَىٰ فعل ہُوَ ضمیر مستتر فاعل إِلَيْهِمْ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقرر، اَنْ حرف تفسیر سَبِّحُوا فعل امر و ضمیر فاعل بُكْرَةً وَعَشِيًّا معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ مقرر، مقرر با مقرر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَالَ اِيْتِكَ پ معطوف ہے۔

**لِيُخْبِيَ خِزْيَةَ الْكَافِرِ وَيَلْفِظَ بِقُوَّةٍ ۗ وَ اٰتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝۱۲**

**آیت نمبر ۱۲:** اِيْتَاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اَنَا ضمیر فاعل يَخْبِي مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر نداء، خِزْيَةَ فعل امر آت مستتر فاعل الْكَافِرِ مفعول بہ بِقُوَّةٍ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خِزْيَةَ کے فاعل کا حال ہے۔ فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ ہو کر قَالَ اللّٰهُ محذوف کا مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ

ہو۔ واؤ استینا فیہ اکتینا فعل ناقص ضمیر فاعل ؕ ضمیر ذوالحال صبیحاً حال، ذوالحال باحال مفعول بہ۔ اول الحکمہ مفعول بہ ثانی، فعل باقال و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہو۔

وَ حَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَ زَكٰوٰةً وَّكَانَ تَقِيًّا ۝ وَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

**آیت نمبر ۱۳، ۱۴:** واو عطف حناناً موصوف من حرف جار لَدُنَّا مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف مستقر کائناً کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف علیہ، واو عطف زَكٰوٰةً معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف الْحَكْمَہِ معطوف ہے۔ واو عطف یا استینا فیہ کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم تَقِيًّا صیغہ صفت ہو ضمیر مستقر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عطف بَرًّا صفت مشبہ ہو مستقر فاعل، بام حرف جار و الْوَالِدَيْہِ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و متعلق ہوئے، صیغہ صفت باقال و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف لَمْ یَکُنْ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم جَبَّارًا عَصِيًّا و خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف متانہ ہو۔ یا اکتینا پ معطوف ہے۔

وَ سَلَّمَ عَلَیْہِ یَوْمَ وُلْدٍ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا ۝

**آیت نمبر ۱۵:** واو عطف سلمہ مبتدا (چونکہ یہ مدح والے معنی کے عموم پر دل ہے، اس طرح اس کا مبتدا لفظنا صحیح ہے) عَلَیْہِ جار باجر و طرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے، کائین اسم فاعل ہو ضمیر فاعل یَوْمَ مضاف و لِدٍ فعل مجہول ہو مستقر نائب فاعل، دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عطف یَوْمَ مضاف یَمُوتُ فعل ہو مستقر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف اول، واو عطف یَوْمَ مضاف یُبْعَثُ فعل مجہول ہو ضمیر ذوالحال حَیًّا حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کائین کا مفعول فیہ، اسم فاعل باقال و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ یَکُنْ جَبَّارًا پ معطوف ہے۔

﴿ رُكُوعٌ ۲ ﴾

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ مَرْیَمَ ۙ اِذْ اُنْتَبِذَتْ مِنْ اٰہْلِہَا مَکٰنًا شَرِیًّا ۝

**آیت نمبر ۱۶:** واؤ استینا فیہ اذْکُرْ فعل امر آت ضمیر مستقر فاعل فی الْکِتٰبِ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے مَرْیَمَ مبدل مندہ اذ طرف زمان مضاف اُنْتَبِذَتْ فعل ہی ضمیر مستقر فاعل من حرف جار اٰہْلِہَا مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے مَکٰنًا شَرِیًّا مرکب توصیفی مفعول بہ ہے یا مفعول فیہ ہے، فعل باقال و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مَرْیَمَ سے بدل ہے، مبدل مندہ بدل اذْکُرْ کا مفعول بہ ہے، فعل باقال و متعلق و مفعول بہ جملہ اضافیہ امریہ متانہ ہو۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِہُمْ حِجَابًا ۙ فَاَرْسَلْنَا اِلَیْہَا رُوْحًا فَتَمَثَّلَ لَہَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

**آیت نمبر ۱۷:** فاء عطف رَحَدَتْ فعل ہی مستقر فاعل من حرف جار دُونِہُمْ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف مستقر کائناً کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم حِجَابًا مفعول بہ اول مؤخر، فعل باقال و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عطف اَرْسَلْنَا فعل

تاضمیر فاعل اللہ جاد باجبر و متعلق ہوئے وُوحَنَا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْتِیْذَتْ پر معطوف ہے۔ فاء عاطفہ کَسَمْتُ فعل ہو مستتر فاعل لہا جاد باجبر و متعلق ہوئے بِشَرِّ مَا سَوَّیْتَ لِمَنْ رُبَّ تَصْنِیْفِ تَمَثَّلَ لَی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَزَسَلَّتْ لہ معطوف ہے۔

قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝۱۸

آیت نمبر ۱۸: قَالَتْ فعل ہی مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنِّیْ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَعُوْذُ فعل اَنَا مستتر فاعل بِالرَّحْمٰنِ جاد باجبر و متعلق اول ہوئے، وِعَلَّكَ جاد باجبر و متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنِّیْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول اِن حرف شرط کُنْتُ فعل ناقص تَاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم تَقِيًّا صیغہ صفت اَنْتِ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور جزاء محذوف ہے قَائِلٌ کُنْی، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مستانہ ہوا

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ رَّبِّكَ سَلِّ لِهٰبٍ لِّكَ عَلَمًا زَكِيًّا ۝۱۹

آیت نمبر ۱۹: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اِنِّیْ حرف مشبہ بالفعل كَلُوْفٌ صَا كَاذ اَنَا ضمیر مبتدأ، رَسُوْلٌ مضاف رَّبِّكَ مرکب اضافی مضاف الیہ لآء حرف جاد برائے تعلیل اور اس کے بعد اِنِّیْ مقدم ہے اَهَبَ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل لِّكَ جاد باجبر و متعلق ہوئے عَلَمًا زَكِيًّا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تاویل مصدر باجبر و جاد باجبر و رَسُوْلٌ کے متعلق ہوئے، رَسُوْلٌ مضاف با مضاف الیہ و متعلق خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

قَالَتْ اَنِّیْ یَكُوْنُ لِیْ عَلَمٌ وَّلَمْ یَسْئَلْنِیْ بِشَرِّ وَّلَمْ اَكْ بَغِيًّا ۝۲۰

آیت نمبر ۲۰: قَالَتْ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اَنِّیْ طرف مکان کا یُنَا کا مفعول فیہ ہو کر عَلَمٌ کا حال مقدم، وَاِلٰلَہَا بِالْحَالِ یَكُوْنُ کا اسم مؤخر علی جاد باجبر و طرف مستقر کا یُنَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وَاِذَا حَالِیْ لَمْ یَسْئَلْنِیْ فعل فون و قایہ یاء ضمیر مفعول بہ بِشَرِّ فاعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وَاِذَا عَاطِفٌ لَمْ اَكْ فعل ناقص اَنَا ضمیر اس کا اسم بَغِيًّا صیغہ صفت اَنَا ضمیر فاعل، صیغہ صفت بافاعل شب جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف عَلَمٌ کا حال ہے،

قَالَ كَذٰلِكَ ۙ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلٰی هٰٓؤُنِ ۙ وَ لِنَجْعَلْکَ اٰیَةً لِّلنَّاسِ ۙ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۙ وَ كَانَ

اَمْرًا مَّقْضٰیًّا ۝۲۱

آیت نمبر ۲۱: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، كَذٰلِكَ جاد باجبر و طرف مستقر کا یُنَا کے متعلق ہو کر مبتدأ محذوف اَلَمْ کُوْنِ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، قَالَ فعل رَبِّكَ مرکب اضافی فاعل و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہو ضمیر مبتدأ، عَلٰی جاد باجبر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، هٰٓؤُنِ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل، متعلق مقدم سے

ل کر خبر، مبتدا، خبر، جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول، یا مقولہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ او واو عاطفہ لاکر حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَر ہے تَجْعَلُ فعل متعلق فعل، متستر فاعل، ضمیر منصوب مفعول بہ، اِذْ، آیة موصوفہ لِلنَّاسِ جارِ مجرور ظرف متستر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، او واو عاطفہ رَحْمَةً موصوفہ مینا جارِ مجرور ظرف متستر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف، دونوں مل کر مفعول بہ، ثانی، فعل، یا فاعل و مفعولین بنا، وِیل مصدر مجرور، جارِ مجرور ظرف متستر فعل مخدوف خَلَقْنَا کے متعلق ہوئے، فعل، یا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ پر معطوف ہے۔ او واو استینافیہ کَانَ فعل ناقص هُوَ متستر اس کا اسم امرًا مَقْضِيًّا مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

### فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝

**آیت نمبر ۲۲:** فاء عاطفہ حَمَلَتْهُ فعل ہی متستر فاعل، ضمیر مفعول بہ، جنیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء حرف عطف اِنْتَبَدَّتْ فعل ہی متستر ذوالحال پہ جارِ مجرور ظرف متستر حَامِلَةً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل مَكَانًا قَصِيًّا مرکب توصیفی مفعول بہ یا مفعول فیہ ہے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف "معطوف علیہ مخدوف پر معطوف ہے اور وہ فَتَفَخَّحَ جَنِيْرًا فِي جَنِيْبِهَا فَانْحَسَّتْ بِالْحَمْلِ" ہے۔

### فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَىٰ جَنَعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا ۝

**آیت نمبر ۲۳:** فاء عاطفہ اَجَاءَ فعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ الْمَخَاضُ فاعل اِلَىٰ حرف جارِ جَنَعِ النَّخْلَةِ مرکب اضافی مجرور، جارِ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل، یا فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہے، يَلَيْتَنِي مِتُّ مفعول بہ۔ قَالَتْ فعل ہی متستر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے یا حرف تنبیہ، اَلَيْتَ حرف تمنی نون برائے و قالیہ یَاءَ ضمیر اس کا اسم صِئْتُ فعل تام مضمومہ ضمیر فاعل قَبْلَ هٰذَا مرکب اضافی مفعول فیہ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او واو عاطفہ كُنْتُ فعل ناقص تام مضمومہ ضمیر اس کا اسم نَسِيًّا مَسِيًّا مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہے، معطوف علیہ با معطوف خبر، حرف تمنی ہا اسم و خبر جملہ اضافیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

### فَتَادَبَهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝

**آیت نمبر ۲۴:** فاء عاطفہ تَادَبَا فعل ہا ضمیر مفعول بہ مِنْ حرف جارِ تَحْتِهَا مرکب اضافی مجرور، جارِ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل، یا فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قَالَتْ پر معطوف ہے۔ اَنْ حرف تفسیر لَا تَحْزَنِي فعل یَاءَ ضمیر فاعل، دونوں مل کر مَقْسَر ہے یا اَنْ حرف مصدری و نصب ہے، فعل، یا فاعل بنا وِیل مصدر بواسطہ حرف جر کے تَادَبَا کے متعلق ہے۔ قَدْ علامت فعل، جَعَلَ فعل رَبُّكِ مرکب اضافی فاعل تَحْتَكِ مرکب اضافی کَاوْنَا کا مفعول فیہ ہو کر مفعول بہ، ثانی، مقدم، سَرِيًّا مفعول بہ اول مؤخر، فعل، یا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہے یا متانفہ ہے۔

### وَهُرِّيَ اِلَيْكَ بِجَنَعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝

**آیت نمبر ۲۵:** واو عاطف ہڈی فعل امر یاء ضمیر مرفوع متصل قائل الیک جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے یاد جہد زلذہ جرح النخلۃ مرکب اضافی لفظ باجرور ملامت منصب مفعول بہ، چادوں مل کر جملہ انشائیہ لا یتخون فی معطوف ہے۔ تفسیر لفظ فعل ہی مستتر قائل علیک جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے وکلبنا جینتیا مرکب توصیفی مفعول بہ، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط محذوف ان تھزی الیک الکی جہاد ہے، شرط باجرور جملہ شرطیہ ہو۔

**فَکَلِمِیْ وَ اَشْرَبِیْ وَ قَرِیْ عَیْنًا ۚ فَاَمَّا تَرِیْنِ مِنَ الْبَشْرِ اَحَدًا ۙ فَتَقُوْنِ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُکَلِمَ الْاِیْمُوْرَ اِنْسِیًا ۝**

**آیت نمبر ۲۶:** فاء عاطف کئی فعل امر یاء ضمیر مرفوع متصل قائل دو دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطف ہڈی فعل امر یاء ضمیر مرفوع قائل دو دونوں مل کر معطوف اول ہے، واو عاطف قری فی فعل امر یاء ضمیر مرفوع متصل قائل عیناً تہیز محول عن الفاعل۔ بینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی ہے، معطوف علیہ با معطوفین ہڈی فی معطوف ہے۔ فاء استثنائیہ ان حرف شرط معاندہ تکرین فعل یائے محذوف لا نقاء السکنین قائل من البشیر طرف لغو متعلق ہوئے اَحَدًا مفعول بہ، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ قری فی فعل امر یاء ضمیر متصل قائل دو دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، ان حرف تحقیق یاء ضمیر منصوب اس کا اسم تکررت فعل تاء منہ۔ ضمیر قائل للرحمن جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے صوماً مفعول بہ، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ فاء عاطف لکن اکلہ فعل انا مستتر قائل الیوم مفعول فیہ، انسیا مفعول بہ، چادوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبریہ ان ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط باجرور جملہ شرطیہ ہو۔

**فَاَنْتَ بِہِ قَوْمِہَا تَحْمِلُہُ ۙ قَالُوْا اَیْمُوْرٌ لَّقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیًّا ۝**

**آیت نمبر ۲۷:** فاء استثنائیہ انکت فعل ہی مستتر ذوالحال پہ جہد باجرور ظرف مستقر متبانیہ کے متعلق ہو کر قائل قومہا مرکب اضافی مفعول بہ تحمیل فعل ہی مستتر قائل ہ ضمیر مفعول بہ، بینوں مل کر انکت کی ضمیر قائل سے حال ہے، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہو ل قائلوا فعل واو ضمیر قائل، دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یاء حرف نداء اذعُو کے قائم مقام، اذعُو فعل انا مستتر قائل مزمزم ملامت منصب مفعول بہ، بینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، لاکر موطن القم اور قسم محذوف ہے قذمات فعل، چنت فعل تے کسورہ قائل شئیاً قری تاکرکب توصیفی مفعول بہ ہے کیونکہ چنت فعلت کے معنی کو مضمن ہے، فعل باقائل و مفعول بہ قسم کا جواب، قسم کا جواب قسم نداء کا جواب، نداء کا جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**یَاْخُتْ هُرُوْنُ مَا کَانَ اَبُوْکَ اِمْرًا سَوُوْءًا ۙ وَ مَا کَانَتْ اُمُّکَ بَغِیًّا ۝**

**آیت نمبر ۲۸:** یاء حرف نداء اذعُو کے قائم مقام، اذعُو فعل انا مستتر قائل اُخْتُ ہرؤن منای مضاف مفعول بہ، بینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر نداء، مانا فی کان فعل ناقص ابوک مرکب اضافی اس کا اسم امر سَوُوْءًا مرکب اضافی خبر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطف مانا فی کانث فعل ناقص اُمُّک مرکب اضافی اس کا اسم بیغیا صینہ صفت ہی مستتر قائل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء کا جواب جملہ انشائیہ نداء ہی ہو۔

## فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ؕ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

**آیت نمبر ۲۹:** قاء استینافیہ اشارت فعل ہی مستتر قائل الیہ جاہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔ قَالُوا فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول کَیْفَ ظرف مکان کا تینوں کا مفعول فیہ ہو کر نُکَلِّمُ کی ضمیر قائل سے حال ہے نُکَلِّمُ فعل نَعْنُ مستتر قائل مَنْ موصول کان تاء ہو مستتر قائل فی المہدی جاہ باجرور متعلق ہوئے صَبِيًّا کان کی ضمیر قائل سے حال ہے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ نُکَلِّمُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

## قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ؕ آتَمَنِي الْكِتَابُ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَ جَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ مَوْ اَوْطِيءُ بِالصَّلٰوةِ وَ الرَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

**آیت نمبر ۳۱، ۳۰:** قَالَ فعل ہو مستتر قائل سے بل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے، اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر منصوب اس کا اسم عَبْدُ اللّٰهِ مرکب اضافی خبر بیان، اِیْمَنَ موصول بہ اَوَّلَ الْكِتَابِ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو اُنّی فعل ہو ضمیر مستتر قائل نون برائے و قایہ یاء ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلَ الْكِتَابِ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل نون برائے و قایہ یاء ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ نَبِيًّا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، جَعَلَ فعل ہو مستتر قائل نون برائے و قایہ یاء ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ مُبْرَكًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اَوْطِيءُ فعل ہو مستتر قائل نون برائے و قایہ یاء ضمیر مفعول بہ، اِنَاء حرف جاہ الصَّلٰوةِ وَ الرَّكٰوةِ معطوف علیہ با معطوف باجرور، جاہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثلاث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ قول کے مقولہ میں داخل ہے اَیْنِ مَآثِرِیۃ کَآئِمًا کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم کُنْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ اس کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ ہو کر شرط اور جزاء محذوف ہے فَقَدْ جَعَلَنِي نَبِيًّا مُبْرَكًا، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر جملہ معترضہ ہے، مآثر مفردی دُعْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ اس کا اسم حَيًّا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاولی مصدر و قَوْتِ مضاف محذوف کا مضاف الیہ ہو کر اَوْطِيءُ کا مفعول فیہ ہے۔

## وَ بَرًّا بِوَالِدَيْٖ ۝ وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

**آیت نمبر ۳۲:** واو عاطفہ بَرًّا مینہ صفت مشبہ اَنَا مستتر قائل باء جاہ و الْوَالِدِيْنَ مرکب اضافی باجرور، جاہ باجرور متعلق ہوئے، مینہ صفت بافاعل و متعلق شہ جملہ ہو کر بواسطہ عطف جَعَلَنِي کا مفعول بہ ثانی ہے، واو عاطفہ لَمْ يَجْعَلْنِي فعل ہو مستتر قائل نون برائے و قایہ یاء ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ جَبَّارًا شَقِيًّا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلَ مفعول بہ ہے۔

## وَ السَّلَامُ عَلٰی يَوْمِ وُلِدْتُ ۝ وَ يَوْمِ مَرِّ اَمُوْتُ ۝ وَ يَوْمِ اُبْعَثُ حَيًّا ۝

**آیت نمبر ۳۳:** واو عاطفہ السَّلَامُ مبتدأ، عَلٰی جاہ باجرور ظرف مستتر کَآئِمِیْنَ کے متعلق ہوئے کَآئِمِیْنَ اسم قائل ہو مستتر قائل



يَوْمَ مَضَىٰ وَلَيْدَتْ فَعِلْ بِجَهْلٍ تَاءٌ مضمومه نائب فاعل ، و دونوں مل کر مضایف الیه ، مضایف با مضایف الیہ معطوف علیہ واو عاطفہ یَوْمَ مَضَىٰ مَضَىٰ اَنْوَتْ فَعِلْ تَاءٌ مضمومه فاعل ، و دونوں مل کر مضایف الیہ ، پھر مرکب اضافی معطوف اول ، واو عاطفہ یَوْمَ مَضَىٰ اَنْوَتْ فَعِلْ بِجَهْلٍ اَنَا ضمیر مستتر و الحال حیثاً حال ، و الحال باحال نائب فاعل ، فعل مجہول بہائے فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضایف الیہ ، پھر مرکب اضافی معطوف ثانی ، معطوف علیہ با معطوفین کائین کا مفعول فیہ ہے ، اسم فاعل بافاعل و مفعول فیہ و متعلق شہدہ جملہ ہو کر خبر ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ يَجْعَلِيْهِمْ مَعْطُوْفٌ ہے۔

### ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝۳۴

**آیت نمبر ۳۴:** ذٰلِكَ اِسْمُ اَشْرَدِهٖ مَبْتَدَا ، عِيْسَى موصوف یا سبدل منہ یا یسین ، ابْنُ مَرْيَمَ مرکب اضافی صفت یا بدل یا معطف بیان پھر مرکب توصیفی وغیرہ ہو کر خبر ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لے قَوْلَ مَضَىٰ الْحَقِّ مَضَىٰ الیہ پھر مرکب اضافی موصوف الَّذِي اِسْمُ موصول فیہ جملہ باجر و ظرف لغو متعلق مقدم یَمْتَرُوْنَ فَعِلْ واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر صلہ ، موصول ہاصلہ صفت ، موصوف بہ صفت فعل مخدوف اَقْوَلْ کا مفعول مطلق ہے ، یا فعل مخدوف اَعْقِبْ کا مفعول بہ ہے۔

### مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ اِلٰهًا سُبْحٰنَهُ ۗ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۳۵

**آیت نمبر ۳۵:** ما حرف نفی کماکان فعل ناقص یلئے جملہ باجر و ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر خبر مقدم آن حرف مصدری و نصب یَّتَّخِذُ فَعِلْ هُوَ مستتر فاعل ، مفعول بہ اول اَحَدًا مخدوف ہے میں حرف جار زائد و لید لفظا بجر و علما منصوب مفعول بہ ثانی ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر اسم موزع ، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو لے سُبْحٰنَهُ مرکب اضافی فعل مخدوف سَبَّحَتْهَا کا مفعول مطلق ہے پھر جملہ معترضہ ہے اِذَا اِشْرَیْطِیْہ مفعول فیہ مقدم اَقْضٰی فَعِلْ هُوَ مستتر فاعل اَمْرًا مفعول بہ ، چلوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ، فاء جزائیہ اِنْ حرف تحقیق کثوف ، صا کا نہ ہے یَقُوْلُ فَعِلْ هُوَ مستتر فاعل لہ جملہ باجر و ظرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ، کُنْ فعل تام اَنْتَ مستتر فاعل ، دونوں مل کر مقولہ ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ، فاء عاطفہ یَكُوْنُ فَعِلْ تَام هُوَ مستتر فاعل سے مل کر خبر ہے مبتدا مخدوف هُوَ کی ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ، معطوف علیہ با معطوف جزاء ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لے

### وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّنِیْ وَ رَبِّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝۳۶

**آیت نمبر ۳۶:** واو استینا فی اِنْ حرف تحقیق اِنَّ اللّٰهَ اِسْمُ الْجَلَالِہٖ اِسْمُ کَامِ اِسْمِ رَبِّنِیْ مرکب اضافی معطوف علیہ ، واو عاطفہ رَبِّكُمْ مرکب اضافی معطوف ، معطوف علیہ با معطوف خبر اِنَّ ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہو لے فاء جزائیہ اور شرط مخدوف ہے اِنْ كُنْتُمْ مُّعْرِضِيْنَ يَدُوْ يُوْ يَتِيْبَتِهٖ اَعْبُدُوْا فَعِلْ امر واو ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لے هٰذَا اِسْمُ اَشْرَدِهٖ مَبْتَدَا ، صِرَاطٌ موصوف مُسْتَقِيْمًا اِسْمُ هُوَ مستتر فاعل سے مل کر صفت ، موصوف بہ صفت خبر ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو لے

### فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۳۷

**آیت نمبر ۳۷:** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
 مستقر کا تئو کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ مستانہ ہوں فقاء عاطفہ وئیل مبتدا (اور اس کا نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا لائناس لئے درست ہے کہ اس میں برائی کے معنی کا عموم پلایا جاتا ہے، یا یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ جنہم کی ایک ولوی کا نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے) لاہر حرف جملہ الذین کفو و اموصول باصلہ مجرور، جار مجرور طرف مستقر کا تئو کے متعلق ہونے، میں حرف جار مشہد مضاف یوم عظیمہ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لغو کا تئو کے متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلقین شہہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ فاختلافہ معطوف ہے۔

**أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ لَا يَأْتُونَ تَنَاكُتًا لَكِنِ الظُّلُمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۳۸**

**آیت نمبر ۳۸:** أَسْمِعْ لَهُمْ تَجِبُ بِأَمْرٍ جَارِزٍ لَهُمْ ضَمِيرٌ لِقَاءِ جَرِّ وَعَلَامَرُ نَوْعِ فَاعِلٍ، فَعْلٌ بِأَقَالِ جَمَلِ انشائية ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ أَبْصُرْ فعل تجب بمعنى فعل، اضیٰ بہم مخدوف ہے بآء حرف جار جازلہ ہم ضمیر لفظاً مجرور وعلامر نوع فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائية معطوف ہے، یوم مضاف یأتون فعل واو ضمیر فاعل تا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی أَسْمِعْ وَأَبْصُرْ کا مفعول فیہ ہے، لکن حرف استدراک ہللا الظلمون مبتدا، الیوم خبر کا مفعول فیہ یعنی حرف جار ضللیٰ مبین مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور طرف مستقر کا تئو کے متعلق ہوئے، کا تئو اسم فاعل ہم ضمیر مستقر وعلامر نوع فاعل، اسم فاعل بافاعل و مفعول فیہ مقدم شہہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

**وَأَنْذِرْ لَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۳۹**

**آیت نمبر ۳۹:** واو عاطفہ أَنْذِرْ فعل امر آنت مستقر فاعل ہم ضمیر منصوب مفعول بہ یوم مضاف الحسرة مصدر اذ طرف زمان مضاف قضی فعل مجہول الامور نائب فاعل، دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی الحسرة کا مفعول فیہ ہے، الحسرة مفعول فیہ سے مل کر مضاف الیہ، مرکب اضافی أَنْذِرْ کا مفعول فیہ ہے، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائية أَسْمِعْ بہ معطوف ہے۔ واو عالیہ ہم ضمیر مبتدا، فی غفلة جار مجرور طرف مستقر کا تئو کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہم ضمیر مبتدا، لا یؤمنون فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف أَنْذِرْ ہم کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے۔

**إِنَّا لَنَحْنُ نُرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ۝۴۰**

**آیت نمبر ۴۰:** ان حرف حقیق تا ضمیر اس کا اسم لنحن ضمیر مبتدا، نرث فعل نحن مستقر فاعل الارض معطوف علیہ، واو عاطفہ مَنْ اسم موصول علیہا جار مجرور طرف مستقر فعل مخدوف ثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ایذا جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، یُرْجَعُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہوا۔

﴿ ۳۱ ﴾ رکوع نمبر ۳

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِبْرٰهٖمَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا ۝

**آیت نمبر ۳۱:** وَاذْکُرْنَا اِنَّهٗ اَذْکُرْ فِی الْکِتَابِ صَدِّیقًا نَبِیًّا ۝  
 جلدوں میں کہ جملہ انشائیہ مستانہ ہولیان حرف تحقیق ضمیر مستتر قائل فی الکتب جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے اِبْرٰهٖمَ مفعول بہ فعل ناقص ہا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیان ہا م و خبر اِبْرٰهٖمَ سے حال ہے یا جملہ مترضہ ہے۔

اِذْ قَالَ لِاَبِیْهِ یٰ اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَا لَا یُبْصِرُ وَا لَا یُعْغِیْ عَنْکَ شَیْئًا ۝

**آیت نمبر ۳۲:** اِذْ قَالَ لِمَنْ مَضَىٰ قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرَقًا قائل لآمر حرف جہا اِبْرٰهٖمَ مرکب اضافی مجرور، جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یٰ اَبَتِ یہ اصل میں یٰ اَبٰی ہے یا سے مخدوفہ کے عوض تہا لائی گئی ہے، اور یہ نداء ہے۔ لَمَ یہ اصل میں لِمَا ہے یہ جہا بجز در طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تَعْبُدُ فعل اَنْتَ ضمیر مستتر قائل ہا م موصول لَا یَسْمَعُ فعل ہُوَ مستتر قائل، دونوں میں کہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہوا و عطف لَا یُعْغِیْ فعل ہُوَ مستتر قائل عَنْکَ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، شَیْئًا مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ معطوف ہو کر صلہ، موصول ہا صلہ تَعْبُدُ کا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق مقدم جملہ انشائیہ استقبالیہ ہو کر جواب نداء، نداء ہا جواب جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ اِبْرٰهٖمَ سے بدل ہے۔

یٰ اَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جِآءَنِیْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَاْتِکَ فَاتَّبِعْنِیْ اَھْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا ۝

**آیت نمبر ۳۳:** یٰ اَبَتِ یہ اصل میں یٰ اَبٰی ہے اور یہ نداء ہے، اِنِّیْ حرف تحقیق نداء ضمیر اس کا اسم قَدْ علامت فعل نون و قایہ نداء ضمیر مفعول بہ مِنَ الْعِلْمِ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے ہا م موصول لَمْ یَاْتِکَ فعل ہُوَ مستتر قائل کا مضمیر مفعول بہ، تینوں میں کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول ہا صلہ جِآءَ کا قائل ہے، جِآءَ فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ خبر ہے اِنِّیْ ہا م و خبر جواب نداء ہے، نداء ہا جواب جملہ انشائیہ نداء ہے ہُوَ قایہ نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنِّیْ اَزْدَتْ الْہِدٰیۃَ اَنْتَ مضمین مستتر قائل نون برائے و قایہ نداء ضمیر مفعول بہ، تینوں میں کہ جملہ انشائیہ امر ہے ہو کر جزاء، شرط مخدوف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوا اَھْدِکَ فعل مضارع یہ اصل میں اَھْدِیْ ہے اِنَّا مستتر قائل کا مضمیر منصوب مفعول بہ اول صِدِّیقًا مضمین مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط مخدوف اِنِّیْ تَتَّبِعْنِیْ کی جزاء ہے اس لئے کہ یہ جواب امر ہے، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر

یٰ اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ الشَّیْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ کَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِیًّا ۝

**آیت نمبر ۳۴:** یٰ اَبَتِ یہ اصل میں یٰ اَبٰی ہے اور یہ نداء ہے، لِمَ تَعْبُدُ فعل نئی اَنْتَ مستتر قائل الشَّیْطٰنَ مفعول بہ، تینوں میں کہ جملہ انشائیہ جواب نداء ہے، نداء ہا جواب جملہ انشائیہ نداء ہے ہولیان حرف تحقیق الشَّیْطٰنَ اس کا اسم کَانَ فعل ناقص ہُوَ مستتر اس کا اسم لِلرَّحْمٰنِ جہا بجز در طرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَصِیًّا مضمین صفت ہُوَ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بیان ہا م و خبر نداء

اسیہ خبریہ مطلقہ ہوں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ اعْتَدَيْتُمْ لِقَاءَ اللَّهِ فِى غُرَبٍ فَاصْبِرُوا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ وَارْتَضُوا حُكْمَ اللَّهِ وَارْتَضُوا حُكْمَ اللَّهِ وَارْتَضُوا حُكْمَ اللَّهِ

**آیت نمبر ۳۵:** یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ اعْتَدَيْتُمْ لِقَاءَ اللَّهِ فِى غُرَبٍ فَاصْبِرُوا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ وَارْتَضُوا حُكْمَ اللَّهِ وَارْتَضُوا حُكْمَ اللَّهِ وَارْتَضُوا حُكْمَ اللَّهِ

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اصل میں یَا أَيُّهَا ہے اور یہ نداء ہے، اِن حرف تحقیق نداء ضمیر اس کلام اَحَاکُف لعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یَصْبِرُ فاعل کان ضمیر مفعول بہ عَدَا اَبْ فاعل مِنْ الرَّحْمٰنِ کَاثِرِیْنَ کے متعلق ہو کر عَدَا اَبْ کی صفت ہے، لعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ تَکْوُنُ فاعل نا قس اَنْتَ مستتر اس کلام لِلشَّیْطٰنِ جلد باجمرد متعلق مقدم و لَیْسَا صَیْنِدَ صفت هُوَ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، لعل نا قس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر اَحَاکُف کا مفعول بہ، لعل باقائل و مفعول بقران کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء ہے، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے۔

قَالَ ارْأَيْبُ اَنْتَ عَنِ الرَّحْمٰنِ لَیْسَا صَیْنِدَ صَفْتٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَعَلٌ كَرْخِرٌ، لَعْلٌ نَا قَسٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيَّهٖ بِا مَعْطُوفٍ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ اَحَاكُفٌ كَا مَفْعُولٍ بَهٗ، لَعْلٌ بَا قَائِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِقِرَانٍ كِي خَبْرٌ بَيَانٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَوَابٌ نِدَاءٍ هِيَ، نِدَاءٌ بَا جَوَابٍ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نِدَائِيَّةٌ هِيَ۔

**آیت نمبر ۳۶:** قَالَ لَعْلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ سَعَلٌ كَرْخِرٌ، لَعْلٌ نَا قَسٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيَّهٖ بِا مَعْطُوفٍ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ اَحَاكُفٌ كَا مَفْعُولٍ بَهٗ، لَعْلٌ بَا قَائِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِقِرَانٍ كِي خَبْرٌ بَيَانٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَوَابٌ نِدَاءٍ هِيَ، نِدَاءٌ بَا جَوَابٍ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نِدَائِيَّةٌ هِيَ۔

**آیت نمبر ۳۷:** قَالَ لَعْلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ سَعَلٌ كَرْخِرٌ، لَعْلٌ نَا قَسٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيَّهٖ بِا مَعْطُوفٍ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ اَحَاكُفٌ كَا مَفْعُولٍ بَهٗ، لَعْلٌ بَا قَائِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِقِرَانٍ كِي خَبْرٌ بَيَانٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَوَابٌ نِدَاءٍ هِيَ، نِدَاءٌ بَا جَوَابٍ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نِدَائِيَّةٌ هِيَ۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اصل میں یَا أَيُّهَا ہے اور یہ نداء ہے، اِن حرف تحقیق نداء ضمیر اس کلام اَحَاکُف لعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یَصْبِرُ فاعل کان ضمیر مفعول بہ عَدَا اَبْ فاعل مِنْ الرَّحْمٰنِ کَاثِرِیْنَ کے متعلق ہو کر عَدَا اَبْ کی صفت ہے، لعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ تَکْوُنُ فاعل نا قس اَنْتَ مستتر اس کلام لِلشَّیْطٰنِ جلد باجمرد متعلق مقدم و لَیْسَا صَیْنِدَ صفت هُوَ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، لعل نا قس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر اَحَاکُف کا مفعول بہ، لعل باقائل و مفعول بقران کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء ہے، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے۔

قَالَ ارْأَيْبُ اَنْتَ عَنِ الرَّحْمٰنِ لَیْسَا صَیْنِدَ صَفْتٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَعَلٌ كَرْخِرٌ، لَعْلٌ نَا قَسٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيَّهٖ بِا مَعْطُوفٍ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ اَحَاكُفٌ كَا مَفْعُولٍ بَهٗ، لَعْلٌ بَا قَائِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِقِرَانٍ كِي خَبْرٌ بَيَانٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَوَابٌ نِدَاءٍ هِيَ، نِدَاءٌ بَا جَوَابٍ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نِدَائِيَّةٌ هِيَ۔

**آیت نمبر ۳۸:** قَالَ ارْأَيْبُ اَنْتَ عَنِ الرَّحْمٰنِ لَیْسَا صَیْنِدَ صَفْتٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَعَلٌ كَرْخِرٌ، لَعْلٌ نَا قَسٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيَّهٖ بِا مَعْطُوفٍ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ اَحَاكُفٌ كَا مَفْعُولٍ بَهٗ، لَعْلٌ بَا قَائِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِقِرَانٍ كِي خَبْرٌ بَيَانٌ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَوَابٌ نِدَاءٍ هِيَ، نِدَاءٌ بَا جَوَابٍ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نِدَائِيَّةٌ هِيَ۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اصل میں یَا أَيُّهَا ہے اور یہ نداء ہے، اِن حرف تحقیق نداء ضمیر اس کلام اَحَاکُف لعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یَصْبِرُ فاعل کان ضمیر مفعول بہ عَدَا اَبْ فاعل مِنْ الرَّحْمٰنِ کَاثِرِیْنَ کے متعلق ہو کر عَدَا اَبْ کی صفت ہے، لعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ تَکْوُنُ فاعل نا قس اَنْتَ مستتر اس کلام لِلشَّیْطٰنِ جلد باجمرد متعلق مقدم و لَیْسَا صَیْنِدَ صفت هُوَ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، لعل نا قس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر اَحَاکُف کا مفعول بہ، لعل باقائل و مفعول بقران کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء ہے، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے۔

وَأَعْتَدِ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَشْيَ إِلَّا كُونِ بِدُعَاءِ رَبِّي شُعْبِيًّا

**آیت نمبر ۳۸:** وَأَدْعُوا رَبِّي عَشْيَ إِلَّا كُونِ بِدُعَاءِ رَبِّي شُعْبِيًّا

وَأَدْعُوا رَبِّي عَشْيَ: اصل میں وَأَدْعُوا رَبِّي ہے اور یہ نداء ہے، اِن حرف تحقیق نداء ضمیر اس کلام اَحَاکُف لعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یَصْبِرُ فاعل کان ضمیر مفعول بہ عَدَا اَبْ فاعل مِنْ الرَّحْمٰنِ کَاثِرِیْنَ کے متعلق ہو کر عَدَا اَبْ کی صفت ہے، لعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ تَکْوُنُ فاعل نا قس اَنْتَ مستتر اس کلام لِلشَّیْطٰنِ جلد باجمرد متعلق مقدم و لَیْسَا صَیْنِدَ صفت هُوَ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، لعل نا قس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر اَحَاکُف کا مفعول بہ، لعل باقائل و مفعول بقران کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء ہے، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے۔

ضمیر منصوب محذوف ذوالحال من دُونَ اللّٰهِ جادہ باجر و رکبتا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، اَعْتَزَلْ فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ اَدْعُوْا فعل انا مستتر فاعل زنی مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَسْتَعِزُّوْہُ معطوف ہے معطوف علیہ فعل ہم ان حرف مصدری و نسب لا اَکُوْنُ فعل ناقص انا مستتر اس کا اسم بجاہ حرف جادہ عَاوِزِیْ مرکب اضافی مجرور، جادہ باجر و متعلق مقدم ہوئے مَشَقِيْمًا صفت انا مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر معطوف کا فاعل ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَلَمَّا اَعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْ دُونَ اللّٰهِ وَكَهْبِنَا لَهٗ اِسْحَقٌ وَيَعْقُوبُ ۙ وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝

آیت نمبر ۳۹: فَاَمَّا اسْتِنَا فِي لَمَّا ظَرَفِي مَقْسَمِي مَعْنَى شَرْطِي مَفْعُولِي فِي مَقْدَمِ اَعْتَزَلْ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، واو عاطفہ مَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْ دُونَ اللّٰهِ اس کی ترکیب مَاتَدْعُوْنَ مِنْ دُونَ اللّٰهِ کی مثل ہے، موصول باصلہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، اَعْتَزَلْ فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہے وَكَهْبِنَا لَهٗ نَا ضمیر فاعل لہ جادہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے اِسْحَقٌ وَيَعْقُوبُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ ذَوَالْحَالِ، واو حال ہے كَلَّا مَفْعُولِي فِي اَوَّلِ مَقْدَمِ جَعَلْنَا فَعْلٌ نَا ضمیر فاعل لَيْتِيَا مَفْعُولِي فِي ثَنِي، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے ذوالحال باحال وَكَهْبِنَا كَا مَفْعُولِي فِي هِيَ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

آیت نمبر ۵۰: واو عاطفہ وَكَهْبِنَا لَهٗ نَا ضمیر فاعل لہم جادہ باجر و طرف لغو متعلق اَوَّلِ ہوئے مِنْ حَرْفِ جادہ رَحْمَتِنَا مَرْكَبِ اِضْطِافِي مَجْرُور، جادہ باجر و متعلق ثَنِي ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلْنَا فَعْلٌ نَا ضمیر فاعل لَهْمُ جادہ باجر و طرف مستقر رکبتا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثَنِي مقدم لِسَانَ صِدْقٍ مَرْكَبِ اِضْطِافِي مَوْصُوفٍ عَلِيًّا صَفْتِ، مَوْصُوفٍ بِا صَفْتِ مَفْعُولِي فِي اَوَّلِ مَوْخَرِ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بِا مَعْطُوفٍ وَكَهْبِنَا لَهٗ مَعْطُوفٌ هُوَ۔

﴿ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۳ ﴾

وَ اذْكَرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلِصًا وَّ كَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا ۝

آیت نمبر ۵۱: وَاذْكَرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ كِي تَرْكِيْبِ وَاذْكَرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ كِي طَرَحِ هِيَ اَنْ حَرْفِ تَحْقِيْقِي ۙ ضَمِيْرِ اِسْ كَا اِسْمٌ كَانَ فَعْلٌ نَا قَسْمٌ هُوَ ضَمِيْرِ اِسْ كَا اِسْمٌ مُخْلِصًا اِسْمٌ مَفْعُولٌ هُوَ ضَمِيْرِ نَابِ فَاعِلِ، اِسْمٌ مَفْعُولٌ بِا نَابِ فَاعِلِ كَانَ كِي خَبْرٌ، فَعْلٌ نَا قَسْمٌ هُوَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، واو عاطفہ كَانَ فَعْلٌ نَا قَسْمٌ هُوَ ضَمِيْرِ اِسْ كَا اِسْمٌ رَسُوْلًا نَبِيًّا مَرْكَبِ اِضْطِافِي مَوْصُوفٍ بِا صَفْتِ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٍ وَكَهْبِنَا لَهٗ مَعْطُوفٌ هُوَ۔

وَ تَادِيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا ۝

**آیت نمبر ۵۲، ۵۳:** **وَإِذْ عَاطَفْنَا كُذَيْبًا لِّعَلَّ تَا ضَمِيرُ فَاعِلٌ تَا ضَمِيرُ مَفْعُولٌ بِهِ، مِنْ حَرْفٍ جَدِ جَائِبٍ التَّظْوِيرِ تَرْكِبِ اِضْطِنَاقِ مَوْصُوفِ الْاَلَاكِيْنِ مَفْتُوحٍ، مَوْصُوفٍ بِمَفْتُوحٍ جَرَّ، وَجَدِ بِاَجْرٍ وَرَدَّ كُذَيْبًا كَيْفَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقْبَالٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مَتَعَلِّقٌ جُمْلَةً لَفْعِيَّةً خَبْرِيَّةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اِذْ عَاطَفْنَا كُذَيْبًا لِّعَلَّ تَا ضَمِيرُ فَاعِلٌ تَا ضَمِيرُ ذُو اِلْحَالِ تَجْزِيئًا سَيِّئَةً مَفْتُوحٌ هُوَ مُشْتَرَفٌ فَاعِلٌ سَعَلْ كَرِهَالٍ بِذُو اِلْحَالِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، تَيُّوْنٌ كَرِهَالٍ جُمْلَةً لَفْعِيَّةً خَبْرِيَّةً مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَ اِذْ عَاطَفْنَا وَ هَبْنَا فِعْلٌ تَا ضَمِيرُ فَاعِلٌ كَيْفَ جَدِ بِاَجْرٍ وَرَدَّ مَتَعَلِّقٌ اَوَّلٌ هُوَ، مِنْ حَرْفٍ جَرَّ وَ حَبْتَنَا تَرْكِبِ اِضْطِنَاقِ مَوْصُوفٍ اِضْطِنَاقِ جَرَّ، وَ جَدِ بِاَجْرٍ وَ مَتَعَلِّقٌ ثَانِي هُوَ اَحَاكُمُ ذُو اِلْحَالِ كَيْفَ تَيُّوْنًا بِذُو اِلْحَالِ بِاِحَالٍ مَبْدَلٌ مِنْهُ هُوَ وَ تَنْبِذٌ بِدَلِّ وَ دَوْلُوْنٌ لَمْ يَكُنْ وَ هَبْنَا كَا مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقْبَالٍ وَ مَتَعَلِّقَيْنِ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةً لَفْعِيَّةً خَبْرِيَّةً مَعْطُوفٌ ثَانِي، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَيْنِ اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا بِ مَعْطُوفٍ بِهِ۔**

**وَ اذْ كُزِّي فِي الْكِتَابِ اِسْمُ عَلِيٍّ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝**

**آیت نمبر ۵۴:** **وَ اذْ كُزِّي فِي الْكِتَابِ اِسْمُ عَلِيٍّ كِي تَرْكِبِ اَيْتِ نَمْبَرِ ۳۱ مِيْنَ كَرِّرِ جَمَلٍ هِيْ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيْنِ تَا ضَمِيْرُ اِسْمِ كَا اِسْمٌ كَانَ نَا قَصَهُ هُوَ مُشْتَرَاكٌ كَا اِسْمٌ صَادِقِ الْوَعْدِ مَرْكِبِ اِضْطِنَاقِ خَبْرٍ، فِعْلٌ نَا قَصَ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جُمْلَةً لَفْعِيَّةً خَبْرِيَّةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اِذْ عَاطَفْنَا كَانِ فِعْلٌ نَا قَصَ هُوَ مُشْتَرَاكٌ اِسْمٌ رَسُولًا نَبِيًّا مَرْكِبِ تَوْصِيْفِي خَبْرٍ، فِعْلٌ نَا قَصَ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جُمْلَةً لَفْعِيَّةً خَبْرِيَّةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنِ اِنْ كِي خَبْرٍ، اِنْ اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جُمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبْرِيَّةً مَتَاوَفٍ هُوَ۔**

**وَ كَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝**

**آیت نمبر ۵۵:** **وَ اِذْ عَاطَفْنَا كَانِ فِعْلٌ نَا قَصَ هُوَ مُشْتَرَاكٌ كَا اِسْمٌ يَأْمُرُ فِعْلٌ هُوَ مُشْتَرَفٌ فَاعِلٌ اَهْلَهُ مَرْكِبِ اِضْطِنَاقِ مَفْعُولٍ بِ اِيْمٍ حَرْفِ جَرِّ الصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَرَّ، وَ جَدِ بِاَجْرٍ وَرَدَّ ظَرْفٌ لَفْعِيًّا مُرَكَّبٌ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقْبَالٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مَتَعَلِّقٌ جُمْلَةً لَفْعِيَّةً خَبْرِيَّةً خَبْرٍ، فِعْلٌ نَا قَصَ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جُمْلَةً لَفْعِيَّةً خَبْرِيَّةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اِذْ عَاطَفْنَا كَانِ فِعْلٌ نَا قَصَ هُوَ مُشْتَرَاكٌ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْكِبِ اِضْطِنَاقِ مَفْعُولٍ فِيْهِ مَقْدَمٌ مَرْضِيًّا اِسْمٌ مَفْعُولٌ هُوَ مُشْتَرَفٌ فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ سَعَلْ كَرِهَالٍ، فِعْلٌ نَا قَصَ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جُمْلَةً لَفْعِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ مَرْكِبِ اِضْطِنَاقِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنِ كَانِ صَادِقِ الْوَعْدِ بِ مَعْطُوفٍ بِهِ۔**

**وَ اذْ كُزِّي فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسُ اِنَّهُ كَانَ صِدِيْقًا نَبِيًّا ۝**

**آیت نمبر ۵۶:** **وَ اذْ كُزِّي فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسُ اِنَّهُ كَانَ صِدِيْقًا نَبِيًّا اِسْمِ كِي تَرْكِبِ اِسْمِ سُوْرَتِ كِي اَيْتِ نَمْبَرِ ۳۱ مِيْنَ دِكْيَسِيْنِ۔**

**وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝**

**آیت نمبر ۵۷:** **وَ اِذْ عَاطَفْنَا رَفَعْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرُ فَاعِلٌ تَا ضَمِيرُ مَفْعُولٌ بِهِ اِنَّهُ مَكَانًا عَلِيًّا مَرْكِبِ تَوْصِيْفِي مَفْعُولٍ فِيْهِ، فِعْلٌ بِاِقْبَالٍ وَ مَفْعُولِيْنِ جُمْلَةً لَفْعِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ كَرِهَالٌ كَانَ بِ مَعْطُوفٍ بِهِ۔**

**اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ عَلَيْهِ وَ مِنْ حَمَلَتَا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرٰعِيْلَ وَ مِنْ هَدٰيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا اِذَا تَتَلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتِ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَ بٰكِيًّا ۝**





**آیت نمبر ۱۱:** جَدَّتْ عَدْنٌ مَّرْكَبِ اِضَانِي مَوْصُوفٍ اَلَّتِي اِسْمُ مَوْصُولٍ وَعَدْنٌ فِعْلُ الرَّحْمٰنِ فاعِلٌ عِبَادَةٌ مَّرْكَبِ اِضَانِي ذُو اَلْحَالِ بِالْغَيْبِ جَدَ بِاَجْرٍ وَظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ مَوْصِيْنِ كَيْ مَتَّلِقٌ هُوَ كَرِهَالِ ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ وَعَدْنٌ كَامْفَعُولٍ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاِ صِلَةٍ مَفْعُولٌ، مَوْصُوفٌ بِهَفْتِ الْجِنَّةِ سَيِّءٌ مَعْدَلٌ هُوَ بِرَاقِ حَرْفٍ تَحْقِيْقٌ هُوَ مُصِيْرٌ اِسْمُ كَامٍ كَانِ فِعْلٌ نَا قَصٌ وَغَدَاً مَّرْكَبِ اِضَانِي اِسْمِ كَامٍ مَا يَتِيَا اِسْمُ مَفْعُولٍ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ سَيِّءٌ كَرِخِرٌ، فِعْلٌ نَا قَصٌ بِاِسْمِ خَيْرَانِ كِي خَيْرَانٌ بِاِسْمِ وَخَيْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ هُوَلُ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا اِلَّا سَلْمًا ؕ وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۲:** لَا يَسْمَعُونَ فِعْلٌ وَاوْ اِسْتِثْنَاءٌ فِيهَا جَدَ بِاَجْرٍ وَظَرْفٌ لَفْظٌ مَتَّلِقٌ هُوَلُ لَغْوًا مَسْتَهْمِيٌّ مَسْرًا اَلْحَرْفِ اِسْتِثْنَاءٌ سَلْمًا مَسْتَهْمِيٌّ اِنْتِظَعٌ هُوَ يَدُو لُو لٌ كَرِ مَفْعُولٌ بِهِ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَتَّلِقٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ جَدَّتْ عَدْنٌ سَيِّءٌ مَعْدَلٌ هُوَ جَدَ بِاَجْرٍ وَظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ مَتَّلِقٌ هُوَلُ كَاوْنِ كِي، كَاوْنِ اِسْمِ فاعِلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ فِيهَا جَدَ بِاَجْرٍ وَظَرْفٌ لَفْظٌ كَاوْنِ كِي مَتَّلِقٌ هُوَلُ، بُكْرَةً وَعَشِيًّا مَعْفُوفٌ عَلِيَّةٌ بِاِمْعُوفٍ كَاوْنِ كِي مَفْعُولٌ فِي هُوَلُ، اِسْمٌ فاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَتَّلِقِيْنِ وَ مَفْعُولٌ فِي هُوَلُ خَيْرٌ مَقْدَمٌ رِزْقُهُمْ مَّرْكَبِ اِضَانِي مَبْتَدَاٌ مَوْخَرٌ مَبْتَدَاٌ بِاَجْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ لَا يَسْمَعُونَ مَعْفُوفٌ هُوَلُ

تِلْكَ الْجِنَّةُ اَلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۳:** تِلْكَ مَبْتَدَاٌ، الْجِنَّةُ مَوْصُوفٌ اَلَّتِي اِسْمُ مَوْصُولٍ نُورِثُ فِعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ مِنْ حَرْفِ جَدَ عِبَادِنَا مَّرْكَبِ اِضَانِي مَجْرُورٌ، جَدَ بِاَجْرٍ وَظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَاوْنِ كِي مَتَّلِقٌ هُوَ كَرِهَالِ مَقْدَمٌ مَعْدَلٌ اِسْمُ مَوْصُولٍ كَانِ فِعْلٌ نَا قَصٌ هُوَ مُصِيْرٌ اِسْمِ كَامٍ اِسْمٌ تَقِيًّا خَيْرٌ، فِعْلٌ نَا قَصٌ بِاِسْمِ وَخَيْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ هُوَ كَرِهَالِ مَوْخَرٌ ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالِ اِسْمُ نُوْرِثُ كَا مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ هُوَ كَرِهَالِ مَوْصُولٌ بِهَفْتِ مَفْعُولٌ، مَوْصُوفٌ بِهَفْتِ خَيْرٍ، مَبْتَدَاٌ بِاَجْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ هُوَلُ

وَمَا تَعْتَذِرُونَ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ؕ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ وَ مَا كَانَ

رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۱۳﴾

**آیت نمبر ۱۴:** وَاوْ اِسْتِثْنَاءٌ فِيهَا مَا نَا فِي تَعْتَذِرُونَ فِعْلٌ نَحْنُ مُصِيْرٌ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ، اِلَّا حَرْفِ اِسْتِثْنَاءِ حَرْفِ جَدَ اَمْرٌ مَضْفٍ رَبُّكَ مَّرْكَبِ اِضَانِي مَضْفٍ اَلِيَّةٌ، مَضْفٍ بِاِمْضَاءِ اَلِيَّةِ مَجْرُورٌ، جَدَ بِاَجْرٍ وَظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ مَوْصِيْنِ هُوَ كَرِهَالِ تَعْتَذِرُونَ كَيْ مَتَّلِقٌ هُوَلُ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَتَّلِقٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ مَسَاوِفٌ هُوَلُ كَيْ جَدَ بِاَجْرٍ وَظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَاوْنِ كِي مَتَّلِقٌ هُوَ كَرِهَالِ مَقْدَمٌ مَعْدَلٌ اِسْمُ مَوْصُولٍ بَيْنَ اَيْدِيْنَا مَّرْكَبِ اِضَانِي فِعْلٌ مَحْذُوفٌ جِيْتٌ كَا مَفْعُولٌ فِي هُوَ كَرِهَالِ مَوْصُولٌ بِهَفْتِ مَعْفُوفٌ عَلِيَّةٌ هُوَاوْ اِعْطَفٌ مَعْدَلٌ اِسْمُ مَوْصُولٍ خَلْفَنَا مَّرْكَبِ اِضَانِي فِعْلٌ مَحْذُوفٌ جِيْتٌ كَا مَفْعُولٌ فِي هُوَ كَرِهَالِ مَوْصُولٌ بِهَفْتِ مَعْفُوفٌ اَوَّلٌ هُوَاوْ اِعْطَفٌ مَعْدَلٌ اِسْمُ مَوْصُولٍ بَيْنَ ذٰلِكَ مَّرْكَبِ اِضَانِي فِعْلٌ مَحْذُوفٌ جِيْتٌ كَا مَفْعُولٌ فِي هُوَ كَرِهَالِ مَوْصُولٌ بِاِ صِلَةٍ مَعْفُوفٌ ثَانِيٌ، مَعْفُوفٌ عَلِيَّةٌ بِاِمْعُوفِيْنِ مَبْتَدَاٌ مَوْخَرٌ، مَبْتَدَاٌ بِاَجْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ هُوَلُ وَ اِعْطَفٌ مَعْدَلٌ فِيهَا كَانِ فِعْلٌ نَا قَصٌ رَبُّكَ مَّرْكَبِ اِضَانِي اِسْمِ كَامٍ نَسِيًّا مَعْدَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ مَعْدَلٌ مَعْفُوفٌ بِاِقَاعِلٍ خَيْرٍ، فِعْلٌ نَا قَصٌ بِاِسْمِ وَخَيْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَيْرِيَّةٌ هُوَ كَرِهَالِ تَعْتَذِرُونَ مَعْفُوفٌ هُوَلُ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَاَعْبُدُوْهُ وَ اَصْحٰبِ الْعِبٰدٰتِ ؕ هٰلِكٌ تَعْلَمُ لَهُ سِيْمًا ﴿۱۴﴾

**آیت نمبر ۶۵:** رَبُّ مَضَافِ السَّنَوَاتِ مَعطوف علیہ واو عاطفہ اَلْاَرْضِ مَعطوف اَوَّلِ واو عاطفہ ہما موصول یُنْمَتُهُمَا مرکب اضافی فعل مَعطوف قَبِيتَ کے متعلق ہو کر صلہ موصول ہاسلہ مَعطوف ثانی، مَعطوف علیہ با مَعطوفین رَبُّ کامضای علیہ، مہر مرکب اضافی رَبُّكَ سے بدل ہے، مفاہ فیصحہ اور اس کی شرط مَعطوف ہے اَنْ عَرَفَتْ رَبُّو یُنْمَتُهُ اَعْبُدُ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل ہضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مَعطوف علیہ واو عاطفہ اَصْلُکُمْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لامر حرف جہد عیناً کہہ کر مرکب اضافی مجرور، جہد با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر مَعطوف، مَعطوف علیہ با مَعطوف شرط مَعطوف کی جڑ ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ هَلْ حرف استفہام تَعَلَّمُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل کہہ جہد با مجرور طرف مستقر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر حال مقدم سَمِیئًا ذوالحال مؤخر بذوالحال ہمال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

﴿﴾ رکوع نمبر ۵ ﴿﴾

**وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اِذَا مَا مِثْ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿۶۶﴾**

**آیت نمبر ۶۶:** واو استینافہ يَقُولُ الْاِنْسَانُ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزة حرف استفہام اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ہما زائدہ مِثْ فعل تکاء مضمومہ ضمیر فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ لاکہ زائدہ (جلا لیں) لَسَوْفَ علامت فعل اُخْرَجُ فعل جہول انا مستتر ذوالحال حَيًّا حال بذوالحال ہمال نائب فاعل، فعل جہول نائب فاعل جزاء، شرط با جزاء مَقُولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوں۔

**اَوْ لَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿۶۷﴾**

**آیت نمبر ۶۷:** ہمزة حرف استفہام واو عاطفہ لَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ فاعل اَنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہضمیر ذوالحال، واو عالیہ لَمْ يَكُ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم شَيْئًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال بذوالحال ہمال خَلَقْنَا مفعول بہ مِنْ قَبْلُ جہد با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ یَذْكُرُ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔

**فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطٰنِ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿۶۸﴾**

**آیت نمبر ۶۸:** فاء استینافہ واو قسمیہ جہد رَبُّكَ مرکب اضافی مجرور، جہد با مجرور طرف مستقر فعل مَعطوف اَقْسِمُ کے متعلق ہوئے اَقْسِمُ فعل انا مستتر فاعل فعل با فاعل جملہ انشائیہ ہو کر قسم، لاکہ جوابیہ نَحْشُرَنَّهُمْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مَعطوف علیہ واو عاطفہ الشَّيْطٰنِ مَعطوف، مَعطوف علیہ با مَعطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَعطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف لاکہ جوابیہ نَحْضُرَنَّهُمْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال جِثِيًّا حال بذوالحال ہمال مفعول بہ، حَوْلَ جَهَنَّمَ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَعطوف، مَعطوف علیہ با مَعطوف قسم کا جواب ہے، قسم با جواب جملہ قسمیہ مستانف ہوں۔

**ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ اِيْهُمْ اَشَدُّ عَلٰى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿۶۹﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿۷۰﴾**

**آیت نمبر ۶۹:** ثُمَّ عَاطَفَهُ لَاهُ جَوَابِيَهُ يُؤَيِّنُ عَنْ نَعْلِ مُشْتَرِقٍ فاعِلٌ مِنْ حَرْفٍ جَارِكَةٍ شَيْئَةً مَرْكَبٌ اِضْطَائِيٌّ جَرُّهُ وَجَرُّهُ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَدٌ ظَرْفٌ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، ثُمَّ اِسْمٌ مُوَصُولٌ اَشَدُّ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُشْتَرِقٌ فاعِلٌ عَلَى الرَّحْمَلِيْنَ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ عَيْنِيَّةٌ تَمِيْزٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ بِاِقَاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ وَتَمِيْزٌ مَبْتَدَأٌ مُعْرُوفٌ هُوَ كِي خَبْرٌ هُوَ، مَبْتَدَأٌ اَخْرَجَ جَمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبْرِيَّةً صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٌ مَعْلَا مُنْصَوْبٌ يُؤَيِّنُ عَنْ كَا مَفْعُولٌ بِهِ، نَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ وَرَدٌ جَمْلَةً فَعْلِيَّةً خَبْرِيَّةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاطَفَهُ لَاهُ جَوَابِيَهُ نَحْنُ مُضَمَّرٌ مَبْتَدَأٌ، اَعْلَمُهُ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ نَحْنُ مُشْتَرِقٌ بِاِقَاعِلٌ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ مُشْتَرِقٌ فاعِلٌ بِهَا جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ صِلِيَّةٌ تَمِيْزٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ بِاِقَاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ وَرَدٌ جَمْلَةً خَبْرِيَّةً، مَبْتَدَأٌ اَخْرَجَ جَمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبْرِيَّةً صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٌ جَرُّهُ وَرَدٌ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَدٌ اَعْلَمُهُ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، اِسْمٌ تَفْضِيلٌ اِسْمٌ فاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كِي خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ اَخْرَجَ جَمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبْرِيَّةً مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مُخَضَّرٌ نَحْنُ بِمَعْطُوفٍ هُوَ۔

**وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَاِرْدُهَآ جَا نَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝**

**آیت نمبر ۷۰:** وَاِذَا اسْتَأْنَسْنَا فِى رَاٰى فِى مِثْلِكُمْ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَدٌ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَلْبِيْنَ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كِي خَبْرٌ مُقَدَّمٌ اِلَّا حَرْفٌ اسْتِثْنَاءٌ وَاِرْدُهَآ مَرْكَبٌ اِضْطَائِيٌّ مَبْتَدَأٌ مُعْرُوفٌ، مَبْتَدَأٌ اَخْرَجَ جَمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبْرِيَّةً مُسْتَأْنَسْنَا هُوَ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ نَحْنُ اِسْمٌ عَلَى رَبِّكَ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ هُوَ مَقْضِيًّا كَيْ حَتْمًا مُوَصُولٌ مَقْضِيًّا اِسْمٌ مَفْعُولٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعِلٌ، اِسْمٌ مَفْعُولٌ بِاِتَابٌ فاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ صِفَتٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٌ اِصْفَتٌ خَبْرٌ، نَعْلٌ نَا قِصْبٌ اِسْمٌ وَرَدٌ جَمْلَةً فَعْلِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ۔

**ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۝**

**آیت نمبر ۷۲:** ثُمَّ عَاطَفَهُ لَنَجِيَّتِيْ نَعْلٌ نَحْنُ مُضَمَّرٌ فاعِلٌ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مُوَصُولٌ اتَّقَوْا فاعِلٌ وَاوُ مُضَمَّرٌ فاعِلٌ، نَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ جَمْلَةً فَعْلِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ كِي صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٌ مَفْعُولٌ بِهِ، نَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةً فَعْلِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ كِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ عَاطَفَهُ لَنَجِيَّتِيْ نَعْلٌ نَحْنُ مُضَمَّرٌ فاعِلٌ الظَّالِمِيْنَ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، فِيْهَا جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ هُوَ جِثِيًّا صِيغَةُ صِفَتٌ هُوَ مُضَمَّرٌ فاعِلٌ، صِيغَةُ صِفَتٌ بِاِقَاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ جَمْلَةً هُوَ كِي مَفْعُولٌ بِهِ، نَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةً فَعْلِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ كِي مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبْرِيَّةً... اِسْمٌ بِمَعْطُوفٍ هُوَ۔

**وَ اِذَا تَمَثَّلَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰى الْفَرِيْقِيْنَ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّ اَحْسَنُ نَدِيًّا ۝**

**آیت نمبر ۷۳:** وَاِذَا اسْتَأْنَسْنَا فِى رَاٰى اِذَا ظَرْفِيَّةً مَفْعُولٌ فِيْهِ مُقَدَّمٌ تَمَثَّلَ فاعِلٌ مَجْمُوْلٌ عَلَيْهِمْ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اِيْتَانًا مَرْكَبٌ اِضْطَائِيٌّ ذُو اِلْحَالٍ بَيِّنٰتٍ حَالٌ ذُو اِلْحَالٍ اِمَالٌ تَابٌ فاعِلٌ، نَعْلٌ مَجْمُوْلٌ اِسْمٌ تَابٌ فاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ فِيْهِ سَعْلٌ جَمْلَةً فَعْلِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ كِي شَرْطٌ، قَالِ نَعْلٌ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مُوَصُولٌ كَفَرُوْا فاعِلٌ وَاوُ مُضَمَّرٌ فاعِلٌ، نَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصِلَةٌ فاعِلٌ لَاهُ حَرْفٌ جَارٌ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مُوَصُولٌ اٰمَنُوْا فاعِلٌ وَاوُ مُضَمَّرٌ فاعِلٌ، نَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ جَمْلَةً فَعْلِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ كِي مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمْلَةً اِسْمِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ، نَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةً فَعْلِيَّةً خَبْرِيَّةً هُوَ كِي تَمَثَّلَ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُشْتَرِقٌ فاعِلٌ مَقَامًا تَمِيْزٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ بِاِقَاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةً هُوَ كِي مَقَامًا تَمِيْزٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُشْتَرِقٌ فاعِلٌ نَدِيًّا تَمِيْزٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ بِاِقَاعِلٌ وَرَدٌ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةً هُوَ كِي مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ هُوَ۔

معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انتائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوں۔

**وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِمَّنْ قَزَنُوا أَحْسَنُ أَتَانًا وَرَعِيًّا ۝**

**آیت نمبر ۴۳:** واؤ استیثنا فی کلمہ خبریہ میزین حرف جد قزین موصوف ہف ضمیر مبتدا، احسن اسم تفضیل ہف ضمیر فاعل آتانا و رعیا معطوف علیہ بمعطوف تیز، اسم تفضیل ہاقابل و تیز شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قزین کی صفت، موصوف ہ صفت مجرور، جار با مجرور کلمہ میز کی تیز، میز ہا تیز مفعول بہ مقدم، اهلکنا فعل ناقصیر فاعل قبیلہم مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل ہاقابل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

**قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۗ حَتَّىٰ اِذَا رَاوَا مَا يُوعَدُونَ اِمَّا**

**الْعَذَابِ وَاِمَّا السَّعَاةَ فَاسْتَعِيْلُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَاَضْعَفُ جُنْدًا ۝**

**آیت نمبر ۷۵:** قُل فعل امر آت مستقر فاعل سے ل کر قول، من اسم شرط، مبتدا، کان ناقصہ ہو مستقر اسم فی الضلالۃ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر شرط، فقاء جزائیہ لیمدد فعل امر لہ ظرف لغو متعلق ہوں الرّحمن فاعل ممدًا مفعول مطلق، فعل ہاقابل و مفعول مطلق و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ من کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انتائیہ ہوں حتیٰ مبتدا اسمیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، راوا فعل ناقصیر فاعل ما موصول یوعدون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول ہا صلہ منرا اما حرف ترید العذاب معطوف علیہ، واو عاطفہ اما حرف ترید السعۃ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف بدل، مبدل منہ ہا بدل راوا کا مفعول بہ، فعل ہاقابل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائیہ سین علامت فعل، یعلکون فعل ناقصیر فاعل من اسم موصول ہو ضمیر مبتدا مشورہ اسم تفضیل ہو مستقر فاعل مکانًا تیز، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اضعف اسم تفضیل ہو مستقر فاعل جندا تیز، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف ہو کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ من کا صلہ، موصول ہا صلہ مفعول بہ، فعل ہاقابل و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰهْتَدَوْا هُدًى وَاَلْبَيْتِ الصّٰلِحِ خَيْرٍ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَّخَيْرًا مَّرَدًّا ۝**

**آیت نمبر ۷۶:** واؤ استیثنا فی زید فعل لفظ اللّٰہ فاعل الَّذیْن اسم موصول اھتدوا فعل ناقصیر فاعل دو تونوں مل کر صلہ، موصول ہا صلہ مفعول بہ اول ہدی مفعول بہ ثانی، فعل ہاقابل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، واو عاطفہ البیت الصلیح الصلیح مرکب توصیفی مبتدا، خیر اسم تفضیل ہی مستقر فاعل عند ربک مرکب اضافی مفعول فیہ توابًا تیز، اسم تفضیل ہاقابل و تیز مفعول فیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ خیر اسم تفضیل ہی مستقر فاعل مرادًا تیز، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف خبر، مبتدا با خبر یزید معطوف ہے، معطوف علیہ بمعطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

**اَفَرَعَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاؤْتِيْنَ مَالًا وَّلَاؤَلَدًا ۝**

**آیت نمبر ۷۷:** ہمزہ حرف استفہام فاء استیثنا فی رعیت فعل آت ضمیر فاعل الَّذی اسم موصول کفر فعل ہو مستقر ہمزہ

حرف جا ایتنا مرکب اضافی مجرور، جا باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ قال فعل ہو مستقر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لاہر موطنہ القیم اور ضم محذوف ہے اُوکین فعل مجہول انما ضمیر مستقر نائب قائل صلا معطوف علیہ، واو عاطفہ وکذا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل مجہول ہاتب قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم ہا جواب قسم جملہ اضافیہ ہو کر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اللّٰہی کا صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ اضافیہ متساوہ ہوں۔

**أَطْلَعَ الْعَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝**

**آیت نمبر ۷۸:** ھذا حرف استفہام اطلع فعل ضمیر قائل العیب مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ اضافیہ ہو کر معطوف علیہ، اَم حرف عطف اتخذ فعل ضمیر قائل عیند الرحمن مرکب اضافی کا کثمتا کا مفعول بہ ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم عہدا مفعول بہ اول موخر، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ اضافیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف محلا منصوب و کثمت کا مفعول بہ ثانی ہے۔

**كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝**

**آیت نمبر ۷۹:** کلا حرف رد و سبب علامت فعل، نکتب فعل نحن ضمیر مستقر قائل ما موصولہ یقول فعل ہو ضمیر قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ نمد فعل نحن ضمیر قائل کلا جا باجر و متعلق اول ہوئے من العذاب جا باجر و متعلق ثانی ہوئے، ممد مفعول مطلق، فعل ہا قائل و متعلقین و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متساوہ ہوا۔

**وَنَرُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝**

**آیت نمبر ۸۰:** واو عاطفہ نر فعل نحن ضمیر مستقر قائل تا ضمیر مفعول بہ اول، ما موصولہ یقول فعل ہو ضمیر قائل فعل ہا قائل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یأتی فعل ہو ضمیر مفعول بہ اول، فردا حال، ذوالحال ہا حال قائل تا ضمیر مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف نکتب پر معطوف ہے۔

**وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝**

**آیت نمبر ۸۱:** واو استینافیہ اتخذوا فعل واو ضمیر قائل من دون اللہ مرکب اضافی مجرور، جا باجر و کا کثمت کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم الہة مفعول بہ اول موخر، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متساوہ ہوں لاہر حرف جا برائے تلعیل اور اس کے بعد ان مقدّم ہے یكونوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم الہم جا باجر و طرف مستقر کا کثمتا کے متعلق ہو کر حال مقدم عیز ذوالحال اور موخر ذوالحال ہا حال خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہتاویل مصدر مجرور، جا باجر و اتخذوا کے متعلق ہوئے۔

**كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝**

**آیت نمبر ۸۲:** کلا حرف رد و سبب علامت فعل یكفرون فعل واو ضمیر قائل باہ حرف جا عبادتہم مرکب اضافی مجرور،



جد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُکُوْنُوْنَ فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، عَلَیْهِمْ جد باجر و طرف مستقر کا نکتا کے متعلق ہو کر حال مقدم، یضدُ اذوالحال موخر بذوالحال باحال خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متافر ہو۔

● رکن نمبر ۶ ●

### اَلَمْ تَوْ اَنَا اَوْ سَلْنَا الشَّيْطٰنِ عَلَی الْكٰفِرِيْنَ تَوَزُّهُمْ اَرَاۤءِ

آیت نمبر ۸۳: ہمدہ حرف استفہام کہ تُو فعل آت متفرق قائل اَنْ حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم اَوْ سَلْنَا فعل ناقص ضمیر اس کا اسم الشَّيْطٰنِ مفعول بہ عَلَی الْكٰفِرِيْنَ جد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ کہ تُو کے و مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔ تَوَزُّ فعل ہیج متفرق قائل ہمدہ ضمیر مفعول بہ اَوْ مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ الشَّيْطٰنِ سے حال ہے۔

### فَلَا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ ؕ اِنَّمَا تَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا ۝

آیت نمبر ۸۴: قائم ضمیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ وَقَعُوْا فِي الْمَعْصِيَةِ لَآ تَعْجَلْ فعل ہیج آت متفرق قائل عَلَیْهِمْ جد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا اِنْ حرف تحقیق کونف، مَعَا كَاذ تَعَدُّ فعل تَعَدُّ متفرق قائل لَہُمْ جد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے عَدًّا مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہو۔

### يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفَدَا ۝

آیت نمبر ۸۵: يَوْمَ مضاف نَحْشُرُ فعل تَعَدُّ متفرق قائل الْمُتَّقِيْنَ مفعول بہ اِلَى الرَّحْمٰنِ جد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے وَفَدَا یعنی و اذیدین سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مضاف علیہ، پھر مرکب اضافی تَعَدُّ کا مفعول فیہ ہے۔

### وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَن اَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

آیت نمبر ۸۶، ۸۷: واو عاطفہ نَسُوْقُ فعل تَعَدُّ متفرق قائل الْمُجْرِمِيْنَ ذوالحال وِرْدًا یعنی و اذیدین حال اولیٰ لَا يَمْلِكُوْنَ فعل ناقص ضمیر مستثنیٰ منہ اِلَّا حرف استفہام من اسم موصول اِتَّخَذَ فعل ہو متفرق قائل عِنْدَ الرَّحْمٰنِ مرکب اضافی کا نکتا کا مفعول فیہ ہو کر مفعول بہ یعنی مقدم، عَهْدًا مفعول بہ ازل موخر، فعل بافاعل و مفعولین صلہ، موصول ہاصلہ مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ منہ اِلَّا يَمْلِكُوْنَ کا قائل الشَّفَاعَةَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ الْمُجْرِمِيْنَ کا حال ہے ذوالحال باحالین نَسُوْقُ کا مفعول بہ اِلَى جَهَنَّمَ جد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ نَحْشُرُ مہ معطوف ہے۔

### وَقَالُوْا اَتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝

آیت نمبر ۸۸: واو استیفاء فیہ قَالُوْا فعل ناقص ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول اِتَّخَذَ فعل الرَّحْمٰنُ قائل و لَدَا مفعول بہ یعنی اور

مفعول بہ ازل مخدوف ہے عَزُوْا اِیْمٰنُیْ و غیرہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول باقول جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں۔

### لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا

**آیت نمبر ۸۹:** لامر موطن القسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل جِئْتُمْ فعل کُفَّ ضمیر فاعل شَيْئًا اِذَا مرکب توسیعی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، پھر قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

### تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَكْفُظُوْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا

**آیت نمبر ۹۰:** تکاد فعل مقارب السَّمٰوٰتُ اس کا اسم یَكْفُظُوْنَ فعل لُون منقوہ ضمیر فاعل مِنْهُ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَنْشَقُّ فعل الْاَرْضُ فاعل، ودونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ تَخِرُّ فعل الْجِبَالُ فاعل هَدًا بمعنی اسم مفعول الْجِبَالُ کا حال ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین تکاد کی خبر ہے، تکاد کے پنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔

### اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَكَذٰلِكَ

**آیت نمبر ۹۱:** اَنْ حرف مصدری دَعَوْا فعل واو ضمیر فاعل لِلرَّحْمٰنِ جار باجرور متعلق ہوئے، وَكَذٰلِكَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ بتاول مصدر مفعول مفعول لہ ہے تَخِرُّ و غیرہ افعال کا۔

### وَ مَا يَلْبِغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَكَذٰلِكَ

**آیت نمبر ۹۲:** واو استثنائیہ مَا تالیہ یَلْبِغِيْ فعل لِلرَّحْمٰنِ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اَنْ حرف مصدری و نصب یَّتَّخِذُ فعل ہو مستتر فاعل وَكَذٰلِكَ مفعول بہ ثانی، مفعول بہ ازل مخدوف ہے اَحَدًا، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں۔

### اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتَى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

**آیت نمبر ۹۳:** اِنْ حرف لنگی مضاف مِنْ اسم موصول فی حرف جار السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مفعول علیہ با معطوف مجرد، جار باجرور ظرف مستقر فعل مخدوف عَبَدَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاصل کُلُّ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا اِلَّا حرف استثنائیہ اَتَى اسم فاعل مضاف الرَّحْمٰنِ مضاف الیہ عَبْدًا اَتَى میں ہو ضمیر مستتر سے حال ہے، اسم فاعل مضاف پنے مضاف الیہ سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ منطلقہ ہوا یا مستتر ہوں۔

### لَقَدْ اَخْصَيْنَاهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا وَّكُلُّهُمْ اَتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

**آیت نمبر ۹۵، ۹۴:** لامر موطن القسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل اَخْصٰی فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَدَّ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ عَدَّ مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ كَلُّهُمْ مرکب اضافی مبتدا اَتَى اسم فاعل مضاف و ضمیر مضاف الیہ معنی مفعول بہ

یَوْمَ الْقِيَامَةِ مركب اضافی مفعول فی قَوْمًا اُن کی مضمیر مستتر کا حال ہے، اسم فاعل اپنے معنی علیہ مفعول فیہ سے ل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، معطوفین علیہ قسم کا جواب، قسم کا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمُ الرَّحْمٰنُ وِدًا ﴿۱۹﴾

**آیت نمبر ۱۹:** اِنَّ حرف تحقیق اَلَّذِيْنَ اسم موصول اٰمَنُوْا فعل باواؤ مضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وَاو عاقلہ عَمِلُوْا فعل واو مضمیر فاعل الصَّٰلِحٰتِ بواسطہ موصوفہ اَلَا عَمَال کے مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلبہ، موصول باسمر اِنَّ کلام سبعین علامت فعل، يَجْعَلُ فعل لہم جملہ باخبر و طرف لغو متعلق ہوئے، الرَّحْمٰنُ فاعل وُدًا مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فَاِنَّمَا يَسْتَرْزُقُهُ يَلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدًا ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۲۰:** فَاو تعلق اِنَّ حرف تحقیق تَقْوٰنَ، مَعَا کا لَیْسُوْنَا لعل نا مضمیر فاعل کا مضمیر ذوالحال باء حرف جار لیسانیک مرکب اضافی مجرور، جملہ باخبر و کل کا متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول فیہ، لآو حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَر ہے، وَتُبَشِّرُوْا فعل اکت مستتر فاعل یہ جملہ باخبر و طرف لغو متعلق ہوئے، الْمُتَّقِيْنَ مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاو عاقلہ تُنذِرُ فعل اکت مستتر فاعل یہ جملہ باخبر و طرف لغو متعلق ہوئے، قَوْمًا لَدًا مرکب توصیفی مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتا ویل مصدر مجرور، جملہ باخبر و لَیْسُوْنَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مظاہر ہوں اور جملہ مظاہر معطوف ہے اور وَاو تُلْبِغُ مَا أُتِرُ ہے۔

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ ؕ هَلْ نَحْسِبُهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** وَاو استینا فیہ کَمْ خبریہ تمیز ہون قَوْمٍ جملہ باخبر و تمیز، مِمَّنْ ہا تمیز مضمیر مفعول فیہ مقدم اَهْلَكْنَا لعل نا مضمیر فاعل قَبْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہوں۔ هَلْ حرف استفہام نَحْسِبُ فعل اکت مستتر فاعل و مِمَّنْ جملہ باخبر و طرف مستتر کا کھینکا کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِمَّنْ جملہ زائدہ اَحَدٍ لَمَّا مجرور مَعْلَا منصوب ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، وَاو حرف عطف تَسْمَعُ فعل اکت مستتر فاعل لہم جملہ باخبر و طرف مستتر کا کھینکا کے متعلق ہو کر حال مقدم رِکْوًا ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر انشائیہ ہوں۔



## ترکیب سُورَةِ طه

● رُكُوعُ نَمْبِرَا ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥ طه ٥

آیت نمبر ۱: طه اس کی ترکیب سورۃ قمر کے شروع میں دیکھیں۔

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٥

آیت نمبر ۲: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى فعل ناقص مفعول بہ ہواؤ عاطفہ موصولہ، لاکر حرف جار برائے تعلق اور اس کے بعد ان مترادف تشقی فعل آتے مستتر قائل ہوں توں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار جار مجرور طرف لغو متعلق بنی ہوئے، فعل ہاقابل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَى ٥

آیت نمبر ۳: إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَى حرف جر من موصولہ، یخشی فعل ہو مستتر قائل ہوں توں ل کر صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جار جار مجرور مصدر کے متعلق، مصدر ہا متعلق فعل مقدر أَنْزَلْنَا كَمَا مَفْعُول لہ ہے۔

تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ٥

آیت نمبر ۴: تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى فعل ہو مستتر قائل الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى معطوف علیہ، ہواؤ عاطفہ السَّمَوَاتِ موصوف العُلَى مفت، موصوف معطوف، پھر معطوف علیہ بمعطوف مفعول بہ، فعل ہاقابل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جار جار مجرور تَنْزِيلًا کے متعلق ہوئے، مصدر ہے متعلق سے ل کر مفعول مطلق ہے فعل مخدوف تَنْزِيلًا كَا، فعل ہاقابل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٥

آیت نمبر ۵: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى فعل ہو مستتر قائل، مبتدا جار خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلق ہوں یا الرَّحْمَنُ مبتدایہ، حکلی العرش جار جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے اسْتَوَى فعل ہو مستتر قائل، فعل ہاقابل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا جار جار جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ٥

آیت نمبر ۶: لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى فعل ہو مستتر قائل مخدوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف علیہ، ہواؤ عاطفہ موصولہ موصولہ فی السَّمَوَاتِ جار جار مجرور طرف مستقر فعل مخدوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف اول، ہواؤ عاطفہ موصولہ بَيْنَهُمَا مرکب اضافی فعل مخدوف تَبَيَّنَتْ کا مفعول فیہ ہو کر

صلہ، موصول ہاسلہ معطوف ثانی، واو عاطفہ مآس موصول تَحْتِ الْكُرْسِيِّ مرکب اضافی فعل محذوف تَحْتِ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف ثالث، معطوف علیہ ہا معطوفات ثلاثہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَأَنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** واوستینا فیران حرف شرط تَجْهَرُوا فعل آنک متستر تفاعل بِالْقَوْلِ جار باخبر و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عقابہ جزائیر ان حرف تحقیق تَعْلَمُ ضمیر اس کا اسم یَعْلَمُ فعل ہو متستر تفاعل السِّرَّ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَخْفَى اسم تفضیل ہو متستر تفاعل سے مل کر معطوف دونوں مل کر مفعول یہ، فعل ہا تفاعل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ متناہ ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ ان تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ کی جزاء محذوف ہو قاللہ مُسْتَشْفِعِينَ عَنْ ذٰلِكَ اور قَائِلًا... الخ جملہ مطلقہ ہوں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ذَلِكُمُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** اللہ مبتدأ، لا لئی جنس الہ اس کا اسم الْأَسْمَاءُ استثناء ہو ضمیر بدل ہے لا کی خبر میں ضمیر متستر ہوئے سے کیونکہ یہ اصل میں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ذَلِكُمُ الْأَسْمَاءُ ہے، بلا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر اول، لکہ جار باخبر و طرف متستر کا کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ کی خبر ثانی، مبتدأ باخبر میں جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ مُّوسَى ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۲:** واوستینا فیہ هل حرف استفہام آئی فعل کاف ضمیر منصوب مفعول یہ حَدِيثٌ مُّوسَى مرکب اضافی تفاعل، تینوں مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَىٰ

النَّارِ هُدًى ﴿۱۳﴾

**آیت نمبر ۱۳:** إذ طرف زمان مضاف رہی فعل ہو متستر تفاعل نَارًا مفعول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، عقابہ عاطفہ قَالَ فعل ہو متستر تفاعل لہا حرف جار أَهْلِهِ مرکب اضافی مجرور، جار باخبر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا تفاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، امْكُثُوا فعل امر واو ضمیر تفاعل، دونوں مل کر موقوف، قول ہا موقوف معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی حَدِيثٌ کا مفعول فیہ ہے ان حرف تحقیق نیامہ ضمیر اس کا اسم آنَسْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر تفاعل نَارًا مفعول یہ، فعل ہا تفاعل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

لَعَلَّ حرف ترحمی نیامہ ضمیر منصوب اس کا اسم آئی فعل انکا متستر تفاعل كُمْ ضمیر مفعول یہ و نَهَا جار باخبر و طرف لغو متعلق ہوئے بِقَبَسٍ جار باخبر و طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل ہا تفاعل و مفعول یہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَجْدٍ فعل انکا متستر

فَاعِلٌ عَلَى النَّجْرِ جَارٌ وَرُغْرٌ لَوْ مُتَّعٍ هُوَ مَعْدِي مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَتَخَلُّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِأَنَّ مَعْطُوفٌ لَعَلَّ تَكْوِينِ خَبْرٍ لَعَلَّ يَأْتِيهِ اسْمٌ وَخَبْرٌ سَلُّ لَمْ جُمْلَةٌ انْطَائِيَّةٌ مُسْتَفْرِغَةٌ هُوَ لَدُنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَعْنَى مَقُولٍ فِيهِ دَاخِلٌ هِيَ

فَلَمَّا آتَمَّهَا نُودَىٰ يُؤْمِسُ ۖ إِنِّي أَخَارِبُكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

**آیت نمبر ۱۴:** فَاء استیناف لیتا نظریہ متضمن معنی شرط مفعول فی مقدمہ آئی فعل ہو مستقر قاعلاً ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط نودی فعل مجہول ہو مستقر نائب قاعل و دونوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لیکہ حرف انداماً ڈھکوا کے قائم مقام با ڈھکوا فعل آنا مستقر قاعل مؤنسلی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انطائیہ ہو کہ انداماً ان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کلام آنا ضمیر مبتدأ و ربک مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کہ ربان کی خبر ربان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب انداماً انداماً با جواب جملہ انطائیہ اندامیہ مستفرغ ہوا فقہاء فیصیر اور اس کی شرط محذوف ہے ان وَعَصَيْتَ ذَلِكَ اِخْلَعْ فِعْلٌ اِمْرَاكْتٌ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ نَعْلَيْكَ مَرْكَبٌ اِمْتَاغِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، تِينُونَ لَمْ كَرْجَمْلَةٌ اِنْتَائِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ لَدُنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَعْنَى مَقُولٍ فِيهِ دَاخِلٌ هِيَ

وَ اَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُؤْمِسُ ۝

**آیت نمبر ۱۳:** داؤد عاقلہ آنا ضمیر مبتدأ اِخْتَرْتُ فِعْلٌ تَاءٌ مَضْمُونَةٌ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ كَافٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تِينُونَ لَمْ كَرْجَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْجَمْلَةٌ اِنْتَائِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ لَدُنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَعْنَى مَقُولٍ فِيهِ دَاخِلٌ هِيَ

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

**آیت نمبر ۱۴:** ان حرف تحقیق نون برائے وقایہ بیاء ضمیر اس کلام آنا ضمیر مبتدأ، اللہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کہ ربان کی خبر ان لائی ضمیر بالہ مبدل منہ الآخر استقام آنا ضمیر لاکے اسم کے محل سے بدل ہے، اور خبر محذوف ہے مَوْجُودٌ لَا يَسْمَعُ وَخَبْرٌ سَلُّ لَمْ جُمْلَةٌ اِنْتَائِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ لَدُنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَعْنَى مَقُولٍ فِيهِ دَاخِلٌ هِيَ

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** ان حرف تحقیق السَّاعَةُ اس کلام آتیۃ نام قاعل ہے مستقر قاعل سے ل کر شبہ جملہ ہو کہ خبر ان لاکہ فعل متقاب

آنا مستتر اس کا اسم اخفی فعل آنا مستتر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل مقادیر ہا ضم و خبر ان کی خبر ثانی یانہ ہا ضم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ منطوقہ اول لاکر حرف جہد برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدمے ٹجڈی فعل مجہول کل نفس مرکب اضافی نائب فاعل، یانہ حرف جہد ما مصدریہ تفسی فی مستتر فاعل سے مل کر بتاول مصدر مجرور، جہد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جہد با مجرور واسیئۃ کے متعلق ہوئے۔

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَ اتَّبِعْ هُوَانَهُ فَتَكْرُدِي ۝

**آیت نمبر ۱۶:** قَاء نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ اَقْبَمْتَ الصَّلٰوةَ لَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يَصُدُّكَ عَنْهَا جہد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، مَنْ ام موصول لا یؤمن فعل ہو مستتر فاعل یہا جہد با مجرور و متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اتبّع فعل ہو مستتر فاعل ہوانہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہا صلہ لا یصدّدن کا فاعل، فعل نمی ہا فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط مخدوف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ قاء عاطفہ سببیہ اور اس کے بعد ان مقدمے ٹجڈی فعل آنت مستتر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ڈی فنک مصدر کی تاول میں ہو کر معطوف ہے صد مصدر جو کہ لا یصدّدن سے لکتا ہے۔

وَ مَا تِلْكَ بِبَيْتِكَ لِيُؤْمِنِي ۝

**آیت نمبر ۱۷:** واو استینافیہ ما استفہامیہ مبتدأ، تِلْكَ اسم اشارہ ذوالحال یاہ حرف جہد یؤمنک مرکب اضافی مجرور، جہد با مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہا حال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جواب نہاد مقدم، یانہ حرف نہاد اذکو کے قائم مقام، اذکو فعل آنا مستتر فاعل مؤمنی مخلا منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر نہاد مؤخر، نہاد ہا جواب نہاد جملہ انشائیہ عتاب ہو۔

قَالَ هِيَ عَصَائِي أَتَوَكَّرُ عَلَيْهَا وَ أَهْشُ بِهَا عَلَى عَنِي وَ لِي فِيهَا مَا رَبُّ الْاُخْرَى ۝

**آیت نمبر ۱۸:** قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ہی ضمیر مبتدأ عَصَائِي مرکب اضافی خبر اول، اَتَوَكَّرُ فعل آنا مستتر فاعل عَلَيَّ جہد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَهْشُ فعل آنا مستتر فاعل يَهْشُ جہد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، عمل حرف جہد عَنِي مرکب اضافی مجرور، جہد با مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لِي جہد با مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہوئے، کائنۃ اسم فاعل ہی مستتر فاعل، فِيهَا جہد با مجرور ظرف لغو کائنۃ کے متعلق ہوئے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل و متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہا رَبُّ الْاُخْرَى مرکب توسیعی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ہی کی خبر ثانی ہے، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معقولہ ہے، قول ہا معقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالَ اَلْقَهَا لِيُؤْمِنِي ۝ فَالْقَمَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝

**آیت نمبر ۱۹:** قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، ردوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَلْقِي فعل امر آنت مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جواب نہاد مقدم، لِيُؤْمِنِي کی ترکیب آیت نمبر ۱۷ میں گزری ہے اور یہ نہاد مؤخر ہے، نہاد ہا جواب جملہ انشائیہ

ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ معطوف علیہ، فقام عاطفہ اَلْفی فعل ہو مستتر قائل ہا ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذل فقام عاطفہ اِذَا مانا جاتیہ تَسْمَعُ مفعول فیہ مقدم ہیہ ضمیر مبتدا، حَیۃ موصوف تَسْمَعُ فعل ہی مستتر قائل، دو دونوں مل کر حَیۃ کی صفت، موصوف ہا صفت ہی کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین قَالَ ہر معطوف ہوں

**قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَعِيدٌ هَا سِيدٌ تَهَا الْأُولَى ۝**

**آیت نمبر ۲۱:** قَالَ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر قول، خُذْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ اسمیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَخَفْ فعل نہی اَنْتَ مستتر قائل، دو دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں سیدین علامت فعل، سَعِيدٌ فعل نَحْنُ مستتر قائل ہا ضمیر مفعول بہ سِيدٌ تَهَا مرکب اضافی موصوف الْأُولَى اسم تفضیل ہی مستتر تَاب قائل، دو دونوں مل کر صفت، موصوف ہا صفت منصوب بجزع اِنْفِصَال میں اِلٰی سِيدٌ تَهَا ہے، جہاں بجزر و متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں

**وَ اضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَى ۝**

**آیت نمبر ۲۲:** واو عاطفہ اَضْمُمْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل يَدَكَ مرکب اضافی مفعول بہ اِلٰی حرف جار جَنَاحِكَ مرکب اضافی مجرور، جہاں بجزر و متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ اسمیہ امریہ خُذْ هَا ہر معطوف ہے۔ تَخْرُجُ فعل مضارع ہی ضمیر مستتر ذوالحال، بَيْضَاءَ صیغہ صفت ہی ضمیر ذوالحال حرف جار غَيْرِ موصوف مرکب اضافی مجرور، جہاں بجزر و طرف مستقر کائینۃ کے متعلق ہو کر حال اولیٰ، آيَةٌ أُخْرَىٰ مرکب توصیفی حال ثانیہ ذوالحال ہا لاین بَيْضَاءَ کا نال، صیغہ صفت ہا قائل شہ جملہ ہو کر ہی ضمیر کا حال ذوالحال ہا حال تَخْرُجُ کا نال، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ جزاہ ہے، اور شرط مخدوف ہے اِنْ تَضْمُمْ يَدَكَ اِلٰی جَنَاحِكَ، شرط مخدوف ہا جزاہ جملہ شرطیہ ہوں

**لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝**

**آیت نمبر ۲۳:** لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مقرر ہے لِنُرِيكَ فعل نَحْنُ مستتر قائل کاف ضمیر مفعول بہ مِنْ حرف جار اِلَيْتِنَا مرکب اضافی موصوف الْكُبْرَىٰ صفت، موصوف ہا صفت مجرور، جہاں بجزر و طرف مستقر کائینۃ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف آيَةٌ کے مفعول بہ ثانی، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتادیل مصدر مجرور، جہاں بجزر و متعلق ہوئے فعل مخدوف لِنُرِيكَ ذَلِكْ کے، فعل ہا قائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

**اِذْهَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ ظَلَمٰنٌ ۝**

**آیت نمبر ۲۴:** اِذْهَبْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل اِلٰی فِرْعَوْنَ جہاں بجزر و طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم ظلمی فعل ہو مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بَرَاءَتِ بِالِاسْمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں



● رکوۃ نمبر ۲ ●

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝

**آیت نمبر ۲۵، ۲۶، ۲۷:** قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝  
استترناعل لی جاہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے صدری مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق مفعول بہ، جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یتیسر فعل امر آت استترناعل لی جاہ باجر و متعلق ہوئے امری مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اخلل فعل امر آت استترناعل عُقْدَةً مفعول بہ، لسانی جاہ باجر و متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب تمامہ، تمامہ با جواب جملہ انشائیہ مقلوبہ، قول با مقلوبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

يَقْفَهُوا قَوْلِي ۝

**آیت نمبر ۲۸:** يَقْفَهُوا قَوْلِي ۝  
اور اس کی شرط محذوف ہے ان تَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ اس لئے کہ یہ جواب امر ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَاجْعَلْ لِّي وَرِيْرًا مِّنْ اَهْلِي ۝ هُرُوْنِ اَخِي ۝

**آیت نمبر ۲۹، ۳۰:** واجْعَلْ لِّي وَرِيْرًا مِّنْ اَهْلِي ۝ هُرُوْنِ اَخِي ۝  
مقدم وریزو موصوف مین حرف جاہ اہلی مرکب اضافی مجرور، جاہ باجر و طرف مستقر کثرتا کے متعلق ہو کر مفعول بہ یعنی مبدل منہ، ہرؤن مین، اخی مرکب اضافی عطف بیان، مین با عطف بیان بدل، مبدل منہ با بدل مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ اشرح معطوف ہے۔

اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِي ۝

**آیت نمبر ۳۱:** اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِي ۝  
کہ جملہ انشائیہ مستافہ ہوں۔

وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِي ۝

**آیت نمبر ۳۲:** وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِي ۝  
باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ، متعلق جملہ انشائیہ اشْدُدْ بِهٖ معطوف ہے۔

كَيْ نَسْتَبِيْحَكَ كَيْبِيْرًا ۝ وَكَدْ كُرِكَ كَيْبِيْرًا ۝

**آیت نمبر ۳۳، ۳۴:** كَيْ نَسْتَبِيْحَكَ كَيْبِيْرًا ۝ وَكَدْ كُرِكَ كَيْبِيْرًا ۝  
کبیروہ ابواسطہ موصوف محذوف نَسْتَبِيْحَا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کَدْ کُرِكَ فعل نَحْنُ مستترناعل کان ضمیر منصوب مفعول بہ کبیروہ ابواسطہ موصوف محذوف کُرَا کے مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ

خبر یہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور وأشرفک کے متعلق ہوئے۔

### إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝

**آیت نمبر ۳۵:** اِنْ حرف تحقیق کان ضمیر اس کا اسم کُنْتَ فعل ناقص تاکہ مفتوحہ اس کا اسم بِنَا جار با مجرور متعلق مقدم بَصِيرًا صیغہ مفت اَنْتَ مستتر فاعل، صیغہ مفت با فاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَطْلَعٌ ہوں۔

### قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰى ۝

**آیت نمبر ۳۶:** قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، قَدْ علامت فعل، اُوتِيتَ فعل مجہول تاکہ مفتوحہ ضمیر نائب فاعل، سُؤْلَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل مجہول بہ نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جواب مقدم یٰمُوسٰى کی ترکیب ما قبل میں گزر چکی ہے اور یہ علامہ موخر ہے، علامہ با جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

### وَلَقَدْ مَدَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اٰخْرٰى ۝

**آیت نمبر ۳۷:** وَاو عطف لآہر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، مَدَنَّا فعل ناقص ضمیر فاعل عَلَيْكَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مَرَّةً اٰخْرٰى مرکب توصیفی مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق فیہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب ہے، قسم کا جواب قسم جملہ انشائیہ تفسیر ہوں۔

### اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اَمِّكَ مَا يُوحٰى ۝

**آیت نمبر ۳۸:** اِذْ ظرف زمان مضاف اَوْحَيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل اِلٰى حرف جار اَمِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مَا موصول یوحٰى فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مَدَنَّا کا مفعول فیہ ہے۔

**اَنْ اَقْدِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاَقْدِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهٖ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوُّ لَهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۝**

**آیت نمبر ۳۹:** اِنْ حرف مصدریہ اَقْدِفِيْ فعل امر یاء ضمیر مرفوع فاعل یاء ضمیر منصوب مفعول بہ، فِى التَّابُوْتِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فَاَقْدِفِيْ فعل امر یاء ضمیر مرفوع فاعل یاء ضمیر منصوب مفعول بہ فِى الْيَمِّ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول، فَاَقْدِفِيْ عطف لیلقی فعل امر یاء ضمیر منصوب مفعول بہ بِالسَّاحِلِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَلْيَمُّ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتاویل مصدر مَعَايُوْطِ سے بدل ہے، اور اِنْ حرف تفسیری ہو تو پھر جملہ مفرہ ہے یَأْخُذْ فعل مضارع ضمیر منصوب مفعول بہ عَدُوٌّ موصوف لى جار با مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہے۔

ہفت معطوف علیہ واوِ عاطفہ عَدُوٌّ موصوفہ جہا بجز در طرف مستتر کائین کے متعلق ہو کہ صفت، موصوف ہفت معطوف، پھر معطوف علیہ بمعطوف یا اُخْتُكُ کا قائل ہے، فعل ہا قائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط محذوف کی جزا ہے، اور شرط یہ ہے اِنْ تَغَدَّرَ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَتَقَدَّرَ فِيهِ... اِنْ، شرط محذوف ہا جزا ہر جملہ شرطیہ ہو۔

واوِ استینا فیہ القینتِ فعل قاتہ مضمومہ قائل عَلَيكَ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے مَحَبَّةٌ موصوفہ مِنْ حرف جہا نون برائے وقایہ یاد ضمیر ملامت جبرور، جہا بجز در طرف مستتر کائینہ کے متعلق ہو کہ صفت، موصوف ہفت معطوف یہ، فعل ہا قائل و مفعول یہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہو۔ واوِ عاطفہ لآہر جہا تعلیلہ اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ ہے تَصْنَعُ فعل مجہول اَنْتَ مستتر نائب قائل علی حرف جہا عینیہ مرکب اضافی جبرور، جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائِب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر جبرور، جہا بجز در معطوف ہے، اور معطوف علیہ محذوف ہے اور و لِيَلْمَنَّكَ بِكَ ہے، پھر معطوف علیہ بمعطوف القينتِ کے متعلق ہے۔

اِذْ تَسْمِعُ اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَدْرَاكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۗ فَوَجَعْنَاكَ اِلَىٰ اَمِكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ تَلَحُّزْنَ ۗ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَجَجَيْنَاكَ مِنَ الْعَمَىٰ ۗ وَ فَتَنَّاكَ فُتُوًّا ۗ تَدْفَلِكُنَّ سَيِّئِينَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۗ لَئِمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّمُوْسَىٰ ۝۳۰

آیت نمبر ۳۰: اِذْ طرف زمان مضاف تَسْمِعُ فعل اُخْتُكَ مرکب اضافی قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قاتہ عاطفہ فَتَقُولُ فعل اَنْتَ مستتر قائل، دو نوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہکل حرف استفہام اَدْرَاكُمْ فعل اَنَا مستتر قائل علی حرف جہا مِنْ اسم موصول يَكْفُلُهُ فعل هُوَ مستتر قائل، ضمیر مفعول یہ، تینوں مل کر صلہ، موصول ہاسلہ جبرور، جہا بجز در اَدْرَاكُمْ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول یہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ مَقُول، قول ہا موقول معطوف، معطوف علیہ بمعطوف اِذْ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی القينتِ یا تَصْنَعُ کا مفعول یہ ہے، یا فعل محذوف اَدْرَاكُمْ کا مفعول یہ ہے۔

قاتہ عاطفہ رَجَعْنَاكَ فعل تا ضمیر قائل کان ضمیر مفعول یہ الی حرف جہا اَمِكَ مرکب اضافی جبرور، جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، کی حرف تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ ہے تَقَرَّ فعل عَلَيَّهَا مرکب اضافی قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واوِ عاطفہ لآحزْنَ فعل ہی مستتر قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف بتاویل مصدر لآہر مقدر کا جبرور، جہا بجز در رَجَعْنَاكَ کے متعلق ہائی ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول یہ و متعلقین معطوف ہے، اور معطوف علیہ مقدر ہے اُجِيبْتِ فَجَاءَتْ اَمُّكَ سَآوِا استینا فیہ قَتَلْتَ فعل قاتہ متوحد ضمیر قائل نَفْسًا مفعول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قاتہ عاطفہ تَجِيئْنَا فعل تا ضمیر قائل کان ضمیر مفعول یہ، مِنْ الْعَمَىٰ جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول یہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واوِ عاطفہ فَتَنَّاكَ فعل تا ضمیر قائل کان ضمیر مفعول یہ، فُتُوًّا مفعول مطلق، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بمعطوفین جملہ مستانہ ہو۔

قاتہ استینا فیہ لِيَلْمَنَّكَ فعل قاتہ متوحد ضمیر قائل سَيِّئِينَ مفعول یہ، ہی حرف جہا اَهْلِ مَدْيَنَ مرکب اضافی جبرور، جہا بجز در متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول یہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، لَئِمَّ عاطفہ جِئْتَ فعل قاتہ متوحد ضمیر قائل علی قَدَرٍ طرف مستتر

مُواَفَقًا کے متعلق ہو کر چٹٹ کے قائل سے حال ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جنواب نداء مقدم،  
یُؤْتِیْهِ لَیْزًا مِّمَّنْ لَمْ یَلْمِزْ یَاسْرًا مِّنْ دُونِہِ اور یہ ملامت ہے، پھر نداء با جواب نداء جنواب نداء انشائیہ ندائیہ ہوں۔

وَاَصْطَغَتْکَ لِنَفْسِیْ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** واو عاطفہ اصْطَغَتْ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، لاہر حرف جار نُفْسِیْ مرکب اضافی مجرور،  
جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ چٹٹ پر معطوف ہے۔

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخْوَاکَ بِالْبَیْتِیْ وَ لَا تَبِیْنَا فِیْ ذِکْرِیْ ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۲:** اِذْهَبْ فعل امر اَنْتَ مستتر مؤکدا اَنْتَ ضمیر منفصل تاکید، مؤکدہ تاکیدی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَخْوَاکَ مرکب  
اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف قائل بآء حرف جار البیتِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق  
جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَبِیْنَا فعل نہی الف ضمیر فاعل فی حرف جار ذِکْرِیْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق  
ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوفہ جملہ متافر ہوں۔

اِذْهَبْ اِلَیْ فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی ﴿۳۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** اِذْهَبْ فعل الف ضمیر فاعل الی حرف جار فِرْعَوْنَ مجرور بالفتح مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و  
متعلق جملہ انشائیہ امریہ جملہ اولیٰ تاکیدی ہے۔ اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم طغی فعل ہو مستتر قائل، دونوں مل کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ  
اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

فَقُوْلَا لَہٗ قَوْلًا لِّیْنَآ لَعَلَّہٗ یَتَذَکَّرُ اَوْ یَحْشٰی ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۴:** قاء عاطفہ قَوْلًا فعل الف ضمیر فاعل لَہٗ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے قَوْلًا تَیْمَارِکَ توصیفی مفعول بہ  
یا مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول جملہ انشائیہ اِذْهَبْ اِلَی فِرْعَوْنَ پر معطوف ہے۔ لَعَلَّ حرف ترحمی ضمیر اس کا اسم  
یَتَذَکَّرُ فعل ہو مستتر قائل، دونوں مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف یَحْشٰی فعل ہو مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف،  
معطوف علیہ با معطوف خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مطلقہ ہے۔ یا راجح تَذَکَّرُ اَوْ یَحْشٰی یہ کی تاویل میں ہو کر قَوْلَا کی ضمیر فاعل  
سے حال ہے۔

قَالَ رَبَّنَا اِنَّا خَافُ اَنْ یَّفْرَطَ عَلَیْنَا اَوْ اَنْ یَّطْغٰی ﴿۳۵﴾

**آیت نمبر ۳۵:** قَالَ فعل الف ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے،  
اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم اِنَّا خَافُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر قائل، اِنَّ حرف مصدری و نصب یَفْرَطُ فعل ہو مستتر قائل عَلَیْنَا جار با مجرور  
ظرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف علیہ، او عاطفہ اَنْ حرف مصدری و نصب یَطْغٰی فعل ہو مستتر قائل،  
دونوں مل کر بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مَلَّا منصوب اِنَّا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی

خبرِ اَنْ بِسْمِ وَخبرِ جملہ اسمیہ خبریہ بحباب ملکہ وپھر ملکہ باجواب مقولہ، قولِ ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

**قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمِعُ وَأَرْى**

**آیت نمبر ۳۶:** قَالَ لَوْ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ مِّنْ لَّكَ قَوْلٌ، لَا تَخَافَا فَعَلَّ الف ضمیر فاعلِ ہُوَ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ مقولہ، قول

ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنْ حرفِ تحقیق نون برائے وقایہ تہام ضمیر اس کا اسم مَعَكُمْ مرکب اضافی کائون کا مفعول فیہ ہو کر اِنْ کی خبر اِنل ہے، اَسْمِعُ فعلِ اَنَا مُسْتَرْتَفِعٌ، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَرْى فعلِ اَنَا مُسْتَرْتَفِعٌ، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ ہا مقولہ تَمَّا مُنْصَبٌ اِنْ کی خبر یعنی اَنْ بِسْمِ وَخبرِ اِنْ جملہ اسمیہ خبریہ منطوقہ ہوں یا معطوف علیہ ہا معطوف اِنْ کے اسم ہے، یا ملکہ مستانہ ہے

**قَاتِيلُهُ فُقُوْلًا اِنَّا رَسُوْلًا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ اِسْرٰٓءٰلَٖلَ وَا لَا تُعَذِّبْهُمْ طَقْدُ جُنْدِكَ بِاَيَّةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَوَالسَّلْمُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰى**

**آیت نمبر ۳۷:** فَآءَ عَاطِفٌ اِنِّيَا فَعَلَّ اِمر الف ضمیر فاعلِ ضمیر مفعولِ ہ۔ بنیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فآء عاطفہ فُوْلًا فَعَلَّ اِمر الف ضمیر فاعلِ، فعلِ ہا فاعلِ جملہ انشائیہ قولِ اِنَّا رَسُوْلًا رَبِّكَ مرکب اضافی خبرِ اِنَّا بِسْمِ وَخبرِ جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قولِ ہا مقولہ معطوف، پھر معطوف علیہ ہا معطوف لَا تَخَافَا کہ معطوف ہے۔ فآء عاطفہ اور معطوف علیہ مخذوف ہے تَكْتِيْبُهُ يَاقُوْلُوْا عُوْدُوْا اَرْسِلْ فَعَلَّ اِمر اَنْتَ مُسْتَرْتَفِعٌ مَعَكُمْ اِمر اضافی مفعولِ فَيَعِيْضُوْا اَرْسِلْ اَرْسِلْ مرکب اضافی مفعولِ ہ، فعلِ ہا فاعلِ مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ہوں

www.kitabosunnat.com

واو عاطفہ لَا تُعَذِّبْ فَعَلَّ نِيْ اَنْتَ مُسْتَرْتَفِعٌ هُوَ ضمیر مفعولِ ہ، فعلِ ہا فاعلِ مفعولِ ہ جملہ انشائیہ اَرْسِلْ ہر معطوف ہے۔ قَدْ علامت فعلِ، جَمْعًا فَعَلَّ اِمر ضمیر فاعلِ كافِ ضمیر مفعولِ ہ، بہاء حرفِ جہازیۃ موصوفِ هُنَّ رَبِّكَ ظرفِ مستقر کائون کے متعلق ہو کر صفت، موصوفِ ہ صفتِ مجرور، جارِ مجرور و طرف لفظ متعلق ہوئے، فعلِ اپنے فاعلِ مفعولِ ہ و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منطوقہ ہوں واو استینافِ السَّلْمُ مبتدأ علی حرفِ جہادِ هُنَّ اِمر موصولِ اَتَّبَعَ فَعَلَّ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ الْهُدٰى مفعولِ ہ، بنیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولِ ہ صلہ مجرور، جارِ مجرور و طرفِ مستقر کائون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں

**اِنَّا قَدْ اُوْحِيْ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰٓى**

**آیت نمبر ۳۸:** اِنْ اَنْتَ حَرْفِ تَحْقِيْقٍ تَا ضَمِيْرٍ اِسْمِ كَا سَمْعٌ قَدْ عَلَامَتِ فَعَلَّ اُوْحِيْ فَعْلٌ مَّجْهُوْلٌ اِلَيْنَا جَارٌ مَّجْرُوْرٌ مَتَعَلِّقٌ هُوَ اَنَّ حَرْفِ تَحْقِيْقِ الْعَذَابِ اِسْمِ كَا سَمْعٌ عَلٰی حَرْفِ جِهَادِ هُنَّ اِمر موصولِ كَذَّبَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تَوَلٰٓى فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف صلہ، موصولِ ہ صلہ مجرور، جارِ مجرور و طرفِ مستقر کائون کے متعلق ہو کر خبرِ اِنَّا ہا اِمر و خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ متا و مل مصدرِ تَبَّ فاعلِ، اُوْحِيْ فَعْلٌ مَّجْهُوْلٌ تَبَّ فاعلِ و متعلق اِنَّا کی خبرِ اِنَّا بِسْمِ وَخبرِ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

**قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوْسٰى**

**آیت نمبر ۳۹:** قَالَ لَوْ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ مِّنْ لَّكَ قَوْلٌ، فآء عاطفہ خبریہ قول، فآء نصیب اور اس کی شرط مخذوف ہے اِنْ اُوْحِيْ اِلَيْنَا،

مَنْ اسْتَفْهَمَ مِنْهُ بِمَبْدَأِهِ وَرُكْبَاتِهِ اِضْطِغَابُ اِسْمِ الْاَنْثَايَةِ هُوَ كَرَجْوَابِ مَبْدَأِهِ مَقْدَمٌ عَلَيْهِ مُؤَلَّطٌ عَلَيْهِ مَوْخَرٌ بِمَبْدَأِهِ اِجْوَابُ مَبْدَأِهِ شَرْطُ مَعْدُوفٍ كَرَجْوَابِهِ، شَرْطُ بَاِجْزَاءِ مَقُولِهِ، قَوْلٌ بِاِقْوَالِهِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

### قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿۵۰﴾

**آیت نمبر ۵۰:** قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ، دُووْنُوهُ لَمْ يَكُنْ قَوْلٌ بِرُكْبَاتِهِ اِضْطِغَابُ اِسْمِ الْاَنْثَايَةِ الَّذِي اِسْمٌ مَوْصُولٌ اَعْطَى فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ مَرْكَبٌ اِضْطِغَابُ مَفْعُولٍ بِهٖ اَوَّلٌ، حَلْقَهُ مَرْكَبٌ اِضْطِغَابُ مَفْعُولٍ بِهٖ ثَانِيٌ، فِعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَمَقْوَلِيْنٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ هَدَى فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ، دُووْنُوهُ لَمْ يَكُنْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِقْوَالِهِ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ خَبْرٌ، مَبْدَأُ اِخْبَارٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاِقْوَالِهِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

### قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى ﴿۵۱﴾

**آیت نمبر ۵۱:** قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ سَعَلٌ لَمْ يَكُنْ قَوْلٌ، فَاَمَّ فَصِيحَةٌ اِدْرَاسُ كِ شَرْطُ مَعْدُوفٍ هِيَ اِنْ كَانَ رُكْبَاتُهَا قَدْ اَعْطَى وَهَدَى، مَا اسْتَفْهَمَ مِنْهُ بِمَبْدَأِهِ اِضْطِغَابُ مَضَافٍ الْقُرُونِ الْاُولَى مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَضَافٌ اِلَيْهِ، بِمَبْدَأِ اِخْبَارٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ اَنْثَايَةٌ جَزَاءُ هِيَ، شَرْطُ مَعْدُوفٍ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ كَرَجْوَابِ مَقُولِهِ، قَوْلٌ بِاِقْوَالِهِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

### قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَبْصُرُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿۵۲﴾

**آیت نمبر ۵۲:** قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ، دُووْنُوهُ لَمْ يَكُنْ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، عَلِمَهَا مَرْكَبٌ اِضْطِغَابُ اِسْمِ الْاَنْثَايَةِ عِنْدَ رَبِّي مَرْكَبٌ اِضْطِغَابُ كَاتِبِيْنٌ كَا مَفْعُولٍ فِيهِ هِيَ، فِي كِتَابٍ جَدُّ بِاِجْرٍ وَرُكْبَاتِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ، كَاتِبِيْنٌ اِسْمٌ قَاعِلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ فِيهِ وَمُتَعَلِّقٌ سَعَلٌ لَمْ يَكُنْ خَبْرٌ، مَبْدَأُ اِخْبَارٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولَةٌ قَوْلٌ بِاِقْوَالِهِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ لَا يَبْصُرُ رَبِّي مَرْكَبٌ اِضْطِغَابُ مَرْفُوعٌ تَقْدِيْرٌ قَاعِلٌ، دُووْنُوهُ لَمْ يَكُنْ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَّ اِعَاطِفٌ لَا يَنْسَى فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ، دُووْنُوهُ لَمْ يَكُنْ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِقْوَالِهِ جَمْلَةٌ مُسَافِرَةٌ هُوَ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

### مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَرْزًا وَ اَجَا مِنْ نَبَاتٍ شَقِيٍّ ﴿۵۳﴾

**آیت نمبر ۵۳:** الَّذِي اِسْمٌ مَوْصُولٌ جَعَلَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ لَكُمْ جَدُّ بِاِجْرٍ وَرُكْبَاتِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ اَوَّلٌ مَهْدًا مَفْعُولٌ فِيْهِ ثَانِيٌ، فِعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولِيْنٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَّ اِعَاطِفٌ سَلَكَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ لَكُمْ جَدُّ بِاِجْرٍ وَرُكْبَاتِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ اَوَّلٌ، فِعْلٌ فِيْهِ جَدُّ بِاِجْرٍ وَرُكْبَاتِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ اَوَّلٌ، مَهْدًا مَفْعُولٌ فِيْهِ ثَانِيٌ، فِعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولِيْنٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَّ اِعَاطِفٌ اَنْزَلَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ مِنَ السَّمَاءِ جَدُّ بِاِجْرٍ وَرُكْبَاتِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ اَوَّلٌ، مَاءً مَفْعُولٌ فِيْهِ ثَانِيٌ، فِعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولِيْنٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِقْوَالِهِ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ رَبِّي كِي صِفَتٌ هِيَ بِمَبْدَأِ مَعْدُوفٍ هُوَ كِي خَبْرٌ هِيَ، يَا مَعْ مَضْمُونٌ فِعْلٌ مَعْدُوفٌ اَمْدَحُ كَا مَفْعُولٌ فِيْهِ هِيَ، فَاَمَّ اِعَاطِفٌ اَخْرَجْنَا فِعْلٌ تَاخِيْرِيٌّ قَاعِلٌ فِيْهِ جَدُّ بِاِجْرٍ وَرُكْبَاتِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ اَوَّلٌ، اَجَا مَوْصُوفٌ مِنْ نَبَاتٍ جَدُّ بِاِجْرٍ وَرُكْبَاتِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ كَاتِبِيْنٌ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ اَوَّلٌ، شَقِيٍّ صِفَتٌ ثَانِيَةٌ، مَوْصُوفٌ بِاصْتِمْنَانٍ مَفْعُولٌ فِيْهِ،

فعل ہا قاع و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ آنکولہ معطوف ہے۔

### كُلُّوْا وَاَرْعَوْا اَعْمَاكُمْ طَانَ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاٰوَلِي النَّهْيِ ﴿٥٣﴾

**آیت نمبر ۵۳:** کُلُّوْا فعل امر واؤ ضمیر قاعل بدو نون مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اِزْعَوْا فعل امر واؤ ضمیر قاعل اَعْمَاكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا قاع و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متانہ ہوں اِن حرف تحقیق فی ذلک جہد باجبر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لاہر مذ حلقہ اِیْتِ موصوف لآہر حرف جہد اَوَلِي النَّهْيِ مرکب اضافی مجرور، جہد باجبر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت اسم مؤخر اِن ہا ہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں

﴿ ۳ رکوع ۳ ﴾

### مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخْرٰى ﴿٥٤﴾

**آیت نمبر ۵۴:** مِنْهَا جہد باجبر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے خَلَقْنَا فعل نا ضمیر قاعل کُم جملہ ضمیر مفعول بہ، فعل ہا قاع و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ فِيْهَا جہد باجبر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے نُعِيْدُ فعل لُحْنِ مستقر قاعل کُم ضمیر مفعول بہ، جہد مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَلِ واؤ عاطفہ مِنْهَا جہد باجبر و طرف لغو متعلق ہوئے نُخْرِجُ فعل لُحْنِ مستقر قاعل کُم ضمیر مفعول بہ تَارَةً اٰخْرٰى مرکب توصیفی مفعول فیہ، فعل ہا قاع و متعلق مقدم و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں

### وَلَقَدْ اَرٰیْنٰهُ اٰیٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰی ﴿٥٥﴾

**آیت نمبر ۵۵:** واؤ اِسْتِیْنَا فیہ لآہر موطنہ التعمیر اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل اَرٰیْنَا فعل نا ضمیر قاعل اِن ضمیر منسوب مفعول بہ اَوَلِ اٰیٰتِنَا مرکب اضافی مؤکد کُلَّهَا مرکب اضافی تاکید، مؤکد ہا تاکید مفعول بہ ثانی، فعل ہا قاع و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قَامَ عاطفہ کَذَّبَ فعل لُحْنِ مستقر قاعل بدو نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَلِ واؤ عاطفہ اَبٰی فعل لُحْنِ مستقر قاعل بدو نون مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین قسم کا جواب ہے، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

### قَالَ اِحْسَبْتَنِيْ لِتُخْرِجَنِيْ مِنْ اَرْضِيْضًا بِسِحْرِكَ لِيْمُوْسٰى ﴿٥٦﴾

**آیت نمبر ۵۶:** قَالَ فعل لُحْنِ مستقر قاعل مل کر قول، ہمزة حرف استفہام حَسَبْتَنِيْ فعل تکام مفتوحہ ضمیر قاعل نا ضمیر مفعول بہ، لآہر حرف جہد برائے لتعلیل اور اس کے بعد اَن مقرر ہے نُخْرِجُ فعل اَنْتَ مستقر قاعل نا ضمیر مفعول بہ، یون حرف جہد اَرْضِيْضًا مرکب اضافی مجرور، جہد باجبر و طرف لغو متعلق ہوئے بِنَاء حرف جہد بِسِحْرِكَ مرکب اضافی مجرور، جہد باجبر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و مفعول بہ و متعلقین بتاویل مصدر مجرور، جہد باجبر و طرف لغو متعلق کے متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و مفعول بہ و متعلق جملہ استفہامیہ ہو کر جواب علامہ مقدم، لِيْمُوْسٰى اس کی ترکیب متحدہ تہ اسی سورت میں گزر چکی ہے، اور یہ علامہ ہے، علامہ باجواب مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فَلَنَّاۤیْبَتُنَّكَ بِسِحْرِ مَّغْلِبِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اَلَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَاَلَا اَنْتَ

## مَكَانًا مَّوَسَى ۝

**آیت نمبر ۵۸:** فَأَمَّا عَاطِفٌ لَّامٍ مَّوَسَىٰ لَقَمًا أَوْ رَحِمًا مَخْرُوفٌ هُوَ تَأْتِيَنَّ فَعْلٌ لِنَحْنٍ مَسْتَرَفًا لُكَّافٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ بَاءٌ حَرْفٌ جَدٌّ يَسْبُحُ مَوْصُوفٌ مَجْثَبَةٌ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ صِفَتٌ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتٍ جَرٌّ، جَدٌّ بِجَرٍّ وَرَدٌّ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِقَائِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَتَخَلُّقٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَوَابٌ حَسْمٌ، حَسْمٌ بِاِجْرَابٍ حَسْمٌ جَمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ تَقْسِيمِيَّةٌ هُوَ، فَأَمَّا فَصِيحَةٌ اِوْرَاسِ كِي شَرْطٌ مَخْرُوفٌ هُوَ اِنْ قَبِلْتُمُ الْاِقْتَاءَ، اِجْعَلْ فَعْلٌ اِمْرًا اَنْتَ مَسْتَرَفًا لِي بِتَنْقِاطِ مَرْكَبِ اِسْمَانِيٍّ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ اَعَاطِفٌ يَنْتَكِلُ مَرْكَبِ اِسْمَانِيٍّ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ ثَمَّ اِنِّ مَقْدَمٌ مَوْعِدًا مَوْصُوفٌ لِاَلْخُلُفِ فَعْلٌ لِنَحْنٍ مَسْتَرَفٌ وَكَذَلِكَ ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ تَاكِيدٌ، مَوْكِدٌ بِتَاكِيدِ مَعْفُوفٍ عَلَيْهِ، وَاَوْ اَعَاطِفٌ لَّا زَلَّةَ اَنْتَ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ قَائِلٌ، ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ مَكَانًا مَّوَسَىٰ مَرْكَبِ اِسْمَانِيٍّ اِجْعَلْ كَامْفَعُولٍ فِيهِ، لَّا تُخْلِفُ فَعْلٌ بِقَائِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَوْعِدًا كِي صِفَتٌ هُوَ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتٍ اِجْعَلْ كَامْفَعُولٍ بِهٖ اِثْلُ مَوْخَرٍ، اِجْعَلْ فَعْلٌ اِسْمَانِيٌّ قَائِلٌ وَمَفْعُولِيْنَ سَعْلٌ كَرَشْرَطٌ مَخْرُوفٌ كِي جَرَّاهُ هُوَ، شَرْطٌ بِاِجْرَابِ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

## قَالَ مَوْعِدًا كُمْ يَوْمَ الرِّدِّيَّةِ ۚ وَانْ يُحْشَرُ النَّاسُ ضَمْعِي ۝

**آیت نمبر ۵۹:** قَالَ فَعْلٌ هُوَ مَسْتَرَفًا قَائِلٌ سَعْلٌ كَرَجْمَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، مَوْعِدًا كُمْ مَرْكَبِ اِسْمَانِيٍّ مَبْتَدَأٌ، يَوْمَ الرِّدِّيَّةِ مَرْكَبِ اِسْمَانِيٍّ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ اَعَاطِفٌ اَنْ حَرْفٌ مَصْدَرٌ يَوْصُبُ اِلَيْهِ فَعْلٌ بِجَمْعِ النَّاسِ نَائِبٌ قَائِلٌ ضَمْعِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ، فَعْلٌ بِجَمْعِ اِنْتَابِ قَائِلٍ وَمَفْعُولٌ فِيهِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ تَاوِيلٌ مَصْدَرٌ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِاِخْبَرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

## فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اَتَى ۝

**آیت نمبر ۶۰:** فَأَمَّا اِسْتِنَايَةٌ تَوَلَّى فَعْلٌ فِرْعَوْنُ قَائِلٌ، وَاَوْ نَوْنٌ لُ كَرَجْمَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عَاطِفٌ جَمْعٌ فَعْلٌ هُوَ مَسْتَرَفًا قَائِلٌ كَيْدَهُ مَرْكَبِ اِسْمَانِيٍّ مَفْعُولٌ بِهِ، تَبَيُّونٌ لُ كَرَجْمَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ اِثْلُ، ثُمَّ عَاطِفٌ اَتَى فَعْلٌ هُوَ مَسْتَرَفًا قَائِلٌ، وَاَوْ نَوْنٌ لُ كَرَجْمَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ مَعْفُوفٌ مَبْتَدَأٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفِيْنَ جَمْلَةٌ مَسْتَوْنَةٌ هُوَ

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اَللّٰهُ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ

## مَنْ اَفْتَرَىٰ ۝

**آیت نمبر ۶۱:** قَالَ فَعْلٌ لَهُمْ جَدٌّ بِجَرٍّ وَرَدٌّ لِفَوْ مَعْفُوفٌ هُوَ، مُوسَىٰ مَرْفُوعٌ تَقْدِيرًا قَائِلٌ، تَبَيُّونٌ لُ كَرَجْمَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ هُوَ، وَيْلَكُمْ مَرْكَبِ اِسْمَانِيٍّ فَعْلٌ مَخْرُوفٌ اَهْلُكُمْ اَللّٰهُ كَامْفَعُولٍ مُطْلَقٌ مَرْنٌ غَيْرُ نَقِطَةٍ هُوَ، بِحَرْفِيَّةٍ جَمْلَةٌ مَقْرَضَةٌ هُوَ۔ (تَقْدِيرًا) لَا تَفْتَرُوا فَعْلٌ نَمِيٌّ وَاَوْ ضَمِيرٌ قَائِلٌ عَلَيَّ اَللّٰهُ جَدٌّ بِجَرٍّ وَرَدٌّ لِفَوْ مَعْفُوفٌ هُوَ، مَعْفُوفٌ هُوَ كَذِبًا مَفْعُولٌ بِهِ، جَدُّونٌ لُ كَرَجْمَةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَقُولَةٌ هُوَ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ، فَأَمَّا عَاطِفٌ سَبِيحٌ يُسْحِتُ فَعْلٌ هُوَ مَسْتَرَفًا قَائِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ بِعَذَابٍ جَدٌّ بِجَرٍّ وَرَدٌّ لِفَوْ مَعْفُوفٌ هُوَ، فَعْلٌ بِقَائِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَتَخَلُّقٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ تَاوِيلٌ مَصْدَرٌ (اِسْلَافٌ لُ كَرَجْمَةٌ هُوَ اَللّٰهُ كَامْفَعُولٍ مَقْدَرٌ هُوَ) اِفْتَرَا اَمْرٌ مَعْفُوفٌ هُوَ جَوْلًا تَفْتَرُوا سَعْلًا تَاوِيلًا مَقْدَرًا هُوَ كَيْدُهُ ۚ لَا يَكُنْ مِنْكُمْ اِفْتَرَا اَمْرٌ عَلَيَّ اَللّٰهُ كَذِبًا كِي تَاوِيلٌ فِيْهِ هُوَ وَاَوْ اِسْتِنَايَةٌ قَدْ عَلَمَتْ فَعْلٌ، خَابَ فَعْلٌ مَرْنٌ اِسْمٌ مَوْصُولٌ اِفْتَرَىٰ فَعْلٌ هُوَ



مستتر فاعل ل سے کر صلہ، موصول ہا صلہ فاعل فعل ہا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہو۔

**فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ۝**

**آیت نمبر ۶۲:** فَاَمَّا اسْتِثْنَاءُ تَنَّا زَعْوًا فاعل واؤ ضمیر فاعل اَمْرَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَسْرُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل النَّجْوَى منسوب تقدیر مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستتر ہو۔

**قَالُوا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰجِدٰنِ يٰرٰىدٰنِ اَنْ يُخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِ هٰمٰنَا وَيَذْهَبٰنَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثَلٰى ۝**

**آیت نمبر ۶۳:** قَالُوا فاعل ہا واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ محذوف من السحیر ضمیر شان محذوف اس کلام ہذا ان اسم اشارہ مبتدأ لام فائدہ ساجدین موصوف یو یدین فعل الف ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یُخْرِجَا جملہ فعل الف ضمیر فاعل کُفَّ ضمیر مفعول بہ مِنْ حرف جار اَرْضِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق باوّل ہوئے، بِنَاء حرف جار بِسِحْرِ هٰمٰنَا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہا، فعل ہا فاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَذْهَبٰنَا کے متعلق ہا، فعل ہا فاعل و متعلق بِنَاء کُفَّ مرکب اضافی موصوف الْمُثَلٰى مفت، موصوف ہفت مجرور، جار مجرور ظرف لغو يَذْهَبٰنَا کے متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف بتاویل مصدر یو یدین کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ساجدین کی صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ خبر جملہ اسبب خبریہ اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**فَاَجْبِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُّوْا صَفًا ۝ وَ قَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنۢ اسْتَعْلٰى ۝**

**آیت نمبر ۶۴:** فَاَمَّا نفيہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ اَرَادْتُمْ الْعَابِدَةَ اَجْبِعُوْا فاعل واؤ ضمیر فاعل كَيْدَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ اضافیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اَتُّوْا فاعل امر واؤ ضمیر ذوالحال صَفًا بمعنی اسم فاعل حال ذوالحال ہا حال فاعل، دونوں مل کر جملہ اضافیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف شرط محذوف کی جڑ ہے، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ واو استثنائیہ قَدْ علامت فعل، اَفْلَحَ فعل الیوم مفعول فیہ مِنْ اسم موصول استغنیٰ فعل ہو مستتر فاعل ہا موصول ہا صلہ فاعل، فعل ہا فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہو۔

**قَالُوْا اَيُّ مَوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقٰى وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنۢ اَلْقٰى ۝**

**آیت نمبر ۶۵:** قَالُوْا فاعل ہا واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَيُّ مَوْسٰى کی ترکیب ای سورت میں متعدد دہا کر چکی ہے، اور یہ علامہ ہے، اِمَّا حرف تردید و تقسیم اَنْ حرف مصدری و نصب تُلْقٰى فعل اَنْتَ مستتر فاعل ہا دونوں مل کر بتاویل مصدر معطوف علیہ، واو عاطفہ وَاِمَّا حرف تردید اَنْ حرف مصدری و نصب تَكُوْنَ فعل ناقص تَكُوْنَ مستتر فاعل اَوَّل مضاف مِنْ اسم موصول اَلْقٰى فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول ہا صلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مبتدأ محذوف

الأمور کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب ملامہ ہے، ملامہ باجواب ملامہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

### قَالَ بَلْ أَلْقَوَا فَاذًا حِبَالَهُمْ وَعَصِيئُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْمَعُ ۝۱۱

**آیت نمبر ۶۶:** قَالَ ہُوَ مستتر قائل ہے ل کہ جملہ فعلیہ خبریہ قول بکن حرف اضراب و عطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ أَلْقَوَا فعل اور اداء ضمیر قائل، فعل باقائل جملہ انشائیہ معطوف، دونوں مل کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ فَاء عاقلہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے، فَالْقَوَا اِذَا مَفَا جاتیہ يُخَيَّلُ کا مفعول فیہ مقدم ہے (روح المعانی) حِبَالَهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاقلہ عَصِيئُهُمْ مرکب اضافی معطوف، دونوں مل کر مبتدا، يُخَيَّلُ فعل إِلَيْهِ جار باجور و ظرف لغو متعلق ہوئے، مِنْ حرف جار سِحْرِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف لغو متعلق ثانی، اَنَّ حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم تَسْمَعُ فعل ہیج مستتر قائل، دونوں مل کر اَنَّ کی خبر، اَنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتادل مصدر نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ مخدوف یا معطوف جملہ فعلیہ مستند ہوں۔

### فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝۱۲

**آیت نمبر ۶۷:** فَاء عاقلہ وَأَوْجَسَ فعل مُّوسَىٰ قائل فی حرف جار نَفْسِهِ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف لغو متعلق ہوئے خِيفَةً مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ عَصِيئُهُمْ معطوف ہے۔

### فَلَمَّا لَا تَخَفَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝۱۳

**آیت نمبر ۶۸:** فَلَمَّا فعل نا ضمیر قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لَا تَخَفَ فعل نَمِي أَنْتَ مستتر قائل، فعل نَمِي باقائل جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لیں حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم أَنْتَ ضمیر مبتدا، الْأَعْلَىٰ اسم تفضیل أَنْتَ ضمیر قائل، اسم تفضیل باقائل ہے جملہ ہو کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَنَّ کی خبر، اَنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلّم ہوں۔

وَالْقِيَامَ فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِلَّا نَمًا صَنَعُوا كَيْدُ سَجِرٍ طَوَّ لَا يُفْلِحُ السَّاجِدُ

### حَيْثُ أَتَىٰ ۝۱۴

**آیت نمبر ۶۹:** واو عاقلہ أَتَىٰ فعل امر أَنْتَ مستتر قائل مَا موصولہ فی حرف جار يَمِينِكَ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف مستقر فعل مخدوف تَلَقَّفَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر لَا تَخَفَ معطوف ہے۔ تَلَقَّفَ فعل ہیج مستتر قائل مَا موصول صَنَعُوا فعل باو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مخدوف اِنَّ تَلَقَّى مَا فِي يَمِينِكَ کی جڑ ہے، کیونکہ تَلَقَّفَ جواب امر ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لیں حرف تحقیق مَا موصول صَنَعُوا فعل باو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اِنَّ کا اسم كَيْدُ سَجِرٍ مرکب اضافی اِنَّ کی خبر، اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلّم ہوں۔ واو عاقلہ لَا يُفْلِحُ فعل السَّاجِدُ قائل حَيْثُ مضاف اَنَّ فعل ہُوَ مستتر قائل، دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ ہے، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ ہا معطوف ہے۔

### فَالْقِيَ السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ هُرُونَ وَ مُوسَى ۝

**آیت نمبر ۷۰:** فَاذْ عَاطِفُ الْقِيَ لُفْلُجُ بِمَجْزُولِ السَّحْرَةِ فَذَوَالِجَالِ سُجَّدًا اِسْمُ قَاعِلٍ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ سَعَلَ كَرِهَالٍ بِذَوَالِجَالِ بِهَاجَلِ نَائِبِ قَاعِلٍ، لُفْلُجُ بِمَجْزُولِ نَائِبِ قَاعِلٍ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ بِهَوَلٍ قَالُوا لُفْلُجُ بِاَوَاوِ مُصْمِرٍ قَاعِلٍ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلُ اَمَنَّا لُفْلُجًا مُصْمِرٍ قَاعِلٍ بِمَا هُوَ حَرْفُ جَدِّ رَسْبٍ مَضَافٌ هُرُونَ وَ مُوسَى مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَضَافٍ اِلَيْهِ، بِمُحْرَمِ رَكْبِ اِنْسَانِيٍّ بِجُرُورٍ جَدِّ بِاَجْرٍ وَ اَمَنَّا كَمَا مَعْطُوقٌ هُوَ، لُفْلُجُ بِاَقَاعِلٍ وَ مَعْطُوقٌ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلُ بِاَقَاعِلٍ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ بِهَوَلٍ اَللَّسَّحْرَةَ كَمَا هَلِ اَمَنَّا بِهِ هَوَلٌ

قَالَ اَمْنَتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذْنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ؕ فَلَا تَقْطَعْنَ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَ لَا صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوْعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمَنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَ اَبْقَى ۝

**آیت نمبر ۷۱:** قَالَ لُفْلُجُ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ سَعَلَ لُ كَرِ قَوْلٍ، اَمْنَتُمْ لُفْلُجُ مُصْمِرٍ قَاعِلٍ لُ كُهُ جَدِّ بِاَجْرٍ وَ عَرَفُ لُفْلُجُ مَعْطُوقٌ هُوَ قَبْلَ مَضَافٍ اَنْ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ وَ نَسْبُ اَذْنَ لُفْلُجُ اَنَا مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ لُ كُهُ جَدِّ بِاَجْرٍ وَ عَرَفُ لُفْلُجُ مَعْطُوقٌ هُوَ، لُفْلُجُ بِاَقَاعِلٍ وَ مَعْطُوقٌ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَاوِيلِ مَصْدَرٍ مَضَافٍ اِلَيْهِ، بِمُحْرَمِ رَكْبِ اِنْسَانِيٍّ مَعْطُوقٌ فِيهِ، لُفْلُجُ بِاَقَاعِلٍ وَ مَعْطُوقٌ فِيهِ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ اِنشَائِيَّةٌ هُوَ كَرِ مَقُولٌ بِدَوَلُوْنَ لُ كَرِ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ لُفْلُجُ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ فَ اَمْنَتُمْ اِسْمٌ كَامِلٌ لَاهِرٌ مَطْلَعَةٌ كَبِيْرُكُمْ رَكْبُ اِنْسَانِيٍّ مَوْصُوفٌ الَّذِي اِسْمٌ مَوْصُولٌ عَلَّمَكُمْ لُفْلُجُ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ كُهُ مُصْمِرٍ مَعْطُوقٌ بِاَوَّلِ السِّحْرِ مَعْطُوقٌ بِثَانِيٍّ، لُفْلُجُ بِاَقَاعِلٍ وَ مَعْطُوقٌ لِيْنِ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صَلَ، مَوْصُولٌ بِاَصْلِهِ صَفَتٌ، مَوْصُوفٌ بِصَفَتِ خَبْرِيَّ اَنْ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوقَةٌ هَوَلٌ

فَاذْ اِسْتِثْنَا فِي لَاهِرٍ مَوْصُوفٌ لُفْلُجُ اِسْمٌ اَوْ رَسْمٌ مَحْذُوفٌ هُوَ اَقْطَعْنَ لُفْلُجُ اَنَا مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ اَيْدِيَكُمْ ؕ وَ اَرْجُلَكُمْ مَعْطُوقٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ ذَوَالِجَالِ مِنْ خِلَافٍ عَرَفُ مُسْتَقَرٌّ كَاتِبَاتٍ كَيْ مَعْطُوقٌ هُوَ كَرِ حَالٍ بِذَوَالِجَالِ بِهَاجَلِ مَعْطُوقٌ فِيهِ، لُفْلُجُ بِاَقَاعِلٍ وَ مَعْطُوقٌ فِيهِ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَوَابٌ حَسْمٌ، بِمُحْرَمِ رَكْبِ اِنْسَانِيٍّ مَعْطُوقٌ عَلَيْهِ هُوَ اَوَاوِ عَاطِفُ لَاهِرٍ مَوْصُوفٌ لُفْلُجُ اِسْمٌ اَوْ رَسْمٌ مَحْذُوفٌ هُوَ اَصْلِيكُنَّ لُفْلُجُ اَنَا مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ كُهُ مُصْمِرٍ مَعْطُوقٌ فِيهِ عَرَفُ جَدِّ بِاَجْرٍ جَدِّ وَ اَمَنَّا كَمَا مَعْطُوقٌ اِنشَائِيَّةٌ تَقْسِيْمَةٌ هُوَ كَرِ مَعْطُوقٌ اِثْنِ اَوَاوِ عَاطِفُ لَاهِرٍ مَوْصُوفٌ لُفْلُجُ اِسْمٌ اَوْ رَسْمٌ مَحْذُوفٌ هُوَ تَعْلَمَنَّ لُفْلُجُ اَنَا مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ اَللَّسَّحْرَةَ اِسْمٌ اَوْ رَسْمٌ مَوْصُولٌ اَشَدُّ اِسْمٌ تَفْضِيْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ عَذَابًا تَعْبِيْرٌ تَبِيْنٌ لُ كَرِ مَعْطُوقٌ عَلَيْهِ هُوَ اَوَاوِ عَاطِفُ اَبْقَى لُفْلُجُ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ بِدَوَلُوْنَ لُ كَرِ مَعْطُوقٌ، مَعْطُوقٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ هُوَ كَرِ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ صَلَ، مَوْصُولٌ بِاَصْلِهِ مَخْلَا مَعْطُوقٌ فِيهِ، لُفْلُجُ بِاَقَاعِلٍ وَ مَعْطُوقٌ فِيهِ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ جَوَابٌ حَسْمٌ، بِمُحْرَمِ رَكْبِ اِنْسَانِيٍّ تَقْسِيْمَةٌ هُوَ كَرِ مَعْطُوقٌ فِي ثَانِيٍّ، مَعْطُوقٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ جَمْلَةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ هَوَلٌ

قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ بَدَا اَيُّمَا تَقْفِيْ هٰذِهِ وَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

**آیت نمبر ۷۲:** قَالُوا لُفْلُجُ بِاَوَاوِ مُصْمِرٍ قَاعِلٍ جَمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ قَوْلٍ لَنْ نُؤْتِيَكَ لُفْلُجُ لُفْلُجُ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ كَانُ مُصْمِرٍ مَعْطُوقٌ فِيهِ عَرَفُ

حرف جادہ ما موصول جاء فعل هو مستزود الحال من البینت جادہ باجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل نا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول ہاصل معطوف علیہ، واو عاطفہ الذی اسم موصول فکھو فعل هو مستقر قائل نا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول ہاصل معطوف علیہ، واو عاطفہ علی کا جرور، جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فقاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے ان آردت عفا کنا، اقص فعل امر آنت مستقر قائل ما موصول آنت ضمیر مبتدأ قاضی اسم قائل آنت مستقر قائل، دوولوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصل اقص کا مفعول بہ، فعل امر باقائل و مفعول بہ جملہ انتظاریہ امریہ ہو کر شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہولہ ان حرف تحقیق کفوف، ما کافہ تفضیض فعل آنت مستقر قائل ہذیہ اسم اشارہ موصوف الحیوۃ صفت، موصوف ہفت پھر موصوف الذنبا صفت، موصوف ہفت منسوب بزرع الخ اقص مجرور، جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

اَنَا اَمْتًا بِرَبِّنَا یَغْفِرُ لَنَا خَطِیْنًا وَا مَا کَرِهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ ط وَاللّٰهُ خَبِیْرٌ وَّ اَبْقٰی ۝

آیت نمبر ۴۳: ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم امنا فعل نا ضمیر قائل تاکہ حرف جادہ پتا مرکب اضافی مجرور، جادہ باجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، لاہر حرف جادہ برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدّم ہے یغفر فعل هو مستقر قائل لتا جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے خطنی تاکہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ ما موصول آ کرہت فعل تاکہ مقدّمہ ضمیر قائل نا ضمیر مفعول بہ، علی حرف جادہ ضمیر ذوالحال من السحر جادہ باجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصل معطوف، معطوف علیہ با معطوف یغفر کا مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جادہ باجرور ظرف لغو امنا کے دوسرے متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہولہ واو عاطفہ اللہ مبتدأ، خبریہ اسم تفضیل هو مستقر قائل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ابقی اسم تفضیل هو مستقر قائل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ کن تو یروا کہ معطوف ہے۔

اِنَّهُ مِنْ یَّاتٍ رَبِّهٖ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ط لَا یَمُوْتُ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰی ۝

آیت نمبر ۴۴: ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم من اسم شرط مبتدأ یات فعل هو مستزود الحال مجرور، ما اسم قائل هو مستقر قائل سے مل کر حال، ذوالحال باحال یات کا قائل ربہ مجرور، تاکہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قاء جزائیہ ان حرف تحقیق کہ جادہ باجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم جہنم موصوف لا یموت فعل هو مستقر قائل فیہا جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا یحیی فعل هو مستقر قائل، دوولوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جہنم کے صفت، موصوف ہفت اسم مؤخر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ان کی خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہو۔

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۖ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَن تَزَكَّى ۝

**آیت نمبر ۷۵، ۷۶:** واو عاطفہ مَن اسم شرط مبتدأ بیات فعل ہو مستتر ذوالحال مؤمنًا اسم فاعل ہو مستتر قائل سے مل کر حال، ذوالحال باحال قائل بہ ضمیر مفعول بہ قَدْ علامت فعل عَمِلَ فعل ہو مستتر قائل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف محذوف الَاَعْمَالُ کے مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بیات کی ضمیر قائل سے دوسرا حال ہے، بیات فعل اپنے قائل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط واو لَیْكَ اسم اشارہ مبتدأ لَھُمُ جاد باجر درکار بیات کے متعلق ہو کر خبر مقدم الدَّرَجَاتُ الْعُلَى مرکب توصیفی مبدل منہ، جَنَّتٌ عَدْنٌ مرکب اضافی موصوف تَجْرِي فعل میں حرف جار تَحْتِھَا مرکب اضافی جزور، جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے الْأَنْهَارُ قائل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف باصفت بدل، مبدل منہ بدل مبتدأ مؤخر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے اُولَیْكَ کی خبر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط جاد باجر جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عطف کے واسطہ سے اِنَّہ کی خبر ہے۔ خَالِدِينَ اسم فاعل ہُمُ متعلق قائل فِیْھَا جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق شہہ جملہ ہو کر لَھُمُ کی ہُمُ ضمیر سے حال ہے۔ واو استیناف ذَٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، جَزَاؤُا مضاف مَن موصول تَزَكَّى فعل ہو مستتر قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلۃ، موصول باصلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر ہے، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ مستافہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَن اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاصْرِبْ لَھُمْ طَرِیْقًا فِی الْبَحْرِ یَبْسًا وَاَلَّا تَخْفٰ دَرَكًا وَا لَا تَخْشٰ ۝

**آیت نمبر ۷۷:** واو استیناف فی لاکر موطئہ للتمم قَدْ علامت فعل، اَوْحَيْنَا فعل نا ضمیر قائل اِلٰی مُوسٰی جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جواب قسم، قسم باجواب جملہ اضافیہ قسبہ ہوں اَن حرف تفسیر اَسْرِ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل بآہ حرف جار عِبَادِیْ مرکب اضافی جزور، جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ اضافیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَصْرِبْ فعل امر اَنْتَ مستتر ذوالحال اَلَّا تَخْفٰ فعل اَنْتَ مستتر قائل دَرَكًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلَّا تَخْشٰ فعل اَنْتَ مستتر قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال اَصْرِبْ کا قائل لَھُمْ جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے طَرِیْقًا موصوف فِی الْبَحْرِ جاد باجر در طرف مستتر کار بیات کے متعلق ہو کر صفت اولی، یَبْسًا صفت ثانیہ، موصوف باصتغین مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ اضافیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَوْحَيْنَا کیلئے جملہ منفرہ ہے۔

فَاَتَّبَعُھُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِھِ فَغَشِیَھُمْ مِّنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَھُمْ ۝

**آیت نمبر ۷۸:** فاء عاطفہ اَتَّبَعُ فعل ہُمُ ضمیر منصوب مفعول بہ فِرْعَوْنُ قائل بآہ حرف جر جُنُودِھِ مرکب اضافی جزور، جاد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ غَشِیَ فعل ہُمُ ضمیر منصوب



### وَإِنِّي لَخَافٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ۝

آیت نمبر ۸۲: واؤ استینا فیران حرف تحقیق ینام خمیر اس کا اسم لاکر مذعلقہ عَقَا و صیغہ مبالغہ آنا خمیر اس کا قائل لاکر چارہ من موصول کتاب فعل ہو خمیر قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَمِنَ فعل ہو خمیر قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اُذِل، واؤ عاطفہ عَمِلَ فعل ہو خمیر قائل صَالِحًا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف جملان ثُمَّ حرف عطف اهتدی فعل ہو خمیر قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفات ثلاثیہ صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، چارہ مجرور متعلق ہوتے، صیغہ مبالغہ ہا قائل و متعلق شہ جملہ ہو کر ان کی خبر بیان، ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

### وَمَا أَعْجَلَكَ عَنِ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ۝

آیت نمبر ۸۳: واؤ استینا فیران تینا ما استہامہ مبتدا، اَعْجَلَ فعل ہو خمیر قائل کاف خمیر مفعول بہ عن حرف جار قَوْمِكَ مرکب اضافی مجرور، چارہ مجرور متعلق ہوتے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ تعبیہ ہو کر جواب نہادہ مقدم، یَا مُوسَى نہادہ مؤخر، نہادہ با جواب جملہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

### قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝

آیت نمبر ۸۴: قَالَ فعل ہو خمیر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، هُمْ خمیر مبتدا، اُولَاءِ پہلی خبر علی حرف جار اَثَرِي مرکب اضافی مجرور، چارہ مجرور ظرف مستقر کَاثَرُونَ کے متعلق ہو کر دوسری خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ عَجِلْتُ فعل ثناء معنومہ خمیر قائل اِلَيْكَ جار مجرور متعلق اُذِل ہوتے، لاکر چارہ تیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے تَرْضَىٰ فعل اَلت مستتر قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مجرور، چارہ با خبر و عَجِلْتُ کے متعلق ثانی، فعل ہا قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے یہاں حرف نہادہ قائم مقام اَدْعُو کے، اَدْعُو فعل آنا خمیر قائل، فعل ہا قائل جملہ انشائیہ ہو کر نہادہ، یعنی مرکب اضافی مفعول بہ، بیوں مل کر جملہ مخرضہ ہوں۔

### قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝

آیت نمبر ۸۵: قَالَ فعل ہو مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، فَتَنَّا تیلیہ بیان حرف تحقیق نَا خمیر اس کا اسم قَدْ علامت فعل، فَتَنَّا فعل نَا خمیر قائل قَوْمَكَ مرکب اضافی مفعول بہ وین حرف جار بَعْدِكَ مرکب اضافی مجرور، چارہ با خبر و ظرف لغو متعلق ہوتے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَضَلَّ فعل هُمْ خمیر مفعول بہ السَّامِرِيُّ قائل، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف ان کی خبر بیان، ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ مخذوفہ کی تیلیہ ہے، اور جملہ مخذوفہ لَا تَكْتَلُظُو قَوْمَكَ يَا مُوسَى ہے، پھر مغل ایہ تیلیہ سے ل کر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا

حَسْبَاءَ أَفْطَالٍ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِمَّن رَّبُّكُمْ

فَاخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۝

**آیت نمبر ۸۶:** فاء استینا فی رجب فعل مؤنثی فاعل الی حرف جار قومہ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے غَضَبَانِ مؤنثی سے پہلا حال ہے، اسیفًا مؤنثی سے حال ثانیہ ہے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں قال فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، یاقوم یہ اصل میں یاقومی ہے یہاں حرف نداء اذعُو کے قائم مقام، اذعُو فعل انا مستتر فاعل قومی منادی مضاف مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ ہو کر نداء، ہمہزہ حرف استفہام لَمْ یَعِدْ فعل کُم ضمیر مفعول بہ، رَبُّكُمْ مرکب اضافی فاعل وَعْدًا حَسْبًا مرکب توصیفی مفعول مطلق تاکید، اور اگر وَعْدًا بمعنی مَوْعِدًا کے ہو تو پھر مفعول بہ ہوگا، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ جواب نداء ہے، پھر نداء با جواب نداء مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ ظال فعل عَلَيْكُمْ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے الْعَهْدُ فاعل، تینوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْ عطفہ اَرَدْتُمْ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل، اَنْ حرف مصدری و نصب یَجِلَّ فعل عَلَيْكُمْ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے غَضَبٌ موصوف بہن رَّبُّكُمْ جار باجر و طرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت یَجِلَّ کا فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتادل مصدر اَرَدْتُمْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَمْ یَعِدْ کُم م معطوف ہے فاء عاطفہ اَخْلَفْتُمْ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل مَوْعِدِي مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ اَرَدْتُمْ م معطوف ہے۔

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُبَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَلَّهَا

فَكَذَّبِكِ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝ فَآخَرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ

وَإِلَهُ مُوسَىٰ قَتْسِيحَ ۝

**آیت نمبر ۸۷، ۸۸:** قَالُوا فعل داؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول مَنَّا فیہ اَخْلَفْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَوْعِدَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، بئاء حرف جار بِمَلِكِنَا مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف مستقر مَتَّكِبِينَ کے متعلق ہو کر اَخْلَفْنَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَکِن حرف استدراک نا ضمیر اس کا اسم حَبَلْنَا فعل مجہول نا ضمیر نائب فاعل اَوْزَارًا موصوف بہن حرف جار زِينَةَ الْقَوْمِ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل مجہول ہا نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لَکِن ا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فاء عاطفہ قَدْ تَلَّهَا فعل نا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ حَبَلْنَا م معطوف ہے۔ فاء استینا فیہ کَذَّبِكِ جار باجر و طرف مستقر تَلَّهَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف الْقَاءِ کے مفعول مطلق مقدم اَلْقَى السَّامِرِيُّ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ آخَرَجَ فعل ہو مستتر فاعل لَهُمْ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے عِجْلًا موصوف جَسَدًا صفت



اولیٰ کہ جہا بجز در ظرف مستقر کا تون کے متعلق ہو کہ خبر مقدم ہو اور متعلق ہو اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف ہا مستثنیٰ آخر ج کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ معطوف اول، فقاء عاقلہ قالوا فعل و او ضمیر فاعل دونوں مل کر قول ہذا اسم اشدہ مبتدأ اَلْهُمَّ مرکب اضافی معطوف علیہ، و او عاقلہ اَللّٰهُ مؤنثی مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاقلہ تیسوں فعل ہو مستقر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف متولہ، قول ہا متولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، اَلْقٰی معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ متساویں ہوں

اَفَلَا يَزُوْنُ الْاَيُّوْمِ الَّذِيْ هُمْ فِيْهَا عَاظِمًا ۗ وَاَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ اَنْ يَّوْمًا كُنْتُمْ مُّسْتَقْرٰٓئِنَ ۗ وَاَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ اَنْ يَّوْمًا كُنْتُمْ مُّسْتَقْرٰٓئِنَ ۗ وَاَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ اَنْ يَّوْمًا كُنْتُمْ مُّسْتَقْرٰٓئِنَ ۗ

آیت نمبر ۸۹: ہمزہ حرف استفہام فقاء عاقلہ اور معطوف علیہ مخذوف ہے کہ لا يَتَذَكَّرُوْنَ (روا للعلانی لا يَزُوْنُ فعل و او ضمیر فاعل اَنْ محذوف من اللغۃ ضمیر شان مخذوف اس کا اسم لا يَزُوْجُ فعل ہو مستقر فاعل اَلْيَوْمِ جہا بجز در ظرف تو متعلق ہوئے قَوْلًا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاقلہ لا يَتَذَكَّرُوْنَ فعل ہو مستقر فاعل اَلْهُمَّ جہا بجز در ظرف تو متعلق ہوئے صَدَّ ا معطوف علیہ، و او عاقلہ لا يَزُوْجُ لَزُوْجًا نَفْعًا معطوف، دونوں مل کر مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اَنْ کی خبر اَنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتا ویل مصدر لا يَزُوْنُ کے دو مفعول بہ کے قائم مقام ہے، فعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ انشائیہ متساویں ہوں

﴿ رکوع نمبر ۵ ﴾

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُوْنُ مِنْ قَبْلِ يَّوْمٍ اِنَّا قُتِلْنَا فَمَنْ نَبِيُّكُمْ ۗ وَان رَّبُّكُمْ الرَّحْمٰنُ

قَاتِبِ عُوْنِيْ وَاطِيعُوْا اَمْرِيْ ﴿

آیت نمبر ۹۰: و او استیذان لہ لآہر موطنہ اللسم اور قسم مخذوف ہے قَدْ علامت فعل، قَالَ فعل اَلْهُمَّ جہا بجز در ظرف تو متعلق اول ہوئے هُرُوْنُ فاعل و مِنْ قَبْلِ يَّوْمٍ متعلق ثانی ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ قول یا قَوْلِهِ یہ اصل میں یا قَوْلِهِ ہے اس کی ترکیب آیت نمبر ۸۷ میں گزر چکی ہے، اور یہ تمام ہے، اِنْ حرف تحقیق کھولہ، مَا کا کہ قُتِلْتُمْ فعل مجہول ثلثہ ضمیر نائب فاعل یہ جہا بجز در ظرف تو متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ، و او عاقلہ اِنْ حرف تحقیق رَبُّكُمْ مرکب اضافی اس کا اسم الرَّحْمٰن خبر اَنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ ہا معطوف جواب ثناء، ثناء جواب جملہ انشائیہ متولہ ہے، قول ہا متولہ جواب قسم ہے، دونوں مل کر جملہ انشائیہ متساویں ہوں۔ فقاء فیسور اور اس کی شرط مخذوف ہے اِنْ صَدَّ قُتْمُوْنِيْ اَلْيَوْمِ ا فعل امر و او ضمیر فاعل نون و قایہ کا بیادہ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، و او عاقلہ اَطِيعُوْا فعل امر و او ضمیر فاعل اَمْرِيْ مرکب اضافی منصوب تقدیر معطوف بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط مخذوف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَزْجِعَ الْيَنَّا مُؤْسٰٓئِيْ ﴿

آیت نمبر ۹۱: قالوا فعل امر و او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَلَنْ نَّبْرَحَ فعل ناقص اَلْحٰنُ مستتر اس کا اسم عَلَيْهِ جہا بجز در ظرف تو متعلق

مقدم ہوئے عَرَفَيْنِ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل حَتَّى حرف غایت و جر اور اس کے بعد اُن مقدّم ہے یُوجِعُ فعل اَلَا تَبَيَّنَا جاد باجر و متعلق ہوئے مُوسَى فاعل، تینوں مل کر بتاویل مصدر جَرور، جاد باجر و متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل با قائل و متعلقین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالَ يُهْرُونَ مَا مَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۖ

**آیت نمبر ۹۲، ۹۳:** قَالَ هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول یُهْرُونَ کی ترکیب یا موسیٰ کی مثل ہے اور یہ نہاد ہے، ماک استقامیہ مبتدأ مَتَّعَ فعل هُوَ مستتر فاعل کان ضمیر منصوب مفعول بہ اذ ظرف زمان مضاف رَأَيْتَ فعل تَاء مفتوح ضمیر فاعل هُوَ ضمیر مفعول بہ اذ، ضَلُّوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مَتَّعَ کا مفعول فیہ، اُن حرف مصدری و نصب لَا تَتَّبِعُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل نون و تاء یہ کا، یَاء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر منصوب بزعم الخ فاعل اصل میں هُوَ اُن... (اُن ہے، اور یہ مَتَّعَ کے متعلق ہے، فعل با قائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جواب نہاد، نہاد با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ ہمزہ لا حرف استفہام قَاء عاطفہ عَصَيْتَ فعل تَاء مفتوح ضمیر فاعل اَمْرِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جواب نہاد، معطوف ہے۔

قَالَ يَبْنَؤُمْرًا لَا تَأْخُذْ بِالْحَيَاتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي

إِسْرَائِيلَ وَكَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ۖ

**آیت نمبر ۹۳:** قَالَ فعل با هُوَ مستتر فاعل قول، یَاء حرف نہاد اِبْنِ اَمْرِيہ اصل میں اِبْنِ اَمْرِيہ ہے یہ مرکب اضافی مفعول بہ ہے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نہاد ہے، لَا تَأْخُذْ فعل اَنْتَ مستتر ذوالحال، بِنَاء جادہ لِخَبْرِيہ مرکب اضافی جَرور، جاد باجر و معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زائدہ بِرَأْسِي جاد باجر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر مُنْسِيكَا کے متعلق ہو کر فاعل ہے، فعل با قائل جملہ انشائیہ جواب نہاد، نہاد با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہولسان حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم خَشِيتُ فعل تَاء مضمومہ ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تَقُولَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، فَرَّقْتَ فعل تَاء مفتوح ضمیر فاعل بَيْنِ مضاف یَعْنِي اِسْرَائِيلَ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَمْ تَرْقُبُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل قَوْلِي مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ بتاویل مصدر خَشِيتُ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ بِاسْمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستاف ہو۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَاهِرِي ۖ

**آیت نمبر ۹۵:** قَالَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر قول، قَاء ضمیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ ذَكَرْتَنِي الْحَقِيقَةَ مَا استقامیہ مبتدأ خَطْبُكَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جواب نہاد مقدم يُسَاهِرِي نہاد مؤخر، نہاد با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ أَكْثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي ﴿۹۱﴾

**آیت نمبر ۹۱:** قَالَ لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ أَكْثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي ﴿۹۱﴾  
 اصل ہُوَ مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول بَصُرْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر قائل بہاء حرف جہد ما موصول لَمْ یَبْصُرُوا فعل واو ضمیر قائل بہ جہد و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہد ہاجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق معطوف علیہ، فاء عاطفہ قَبَضْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر قائل قَبْضَةً موصوفہ من حرف جہد اَكْثَرِ الرَّسُولِ مرکب اضافی مجرور، جہد ہاجر و کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت مفعول مطلق، فعل ہا قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ کَبَضْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر قائل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین معقولہ، قول ہا معقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا و استثنائیہ کَذَلِكَ جہد ہاجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ مخدوف تَسَوَّيْتُ لِي جہد ہاجر و طرف مستقر کائنات کے مفعول مطلق مقدم سَوَّيْتُ فعل لی جہد ہاجر و طرف مستقر کائنات کے مفعول مطلق ہا قائل، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول مطلق جملہ مستقر ہوا۔

قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُْحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿۹۲﴾

**آیت نمبر ۹۲:** قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُْحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿۹۲﴾  
 اصل ہُوَ مستتر قائل سے مل کر قول، فاء نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے، اِنْ تَكْفُرْ بِاللَّهِ فَادْهَبْ فعل امر آت مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ جہد، شرط ہاجزہ جملہ شرطیہ معقولہ، قول ہا معقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فاء تعلیل اِنْ حرف تحقیق لَكَ جہد ہاجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ فِي الْحَيَاةِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر لَكَ کی ضمیر سے حال ہے، اِنْ حرف مصدری و نصب تَقُولُ فعل اَنْت مستتر قائل سے مل کر قول، لَا لِي جنس و مساس اس کا اسم بَيِّنَاتِ اس کی خبر مخدوف ہے، لَا لِي جنس ہا اسم و خبر معقولہ، قول ہا معقولہ بتاویل مصدر اِنْ کا اسم، اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ہوا و عاطفہ اِنْ حرف تحقیق لَكَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ مَوْعِدًا موصوفہ لَنْ تُخْلَفَ فعل مجہول آت مستتر ہا قائل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مَوْعِدًا کی صفت، موصوفہ ہفت اسم مؤخر، اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مطلق ہوا۔

واو عاطفہ اَنْظُرْ فعل امر اَنْت مستتر قائل الی حرف جہد اِلَهِكَ مرکب اضافی موصوفہ الَّذِي ہا موصول تکلمت فعل ناقص تاء مقننہ اس کا اسم عَلَيْكَ جہد ہاجر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَاكِفًا اسم قائل اَنْت مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ اِلَهِكَ کی صفت، موصوفہ ہفت مجرور، جہد ہاجر و طرف لغو اَنْظُرْ کے متعلق ہوئے، فعل امر ہا قائل و متعلق جملہ انشائیہ اَدْهَبْ بِم معطوف ہے۔ لآہ موطئ للشم اور قسم مخدوف ہے لُحَرِّقَنَّ فعل نَحْن مستتر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم ہا جواب، قسم جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاكِفًا لآہ موطئ للشم اور قسم مخدوف ہے لَنْسِفَنَّ فعل نَحْن مستتر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، فِي الْيَمِّ جہد ہاجر و طرف لغو متعلق ہوئے نَسْفًا مفعول مطلق، چاروں مل کر جواب قسم، قسم ہا جواب قسم معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستقر ہوا۔

### اِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

**آیت نمبر ۹۸:** اِن حرف تحقیق خوف مآ کا نہ اِلَهُكُمُ مرکب اضافی مبتدا اللہ موصوف الذی ہی اسم موصول لا نفی جنس الہ مبتدا منرا لآ حرف استثناء ہو ضمیر الہ کے عمل سے بدل ہے، بدل منہ بدل لآ کلام مؤجوزہ مخدوف خبر لآ اپنے اسم و خبر سے مل کر صلہ، موصول باصلہ اللہ کی صفت، موصوف ہصفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول وسیع فعل ہو ضمیر قائل کل شئی ہو مرکب اضافی مفعول بہ علما تیز، فعل با قائل و مفعول بہ و تیز جملہ فعلیہ خبریہ ہول۔

### كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝

**آیت نمبر ۹۹:** كَذَلِكَ جار باجور و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف قصصا کے مفعول مطلق نقص فعل یحکم مستتر قائل عَلَيَّكَ جار باجور و متعلق ہونے سے اِن حرف جار اَنْبَاءِ مضاف مآ موصولہ قائل علامت فعل، سَبَقَ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار باجور و متعلق ثانی ہونے، فعل با قائل و مفعول مطلق و متعلقین جملہ متانہ ہول و اوا عطفہ یا حالہ قائل علامت فعل اَتَيْنَا فَاعِل نا ضمیر قائل کاف ضمیر مفعول بہ اول، وَاوَلَّ كَذَلِكَ جار باجور و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم ذِکْرًا اذوالحال مؤخر ذوالحال با حال مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین سَبَقَ بہ معطوف ہے یا سَبَقَ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

### مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۝

**آیت نمبر ۱۰۰:** مَنْ اسم شرط معلوم نزع مبتدا اَعْرَضَ فعل ہو مستتر قائل عَنْهُ جار باجور و متعلق ہونے، تینوں مل کر شرطہ فعاء جزائیہ اِن حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم، یَحْمِلُ فعل ہو مستتر قائل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فی وِزْرًا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعولین خبر اِن ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرطہ با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول۔

### خُلْدِیْنَ فِيهِ وَ سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۝

**آیت نمبر ۱۰۱:** خُلْدِیْنَ اسم قائل هُمْ مستتر قائل فِيهِ جار باجور و متعلق ہونے، اسم قائل با قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر یَحْمِلُ کی ضمیر قائل سے حال ہے یَحْمِلُ فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِن ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرطہ با جزاء مَن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول و اوا استینا فیہ سَاءَ فعل ذم ہو مستتر ممیز لَهُمْ جار باجور و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہونے، کائنات اسم قائل ہو مستتر قائل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، اسم قائل با قائل و متعلق و مفعول فیہ حال مقدم حِمْلًا ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال تیز، ممیز با تیز قائل، فعل با قائل خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدا مخدوف ہے وِزْرُهُمْ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ اضافیہ ہول۔

### يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۚ يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِنْ لِيَتَكْفُرُوا بِالْآلِهَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۰۲، ۱۰۳:** يَوْمَ مضاف يُنْفَخُ فعل مجهول ہو مستتر بئس قائل فی الصُّور جار باجور و متعلق ہونے، فعل مجهول با

نائب فاعل و متعلق مضاف الیہ، مرکب اضافی یَوْمَ الْقِيَمَةِ سے بدل ہے و او عاطفہ نَحْشُوا فاعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل یَوْمَ الْقِيَمَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ الْمُجْرِمِينَ ذُو الْحَالِ زُو قَامَا اولى، يَتَخَفَتُونَ فاعل و او ضمیر فاعل يَتَنَهَمُّهُمُ مرکب اضافی مفعول فیہ تینوں مل کر حال ہے۔ بان نافی لَيْبَتُكُمْ فاعل ثُمَّ ضمیر فاعل الْاَحْرَفِ اسْتَهْمِعْتُمْ مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قَائِلِينَ مخدوف کا مقولہ ہو کر حال ہے۔ ذُو الْحَالِ بِحَالِ ثَلَاثٌ نَحْشُوا کا مفعول ہے، فاعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ یُنْفَعُ مفعول ہے۔

**نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِنْ لَيْبَتُكُمْ اِلَّا يَوْمَ مَا**

**آیت نمبر ۱۰۳:** نَحْنُ ضمیر مبتدا، اَعْلَمُ اسم تفضیل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل یَاءَ حرف جدا موصول یَقُولُونَ فاعل و او ضمیر فاعل، فاعل ہا فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہد باجر و اَحْلَمُهُ کے متعلق ہوئے اِذْ ظرف زمان مضاف یَقُولُ فاعل اَمْثَلُ اسم تفضیل هُمْ ضمیر مضاف الیہ طَرِيقَةً تمييز اسم تفضیل با مضاف الیہ و تیز یَقُولُ کا فاعل فاعل ہا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، بان نافی لَيْبَتُكُمْ فاعل الْاَحْرَفِ اسْتَهْمِعْتُمْ ماستثنیٰ مفرغ ہو کر مفعول فیہ، فاعل ہا فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، اسم تفضیل ہا فاعل و متعلق و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿ رُكُوْعٌ نَمْبِرٌ ۶ ﴾

**وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا**

**آیت نمبر ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷:** و او اسْتِئْنَاءِ فِی يَسْأَلُونَ فاعل و او ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ عَنِ الْجِبَالِ جہد باجر و متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہو۔ قَاءَ فصحی اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ اَجْبَدْتَ، قُلْ فاعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، يَسْأَلُ فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ زنی مرکب اضافی فاعل نَسْفًا مصدر مفعول مطلق، فاعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ، قَاءَ عاطفہ يَذَرُ فاعل هُوَ مستتر فاعل هَا ضمیر ذُو الْحَالِ قَاعًا حال اولى، صَفْصَفًا حال ثانیہ، لَا تَرَى فاعل اَنْتَ مستتر فاعل فِيهَا جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے عِوَجًا مفعول علیہ، و او عاطفہ لَا زَلَّةَ اَمْتًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَا تَرَى کا مفعول ہے، فاعل ہا فاعل و متعلق و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ حال ثلثہ ذُو الْحَالِ بِحَالِ ثَلَاثٌ يَذَرُ کا مفعول ہے، فاعل ہا فاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ ہو کر شرط مخدوف کی جڑ ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**يَوْمَ مِيزِينَ يَنْبَغُونَ الدَّاعِيَ لَوْ عِوَجَ لَهُ جَوْحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَيْبًا**

**آیت نمبر ۱۰۸:** يَوْمَ مِيزِينَ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم يَنْبَغُونَ فاعل و او ضمیر فاعل الدَّاعِيَ ذُو الْحَالِ لَا تَرَى جس عِوَجَ اس کا اسم کہ جہد باجر و طرف مستقر کلّیوں کے متعلق ہو کر خبر، لَا تَرَى جس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذُو الْحَالِ بِحَالِ مفعول ہے، فاعل ہا فاعل و مفعول ہے و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطفہ حَشَعَتِ فاعل الْأَصْوَاتُ فاعل لِلرَّحْمَنِ جہد باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہو۔ قَاءَ عاطفہ لَا تَسْمَعُ فاعل اَنْتَ مستتر فاعل الْاَحْرَفِ

استفہار مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خَشَعَتْ بہ معطوف ہے۔

**يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۱۰۹**

**آیت نمبر ۱۰۹:** یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم لا تَنْفَعُ فعل الشَّفَاعَةُ قائل الَّا حرف استفہار من اسم موصول اذِنَ فعل کہ طرف لغو متعلق ہوئے الرَّحْمَنُ قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَضِيَ فعل ہو مستتر قائل کہ جہ باجہر دور طرف لغو متعلق ہوئے قَوْلًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

**يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۱۰**

**آیت نمبر ۱۱۰:** يَعْلَمُ فعل ہو مستتر قائل مَا موصول بَيْنَ اَيْدِيهِمْ مرکب اضافی فعل عَدُوْفٌ تَبَيَّنَتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا موصول خَلْفَهُمْ مرکب اضافی فعل عَدُوْفٌ تَبَيَّنَتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو حالیہ لَا يُحِيطُونَ فعل واو ضمیر قائل بہ جہ باجہر دور طرف لغو متعلق ہوئے عِلْمًا تمیز، فعل باقائل و متعلق و تمیز جملہ فعلیہ خبریہ اَيْدِيهِمْ کہ ضمیر ہم سے حال ہے۔

**وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْبَصِيحِ الْقَيُْومِ ۝۱۱۱ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۱۲**

**آیت نمبر ۱۱۱:** واو استینا فیہ عَنَتِ فعل الْوُجُوهُ قائل لاہر حرف جہ البصیح الْقَيُْومِ مرکب توصیفی مجرد، جہ باجہر دور طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ متانفہ ہوں واو حالیہ قَدْ علامت فعل، خَابَ فعل من موصول حَمَلَ فعل ہو مستتر قائل ظُلْمًا مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ قائل فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ الْوُجُوهُ سے حال ہے۔

**وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝۱۱۳**

**آیت نمبر ۱۱۳:** واو استینا فیہ من اسم شرط مبتدأ يَعْمَلُ فعل ہو مستتر ذوالحال، واو حالیہ ہو مُؤْمِنٌ مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے، ذوالحال باحال قائل مِنَ الصَّالِحَاتِ جہ باجہر دور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَدْ جزائیہ لَا يَخْفُ فعل ہو مستتر قائل ظُلْمًا معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَخْفُ هَضْمًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدأ مخدوف ہو کر خبریہ، مبتدأ باخبر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر ہے، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

**وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۱۴**

**آیت نمبر ۱۱۴:** واو استینا فیہ كَذَلِكَ جہ باجہر دور طرف مستتر كَذَلِكَ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اَنْزَلْنَا کے مفعول مطلق اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر قائل کا ضمیر ذوالحال قُرْآنًا عَرَبِيًّا مرکب توصیفی حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ صَرَّفْنَا فعل نا ضمیر قائل فِيهِ جہ باجہر دور طرف متعلق ہوئے، من حرف جہ عند الا تحشش اَنْزَلْنَا، الْوَعِيدِ مَحَلًّا

منسوب مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا لکن حرف ترمیمی ہنہ ضمیر اس کا اسم، یَتَقَوَّنَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر معطوف علیہ، اَو حرف عطف یُحَدِّثُ فعل ہو مستتر قائل اَلْهُمَّ جہد باجرور متعلق ہوتے ہوئے بِذِكْرِهِ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، لکن ہنہ ضمیر اسمیہ انشائیہ متعلق ہوا۔

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَرَبُّ ذِي الْعَرْشِ عَظِيمٌ ﴿۱۱۳﴾

آیت نمبر ۱۱۳: قَاءَ عاطفہ تعالیٰ فعل لفظاً اللہ تامل الْمَلِكُ الْحَقُّ لفظ اللہ کی رد و صفت ہے، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ اَزَلْنَاهُ مفعول بہ، واو استینا فیہ لاکتجیل فعل نمی آتے ضمیر مستتر قائل بِالْقُرْآنِ جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوتے ہیں حرف جر قَبْلِ مضاف اُن حرف مصدری و نصب یُقْضَىٰ فعل مجہول إِلَيْكَ جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوتے ہیں وَحْيُهُ مرکب انشائیہ نائب قائل، فعل مجہول ہا نائب قائل و متعلق ہا و مل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب انشائیہ جرور، جہد باجرور لاکتجیل کے متعلق ثانی، فعل نمی اپنے قائل و متعلقین سے مل کر جملہ انشائیہ متاثر ہوا و عاطفہ قُلْ فعل امر آتے مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، رَبُّ یہ اصل میں یَا رَبُّنی ہے اور یہ علامہ ہے، زِدْ فعل امر آتے مستتر قائل لون برائے و قایہ بنیاد ضمیر منسوب مفعول بہ اول عَلِمَا مفعول بہ ثانی، فعل ہا قائل و مفعولین جواب علامہ ہے، علامہ با جواب علامہ متولہ، قول ہا متولہ لاکتجیل مفعول بہ۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَدَسَّوْا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿۱۱۴﴾

آیت نمبر ۱۱۴: واو استینا فیہ لاکر موطنہ القسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل عہدنا قائل تا ضمیر قائل اِلَى آدَمَ جہد باجرور ظرف لغو متعلق اول ہوتے ہیں قَبْلِ جہد باجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوتے ہیں، فعل ہا قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عہدنا مضافہ لیسوق فعل ہو مستتر قائل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہوا و عاطفہ لَمْ تَجِدْ فعل لہ جہد باجرور متعلق ہوتے ہوئے عَزْمًا مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب قسم، قسم با جواب جملہ انشائیہ تسمیہ ہوا۔

﴿ رکوع نمبر ۷ ﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۗ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ ﴿۱۱۵﴾

آیت نمبر ۱۱۵: واو استینا فیہ اِذْ ظرف زمان مضاف قُلْنَا فعل تا ضمیر قائل لِلْمَلٰٓئِكَةِ جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوتے ہیں، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے اسْجُدُوا فعل امر واو ضمیر قائل لِآدَمَ جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوتے ہیں، فعل ہا قائل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر متولہ، قول ہا متولہ معطوف علیہ عہدنا مضافہ و اسْجُدُوا فعل واو ضمیر مستثنیٰ مِنْ اِلَّا حرف استثناء اِبْلِيسَ مستثنیٰ منقطع ہے یا متصل ہے، مستثنیٰ مِنْ ہا مستثنیٰ قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِذْ کا مضاف الیہ، پھر مرکب انشائیہ فعل مخدوف اِذْ کو کا مفعول بہ ہے، اِذْ کو فعل امر اپنے قائل و مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوا آئی فعل ہو مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متاثر ہوا (روح المعانی)

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِرِزْقِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿۱۹﴾

**آیت نمبر ۱۹:** فقاه استینافیہ فرماتا ہے کہ ضمیر قائل دو دونوں مل کر قول ہے، یا آدم کی ترکیب یا مؤنسی کی طرح ہے اور یہ علامہ ہے، ان حرف تحقیق ہذا اسم اشارہ اس کا اسم عدو موصوف لک جاہ باجر و معطوف علیہ، واو عاطف لآہ حرف جادو چک مرکب اضافی مجرور، جاہ باجر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر کاؤنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ علامہ کا جواب، پھر علامہ با جواب علامہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ متناظر ہوں۔

فہا نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے، ان عرف فتماعدا و نكہ لکنما، لا یخْرِجَنَّ فعل نہی ہو مستقر قائل کما ضمیر مفعول بہ وین الْجَنَّةِ جاہ باجر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ شرط محذوف کی جڑ ہے، شرط با جڑ جملہ شرطیہ ہوں فقاه عاطف سببیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے اس لئے کہ فقاه جواب نہی میں واقع ہے تَشْقَى فعل آت مستقر قائل، دو دونوں مل کر بتاویل مصدر لا یخْرِجَنَّ ہے جو مصدر نکالا جاتا ہے اس معطوف ہے، کیونکہ اس کی اصل عبارت لا یکن اِخْرَاجٌ وَنَهٌ لکنما فاشقاء لک ہے۔

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَ لَا تَعْرَىٰ ﴿۲۰﴾ وَ أَنْتَ لَا تظْمَأُ فِيهَا وَ لَا تَصْحَىٰ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۱۹، ۲۰، ۲۱:** ان حرف تحقیق لک جاہ باجر و رکائون کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ان حرف مصدری و نصب لا تَجُوعَ فعل آت مستقر قائل فیہا جاہ باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطف لا تَعْرَىٰ فعل آت مستقر قائل، دو دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر معطوف علیہ، واو عاطف ان حرف تحقیق کان ضمیر اس کا اسم لا تظْمَأُ فعل آت مستقر قائل فیہا جاہ باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطف لا تَصْحَىٰ فعل آت مستقر قائل، دو دونوں مل کر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف ملامت منسوب ان کا اسم و خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متناظر ہوں۔

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَا يَبْئَلُ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۰:** فقاه استینافیہ و سوسوس فعل الیہ جاہ باجر و ظرف لغو متعلق ہوئے الشیطان قائل تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہوں۔ قال فعل ہو مستقر قائل سے مل کر قول ہے، یا آدم جملہ انشائیہ ہو کر ندا، هل حرف استقہام اذک فعل آت مستقر قائل کان ضمیر مفعول بہ علی حرف جاہ شجرۃ الخلد مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطف ملک موصوف لا یبئلی فعل ہو مستقر قائل، دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاہ باجر و ظرف لغو اذک کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر جواب علامہ، پھر علامہ با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہوں۔

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصَى

آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَىٰ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۳، ۲۴:** فقاه عاطف اکل فعل الف ضمیر قائل صیغہ جاہ باجر و ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ



معطوف علیہ، فقاء عاطفہ بکثرت فعل لہما جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے سوا لہما مرکب اضافی فاعل فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوف ہولسوا واو عاطفہ ظرفاً فعل الف ضمیر اس کا اسم یخصیض، فعل الف ضمیر اس کا فاعل کا فاعل علیہما جاد باجرور ظرف لغو متعلق ازل ہوئے ہیں حرف جاد ورتی الجنتہ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق جانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ طلیفقا کی خبر، فعل متدبہا م و خبر جملہ انشائیہ ہو کر بکثرت بمعطوف ہے۔ واوا استثنائیہ عطفی فعل اذکر فاعل ربکہ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ نحوی فعل ہو مستتر فاعل دونوں مل کر معطوف ازل، ثقتہ عاطفہ اجتنبی فعل ضمیر مفعول بہ ربکہ مرکب اضافی فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ کتاب فعل ہو مستتر فاعل علیکہ جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، واوا عاطفہ ہڈی فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف رابع، معطوف علیہ بمعطوفات اربعہ جملہ مستانہ ہوں۔

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِثْرِي هُدًى ۖ فَمَنْ  
اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝

آیت نمبر ۱۲۳: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اہبطا فعل امر الف ضمیر ذوالحال جمیعاً م فاعل کے معنی میں ہو کر حال ذوالحال باحال فاعل و منها جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر متولدہ، قول باقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں، بَعْضُكُمْ مرکب اضافی مبتدأ، بَعْضُ جاد باجرور ظرف لغو متعلق کا متعلق ہو کر حال مقدم عدو ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اہبطا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

فقاء عاطفہ ان حرف شرط صائر لا یأتیان فعل کلمہ ضمیر منصوب مفعول بہ ہیں حرف جاد نون برائے دو قایہ یا کہ ضمیر مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، ہڈی امر فروع تقدیرہ فاعل، فعل بافاعل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط فقاء جزائیہ من اسم شرط مبتدأ، اتبع فعل ہو مستتر فاعل ہڈای مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائیہ لا یضل فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لا یضقی فعل ہو مستتر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط ازل کی جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي فَان لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا وَنَحْشُورَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْلَى ۝

آیت نمبر ۱۲۴: واو عاطفہ من اسم شرط مبتدأ اعرض فعل ہو مستتر فاعل عن حرف جاد ذی کبریٰ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط فقاء جزائیہ ان حرف تحقیق کہ جاد باجرور ظرف لغو متعلق کا متعلق ہو کر خبر مقدم مَعِيشَةٌ ضَنْكًا مرکب تومیل اسم مؤخر، ان اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَحْشُورَةٌ فعل لکن مستتر فاعل ذہم ذوالحال اعلى حال ذوالحال باحال مفعول بہ یوم القیامۃ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ بمعطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر من القیامۃ بمعطوف ہے۔

### قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝

**آیت نمبر ۱۲۵:** قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝  
 باجور و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے حَشَرْتَنِيْ فعل تاء مفتوح ضمیر فاعل نون برائے و قایہ یاء ضمیر منسوب ذوالحال، اَعْمٰی ذوالحال، و او  
 حالہ قد علامت فعل، كُنْتُ فعل ناقص تاء منضموم ضمیر اس کا اسم بَصِيْرًا صیغہ مفت انا مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص باس و خبر  
 جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال یاء ضمیر کا حال باحال حَشَرْتَنِيْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مقدم جملہ انشائیہ  
 استقامیہ ہو کر جواب مدعا، مدعا باجواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

### قَالَ كَذٰلِكَ اٰتٰتٰكَ اٰیٰتِنَا فَكَسٰیْتَهَا ۝ وَ كَذٰلِكَ الٰیٰوْمَ تُنٰسٰی ۝

**آیت نمبر ۱۲۶:** قَالَ كَذٰلِكَ اٰتٰتٰكَ اٰیٰتِنَا فَكَسٰیْتَهَا ۝ وَ كَذٰلِكَ الٰیٰوْمَ تُنٰسٰی ۝  
 ہے مبتدا محذوف الامور کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اکت فعل کاف ضمیر مفعول بہ اٰیٰتِنَا مرکب  
 اضافی فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قاء عاطفہ نَسِیْتْ فعل تاء مفتوح ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ  
 خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متظاہر ہوا۔ و او عاطفہ كَذٰلِكَ جار باجور و طرف مستتر کائنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف  
 محذوف نَسِیْتَا کا کے مفعول مطلق الٰیٰوْمَ مفعول فیہ مقدم تُنٰسٰی فعل مجہول اٰیٰتِ ضمیر مستتر نائب فاعل، فعل مجہول ہائے نائب فاعل و مفعولین  
 جملہ فعلیہ خبریہ نَسِیْتَهَا معطوف ہے۔ جملہ مستانہ ہے۔

### وَ كَذٰلِكَ نَجْزِیْ مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیٰتِ رَبِّهِ ؕ وَ لَعَدٰتِ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰی ۝

**آیت نمبر ۱۲۷:** وَ كَذٰلِكَ نَجْزِیْ مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیٰتِ رَبِّهِ ؕ وَ لَعَدٰتِ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰی ۝  
 مطلق مقدم، نَجْزِیْ فعل تَحَنُّنِ مستتر فاعل مَنْ اسم موصول اَسْرَفَ فعل ہو مستتر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او  
 عاطفہ لَمْ یُؤْمِنْ فعل ہو مستتر فاعل یاء حرف جار اٰیٰتِ رَبِّهِ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و طرف لغو لَمْ یُؤْمِنْ کے متعلق ہوئے، فعل  
 بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ نَجْزِیْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ  
 خبریہ كَذٰلِكَ اٰتٰتٰكَ معطوف ہے۔ و او استینا لآہر ابتدائیہ تاکید یہ عَدٰتِ الْاٰخِرَةِ مرکب اضافی مبتدا، اَشَدُّ اسم تفضیل ہو مستتر  
 فاعل سے مل کر معطوف علیہ، و او عاطفہ اَبْقٰی اسم تفضیل ہو مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ  
 خبریہ مستانہ ہوں۔

### اَفَلَمْ یَهْدِیْ لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ یٰۤاَسْمٰوْنَ فِیْ مَسٰكِنِهِمْ طٰرَافٌ فِیْ ذٰلِكَ

### لَاٰیٰتٍ لِّاُولٰٓئِیْ النَّهٰی ۝

**آیت نمبر ۱۲۸:** اَفَلَمْ یَهْدِیْ لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ یٰۤاَسْمٰوْنَ فِیْ مَسٰكِنِهِمْ طٰرَافٌ فِیْ ذٰلِكَ  
 بسوئے الْاِخْلَاقِ فاعل ہے لَهُمْ جار باجور و طرف لغو متعلق ہوئے كَمَا خبر خبریہ میز من الْقُرُوْنِ جار باجور و تیز، میز با تیز مفعول بہ۔

مقدم اھلکنا فعل نا ضمیر فاعل قَبْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَعْلَا منصوب لَمْ یَقِدْ کما مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق ومفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں یَنْشُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی حرف جار متسلکینہم مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف لغو متعلق ہونے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ الْقُرُون سے حال ہے، یا لَھُمْ کی ضمیر ہُمْ سے حال ہے (روح المعانی) اِنْ حرف تحقیق فی ذلک جار باجور و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لاہر مذ معلقہ ایتی موصوف لاہر حرف جار اولی الثقی مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت اسم مؤخر اِنْ ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں

●●● رکوع نمبر ۸ ●●●

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّ اَجَلٌ مُّسَعًی ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: ۱۱۹: او استینا فیہ لو لا حرف اتناع کلمۃ موصوف سَبَقَتْ فعل ہی مستقر فاعل وین حرف جار رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف لغو متعلق ہونے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف ہفت مبتدا اور خبر محذوف ہے جَوْجُوْدُہٗ مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، لاہر جماییہ کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم لِزَامًا خبر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عطف اَجَلٌ مُّسَعًی مرکب تو صلی کلمۃ ہر معطوف ہے

قَاصِبٌ عَلٰی مَا یَقُولُوْنَ وَّ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَّ قَبْلَ غُرُوْبِہَا وَّ مِنْ اٰتَآئِ الْاٰیْلِ فَسَبِّحْ وَّ اَطْرَافِ النَّہَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰی ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: ۱۲۰: قاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ سَبَّحْتَ مَا یُذِکُّکَ اِضْبِیْزُ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل علی حرف جار ما اسم موصول یَقُولُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بدو نون مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور و ظرف لغو اضْبِیْزُ کے متعلق ہونے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امر یہ معطوف علیہ واو عطف سَبِّحْ فعل امر اَنْتَ مستقر ذوالحال، بناء حرف جار بِحَمْدِ رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف مستقر مَنَاطِسَا کے متعلق ہو کر حال ہے ذو ذوالحال باحال فاعل قَبْلَ مضاف طُلُوْعِ الشَّمْسِ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف علیہ واو عطف قَبْلَ مضاف غُرُوْبِہَا مرکب اضافی قَبْلَ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف سَبِّحْ کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف با جزاء شرطیہ ہوں

واو عطف وین حرف جار اٰتَآئِ الْاٰیْلِ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف لغو متعلق مقدم قاء زلذہ (روح المعانی) سَبِّحْ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ پہلے سَبِّحْ ہر معطوف ہے، واو عطف اَطْرَافِ النَّہَارِ مرکب اضافی قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ہر معطوف ہے۔ لَعَلَّ حرف ترحی کاف ضمیر منصوب اس کا اسم تَرْضٰی فعل اَنْتَ مستقر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ لَعَلَّ کی خبر، لَعَلَّ ہام و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متانہ ہے، با زاہج الزحاک تاویل میں ہو کر سَبِّحْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے

وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنِیْكَ اِلٰی مَا مَتَّعْنَا بِہٖ اَزْوَاجًا مِنْہُمْ زَهْرَةً الْحَیْوةِ الدُّنْیَا لِیَلْفَتِنَہُمْ

### فِيهِ ذَوْرُوقِ رَبِّكَ حَيْرٌ وَّ اَبْقِ ۝

**آیت نمبر ۱۳۱ :** واو عاطفہ لاکمَدَنَّ فاعل اَدَّت مستقر فاعل عَيَّنَيْتُكَ مرکب اضافی مفعول بہ لای حرف جملہ موصولہ متعقبات فاعل تائیمیر فاعل بہ جملہ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَزَّو اَجَّام موصوف جنھم جملہ مجرور ظرف مستقر کا کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ متعقبات فاعل باقائل و متعلق بہ مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جملہ مجرور ظرف لغو لاکمَدَنَّ کے متعلق ہوئے، فاعل نمی اپنے فاعل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ اضافیہ نہیہ اضطر بہ معطوف ہے۔ ذُوْرُوقِ مضاف الحیوۃ الذئیات مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی بہ کی پائیمیر سے حال ہے، لاکم حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدّم ہے لَقُوْن فاعل لَحْن مستقر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ فیذہ جملہ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فاعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جملہ مجرور ظرف لغو متعقبات کے متعلق ہوئے واو استینا فی ذُوْرُوقِ رَبِّكَ مرکب اضافی مبتدأ، حَیْرٌ اسم تفضیل ہو مستقر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبْقِ فاعل ہو مستقر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متضاف ہو۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنٌ نَّرْزُقُكَ طَوَّ الْعَاقِبَةُ

### لِلتَّقْوَى ۝

**آیت نمبر ۱۳۲ :** واو عاطفہ اُوْمُرْ فاعل امر اَدَّت مستقر فاعل أَهْلَكَ مرکب اضافی مفعول بہ بِالصَّلَاةِ جملہ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فاعل امر باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ اضافیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اصْطَبِرْ فاعل امر اَدَّت مستقر فاعل عَلَيْهَا جملہ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ اضافیہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف لاکمَدَنَّ کہ معطوف ہے۔ لَا نَسْأَلُ فاعل لَحْنٌ مستقر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّل رِزْقًا مفعول بہ ثانی، فاعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متضاف ہو لَحْنٌ ضمیر منفصل مبتدأ، نَرْزُقُ فاعل لَحْنٌ مستقر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، فاعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ منقلبہ ہو۔ واو استینا فی الْعَاقِبَةُ مبتدأ، لِلتَّقْوَى جملہ مجرور ظرف لغو مستقر کا کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متضاف ہو۔

وَقَالُوا لَوْلَا يَا تَيْنَا بَايَةَ مِنْ رَبِّهِ ءَاوَلَمْ تَأْتِيَهُمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝

**آیت نمبر ۱۳۳ :** واو استینا یہ قَالُوا فاعل بادا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لَوْلَا حرف تفسیحی یا آئی فاعل ہو مستقر فاعل تائیمیر منصوب مفعول بہ، بآہ جملہ آیۃ موصوف من حرف جملہ رَبِّهِ مرکب اضافی مجرور، جملہ مجرور ظرف لغو مستقر کا کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مجرور، جملہ مجرور یا آئی کے متعلق ہوئے، فاعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متضاف ہو لَمْ حذوہ حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ تَأْتِيَهُمْ سَائِرُ الْأَيَّاتِ، لَمْ تَأْتِ فاعل ہم ضمیر مفعول بہ، بَيِّنَةٌ مضاف مآسم موصول فی حرف جر الصُّحُفِ الْأُولَى مرکب توصیفی مجرور، جملہ مجرور ظرف لغو محذوف بَيِّنَتِ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ لَمْ تَأْتِ کا فاعل، فاعل باقائل و مفعول بہ جملہ اضافیہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متضاف اضافیہ ہو۔

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ  
 آيَتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُنذِرَ لَكَ وَنَحْزِي ۝

**آیت نمبر ۱۳۴**، واؤاؤستینا فی لَو حرف شرطاً نِ لَو حرف تائید کا ضمیر اس کا اسم اہلکننا فعل تائید کا ضمیر فاعل ہُو ضمیر مفعول بہ بناؤ  
 حرف جار عذاب موصوف من قبیلہ ظرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر مفت، (روح المعانی) موصوف ہفت مجرور، جار مجرور متعلق  
 ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اَن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتا ویل مصدر فعل محذوف کجبت کا فاعل  
 ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لاہر جوابیہ قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یوتبتنا یہ اصل میں یا ربنا ہے  
 اور یہ نام ہے لَو لآ حرف تفسیر اَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَیْسَ لَکِن اَرْسَلْتَ فَمَنْ مِّنْکَ کَ تاول میں ہے لَیْسَ لَکِن فعل ہم مینک جار مجرور متعلق  
 ہوئے اَرْسَلْتَ معطوف علیہ، فاقہ عاقلہ سببہ اور اس کے بعد اَن مصدر یہ مقدر ہے تَتَّبِعُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ایتک مرکب اضافی مفعول بہ  
 من حرف جار قبیل مضاف اَن حرف مصدریہ و نصب نَذِرَ لَکَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل، دووںوں ل کر معطوف علیہ، واؤ عاقلہ نَحْزِي فعل نَحْنُ  
 مستتر فاعل، دووںوں ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتا ویل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو  
 تَتَّبِعُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَیْسَ لَکِن کا فاعل، فعل  
 بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امر یہ جواب نام، نام ہا جواب نام، جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ  
 شرطیہ مستأنفہ ہو۔

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ اصْصَبَ الصِّبْرَاطِ السَّوِيَّ وَ مَنِ

اَهْتَدَى ۝

**آیت نمبر ۱۳۵**، قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے ل کر جملہ انشائیہ قول، کُلٌّ مبتداء اور یہ کُلٌّ و اِجِدْ کے تاول میں ہے یا یہ عموم  
 کے معنی وال ہے اس لے نکرہ ہونے کے باوجود اس کا مبتداء نادرست ہو گیا ہے، مُّتَرَبِّصٌ اسم فاعل ہُو مستتر فاعل، دووںوں ل کر شبہ جملہ  
 ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امر یہ ہوا فقہ نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے، اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ  
 (فقیر) فَتَرَبَّصُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل، دووںوں ل کر جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا فقہ تعلیمیہ بینین عطاس  
 فعل تَعْلَمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل مَنِ استفہامیہ مبتداء، اصْصَبَ الصِّبْرَاطِ السَّوِيَّ مرکب تَوْصِيفِ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی  
 خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاقلہ مَنِ استفہامیہ مبتداء، اَهْتَدَى فعل ہُو مستتر فاعل، دووںوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر  
 خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَعْلَمُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مظلہ ہو۔

يَحْمَدِ اللّٰهَ وَفَضَّلِيْهِ

بروز بدھ بوقت ۸:۱۰ بجے بتاریخ ۱۳ ذوالحجہ ۱۴۳۸ھ کو الکرہ ہوئے سعید آباد کراچی کی بالائی منزل پشور لاطہ کی ترکیب

محمد سلمان بدھلوی کی معاونت سے مکمل ہوئی ہے

## ترکیب سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

● رُكُوعٌ نَحْوُهُ ●

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱:** اقْتَرَبَ فعل لاکر حرف جرالناس مجرور، چاہے مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے حِسَابُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال واو حالیہ ہُمْ ضمیر مبتدا، فی حرف جارِ غَفْلَةٍ مجرور، چاہے مجرور ظرف مستقر کاؤنوں کے متعلق ہو کر خبر اول، مُّعْرِضُونَ اسم فاعل اس میں ہُمْ ضمیر فاعل، اسم فاعل بافاعل شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ابتدائیہ ہوں۔

**مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝**

**آیت نمبر ۲:** مَا يَأْتِيهِمْ تَأْتِي فعل ہُمْ ضمیر ذوالحال الآخر استثناء اسْتَمَعُوا فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ ہُمْ ضمیر مبتدا، يَلْعَبُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال اسْتَمَعُوا کا فاعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر ہُمْ ضمیر کا حال ذوالحال باحال یَأْتِي کا مفعول بہ، من حرف جر زائد ذِکْرِ موصوف من رَبِّهِمْ ظرف مستقر کاؤنوں کے متعلق ہو کر مفت اول، مُحَدَّثٍ اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل سے مل کر مفت ثانیہ، موصوف ہا مستثنیٰ ملامر فروع یَأْتِي کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ منقلبہ ہوں۔

**لَا هِيَّةَ فُؤُوبُهُمْ طَوْأَسْرًا وَالتَّجْوَىٰ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ ۝**

**أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝**

**آیت نمبر ۳:** لَا هِيَّةَ اسم فاعل فُؤُوبُهُمْ مرکب اضافی فاعل، اسم فاعل بافاعل يَلْعَبُونَ کی واو ضمیر فاعل سے حال ہے، واو استثنائیہ اسْرًا و فعل واو ضمیر مبدل من الَّذِينَ ظَلَمُوا موصول باصلہ بدل، مبدل منہ بدل فاعل التَّجْوَىٰ منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔ هَلْ حرف استفہام هَذَا اسم اشرہ مبتدا الآخر حرف استثناء بَشْرٌ موصوف مِثْلُكُمْ مرکب اضافی صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ التَّجْوَىٰ سے بدل ہے، یا قول مخدوف کا مقولہ ہے۔ هَذِهِ حرف استفہام قائم حافظ اور معطوف علیہ مخدوف ہے تُخْطِئُونَ، تَأْتُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ أَنْتُمْ ضمیر مبتدا، تُبْصِرُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال تَأْتُونَ کا فاعل السِّحْرُ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ مستانہ ہوں۔

**قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝**

**آیت نمبر ۴:** قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّي مرکب اضافی مرفوع تقدیر مبتدا، يَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل الْقَوْلَ ذوالحال فی حرف جالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، چاہے مجرور ظرف مستقر کاؤنوں کے متعلق ہو کر حال،

ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دو خبر، مبتدأ باخبر جن جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

بَلْ قَالُوا أَضْعَافٌ أَحْلَامٌ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ مَلِيحٌ فَلَيَأْتِيَنَّ بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلُ  
الْأَوَّلُونَ ۝

**آیت نمبر ۵:** بَلْ حرف اضرب و عطف قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، أَضْعَافٌ أَحْلَامٌ مرکب اضافی مبتدأ محذوف ہو کر خبر ہے، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں بَلْ حرف اضرب و عطف افْتَرَاهُ فعل ہو مستتر فاعل واو ضمیر مفعول بہ بیٹوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متنازع ہوں بَلْ حرف اضرب و عطف هُوَ شَاعِرٌ مَلِيحٌ مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ فقاء فصیح اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْنَا بَلْ كَانَ رَسُولًا، لِيَأْتِيَنَّ فعل امر ہو مستتر فاعل واو ضمیر مفعول بہ بآہ حرف جار ایۃ خبر دو، جار باجر و ظرف اور طرف جار باجر و ظرف مستقر کَآئِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اِثْنَا كَا کے مفعول مطلق، فعل بآئب فاعل بتا و بیل مصدر مجرد، جار باجر و ظرف مستقر کَآئِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اِثْنَا كَا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر خبر، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ أَهَلَّكُنْهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝

**آیت نمبر ۶:** مَا نَا فیه آمَنَتْ فعل قَبْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، مین حرف جار ذلک قَوْمٍ موصوف اَهْلَكُنْهَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ بیٹوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف ہفت ملأمر نوح فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ متنازع ہوں۔ ہمزہ حرف استفہام فقاء عاطفہ اور فقاء در حقیقت ہمزہ سے مقدم ہے ہُمْ ضمیر مبتدأ یُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل دو دونوں مل کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ آمَنَتْ ہر معطوف ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّيَارِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

**آیت نمبر ۷:** واو استینا فیہ مَا نَا فیه أَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل قَبْلِكَ مرکب اضافی مفعول فیہ اِلَّا حرف استفہام جَلَا موصوف نُوْحِي فعل نَحْنُ مستتر فاعل إِلَيْهِمْ جار باجر و ظرف نوح متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف ہفت مستثنیٰ مفرغ اَرْسَلْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متنازع ہوں۔ فقاء فصیح اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِشْتَلُّوا فعل امر واو ضمیر فاعل أَهْلَ الدِّيَارِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر خبر، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ اِنْ حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص تُدْعَمُ ضمیر اس کا اسم لا تَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط باجزاء محذوف ہے فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّيَارِ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝

**آیت نمبر ۸:** وَاَوْعَافُهُ مَآئِنَیْهِ جَعَلْنَا لِقُلِّیْ نَا ضَمِیْرَ فَاعِلٍ هُمْ ضَمِیْرُ مَفْعُوْلِیْهِ اِذْ لَمْ یَسْمَعْ اَوْ مَوْصُوْفٌ لَا یَاكُلُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِیْرُ فَاعِلٍ الْقَاطِعُ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ صِفَتٌ، مَوْصُوْفٌ بِصِفَتٍ مَفْعُوْلٌ بِهٖ ثَمَّیٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلِیْنِ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ مَعْطُوْفٌ عَلَیْهِ، وَاَوْعَافُهُ مَآئِنَیْهِ كَاثُرٌ اِقَاعِلٌ نَا قِصْ وَاَوْضَمِیْرُ اِسْمِ كَا اِسْمٌ مُخْلِیْدِیْنِ اِسْمٌ فَاعِلٍ هُمْ مُسْتَرَقٌّ فَاعِلٌ سَلْ كَرِشِیْہِ جَمَلٌ ہُوَ كَرِخْرِ، فِعْلٌ نَا قِصْ بِاِسْمٍ وَ خَبَرِ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ ہُوَ كَرِخْرِ مَعْطُوْفٌ، پھر مَعْطُوْفٌ عَلَیْهِ بِمَعْطُوْفٍ مَّا اَزَّسَلْتُمْ مَعْطُوْفٌ ہے۔

**ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِیْنَ ۹**

**آیت نمبر ۹:** ثُمَّ عَاطِفٌ صَدَقْنَا لِقُلِّیْ نَا ضَمِیْرَ فَاعِلٍ هُمْ ضَمِیْرُ مَفْعُوْلِیْهِ اِذْ لَمْ یَسْمَعْ اَوْ مَوْصُوْفٌ بِهٖ ثَمَّیٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلِیْنِ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ مَعْطُوْفٌ عَلَیْهِ، فَاَوْعَافُهُ اَنْجَيْنَا لِقُلِّیْ نَا ضَمِیْرَ فَاعِلٍ هُمْ ضَمِیْرُ مَعْطُوْفٍ عَلَیْهِ، وَاَوْعَافُهُ مَن اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ نَشَاءُ فِعْلٌ لَحْنٌ ضَمِیْرٌ مُسْتَرَقٌّ فَاعِلٌ، وَاَوْصُوْلٌ ہُوَ سَلْ كَرِصَلہٗ مَوْصُوْلٌ بِاَسْمِ مَعْطُوْفٍ، مَعْطُوْفٌ عَلَیْهِ بِمَعْطُوْفٍ اَنْجَيْنَا كَا مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ مَعْطُوْفٌ اِذْ لَمْ یَسْمَعْ اَوْ عَاطِفٌ اَهْلَكْنَا لِقُلِّیْ نَا ضَمِیْرَ فَاعِلٍ الْمُسْرِفِیْنَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ؛ تَبِیْنٌ سَلْ كَرِجَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ مَعْطُوْفٌ ثَمَّیٌّ، مَعْطُوْفٌ عَلَیْهِ بِمَعْطُوْفِیْنِ مَّا جَعَلْنَاهُمْ مَعْطُوْفٌ ہے۔

**لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۱۰**

**آیت نمبر ۱۰:** اَلَا مَوْصُوْفٌ مَوْصُوْفٌ لِقُلِّیْ نَا ضَمِیْرُ فَاعِلٍ اَنْزَلْنَا لِقُلِّیْ نَا ضَمِیْرَ فَاعِلٍ اِلَيْكُمْ جَارٌ بِجَرٍ وَرٌ مَعْتَلِقٌ ہُوَ سَلْ كَثَمَّیْنَا مَوْصُوْفٌ فِيْہِ جَارٌ بِجَرٍ وَرٌ مَوْصُوْفٌ مُسْتَرَقٌّ كَاثُرٌ كے مَعْتَلِقٌ ہُوَ كَرِخْرِ مَقْدَمٌ ذِكْرُكُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِیٌّ مَبْتَدَاٌ مَوْخَرٌ، مَبْتَدَاٌ خَبَرٌ جَمَلٌ اِسْمِیٌّ خَبَرِیٌّ كَثَمَّیْنَا كِی صِفَتٌ، مَوْصُوْفٌ بِصِفَتٍ اَنْزَلْنَا كَا مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَعْتَلِقٌ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ ہُوَ كَرِجَوَابٌ قِسْمٌ، قِسْمٌ بِجَوَابٍ قِسْمٌ جَمَلٌ اِنشَائِیٌّ قِسْمِیٌّ ہُوَ كَرِجَوَابٌ اَحْرَافِ اسْتِفْہَامِ فَاَوْعَافُهُ اَوْ مَعْطُوْفٌ عَلَیْهِ مَعْطُوْفٌ ہے اَلَا تَعْقِلُوْنَ (روح المعانی) اَلَا تَعْقِلُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِیْرُ فَاعِلٍ، وَاَوْصُوْلٌ سَلْ كَرِجَمَلٌ فِعْلِیٌّ اِنشَائِیٌّ ہُوَ كَرِجَوَابٌ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَیْهِ بِمَعْطُوْفٍ جَمَلٌ مَسْتَاغِرٌ اِنشَائِیٌّ ہُوَ۔

﴿ رُكُوْعٌ ثَمْرَہٗ ﴾

**وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ۱۱**

**آیت نمبر ۱۱:** وَاَوْاِسْتِیْنَا فِيْہِ كَمْ خَبَرِیٌّ مِیْزِیْنٌ حَرْفٌ جَارٌ قَرْيَةٍ مَوْصُوْفٌ كَانَتْ فِعْلٌ نَا قِصْ ہِیْ ضَمِیْرُ اِسْمِ كَا اِسْمٌ كَلَامِیَّةٌ خَبَرٌ، فِعْلٌ نَا قِصْ بِاِسْمٍ وَ خَبَرٌ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ صِفَتٌ، مَوْصُوْفٌ بِصِفَتٍ مَجْرُورٌ جَارٌ بِجَرٍ وَرٌ تَمِیْزٌ، مِیْزِیْنٌ تَمِیْزٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ مَقْدَمٌ، قَصَمْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِیْرُ فَاعِلٍ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلِیْہِ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ مَعْطُوْفٌ عَلَیْهِ، وَاَوْعَافُهُ اَنْشَاْنَا لِقُلِّیْ نَا ضَمِیْرَ فَاعِلٍ بَعْدَهَا مَرْكَبٌ اِضَافِیٌّ مَفْعُوْلٌ فِيْہِ قَوْمًا اٰخَرِیْنَ مَرْكَبٌ تَوْصِیْفِیٌّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلِیْنِ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ مَعْطُوْفٌ عَلَیْہِ بِمَعْطُوْفٍ ہے۔

**فَلَمَّا اَخْسَوْا بِاَسْنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا یُرْکُضُوْنَ ۱۲**

**آیت نمبر ۱۲:** فَاَوْعَافُهُ لَمَّا اَخْسَوْا مَضْمُنٌ مَعْنٰی شَرْطٌ مَفْعُوْلٌ فِيْہِ مَقْدَمٌ اَخْسَوْا فِعْلٌ وَاَوْضَمِیْرُ فَاعِلٍ بِاَسْنَا مَرْكَبٌ اِضَافِیٌّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلِیْہِ جَمَلٌ فِعْلِیٌّ خَبَرِیٌّ ہُوَ كَرِشَرْطٌ اِذَا مَنَاقِبٌ جَائِیَةٌ یُرْکُضُوْنَ كَا مَفْعُوْلٌ فِيْہِ مَقْدَمٌ ہے، ہُمْ ضَمِیْرٌ مَبْتَدَاٌ، مَبْتَدَاٌ جَارٌ بِجَرٍ وَرٌ مَوْصُوْفٌ مَعْتَلِقٌ مَقْدَمٌ ہُوَ سَلْ كَرِخْرِ، مَبْتَدَاٌ خَبَرٌ جَمَلٌ اِسْمِیٌّ خَبَرِیٌّ جَزَاءٌ، شَرْطٌ جَارٌ جَمَلٌ شَرْطِیٌّ ہُوَ۔



## لَا تَزِدْ لَهُمْ اَوْ اَزِجْعُوْا اِلٰی مَا اُتِرْتُمْ فِيْهِ وَ مَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۳:** لَا تَزِدْ لَهُمْ اَوْ اَزِجْعُوْا اِلٰی مَا اُتِرْتُمْ فِيْهِ وَ مَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ  
 قائل الی حرف جار ما موصول اور واصل نما واؤ ضمیر قائل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَزِجْعُوْا فعل امر واؤ ضمیر قائل الی حرف جار ما موصول اور واصل نما واؤ ضمیر قائل مجہول ثناء مضمومہ ضمیر نائب قائل فیہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہونے، فعل مجہول نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَسْكِنِكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہونے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، دونوں مل کر قیتل لَهْمُ مخدوف کا مقولہ ہے۔ لَعَلَّ حرف ترمیمی کُم ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُوْنَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب قائل، دونوں مل کر خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ مطلقہ یا مستانہ ہوں۔

## قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۴:** قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ  
 مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ مترتبه ہوں۔ اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم ظٰلِمِيْنَ اسم قائل لَحْنُ مستتر قائل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

## فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتّٰی جَعَلْنَاهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتّٰی جَعَلْنَاهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ  
 قائل حَتّٰی حرف نایب و جر جَعَلْنَا فعل نا ضمیر قائل ہُنَّ ضمیر مفعول بہ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ مرکب توصیفی مفعول بہ یعنی، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور دَعْوَاهُمْ کے متعلق ہونے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر منصوب تقدیر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ مستانہ ہوں۔

## وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبٰیۡنَ ۝

**آیت نمبر ۱۶:** وَاِذَا سْتَبٰرَا فِیْ مَا نَا فِیْ خَلَقْنَا فَعَلْ نَا ضَمِيْر قَالِ السَّمٰوٰتِ مَعَطُوْف عَلِيْهِ، وَاِذَا عَطَفَ الْاَرْضَ مَعَطُوْف اَوَّلِ، وَاِذَا عَطَفَ مَا مَوْصُوْلٌ بِیْنَ تَهْمَا مَرْكَبِ اِسْمَانِيٍّ فَعَلْ مَعْدُوْفٌ بِحَبِيْتٍ كَمَا مَعْفُوْلٌ فِيْهِ هُوَ كَرْمَلِ، مَوْصُوْلٌ بِاَصْلِهِ مَعَطُوْفٌ بِمَعْنٰی، مَعَطُوْفٌ عَلِيْهِ بِمَعْفُوْلِيْنَ مَعْفُوْلٌ بِهٖ، الْعِبٰیۡنَ اِسْمٌ قَالِ لَحْنٌ مَسْتَرَقٌ قَالِ سَعَلْ كَمَا خَلَقْنَا كَمَا ضَمِيْر قَالِ سَعَلِ حَالِ هٖ، فَعَلْ بِاِقَالِ مَعْفُوْلٌ بِجَمَلِ فَعَلِيٍّ خَبْرِيٍّ مَسْتَانِ هُوَ۔

## لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهٗوَا لَاتَّخِذْنَهٗ مِنْ لَدُنَّا عَلِيۡنَ كُنَّا فَعَلِيۡنَ ۝

**آیت نمبر ۱۷:** لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهٗوَا لَاتَّخِذْنَهٗ مِنْ لَدُنَّا عَلِيۡنَ كُنَّا فَعَلِيۡنَ  
 اور مفعول بہ یعنی مخدوف ہے مَا لِيْطَهِيْ بِهٖ (محمود صافی) فعل با قائل و مفعول بہ بتاویل مصدر اَرَدْنَا کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لاکر جوابیہ اَتَّخِذْنَا فَعَلْ نا ضمیر قائل نا ضمیر مفعول بہ ہیں حرف جار لَدُنَّا مرکب اضافی اجناسی مجرور، جار با مجرور كُنَّا کے متعلق ہو کر مفعول بہ یعنی، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ اِن حرف شرط كُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس

کلام فعلیْن اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے لَا تَخَذُّنَّاهُ، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُّونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۸:** بَلْ حرف انحراب نَقْذِفُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل بِالْحَقِّ جاد باجر و طرف لغو متعلق اِذْل ہوئے عَلَى اِنْبِطَالِ جاد باجر و متعلق مِثْل ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفی مَعْ فِعْلُ هُوَ مستتر فاعل فَاَصْمِرُ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اِذْل، فَاء عاطفی اِذَا مَاجَاجِیۃ زَاهِقٌ کا مفعول فیہ مقدم هُوَ مضمیر مبتدأ، زَاهِقٌ اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و مفعول فیہ مقدم خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متساوہ ہوں۔ اِذَا اسْتِیْنَا فِیۃ لَكُمُ جاد باجر و طرف مستقر کائِن کے متعلق ہوئے، کائِن اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل مِنْ حرف جاد مَا اسم موصول تَصِفُّونَ فعل باواو مضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجر و طرف لغو کائِن کے متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، الْوَيْلُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متساوہ ہوں۔

**وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مَا وَّ مِنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ لَا**

**يَسْتَخْسِرُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۹:** اِذَا اسْتِیْنَا فِیۃ لَكُمُ جاد باجر و طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَنْ اسم موصول فی حرف جاد السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد باجر و طرف مستقر فعل محذوف ثَبَّت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متساوہ ہوں۔ اِذَا عاطفی مَنْ اسم موصول عِنْدَهُ مَرْكِبِ اِشْنٰی فعل محذوف ثَبَّت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ فعل واو مضمیر فاعل عَنْ حرف جاد عِبَادَتِهٖ مَرْكِبِ اِشْنٰی مجرور، جاد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اِذَا عاطفی لَا یَسْتَخْسِرُوْنَ فعل باواو مضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبریہ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَكُمُ مَنْ... الخ پھر معطوف ہے۔

**يَسْتَبْحُوْنَ الْاَيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۲۰:** يَسْتَبْحُوْنَ فعل واو مضمیر ذوالحال لَا يَفْتُرُوْنَ فعل واو مضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل الْاَيْلَ وَ النَّهَارَ معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ متساوہ ہے، یا لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ کی مضمیر فاعل سے حال ہے۔

**اَمْ اَتَّخَذُوا الْاِلٰهَةَ مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۲۱:** اَمْ بِمَنْ بَلَّ اَتَّخَذُوا فعل واو مضمیر فاعل الْاِلٰهَةَ مفعول بہ اِذْل مِنْ الْاَرْضِ طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ هُمْ مضمیر مبتدأ، يُشْرِكُوْنَ فعل با واو مضمیر فاعل، دونوں مل کر خبریہ، مبتدأ با خبر جملہ

اسیہ خبریہ مستانہ ہوا یا اللہ کی مفت ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲:** لو حرف شرط کا نون فعل ناقص فیہما جاہ باجر در طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم آلہۃ موسوف الاً بمعنی عینو مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مرکب اضافی مفت، موسوف بہفت اسم مؤخر، فعل ناقص ہا ام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام جوابیہ فسدتا فعل الف ضمیر فاعل و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ استینا فیہ سُبْحَانَ مصدر مضاف لفظ اللہ موسوف رَبِّ الْعَرْشِ مرکب اضافی مفت، موسوف بہفت مضاف الیہ، عن حرف جاہ ما موسول یَصِفُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موسول باصلہ مجرور، جاہ باجر در سُبْحَانَ مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر فعل مخدوف تَسْبِيْحٍ کا مفعول مطلق، فعل ناقص و مفعول مطلق جملہ استینائیہ ہوں

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۳:** لَا يُسْأَلُ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل عن حرف جاہ ما مصدریہ یَفْعَلُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جاہ باجر در لَا يُسْأَلُ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ ھُمْ ضمیر مبتدا یُسْأَلُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا باجزاء خبریہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہوں

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ الْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۴:** أَمْ بمعنی بَلْ، اتَّخَذُوا فعل ناقص واو ضمیر فاعل من حرف جاہ دُونِهِ مرکب اضافی مجرور، جاہ باجر در طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ یعنی مقدم آلہۃ مفعول بہ اول مؤخر، فعل ناقص و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں قُلْ فعل امر آتت مستتر فاعل سے مل کر قول، ہاتوا اسم فعل بمعنی فعل امر اور عندا مجہوریہ فعل امر جاہ ہے، واو ضمیر فاعل بُرْهَانَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ناقص و مفعول بہ جملہ انتظامیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انتظامیہ ہوں

هَذَا اسم اشارہ مبتدا، ذِکْرٌ مضاف من موصون معنی مرکب اضافی فعل مخدوف کَبِتَ کا مفعول بہ ہو کر صلہ، موسول باصلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف علیہ ہوا و عاطفہ ذِکْرٌ مَنْ قَبْلِي کی ترکیب ذِکْرٌ مَنْ مَعِيَ کی مثل ہے، اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ اسیم خبریہ مطلقہ یا مستانہ ہوں بَلْ حرف اضراب أَكْثَرُهُمْ مرکب اضافی مبتدا، لَا يَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْحَقِّ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ ھُمْ ضمیر مبتدا مُعْرِضُونَ اسم فاعل ھُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا باجزاء خبریہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا باجزاء خبریہ خبریہ مستانہ ہوں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۲۵﴾



معطوف، معطوف علیہ، بمعطوف ہُمُ بِأَمْرِیْہِ معطوف ہے۔

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ إِنَّي إِلَهٌ مِثْلَ دُونِهِ فذَلِكَ نَجْرِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْرِيِ  
الظَّالِمِيْنَ ۝۲۹

**آیت نمبر ۲۹:** واو عاطفہ من ام شرط مبتدأ، يَقُلْ فعل ہو متصرف ذوالحال منہم طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ حال، ذوالحال باحال قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق یاہ ضمیر اس کا اسم الہ موصوف من دُونِہ طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ صفت، موصوف ہسنت اِنَّ کی خبر اِنَّ کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول باقولہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائیہ ذلک اسم شدہ مبتدأ نَجْرِيْ فعل نَحْنُ مستقر قائل ہ ضمیر مفعول بہ اول جَهَنَّمَ مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہُمُ مِّنْ حَشِيْبَتِيْہِہ معطوف ہے۔ کذَلِكَ جہد باجرور طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ بواسطہ موصوف مخدوف جَزَاء کے مفعول مطلق مقدم نَجْرِيْ فعل نَحْنُ مستقر قائل الظَّالِمِيْنَ مفعول بہ، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۳ ●

اَوَلَمْ يَرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ  
الْمَاۗءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۳۰

**آیت نمبر ۳۰:** ہمیزہ حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ يَنْفَكُوْا (روح المعانی) لَمْ يَرِ فعل اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا موصول باصلہ قائل اَنَّ حرف تحقیق السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ معطوف علیہ بمعطوف اسم کائنات فعل ناقص الف ضمیر اس کا اسم رَتْقًا مصدر خبر ہے، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ فَتَقْنَا فعل ناقص ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف خبر اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بنا دلیل مصدر لَمْ يَرِ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقائل و مفعولین جملہ انشائیہ ہو کہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف بمعطوف جملہ متانہ ہوں واو استینافیہ جَعَلْنَا فعل ناقص ضمیر قائل مِنَ الْمَاۗءِ طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ حال مقدم كُلَّ معنی شئی ہو سخی مرکب توسیعی معنی ابیہ، پھر مرکب اضافی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہے، اور علامہ اَلَوْسِی کے نزدیک اَنَّ السَّمٰوٰتِ بمعطوف ہے۔ ہمیزہ حرف استفہام فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے يَنْفَكُوْنَ ذلک، (روح المعانی) لَا يُؤْمِنُوْنَ فعل ہادوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانہ ہوں۔

وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوْاۗسِيۡمًاۙ اَنْ تَبۡسِيۡدَ بِہِمۡمٍ مَّوۡجَعَلْنَا فِيْہَا فِجَاۗجًاۙ سُبُلًاۙ لَّعَلَّہُمۡ يَهْتَدُوْنَ ۝۳۱

**آیت نمبر ۳۱:** واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل ناقص ضمیر قائل فِي الْاَرْضِ طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ مفعول بہ ثانی مقدم رَوْاۗسِيۡمًا مفعول بہ اول مؤخر، اَنَّ حرف مصدر ی و نصب تَبۡسِيۡدَ فعل ہو ضمیر مستقر قائل بِہِمۡمٍ جہد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر بتاویل

مصدر بواسطہ مضاف مخدوف گواہی کے مفعول لہ، فعل باقاعل ومفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ پہلے جَعَلْنَا پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل فیہا ظرف مستقر کا تینہ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم ہے جَعَلْنَا جَمِیْلٌ مِنْ سُبُلًا یَدُلُّ مِنْ یَدُلُّ مفعول بہ اول، وخر، فعل باقاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ دوسرے جَعَلْنَا پر معطوف ہے۔ لَعَلَّ حرف تری ہُمہ ضمیر اس کا اسم ہے فَتَدُوْنَ فعل ہاواؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر خبر لَعَلَّ ہا، اسم و خبر جملہ انتہائی مُلَّہ ہے یا رَاجِعٌ اِیْتِنَا اَتِيَهُمْ کی تاویل میں ہو کر جَعَلْنَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰیٰتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل السَّمَاءَ مفعول بہ اول سَقْفًا مَحْفُوظًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ تیسرے جَعَلْنَا پر معطوف ہے۔ واو استینا یہ ہُمہ ضمیر مبتدأ عن حرف جار ایتھا مرکب اضافی باجرور، جہد باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے مُعْرِضُونَ اسم فاعل ہُمہ ضمیر مستقر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیہ خبریہ متانہ ہو۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۲:** واو استینا یہ ہُو ضمیر مبتدأ الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہُو مستقر فاعل النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ یہ معطوف علیہ باعطفات ثلاثہ مفعول بہ، فعل باقاعل ومفعول بہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیہ خبریہ متانہ ہو۔ كُلٌّ مبتدأ فی فَلَكٍ ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے يَسْبَحُونَ فعل ہاواؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیہ خبریہ الكشمس وغیرہ سے حال ہے۔ جملہ متانہ ہے (روح المعانی)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۗ اِذْ اَقْبَلْنَ مِنْتَ فَهْمُ الْخُلْدِ ۚ وَنَ ﴿۳۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** واو استینا یہ مَا نے جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لاہر حرف جار بَشَرٍ موصوف من قَبْلِكَ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت باجرور، جہد باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم الْخُلْدُ مفعول بہ اول مؤخر، فعل باقاعل و متعلقین جملہ متانہ ہو۔ ہَذِهِ حرف استفہام قاء استینا یہ (محمود صانی) ان حرف شرط صیغہ فعل تاء مفتوحہ فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قاء جزائی ہُمہ ضمیر مبتدأ الْخُلْدِ وَنَ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

كُلُّ نَفْسٍ ذٰۤاٰبِقَةٌ ۗ الْمَوْتُ ۗ وَ اَنْبَاۤءُ الْاٰیٰتِ ۗ وَ اَلْحٰیٰرَةُ ۗ وَ اَلْخٰیۡرُ ۗ فَتَنَةٌ ۗ وَ اَلْاٰیٰتُ ۗ جَعُونَ ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۴:** كُلُّ نَفْسٍ مرکب اضافی مبتدأ اَنْبَاۤءُ الْاٰیٰتِ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیہ خبریہ مُلَّہ ہو۔ واو عاطفہ یا استینا یہ نَبُوْا فعل نَحْنُ مستقر فاعل کُمہ ضمیر مفعول بہ، بآء جملہ الشَّرِّ وَالْخٰیۡرُ معطوف علیہ باعطف باجرور، جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے فَتَنَةٌ مفعول لہ ہے، یا اسم فاعل کے معنی میں ہو کر نَبُوْا کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا مَن غَیْر تَقْرِیْبِ مفعول مطلق ہے (روح المعانی) فعل باقاعل متعلق ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہے یا كُلُّ نَفْسٍ پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ اَلْحٰیۡرَةُ جملہ باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے،

تُوْجُوْنَ فَعْلٌ بِمَجْهُولٍ مُّثَمَّرٍ نَائِبٍ قَائِلٍ وَمُتَعَلِّقٍ مُّتَقَدِّمٍ سَلِّ كَرَجَلٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ نَبْوَةٌ كُفْرٌ مَعْطُوفٌ بِهٖ۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُوا إِلَٰهًا إِلَّا هُوَ وَإِلَٰهَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَٰهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ يَدْعُونَ الرَّحْمٰنَ هُمْ كَفِرُونَ ۝

**آیت نمبر ۳۶:** اَوَاٰسِتِيْنَا فِرَآءَا شَرِيْعِيَّةٍ مَفْعُوْلٍ فِيْهِ مُقَدِّمٌ اِيْهِ فَعْلٌ كَا فِ مَعِيْرٍ مَفْعُوْلٍ بِهٖ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَوْصُوْلٌ بِاصْلٍ قَائِلٍ، فَعْلٌ بِاقَائِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ جَمَلٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ شَرْطِيَّةٍ بِاِنْ نَا فِيْ يَتَّخِذُوْنَ فَعْلٌ دَاوُدٌ مَعِيْرٍ قَائِلٍ مَكَافٍ مَعِيْرٍ مَفْعُوْلٍ بِهٖ اَوَّلُ اِلْاَحْرَافِ اسْتِثْنَاءٌ هُوَ وَاسْتِثْنَاءٌ مَفْرُغٌ مَفْعُوْلٍ بِهٖ اِيْنِ، فَعْلٌ بِاقَائِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ جَمَلٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ جَمَلٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ۔ هَمْزٌ كَا حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ هٰذَا اِسْمٌ اَشْرَفٌ مَبْتَدَا، اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ يَدْعُوْنَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ اَلْاِهْتِكُمْ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِيٌّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فَعْلٌ بِاقَائِلٍ وَمَفْعُوْلٍ بِهٖ صِلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاصْلٍ خَبْرٌ، مَبْتَدَا اِبْرَاجِرِ جَمَلٍ اَسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَ كَرِيْمٌ قَوْلُوْنَ مَحْذُوفٌ كَا مَقْوَلٌ هُوَ كَرِيْمٌ يَتَّخِذُوْنَ كِي مَعِيْرٍ قَائِلٍ سَلِّ حَالٍ بِهٖ وَاَوْعَالِيَّةٍ هُمْ مَبْتَدَا، اِنْبَاءٌ جَمَلٌ يَدْعُوْنَ اَلرَّحْمٰنِ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِيٌّ مَجْرُورٌ، جَمَلٌ بِجَرٍّ وَر كَرِيْمٌ قَوْلُوْنَ كَيْ مَتَعَلِّقٌ مُّتَقَدِّمٌ هُمْ مَعِيْرٌ اِيْكَلِيَّةٌ هُمْ مَعِيْرٌ كِي تَاكِيْدٌ بِهٖ، كَرِيْمٌ قَوْلُوْنَ اِسْمٌ قَائِلٌ هُمْ مَعِيْرٍ قَائِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ مُّتَقَدِّمٌ سَلِّ كَرَجَلٍ هُوَ كَرِيْمٌ جَمَلٌ هُوَ كَرِيْمٌ، مَبْتَدَا اِبْرَاجِرِ قَوْلُوْنَ مَحْذُوفٌ كِي مَعِيْرٍ قَائِلٍ سَلِّ حَالٍ بِهٖ۔

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَاوِرِيْكُمْ اِلَيْقِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا ۝

**آیت نمبر ۴۷:** خُلِقَ فَعْلٌ بِمَجْهُولٍ الْاِنْسَانُ ذُو الْاِلْحَا مِنْ عَجَلٍ جَمَلٌ بِجَرٍّ وَرْطَرَفٍ مُسْتَقَرٌّ كَاثِمًا كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَر حَالٌ ذُو الْاِلْحَا بِاِحَالٍ نَائِبٍ قَائِلٍ، فَعْلٌ بِمَجْهُولٍ بِاِتْبَاعِ قَائِلٍ جَمَلٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَ سَيِّدِيْنَ عَلَا مَت، فَعْلٌ، اُوْرِيْ فَعْلٌ اَنَّا اسْتَرْتَابٌ قَائِلٌ كُفْرٌ مَعِيْرٍ مَفْعُوْلٍ بِهٖ اَوَّلُ اِلْيَقِيْ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِيٌّ مُنْصَوْبٌ مُقَدِّمٌ مَفْعُوْلٍ بِهٖ اِيْنِ، فَعْلٌ بِاقَائِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ جَمَلٍ مُسْتَاخْرٌ هُوَ قَاةٌ نَصِيْرٌ اَوْرَاسِ كِي شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِهٖ اِنْ سَاَلْتَهُمْ هَيِّئْا لَّا تَسْتَعْجِلُوْا فَعْلٌ نِيْ دَاوُدٌ مَعِيْرٍ قَائِلٍ نُونٌ بَرَاءٌ وَتَايِيْدٌ تَخْفِيْفٌ كِي وَجْهٌ سَلِّ اِيْاصِلٌ كِي رَاعِيَّةٌ كِي مَنَابِتٌ سَلِّ مَحْذُوفٌ يَاءٌ مَفْعُوْلٍ بِهٖ، فَعْلٌ بِاقَائِلٍ وَمَفْعُوْلٍ بِهٖ جَمَلٌ اِنْبَاءِيَّةٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِاِجْرَاءٍ جَمَلٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ۔

وَيَقُولُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۸:** اَوَاٰسِتِيْنَا فِرَآءَا شَرِيْعِيَّةٍ مَفْعُوْلٍ فِيْهِ اِدَاوُدٌ مَعِيْرٍ قَائِلٍ جَمَلٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ قَوْلٌ مَعْنٰى اسْتِفْهَامِيَّةٍ كَاثِمًا مَفْعُوْلٍ فِيْهِ هُوَ كَر خَبْرٌ مُقَدِّمٌ هٰذَا الْوَعْدُ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَبْدَلٌ مِنْهُ اِبْدَالٌ يَأْتِيْنَ بِاِعْطَافٍ، اِيْانٌ مَبْتَدَا اِبْرَاجِرِ، مَبْتَدَا اِبْرَاجِرِ جَمَلٍ اَسْمِيَّةٍ اِنْبَاءِيَّةٍ هُوَ كَر مَقْوَلٌ، قَوْلٌ بِاِقْوَلٍ جَمَلٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مُسْتَاخْرٌ بِاِنْ حَرْفٌ شَرْطٌ كُنْتُمْ فَعْلٌ تَا قَصٌّ مَعِيْرٍ اِسْمٌ كَلَامٌ صٰدِقِيْنَ اِسْمٌ قَائِلٌ اَلْتُمْ مُسْتَرْتَابٌ قَائِلٍ، دَوْلُوْنَ اِلْ كَر خَبْرٌ، فَعْلٌ تَا قَصٌّ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَ كَر شَرْطٌ مَجْرُورٌ جَزَاءٌ مَحْذُوفٌ بِهٖ مَعْنٰى هٰذَا الْوَعْدُ حَسْبٌ، جَمَلٌ اَوَّلِيٌّ اِبْدَالٌ بِهٖ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ جَمَلٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ۔

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكْفُوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

**آیت نمبر ۳۹:** لَوْ حَرْفٌ شَرْطٌ يَعْلَمُ فَعْلٌ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَوْصُوْلٌ بِاصْلٍ قَائِلٌ حِيْنَ مَضَافٌ لَّا يَكْفُوْنَ فَعْلٌ دَاوُدٌ مَعِيْرٍ قَائِلٍ عَنْ حَرْفٌ جَمَلٌ وُجُوْهِهِمْ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِيٌّ مَجْرُورٌ، جَمَلٌ بِجَرٍّ وَرْطَرَفٌ مَتَعَلِّقٌ هُوَ النَّارُ مَفْعُوْلٍ بِهٖ، فَعْلٌ بِاقَائِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُوْلٍ بِهٖ جَمَلٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ

علیہ، واو عاطفہ لازلہ عن ظہورہم عن وجوہہم پر معطوف ہے، واو عاطفہ لازلہ ہم ضمیر مبتدا، یُنصَرُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، واولوں مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لایکفون پر معطوف ہے، معطوف علیہ یا معطوف جین کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی یَعْلَمَ کا مفعول بہ ہے، (روح المعانی) فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء محذوف ہے، لَمَّا اسْتَعَجَلُوا الْعَذَابَ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَبِيْعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۳۰:** بَلْ حرف انصراب و عطف کا ہی فعل ہی مستتر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ بَغْتَةً اسم فاعل کے معنی میں ہو کر حال، یا تَائِيْ کا مفعول مطلق غیر تفسیر ہے، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ تَبْهَتُ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذل، فقاء عاطفہ لَا يَسْتَبِيْعُونَ فعل واو ضمیر فاعل رَدَّهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لازلہ ہم ضمیر مبتدا، يُنظَرُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف تَائِيْ کا معطوف مبنی ہے، پھر معطوف علیہ یا معطوف لَا يَكْفُونَ پر معطوف ہے (روح المعانی) یا جملہ مستانفہ ہے (حمود صالحی)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** واو استینا فیہ لاکر موطن التسم اسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، اسْتَهْزَيْ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل بآء حرف جار و سئل موصوفین قَبْلِكَ جار باخبر و ظرف مستقر کا تیندہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مجرور، جار باخبر و ظرف لغو اسْتَهْزَيْ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ حَاقَ فعل بآء جار ما الَّذِيْنَ اسم موصول سَخِرُوا فعل واو ضمیر ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کا تیندہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جار باخبر و ظرف لغو حَاقَ کے متعلق ہوئے، ما اسم موصول کا تینا فعل واو ضمیر اس کا اسم پہ جار باخبر و ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے یَسْتَهْزِءُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ حَاقَ کا فاعل ہے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ قسمیہ مستانفہ ہوں۔

﴿۳۱﴾ رُكُوْعُ ۴

قُلْ مَنْ يَكْفُرْ كُفْرًا بِالنَّبِيِّ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۲:** قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، مَنْ اسم استفہام مبتدا، يَكْفُرُ فعل مجہول مستتر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ بآء حرف جر النَّبِيِّ وَالنَّهَارِ معطوف علیہ یا معطوف مجرور، جار باخبر و ظرف لغو متعلق اذل ہوئے، و مِنَ الرَّحْمٰنِ جار باخبر و ظرف لغو متعلق مبنی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ



مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں بیل حرف اضراب ہٹھ ضمیر مبتدا، سخن حرف جر و کڑی مضاف، ریتھم مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جاہ باجر و متعلق مقدم ہوئے مَعْرُضُونَ اسم فاعل ہٹھ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

أَمْرُهُمْ اللَّهُ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتْنَا يُصْحَبُونَ ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۳:** اَمْرُهُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتْنَا يُصْحَبُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اللہ تَمْنَعُهُمْ موصوف تَمْنَعُ فعل (ہی) مستتر فاعل ہٹھ ضمیر مفعول بہ، تیوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ مفت اولیٰ، یوں حرف جر دُونِنَا مرکب اضافی مجرور، جاہ باجر و کڑی کے متعلق ہو کر مفت ثانیہ، موصوف ہَمْتَمْتَمِنَ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں لَا يَسْتَطِيعُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لہ اسے تاکید لئی، ہٹھ ضمیر مبتدا، مِتْنَا جاہ باجر و طرف لہو متعلق مقدم ہوئے يُصْحَبُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متساوی ہوں (روح المعانی) یا تَمْنَعُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے (محمود صانی)

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ

نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۴:** بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ کے متعلق ہوئے الْعُمُرُ فاعل، تیوں ل کر کَلَّا معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، حَتَّى حرف غایت و جر طَالَ فعل عَلَیْهِمْ جاہ باجر و طرف لہو متعلق ہوئے الْعُمُرُ فاعل، تیوں ل کر کَلَّا مجرور "مجرور، جاہ باجر و مَتَّعْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، ہَمْزہ حرف استتہام فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے غَفَلُوا (محمود صانی) لَا يَرَوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، اَنْ حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم ثانی فعل نَحْنُ مستتر فاعل الْأَرْضِ مفعول بہ، تیوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اَنْ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، پھر معطوف علیہ محذوف یا معطوف جملہ متساوی ہوں نَنْقُصُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ہَا ضمیر مفعول بہ یوں حرف جاہ باجر و طرف استتہام مرکب اضافی مجرور، جاہ باجر و طرف لہو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ثانی کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ ہَمْزہ حرف استتہام فقاء عاطفہ ہٹھ ضمیر مبتدا، الْغَالِبُونَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ لَا يَرَوْنَ کے معطوف ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ سَلْ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنَادُونَ ﴿۲۵﴾

**آیت نمبر ۲۵:** قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے ل کر قول اِنْ حرف تحقیق کو نہ مآکانہ اَنْذِرُ فعل مفرع اَنْکا مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ بِالْوَحْيِ جاہ باجر و طرف لہو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں واؤ اِسْتِثْنَاءُ لَا يَسْمَعُ فعل الصُّمُّ فاعل الدُّعَاءُ مفعول بہ اِذَا ظرف زمان مضاف مَا زَلَّه يُنَادُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل، دونوں ل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول لہن جملہ فعلیہ خبریہ متساوی ہوں۔

وَلٰكِنْ مَسْتَهْمُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۶:** واوستینا فی لاکر موطنہ للقسیم اور قسم مخدوف ہے ان حرف شرط مَسْتَهْمُ فعل ھُم صمیر مفعول بہ نَفْحَةٌ موصوف من حرف جر عَذَابِ رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و ظرف مستقر کَائِدَةٌ کے متعلق ہو کر مَفْت، موصوف باصفت فاعل، فعل بافاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط لاکر جوابیہ یَقُولُنَّ فعل واؤ مخدوف فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یٰوَيْلَنَا جملہ فعلیہ انتہائیہ معترضہ ہے۔ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ کی ترکیب آیت نمبر ۱۳ میں گزر چکی ہے لاریہ مقولہ ہے، قول یا مقولہ جواب قسم، اور شرط کی جزاء مخدوف ہے جس، جواب قسم وال ہے، قسم باعجاب قسم جملہ انتہائیہ قسمیہ ہوں۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ اٰتَيْنَا بِهَا وَاَوْ كَفَىٰ بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۷:** واوستینا فی نَضَعُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل الْمَوَازِيْنَ موصوف الْقِسْطَ بواسطہ مضاف مخدوف ذَوَاتِ کے مفعول ہے، موصوف باصفت مفعول بہ، لاکر حرف جر يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ لَا تُظْلَمُ فعل مجہول نَفْسُ نائب فاعل شَيْئًا مفعول بہ ہے، یا بواسطہ موصوف مخدوف ظَلَمْنَا کے مفعول مطلق ہے (روح المعانی) فعل مجہول نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانف ہوں۔  
واوستینا فی ان حرف شرط کان فعل ناقص ھُوْ مستتر اس کا اسم مِثْقَالَ حَبَّةٍ مرکب اضافی موصوف مِنْ حَرْدَلٍ جار باجر و ظرف مستقر کَائِدَةٌ کے متعلق ہو کر مَفْت، موصوف باصفت خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اٰتَيْنَا فعل نا ضمیر قائل یہاں جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر تَضَعُ پر معطوف ہے۔ واوستینا فی کَفَىٰ فعل بآء حرف جر ذلک نا ضمیر لفظا مجرور و محلا مرفوع و الحال حٰسِبِيْنَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل، و دونوں مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوں۔

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی وَ هٰرُونَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَآءً وَ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝

**آیت نمبر ۳۸، ۳۹:** واوستینا فی لاکر موطنہ للقسیم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل، اٰتَيْنَا فعل نا ضمیر قائل مُوسٰی وَ هٰرُونَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اٰل الْفُرْقَانَ وَ ضِيَآءً وَ ذِكْرًا معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ ثانی، لاکر حرف جر الْمُتَّقِيْنَ موصوف الَّذِيْنَ اسم موصول یَخْشَوْنَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال بِالْغَيْبِ جار باجر و طرف مستقر مُتَّقِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل رَبَّهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ھُمْ ضمیر مبتدا، مِنْ السَّاعَةِ جار باجر و متعلق مقدم مُشْفِقُونَ اسم فاعل ھُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ الْمُتَّقِيْنَ کی مفعول، موصوف باصفت مجرور، جار باجر و ذِکْرًا کے متعلق ہے اٰتَيْنَا فعل بافاعل

و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم کا جواب، قسم باجواب جملہ انشائیہ قسمیہ مستانہ ہوں۔

و هَذَا اِذْ كَرِهْتَ مَبْرُوكَ اَنْزَلْنَاهُ اَفَا نُنْفِخُ لَهُ مِنْكِرُونَ ﴿۵۰﴾

**آیت نمبر ۵۰:** واوستینا فی ہذا اسم اشارہ مبتدا اذ کرہ مو صوف مَبْرُوكَ اسم مستتر نائب قائل دو دونوں مل کر صفت اولیٰ، اَنْزَلْنَاهُ فعل ناقص ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، مو صوف باصتخین ہذا کی خبر ہے، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ اَنْزَلْنَاهُ ہذا کی خبر تینوں ہو (روح المعانی) ہم نے حرف استفہام فَاہ اوستینا فی اَنْنَفِخُ ضمیر مبتدا کہ جہ باجور و طرف لغو متعلق مقدم مُنْکِرُونَ اسم قائل اَنْنَفِخُ ضمیر مستتر قائل، اسم قائل با قائل و متعلق مقدم خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ مستانہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۵ ●

وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُسُلًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَلِيْمِيْنَ ﴿۵۱﴾

**آیت نمبر ۵۱:** واوستینا فی لآہ مو صوف لقسیم اور قسم مخذوف ہے قَدْ علامت فعل، اَتَيْنَا فعل ناقص ضمیر قائل اِبْرٰهِيْمَ مفعول بہ اول رُسُلًا تا مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، مِنْ قَبْلُ جہ باجور و متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ، معطوف علیہ واو عاطفہ کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسمیہ جہ باجور و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَلِيْمِيْنَ اسم قائل کُنْخُنْ مستتر قائل، اسم قائل با قائل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص ہا قسم ہا خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم باجواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اور کُنَّا بِهٖ عَلِيْمِيْنَ کو اِبْرٰهِيْمَ سے حال بنا بھی درست ہے۔

اِذْ قَالَ لِاٰيٰتِيْهٖ وَوَقٰمِهٖ مَا هٰذِهٖ التَّمٰثِيْلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿۵۲﴾

**آیت نمبر ۵۲:** اِذْ طرف زمان مضاف قائل فعل ہو مستتر قائل لآہ حرف جر اٰيٰتِيْهٖ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ وَقٰمِهٖ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف جہ باجور و متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، معما استفہامیہ مبتدا، هٰذِهٖ اسم اشارہ مو صوف التَّمٰثِيْلُ پھر مو صوف الَّتِي اسم مو صول اَنْتُمْ مبتدا اِنھما جہ باجور و متعلق مقدم ہوئے عٰكِفُوْنَ اسم قائل اَنْتُمْ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر صلہ، مو صول با صلہ اَنْتُمْ کی خبر، مبتدا باخبر التَّمٰثِيْلُ کی صفت، مو صوف ہا صفت هٰذِهٖ کی صفت، پھر مرکب توصیفی خبر، مبتدا باخبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی اَتَيْنَا یا عٰكِفُوْنَ کا مفعول فیہ ہے۔

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿۵۳﴾

**آیت نمبر ۵۳:** قَالُوْا فعل باو لام ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، وَجَدْنَا فعل ناقص نا ضمیر قائل اٰبَاءَنَا تا مرکب اضافی مفعول بہ اول اِنھما جہ باجور و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے عٰبِدِيْنَ اسم قائل هُمْ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر مفعول پہیلی، فعل با قائل و مفعولین مَعًا منصوب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۴﴾  
 ناقص ضمیر ہر دو سوکدا اُنْتُمْ ضمیر تاکید، موکد ہا پاکید معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ بمعطوف  
 کُنْتُمْ کام، فی حرف جر ضلّٰلِ مُّبِينِ مرکب توصیفی مجرور، جاد باجر در کائیندن کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا م و خبر جواب قسم، قسم  
 باجواب قسم جملہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿۵۵﴾  
 بالحق جاد باجر در متعلق ہونے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْرَ عاطفہ اَنْتَ ضمیر مبتدأ مِنَ اللَّاعِبِينَ جاد  
 باجر در ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ  
 خبریہ ہوں۔

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ سَوَاءَ أَمَّا عَلَىٰ ذِكْمِكُمْ مِنَ

الشَّاهِدِينَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ سَوَاءَ أَمَّا عَلَىٰ ذِكْمِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۶﴾  
 و الأرض معطوف علیہ بمعطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی موصوف الذی نام موصول فَطَرَهُنَّ فعل ہُوَ مستقر قائل ہُنَّ ضمیر مفعول بہ،  
 تینوں مل کر سہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَمَّا ضمیر مبتدأ، علیٰ ذِکْمِکُمْ  
 جاد باجر در متعلق مقدم ہونے میں حرف جر الشَّاهِدِينَ نام قائل ہُوَ مستقر قائل و متعلق مقدم سے مل کر مجرور، جاد باجر در ظرف مستقر  
 کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانفہ ہوں۔

وَتَأْتِيهِمْ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: وَتَأْتِيهِمْ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۷﴾  
 و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، لآہر جوابیہ اَكِيدَنَّ فعل اَنَا مستقر قائل أَصْنَامَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بَعْدَ مضاف اَنْ حرف  
 مصدری و نصب تُولُوا فعل واو ضمیر ذوالحال مُدْبِرِينَ نام قائل اُنْتُمْ مستقر قائل، ودونوں مل کر حال، ذوالحال باحال قائل، فعل ہا قائل  
 بتاول مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی اَكِيدَنَّ کا مفعول فیہ، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ  
 انشائیہ رَبُّكُمْ بمعطوف ہے۔

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۵۸﴾



قَالَ بَلْ فَعَلَهُ سَلْ كَيْدُهُمْ هَذَا فَسَعَوْهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۶۱﴾

**آیت نمبر ۶۱:** قَالَ فَعَلَهُ سَلْ كَيْدُهُمْ هَذَا فَسَعَوْهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۶۱﴾  
 موصوف یا مبدل منہ، لہذا صفت یا بدل، موصوف یا صفت قائل، فعل یا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا فقہا نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ اِنْ شَعَلُوا فعل امر او نصیر قائل ہُمْ نصیر مفعول بہ تینوں مل کر جزمہ، شرط با جزمہ جملہ شرطیہ ہوا اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور اس کی جزمہ مخدوف ہے فَسَعَوْهُمْ، شرط با جزمہ جملہ شرطیہ ہوا۔

فَرَجَعُوا اِلَىٰ اَنْفُسِهِمْ فَمَا لَوَالُوا اَنْكُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۶۲﴾

**آیت نمبر ۶۲:** فَاه استینا فیہ یا نصیر اور شرط مخدوف ہے اِذَا تَدَبَّرُوْا (تفسیر) رَجَعُوا فعل واو نصیر قائل اِلَىٰ حرف جر اَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جہد یا مجرور متعلق ہوئے، فعل یا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقہا عاطفہ قَالُوا فعل بلاوہ نصیر قائل قول، اِنْ حرف تحقیق کُم نصیر اس کا اسم اَنْكُم نصیر مبتداء الظَّالِمُونَ خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنْ کی خبر اِنْ بلا سم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ رَجَعُوا معطوف ہے، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متانفہ ہوا یا شرط مخدوف کی جزمہ ہے۔

ثُمَّ نَكِسُوْا عَلٰی رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۶۳﴾

**آیت نمبر ۶۳:** ثُمَّ عطفہ نَكِسُوْا فعل مجہول واو نصیر ذوالحال بحال علی حرف جر رُءُوسِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جہد یا مجرور کا کئیہ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال بحال یا نائب قائل دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قَالُوا ہے لہذا موصوفہ لقسیم اور قسم مخدوف ہے قَدْ ملامت فعل، عَلِمْتُمْ فعل تاء معترضہ نصیر قائل مانا فیہ هُوَ لَا يَنْطِقُونَ فعل بلاوہ نصیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ عَلِمْتُمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل یا قائل و مفعولین جواب قسم، قسم یا جواب قسم قول مخدوف کا مقولہ ہو کر نَكِسُوْا کی نصیر نائب قائل سے حال ہے۔

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۴﴾

**آیت نمبر ۶۴:** قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۴﴾  
 مخدوف ہے تَعْبُدُوْنَ ذَلِكُمْ (روح المعانی) اَتَعْبُدُوْنَ فعل واو نصیر قائل مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ظرف مستقر کَانْتُمْ کے متعلق ہو کر حال مقدم، معاً اسم موصول لَا يَنْفَعُ فعل ہُوَ مستتر قائل کُم نصیر مفعول بہ شَيْئًا بواسطہ موصوف مخدوف اَنْفَعًا کے مفعول مطلق، فعل یا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَضُرُّ فعل ہُوَ مستتر قائل کُم نصیر مفعول بہ، فعل یا قائل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مؤخر ذوالحال بحال تَعْبُدُوْنَ کا مفعول بہ، فعل یا قائل و مفعول بہ جملہ انتہائی معطوف، معطوف علیہ مخدوف یا معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

اَيُّ لَكُمْ وَّلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۵﴾

**آیت نمبر ۶۵:** اَيُّ لَكُمْ وَّلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۵﴾  
 فعل معنی اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اَنْتُمْ مستتر قائل لَكُمْ جہد یا مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لہذا جہد یا معاً موصول

تَعْبُدُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل کا ضمیر منصوب مخدوف ذوالحال میں دُونَ اللّٰهِ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال بحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف اسم فعل کے متعلق ہوئے، اسم فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مسافر ہوا ھبوا حرف استفہام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے (روح المعانی) لَا تَعْبُدُوْنَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مسافر انشائیہ ہوں

قَالُوا حَزَقُوْهُ وَاَنْصُرُوْا اَلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول معز قول افعال امر واؤ ضمیر فاعل کا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْصُرُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل اَلِهَتِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ اِنْ حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص تُكْم ضمیر اس کا اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مارہ جزمہ مخدوف ہے اَنْصُرُوْا اَلِهَتِكُمْ، شرط با جزمہ جملہ شرطیہ ہوں

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: قُلْنَا فعل ناقص فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یادہ حرف ندا اَدْعُوْكَ کے قائم مقام، اَدْعُوْكَ فعل اَنَا ضمیر فاعل، نَارُ مؤنث منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، كُونِي فعل امر ناقص یادہ ضمیر فاعل مفعول متعل اس کا اسم بَرْدًا معطوف علیہ، واو عاطفہ وَسَلَامًا مصدر محلی اِبْرٰهِيْمَ اس کے متعلق، یا کا تینا کے متعلق ہو کر سَلَامًا کی صفت، بحر مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، ندا با جواب ندا مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

www.kitabosunnat.com

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسْرِيْنَ ﴿۷۰﴾ وَنَجَّيْنٰهٗ وَاَوْكَا اِلَى الْاَرْضِ الْتَقٰى بِرُكْنًا فِیْہَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۱﴾ وَوَهَبْنَا لَہٗ اِسْحٰقَ وَاٰیَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكَلَّمَا جَعَلْنٰ صٰلِحِيْنَ ﴿۷۲﴾

آیت نمبر ۷۰، ۷۱، ۷۲: وَاَرَادُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل پہ جاہ مجرور متعلق ہوئے كَيْدًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بقاؤہ عاطفہ جَعَلْنٰهُمْ فعل ناقص فاعل ھُمہ ضمیر مفعول بہ، الْاٰخِسْرِيْنَ مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ وَنَجَّيْنٰهُمْ فعل ناقص فاعل ھُمہ ضمیر منصوب معطوف علیہ، واو عاطفہ اَوْكَا مفعول، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، ہانی حرف جر اَرْضِ موصوف الَّتِی اسم موصول بِرُكْنًا فعل ناقص فاعل فِیْہَا جار مجرور متعلق اول ہوئے لِلْعٰلَمِيْنَ جار مجرور متعلق ہانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف بصفت مجرور، جار مجرور ظرف لَفُوْا وَنَجَّيْنٰهُمْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ وَوَهَبْنَا فعل ناقص فاعل ھُمہ جار مجرور متعلق ہوئے اِسْحٰقَ مفعول علیہ، واو عاطفہ يَعْقُوْبَ ذوالحال حال ذوالحال بحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف وَوَهَبْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَرَادُوْا کا معطوف ثالث ہے، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ مسافر ہوں۔ واو عاطفہ كَلَّمَا مفعول بہ مقدم جَعَلْنٰهُمْ فعل ناقص فاعل صٰلِحِيْنَ مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ وَوَهَبْنَا کا معطوف ہے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿۴۳﴾

**آیت نمبر ۴۳:** او عطف جَعَلْنَاهُمْ فِعْلَ تَا ضمیر قائل ہُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ اول آیت موصوف یَهْدُونَ فِعْلِ داؤ ضمیر قائل بآء حرف جر اَمْرِنَا مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو یَهْدُونَ کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ آيَةً کی صفت، موصوف ہفت مفعول بہ مانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ پہلے جَعَلْنَاهُمْ پر معطوف ہے۔ او عطف اَوْحَيْنَا فِعْلِ تَا ضمیر قائل یَلِيهِمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے فِعْلَ الْخَيْرَاتِ مرکب اضافی معطوف علیہ، او عطف اِقَامَ الصَّلَاةِ مرکب اضافی معطوف اول، او عطف اِيتَاءَ الزَّكَاةِ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اَوْحَيْنَا کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلْنَاهُمْ پر معطوف ہے۔ او عطف كَانُوا فِعْلِ تَا قَس و اَوْ ضمیر اس کا اسم لکن جار با مجرور متعلق مقدم مَعْبُدِينَ اس قائل ہُوَ مستتر قائل و متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل تَا قَس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلْنَاهُمْ پر معطوف ہے۔

وَلَوْ كَا اُتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَتَجْنِيهِ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْثَ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَيَسْقِيْنَ ﴿۴۴﴾

**آیت نمبر ۴۴:** او اوستنا فِی لَوْ كَا مفعول بہ فعل ممدود اُتَيْنَا كَا، اُتَيْنَا فِعْلِ تَا ضمیر قائل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَقْرًا، اُتَيْنَا فِعْلِ تَا ضمیر قائل، ضمیر مفعول بہ اول، حُكْمًا وَعِلْمًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ مانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَقْرًا پھر مَقْرًا مَقْرًا معطوف علیہ، او عطف وَتَجْنِيهِ فِعْلِ تَا ضمیر قائل، ضمیر مفعول بہ من حرف جر الْقَرْيَةِ موصوف الَّتِي كَا اسم موصول كَانَتْ فِعْلِ تَا قَس ہی ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُ فِعْلِ هِی مستتر قائل الْخَبِيْثِ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل تَا قَس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ الْقَرْيَةِ کی صفت، موصوف ہفت مجرور، جار با مجرور وَتَجْنِيهِ كَا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

اِنَّ حرف تحقیق ہُوَ ضمیر اس کا اسم كَانُوا فِعْلِ تَا قَس و اَوْ ضمیر اس کا اسم قَوْمًا سَوِيًّا مرکب اضافی خبر اول فَيَسْقِيْنَ اس قائل ہُوَ مستتر قائل سے ل کر خبر مانی، فعل تَا قَس با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ خبر مانی با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ تَعْمَلُ الْخَبِيْثِ کی تعلیل ہے اور عند البعض وَتَجْنِيهِ كَا کی تعلیل ہے، پہلی صورت راجح ہے۔ (روح المعانی)

وَاَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴿۴۵﴾

**آیت نمبر ۴۵:** او عطف اَدْخَلْنَاهُ فِعْلِ تَا ضمیر قائل، ضمیر مفعول بہ فی حرف جر رَحْمَتِنَا مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر وَلَوْ كَا اُتَيْنَهُ پر معطوف ہے۔ اِنَّ حرف تحقیق تَا ضمیر اس کا اسم من الصَّالِحِيْنَ جار با مجرور ظرف لغو مستتر کائن کے متعلق ہو کر خبر مانی با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں۔

﴿ ۴۵ ﴾ رکوع نمبر ۶ ﴿ ۴۴ ﴾



وَتُوْحًا إِذْ تَادِي مِنْ قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَنَيْنَهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۶۷﴾

**آیت نمبر ۶۷:** واوستینا فی تُوْحًا مفعول بہ ہے فعل مخدوف اذ کز کا، اذ طرف زمان مضاف تادی فعل ہو متعلق از من قبل جہد باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عطفہ استجبتنا فعل نا ضمیر فاعل لہ جہد باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فقاء عطفہ تجبتنا فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر معطوف علیہ، واؤ عطفہ اھلہ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف تجبتنا کا مفعول بہ، من حرف جر الکرْب الْعَظِيمِ مرکب توصیلی مجرور، جہد باجر و در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اذ کا مضاف الیہ، مرکب اضافی تُوْحًا سے بدل ہے (روح المعانی) سیدل منہ باہل تُوْحًا کہ معطوف ہے۔ یا فعل مخدوف اذ کز کا مفعول بہ ہے۔

وَنَصْرُوْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْاَيْتِنَا بِرِاٰتِنَا كَانُوْا قَوْمًا سَوِيْءًا فَاعْرِضْ لَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۶۸﴾

**آیت نمبر ۶۸:** واؤ عطفہ نصرونا فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ من حرف جر القَوْمِ الَّذِيْنَ اسام موصول کذبوا فعل واؤ ضمیر فاعل بالایتنا جہد باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ القَوْمِ کی صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جہد باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ تَجَبَّتْنَا ہ معطوف ہے۔ ان حرف تحقیق ہضم ضمیر اس کا اسم کاتوا فعل نا قس واؤ ضمیر اس کا اسم قَوْمًا سے مرکب اضافی خبر، فعل نا قس ہ ضم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عطفہ اَعْرِضْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہضم ضمیر موصولاً اَجْمَعِيْنَ تاکید، موصول ہ تاکید، موصول بہ، فعل بافاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر، ان ہ ضم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔ (روح المعانی)

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ عَنَمُ الْقَوْمِ ؕ وَكُنَّا لِحٰكِمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿۶۹﴾

**آیت نمبر ۶۹:** واوستینا فی دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ہے فعل مخدوف اذ کز کا، اذ طرف زمان مضاف یَحْكُمْنَ فعل الف ضمیر فاعل فی الْحَرْثِ جہد باجر و متعلق ہوئے اذ طرف زمان مضاف نَفَسَتْ فعل فیہ جہد باجر و در ظرف لغو متعلق ہوئے عَنَمُ الْقَوْمِ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اذ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی یَحْكُمْنَ کا مفعول فیہ ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ اذ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مصدر مخدوف کا مفعول فیہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں خَبْرٌ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ ہے (روح المعانی) واؤ اعتراضیہ کُنَّا فعل نا قس نا ضمیر اس کا اسم لِحٰكِمِهِمْ جہد باجر و شہیدین کے متعلق مقدم ہوئے شہیدین اس فاعل نحن مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل نا قس ہ ضم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مترفع ہوا۔ (روح المعانی) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمٰنَ ؕ وَكَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الظَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿۷۰﴾

**آیت نمبر ۷۰:** فقاء عطفہ فہمنا فعل نا ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ اول سُلَيْمٰنَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ

خریرہ سے نکلیں، معطوف ہے۔ واو عاطفہ کلام معطوف بہ مقدم اکتینا فعل ناقصیر فاعل حکمنا وعلما معطوف علیہ ہا معطوف معطوف بہ ثانی، فعل بافاعل و معطوفین جملہ فعلیہ خبریہ فہمہا ہا ہا معطوف ہے۔ واو عاطفہ سنخو کا فعل ناقص بافاعل و معطوفین جملہ فعلیہ خبریہ فہمہا ہا ہا معطوف ہے۔ واو عاطفہ معطوف فیہ (روح المعانی) الیچبالذوالالستیعین فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل واو بمعنی صاع ۱۱ التظیر معطوف معہ، فعل بافاعل و معطوف معہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے، و ذوالحال باحال سنخو کا معطوف بہ ہے، فعل بافاعل و معطوفین جملہ فعلیہ خبریہ فہمہا ہا ہا معطوف ہے۔ واو عاطفہ کینا فعل ناقص ناقص ضمیر اس کا اسم فاعلین اسم فاعل نھن مستتر فاعل، و دونوں مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ سنخو کا ہا معطوف ہے۔ اور اگر یہ واو علیہ ہو تو سنخو کا کی ضمیر فاعل سے حال ہے

وَعَلَيْكُمْ صِنْعَةٌ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: واو عاطفہ عَلَیْكُمْ لَعَلَّنا فعل ناقصیر فاعل ضمیر معطوف بہ صِنْعَةٌ مضاف لَبُوسِ موصوف لکم جاہا مجرور ظرف مستقر کا تبتیہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف بہ ثانی لاکر حرف جر باری لعلیل اور اس کے بعد ان مقدمہ ہا ہا معطوفین فعل ہی ضمیر فاعل، لکم ضمیر معطوف بہ، یون حرف جر ہا ہا معطوف مرکب اضافی مجرور، جاہا مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و معطوف بہ و متعلق ہا ذیل مصدر مجرور، جاہا مجرور لکم سے بدل ہوئے، فعل بافاعل و معطوفین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ سنخو کا ہا ہا معطوف ہے۔ فاق نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے ان فعلنا لکم ذلک، ہا حرف استفہام انکم مبتدا، شاکرون اسم فاعل انکم ضمیر مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ انتہائیہ جہا، شرط محذوف باجر جملہ شرطیہ ہوا

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِى بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُمْ

شَهِىءٍ عَلِيمِينَ ﴿۸۱﴾

آیت نمبر ۸۱: واو عاطفہ لِسُلَيْمَانَ جاہا مجرور سنخو کا محذوف کے متعلق ہوئے الرِّيحُ وَالْحَالِ عَاصِفَةٌ موصوف تَجْرِى فعل ہی مستتر فاعل بِأَمْرِ جاہا مجرور متعلق ہوئے اِلَى حرف جر الْأَرْضِ موصوف الَّتِي اسم موصول لَبُوسِ كُنَّا فعل ناقصیر فاعل فِيهَا جاہا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصوف باصل الْأَرْضِ کی صفت، موصوف ہفت مجرور، جاہا مجرور تَجْرِى کے متعلق ثانی ہوئے تَجْرِى فعل ہی بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ عَاصِفَةٌ کی صفت، موصوف ہفت حال ذوالحال باحال سنخو کا محذوف ہے، فعل ہی بافاعل و متعلق و معطوف بہ جملہ فعلیہ خبریہ پہلے سنخو کا ہا ہا معطوف ہے۔ واو عاطفہ كُنَّا فعل ناقص ناقص ضمیر اس کا اسم بآء حرف جر کئی ہو مرکب اضافی مجرور، جاہا مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَلِيمِينَ اسم فاعل نھن مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ سنخو کا ہا ہا معطوف ہے۔

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغْوِيكَ لَعَلَّكَ تَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِيظِينَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: واو عاطفہ مِّنَ الشَّيْطَانِ ظرف مستقر کا تبتیہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِّنَ اسم موصول يَغْوِيكَ فعل ناقص و واو ضمیر فاعل لَعَلَّكَ تَعْمَلُونَ فعل ناقص بافاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ تَعْمَلُونَ فعل ناقص ناقص ضمیر فاعل عَمَلًا موصوف



### وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۱﴾

**آیت نمبر ۸۱:** واؤ عطفہ اذخَلْنَا لعلنا ضمیر فاعل هُم ضمیر مفعول بہ فی حرف جر رَحْمَتِنَا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، لعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ محذوف ہے اَعْتَقَيْنَا هُمْ تَوَابِ الصَّالِحِينَ (محمود صافی) اِنَّ حرف تحقیق هُم ضمیر اس کلام من الصَّالِحِينَ جار مجرور طرف مستقر کَائِنُونَ کے متعلق ہو کر اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

### وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۲﴾

**آیت نمبر ۸۲:** واؤ استیناف ذَا النُّونِ یہ اصل میں خبر ذَا النُّونِ ہے پھر یہ مرکب اضافی ہو کر فعل محذوف اذْ كَرُوْا مفعول بہ ہے اذ طرف زمان مضارع ذَهَبَ فعل هُوَ مسترزو الحال مُغَاضِبًا اسم فاعل هُوَ مسترزو قائل، و نون ل کر حال، و ذوالحال باحال قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عطفہ لکن فعل هُوَ مسترزو قائل اَنْ محذوف من اللہ ضمیر شان مقدر اس کلام لَنْ نَقْدِرَ فعل نَحْنُ مسترزو قائل عَلَیْهِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، لعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتادیل مصدر لکن کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فقاء عطفہ نَادَى فعل هُوَ مسترزو الحال فی الظُّلُمَاتِ جار مجرور کَائِنَا کے متعلق ہو کر حال، و ذوالحال باحال قائل اَنْ محذوف من اللہ ضمیر شان محذوف اس کلام لَنْ نَقْدِرَ جِئْنَا إِلَهَ الْمَبْدَلِ مِنَ الْآحْرَفِ اسْتَهْ أَلَّتْ إِلَهَ کے محل سے بدل ہے، مبدل منہ بادل لاکلام ہے، اور خبر محذوف ہے هُوَ جُودًا، لاپسے اسم و خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حرف جر محذوف کا مجرور، جار مجرور نَادَى کے متعلق ہوئے، لعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اذ ذَهَبَ الی، مضارع باضاف الی خبر مصدر مضارع محذوف کا مفعول فی ہے۔ سُبْحَانَكَ مرکب اضافی فعل محذوف تَسْبِيْحٍ کا مفعول مطلق ہے، لعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ مخرضہ دعائیہ ہو کر اِنَّ حرف تحقیق یَاءَ ضمیر اس کلام کُنْتُ فعل ناقص تَاءَ مضمومہ ضمیر اس کلام من الظَّالِمِينَ طرف مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر خبر، لعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

### فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَجَّعْنَاهُ مِنَ الْعَرَمِ وَأَوْكَدْنَا وَكَيْفَ الْمُنْمِئِينَ ﴿۸۳﴾

**آیت نمبر ۸۳:** فقاء عطفہ اسْتَجَبْنَا لعلنا ضمیر فاعل لهُ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطفہ وَوَجَّعْنَا لعلنا ضمیر فاعل تَا ضمیر مفعول بہ مِنَ الْعَرَمِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، جار مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نَادَى، معطوف ہے۔ واؤ استیناف کَذَلِكْ جار مجرور طرف مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَنْجِيَّةً کے مفعول مطلق مقدم ہے۔ تَجِيْلِي لعلنا ضمیر فاعل الْمُنْمِئِينَ مفعول بہ، جار مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

### وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۴﴾

**آیت نمبر ۸۹:** وَاوَاثِيْنَانِيْزٍ كَرِيْمًا ۝۸۹ فعل محذوف اذْ كُرُوْا کا مفعول بہ ہے اذْ ظرف زمان مضاف تا دای فعل ہو مستتر فاعل زِيْرَةٌ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی حَيْرٌ مصدر مضاف کا مفعول فیہ ہے، سب یہ اصل میں یکا زِيْرَةٌ ہے اور یہ علامہ ہے، لَا تَنْدُوْا فعل نَمَى اَنْتَ مستتر فاعل نون و قایہ کا یہ آید ضمیر و الحال فَوْدًا حال و الحال باحال مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ جواب علامہ، علامہ باجواب جملہ انشائیہ علامیہ ہو کر فعل علامہ کی تفسیر ہے۔ یَقَالُ اَنْتَ محذوف کا مقولہ ہو کر تا دای کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ وَاوَا عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اِنْ لَمْ تَنْزُوْا فَنُحِيْۤیْ وَ لَمَّا يَرِ ۝۹۰ اَنْتَ مبتدأ حَيْرٌ الْوَارِثِيْنَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ باخبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط اور جزاء محذوف ہے فَحَسْبِيَ اَنْتَ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰی وَ اَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسِرُّوْنَ فِي

الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَآرْعَبًا وَرَهْبًا ۝۹۰ وَ كَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝۹۱

**آیت نمبر ۹۰:** قَاۤءَ عَاطِفٌ اَسْتَجَبْنَا لِعَلِّ نَا ضمیر فاعل لَمْ جاد باخبر و ر ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ وَ هَبْنَا فعل نَا ضمیر فاعل لَمْ جاد باخبر و متعلق ہوئے یعنی منسوب تقدیر کا مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، وَاوَا عاطفہ اَصْلَحْنَا فعل نَا ضمیر فاعل لَمْ جاد باخبر و متعلق ہوئے زَوْجَهُ مرکب اضافی مفعول بہ فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین تا دای بہ معطوف ہے۔ اِنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کالام کاؤ افعال ناقص وَاوَا ضمیر اس کالام یُسِرُّوْنَ عَوْنٌ فعل وَاوَا ضمیر فاعل فی الْخَيْرٰتِ جاد باخبر و متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ يَدْعُوْنَ فعل وَاوَا ضمیر فاعل نَا ضمیر مفعول بہ رَعَبًا وَ رَهْبًا معطوف علیہ با معطوف مفعول لہ، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف کاؤ اکی خبر، فعل ناقص وَاوَا ضمیر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنْ خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں۔ وَاوَا عاطفہ كَانُوْا افعال ناقص وَاوَا ضمیر اس کالام لَمْ جاد باخبر و متعلق مقدم ہوئے خٰشِعِيْنَ اسم فاعل اس میں هُمْ ضمیر فاعل، اسم فاعل باقاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر کاؤ اکی خبر، فعل ناقص وَاوَا ضمیر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کاؤ اکی اِنْسَاۤءٍ عَوْنٌ بہ معطوف ہے۔

وَ الْبِقٰۤءِ اٰخَصَّنٰتْ فَرَجَهَا فَفَخَحْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ اِبْنَهَا آيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۹۱

**آیت نمبر ۹۱:** وَاوَاثِيْنَانِيْزٍ الْبِقٰۤءِ اسم موصول اٰخَصَّنٰتْ فعل جی مستتر فاعل فَرَجَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، بقاء عاطفہ نَفَخْنَا فعل نَا ضمیر فاعل فِيْهَا جاد باخبر و متعلق ہوئے مِنْ رُّوْحِنَا مرکب اضافی مفعول بہ جزاء جاد باخبر و متعلق ثانی، فعل باقاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاوَا عاطفہ جَعَلْنَا فعل نَا ضمیر فاعل هَا ضمیر منسوب معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ اِنْبَاهَا مرکب اضافی مفعول، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اول آيَةً موصوف لِّلْعٰلَمِيْنَ جاد باخبر و ر ظرف مستقر کاؤ اکی کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول ہاصلہ مفعول بہ ہے فعل محذوف اذْ كُرُوْا کا اذْ كُرُوْا فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل و مفعول بہ لہ کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں



**آیت نمبر ۹۷: ۹۷:** حَقَّقْ اِبْتِدَاءِهَا اِذَا شَرَطِيه مفعول في مقدم فِتْحَتْ فاعل مجهول يَأْجُوجُ وَ مَا أَجُوجُ معطوف عليه با معطوف  
 ذوالحال، واو حالیه هُم ضمیر مبتدأ، من حرف جر كَلِمٍ كَلِمٍ مركب انشائي جرور، جاد با جرور متعلق مقدم مَبْنِيَةٌ فاعل واو ضمیر قائل اور  
 متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فِتْحَتْ کا نائب قائل، فعل مجهول با نائب  
 قائل و مفعول في جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلَّذِي لَفِي الْوَعْدِ الْحَقِّ مركب توصیفی قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ  
 معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مقام جزائیہ اِذَا مَا جَانِبِيه شَاخِصَةً کا مفعول في مقدم ہے۔ ہی ضمیر مبتدأ شَاخِصَةً کا مفعول قائل ہی ضمیر  
 قائل و مفعول في مقدم سے مل کر خبر مقدم اَبْصَارُ مَصَافِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا موصول باصلہ مَصَافِ الیہ، پھر مرکب انشائي مبتدأ سو، خبر، مبتدأ  
 با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہی کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لِيُوَلِّئُكَ لَنَا يه علامہ ہے اور جواب علامہ مخدوف ہے  
 تَكَلَّمَ فَهَذَا اَوَانٌ حَضُوْرِك، علامہ با جواب يَتَقَوَّلُوْنَ مخدوف کا مقولہ ہو کر کفر و اکی ضمیر قائل سے حال ہے۔ قَدْ علامت فعل، لَمَّا فعل  
 ناقص نا ضمیر اس کا اسم في حرف جر عَقْلَةً مصدر من هَذَا جاد با جرور متعلق، مصدر با متعلق جرور، جاد با جرور كَاتِبِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر،  
 فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متساویہ بظن ہو۔ بَلْ حرف عطف برائے ضرب لَمَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم ظَلِيْمِيْنَ اسم  
 قائل لَخْنٌ مستتر قائل، دو قولوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متساویہ ہو۔

**اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وِرْدُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۹۸:** اِنَّ حرف تحقین كُمْ ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول مَعْبُدُوْنَ فاعل واو ضمیر قائل نا ضمیر منصوب  
 مخدوف ذوالحال من دُوْنِ اللّٰهِ جاد با جرور ظرف مستقر كَيْتَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول في فعل، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ  
 خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّ کا اسم، حَصَبٌ جَهَنَّمَ مركب انشائي مبدل من اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ لَهَا  
 جاد با جرور متعلق مقدم وِرْدُوْنَ اسم قائل اَنْتُمْ مستتر قائل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدل، مبدل من با بدل خبر،  
 اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**لَوْ كَانَ هُوَ لِآءِ اِلٰهَةٍ مَّا وَّرَدُوْهَا ۚ وَ كُلٌّ فِيْهَا لٰخِلْدُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۹۹:** لَوْ حرف شرط كان فعل ناقص هُوَ لِآءِ اِلٰهَةٍ خبر فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، مَا  
 ناپیہ وَّرَدُوْا فاعل واو ضمیر قائل نا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كُلٌّ مبتدأ فَيُفِيْهَا جاد با جرور ظرف لغو  
 متعلق مقدم لٰخِلْدُوْنَ اسم قائل هُمْ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ  
 با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَ هُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۰۰:** لَهُمْ ظرف مستقر كَاتِبِيْنَ کے متعلق ہوئے فِيْهَا ظرف لغو كَاتِبِيْنَ کے متعلق ہوئے كَاتِبِيْنَ اسم قائل هُوَ مستتر  
 و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم زَفِيْرٌ مبتدأ سو، خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر منخصل مبتدأ،  
 فِيْهَا ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے لَا يَسْمَعُوْنَ فعل واو ضمیر قائل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ

خبر یہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متساوہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۰﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خُلِدُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۰، ۱۱: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول سَبَقَتْ فعل لہم جہ باجور و طرف لغو متعلق ہوئے و متا جاہ باجور و طرف مستقر کا کائنۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم الحُسْنَى ذوالحال مؤخر و ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ إِنَّ کا اسم اُولَٰئِكَ اسم اشدہ مبتدأ عَنْهَا جاہ باجور و متعلق مقدم ہوئے مُبْعَدُونَ اسم مفعول ہُم مستتر نائب فاعل و متعلق مقدم سے ل کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ إِنَّ کی خبر اول، لَا يَسْمَعُونَ فعل واو ضمیر فاعل حَسِيسَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ثانی إِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ واو عالیہ ہُم ضمیر مبتدأ فی حرف جر ما اسم موصول اشْتَهَتْ فعل اضافی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مجرور، جاہ باجور و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے خُلِدُونَ اسم فاعل ہُم ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے ل کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لَا يَسْمَعُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے (محمود صانی)

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۙ هَٰذَا أَيُّ مَكْمَلٍ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: لَا يَحْزَنُونَ فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ مرکب توصیفی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَتَلَقُّ فاعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ الْمَلَائِكَةُ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف إِنَّ کی خبر ثانی ہے، یا خُلِدُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے هَٰذَا اسم اشدہ مبتدأ، أَيُّ مَكْمَلٍ مرکب اضافی موصوف الَّذِي اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم تُوْعَدُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دو دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ تُوْعَدُونَ کی صفت، موصوف بصفت خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر يَقُولُونَ محذوف کا مقولہ ہو کر تَتَلَقُّ کی ضمیر مفعول سے حال ہے یا الْمَلَائِكَةُ سے حال ہے۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ ۙ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۙ وَوَعْدًا عَلَيْنَا ۙ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: يَوْمَ مضاف كَطَوِي مفعول بہ السَّمَاء مفعول بہ کا حرف جر طَيِّ مصدر مضاف السِّجِلِ مضاف الیہ معنی فاعل لِلْكِتَابِ جاہ باجور و متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و متعلق سے ل کر بتاویل مصدر مجرور، جاہ باجور و طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف طَيِّتًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی لَا يَحْزَنُونَ کا مفعول یہ ہے، یا الْفَرَقُ کا مفعول یہ ہے، یا فعل محذوف اذْكَرُ کا مفعول یہ ہے۔ کا حرف جر ما اسم موصول بِدَأْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل اَوَّلَ خَلْقٍ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر مجرور، جاہ باجور و طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر



بواسطہ موصوف مخدوف اعادۃ کے مفعول مطلق مقدم نُعِيدُ نَحْنُ مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں وَعَدْنَا موصوف عَلَيْنَا ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت فعل مخدوف وَعَدْنَا کا مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم فاعلین اسم فاعل نَحْنُ مستقر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنَّ کی خبر اِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾

**آیت نمبر ۱۰۵:** واو استینانیہ لاکر موطن لکم اور ہم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل کَتَبْنَا فعل نا ضمیر فاعل فی الزَّبُورِ جار مجرور طرف لغو متعلق اول ہوئے، جن حرف جر بَعْدِ الذِّكْرِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے اِنَّ حرف تحقیق الْاَرْضَ اس کا اسم یَرْثُ فعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ عِبَادِيَ مرکب اضافی مرفوع تقدیر موصوف الصَّالِحُونَ صفت، موصوف ہفت یَرْثُ کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر مَعْلَا منصوب کَتَبْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم باجواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۱۰۶﴾

**آیت نمبر ۱۰۶:** اِنَّ حرف تحقیق فِي هَذَا ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم لاکر نہ ملکہ بَلَاغًا مصدر لاکر حرف جر قَوْمِ عَابِدِينَ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، مصدر با متعلق اِسْم مَوْخِر اِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾

**آیت نمبر ۱۰۷:** واو عاطفہ مَا نَابِي اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل کان ضمیر منصوب ذوالحال، بِالْاَحْرَفِ استنساخ حَقِيْقَةٌ موصوف لِّلْعَالَمِينَ جار مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مَسْتَوْفٍ مفرغ ہو کر حال ذوالحال بافعال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

قُلْ اِنَّمَا يُؤْتِي الْحَيٰۤا اِلَيْنَا الْهٰكُمُ اللّٰهُ وَ اِحٰدٌ ؕ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۸﴾

**آیت نمبر ۱۰۸:** قُلْ فعل امر اِنَّكْ مستقر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، اِنَّ حرف تحقیق كُنُوْنَ، مَا كَانُوْا عَلٰی لُغْلٍ مجبول اِلَيْنَا جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے اِنَّ حرف تحقیق مَا كَانُوْا الْهٰكُمُ مرکب اضافی مبتدأ، اللّٰهُ وَ اِحٰدٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر يُؤْتِيْ عَلٰی كَاتِبِ فاعل، فعل مجبول ہا ہا ب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقول، قول با مقول جملہ انشائیہ امریہ ہوں قَاءَ نصیحہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ جَاءَكُمْ عَلْمٌ ذٰلِكَ، هَلْ حرف استہمام اَنْتُمْ ضمیر مرفوع مبتدأ مُسْلِمُوْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستقر فاعل بدوونوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط مخدوف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اَدْنٰتُكُمْ عَلٰی سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرٰى اَقْرَبٰى اَمْرٌ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۹﴾

**آیت نمبر ۱۰۹:** قَاءَ استینانیہ اِنَّ حرف شرط تَوَلَّوْا فعل نا ضمیر فاعل بدوونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَاءَ جزاء قُلْ فعل امر

اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، اذْذَنْتَ فعل قائم مضمومہ ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ علی سَوَاءٍ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر فاعل یا مفعول سے حال ہے، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ موقول، قول یا مقولہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہول و او عاطفہ  
 اِنْ بانیہ اذْذَنْتَ فعل اَنْتَا مستتر فاعل ہمزہ حرف استفہام قَرِیْبٌ معطوف علیہ، اَمْرٌ حرف عطف یَعِیْبُ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف  
 خبر مقدم مآسَم موصول تُوْعِدُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دوونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول یا صلہ مبتدأ مؤخر،  
 مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مفعلاً منصوب اذْذَنْتَ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اذْذَنْتَ کُم مفعول بہ۔

**اِنَّهٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝۱۰**

**آیت نمبر ۱۰:** اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل الْجَهْرُ ذوالحال، مِنَ الْقَوْلِ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال یا حال مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطفہ یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مآسَم موصول تَكْتُمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول یا صلہ یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اِنْ کی خبر اَنْ، مآسَم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہول

**وَ اِنْ اَذْرٰی لَعَلَّہٗ فِتْنۃٌ لَّکُمْ وَ مَتَاعٌ اِلٰی حٰیۃٍ ۝۱۱**

**آیت نمبر ۱۱:** و او عاطفہ قرآن حرف لئی اذْذَرٰی فعل اَنْتَا مستتر فاعل لَعَلَّ حرف ترحی یا ضمیر اس کا اسم فِتْنۃٌ موصوف لَکُمْ جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف علیہ، و او عاطفہ مَتَاعٌ موصوف اِلٰی حٰیۃٍ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خبر، لَعَلَّ مآسَم و خبر مفعلاً منصوب اذْذَرٰی کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ پہلے اِنْ کی معطوف ہے۔

**قُلْ رَبِّ اَحْكُم بِالْحَقِّ وَ رَبِّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ ۝۱۲**

**آیت نمبر ۱۲:** قَالَ فعل ہو مستتر فاعل، دوونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول بہ اس میں یا کہی ہے اور یہ ندا ہے، اَحْكُم فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل بِالْحَقِّ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ انشائیہ جواب ندا، ندا یا جواب جملہ انشائیہ ندا ہے ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول، و او استینافہ یا عطفہ رَبِّنَا مَرْکب انسانی مبتدأ، الرَّحْمٰنُ خبر اَوَّلِ الْمُسْتَعٰنِ، اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل علی حرف جار مآسَم موصول تَصِفُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دوونوں مل کر صلہ، موصول یا صلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، اسم مفعول یا نائب فاعل و متعلق یہ جملہ ہو کر خبر ثانی، پھر مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوا یا مقولہ مفعول ہول۔

**بِحَمْدِہٖ تَعَالٰی**

۱۵ ازواج ۸ ۱۳۳۳ھ بمطابق ۲۰۱۷ء ۷۹ بروز جمعرات المکہ ہوٹل کی بالائی منزل پر سورۃ الانبیاء کی ترکیب لکھنے سے فراغت ہوئی ہے۔

## ترکیب سورۃ الحج

● رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ ۚ اِنَّ زَلٰلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ ۝

**آیت نمبر ۱:** آیات حرف علامہ اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل انا مستتر فاعل اَنْیُّ موصوف ہا برائے عجبہ الناس مفت، موصوف ہفت ملامت موصوف مفعول بہ، فعل ہا فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر علامہ اذْعُو افعال واو ضمیر فاعل رَبَّکُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا فاعل مفعول بہ جملہ انشائیہ جواب علامہ علامہ ہا جواب جملہ انشائیہ علامیہ ہوں اِنْ حرف تحقیق زَلٰلَةَ السَّاعَةِ مرکب اضافی اِنْ کلام شئیء عَظِیْمٌ مرکب توصیفی خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منطوق ہوں۔

یَوْمَ تَكُوْنُ اَنْفُسُهَا تَكُوْنٌ ۝ كُلُّ مَرْضِعٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَكُوْنُ النَّاسُ سُكُوْرٰی وَاَوْعٰی ۝

**آیت نمبر ۲:** مضاف تَكُوْنُ فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ مقدم برائے تَكُوْنُ (محمود الوسی) تَكُوْنُ فعل کُلُّ مَرْضِعٍ مرکب اضافی فاعل عَنْ حرف جر ہا اسم موصول اَرْضَعَتْ فعل ہی مستتر فاعل ہوں مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جار مجرور تَكُوْنُ کے متعلق ہونے، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَضَعُ کُلُّ مَرْضِعٍ مضاف ذاتِ حَمْلٍ مرکب اضافی کُلُّ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فاعل حَمْلُهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ تَكُوْنُ فعل اَنْتِ مستتر فاعل النَّاسُ ذوالحال سُكُوْرٰی حال بذوالحال ہا حال مفعول بہ، واو حالیہ مَا شَابِہ "بہ لیس ہُو ضمیر اس کلام ہا جارہ ذلکہ سُكُوْرٰی ملامت موصوب خبر، مَا شَابِہ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ النَّاسُ کا حال ثانیہ تَكُوْنُ فعل ہا فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، تَكُوْنُ مفعول علیہ ہا معطوفین جملہ متساں ہے یا زَلٰلَةَ سے حال ہے۔ واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لہذا کَلَّمَةُ هَذِهِ، لَکِنَّ حرف مشبہ بالفعل عَذَابُ اللّٰهِ مرکب اضافی اس کلام شہدِیْنَ مینہ مفت ہُو مستتر فاعل سے مل کر خبر، لَکِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متساں ہوں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَّ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطٰنٍ مَّرِیْدٍ ۝

**آیت نمبر ۳:** واو استینا فیه مِنَ النَّاسِ جارہ باجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَعْنِ اسم موصول یُجَادِلُ فعل ہُو مستتر فاعل بِغَیْرِ عِلْمٍ ظرف مستقر مَتَلَبِّسَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہا حال فاعل فی اللّٰہ جارہ باجرور ظرف لغو متعلق ہونے، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَتَّبِعُ فعل ہُو مستتر فاعل کُلُّ مَرْضِعٍ شَیْطٰنٍ مَرِیْدٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف صلہ، موصول ہاصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متساں ہوں۔

### كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

**آیت نمبر ۳:** کُتِبَ فعل مجہول علیہ جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، اَنَّ حرف تحقیق، ضمیر اس کا اسم، معن اس امر شرط متداہ، تَوَلَّى فعل مستقر فاعل ضمیر مفعول یہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائیہ اَنَّ حرف تحقیق، ضمیر اس کا اسم، يُضِلُّ فعل ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول یہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تہدیی فعل ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول یہ الی حرف جر عَذَابِ السَّعِيرِ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول یہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معن کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ اَنَّ کی خبر، اَنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تاویل مصدر کُتِبَ کا نائب فاعل، فعل مجہول بہائِب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شیطین کی صفت ثانیہ ہے، یا جملہ متادہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَّيُبَيِّنَ لَكُمْ وَوَقَّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُوْنَا أَسْدَٰكُمْ ۖ وَوَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَوَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُجْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِّن بَعْدِ عِلْمِ شَيْءًا وَوَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبَتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيحٍ ۝

**آیت نمبر ۵:** يَا أَيُّهَا النَّاسُ کی ترکیب شروع صورت میں گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے، اِن حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم فی حرف جر رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ جار باجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہفت مجرور، جار باجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائیہ اِن حرف تحقیق، ضمیر اس کا اسم خَلَقْنَا فعل ناقص فاعل ضمیر مفعول یہ، مِّن تُرَابٍ جار باجرور معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ، ثُمَّ نُّطْفَةٍ جار باجرور معطوف اَوَّل، ثُمَّ عاطفہ مِّن عَلَقَةٍ جار باجرور معطوف ثانی، ثُمَّ عاطفہ مِّن حُرْمُضَةٍ موصوف مُخَلَّقَةٍ اسم مفعول (ج) مستقر نائب فاعل ہے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مُضْغَةٍ کی صفت، موصوف بہفت مجرور، جار باجرور معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث طرف لغو خَلَقْنَاكُمْ کے متعلق اَوَّل ہوئے، لاہر حرف جر اور اس کے بعد اُن مقدّم ہے کُتِبَ فعل ناقص مستقر فاعل لَكُمْ جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جار باجرور طرف لغو خَلَقْنَاكُمْ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول یہ و متعلقین اِن کی خبر، اِن بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر ندا کا جواب، علامہ باجزاء جملہ انشائیہ ثانیہ ہوں۔

واو استینافہ نُفِقُوا فعل ناقص مستقر فاعل فی الْأَرْحَامِ طرف لغو متعلق اَوَّل ہوئے، مَا اسم موصول نَشَاءُ فعل ناقص مستقر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصل مفعول یہ، الی جار باجمل مُسَمًّى مرکب توصیفی مجرور، جار باجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول یہ

و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مَعطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ مُخْرِجٌ لِعَلِّ نَحْنُ مُسْتَرَفَاعٌ كُنْ مُبْرِدٌ ذَوَالِجَالٍ طِفْلاً حَالٌ بِذَوَالِجَالٍ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِحَالٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ اَوَّلٌ، ثُمَّ عَاطِفٌ لِأَمْرٍ جَارَهُ تَطْلِيَةٌ اَوْرَاسٍ كَبَعْدَانَ مَعْدَرَةً بِتَبْلُغُوا فَعَلٌ وَذُو مُبْرِدٍ فَعَلٌ أَشَدُّ كُنْ مُرَكَّبٌ اِسْمَانِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِحَالٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ وَتَطْلِيَةٌ هُوَ فَعَلٌ مَعْدُوفٌ مُعَيَّرٌ كُنْ كَر، مُعَيَّرٌ فَعَلٌ نَحْنُ مُسْتَرَفَاعٌ كُنْ مُبْرِدٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِحَالٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَتَطْلِيَةٌ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ ثَانِيٌّ، مَعطوفٌ عَلَيْهِ بِمَعطوفَيْنِ جَمْلَةٌ مَسْتَانَةٌ هُوَل

وَ اُوَ عَاطِفٌ وَنِزْهُ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَرَفَاعٌ كُنْ كَر تَطْلِيَةٌ هُوَ كَر خَبَرٌ مُقَدَّمٌ مَعْنَى اِسْمٍ مَوْصُولٍ يُكْوَفِي فَعَلٌ مَجْمُولٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ تَابٌ فَعَلٌ سَلٌ كَر صَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصَلَةٍ مُبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِمَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ عَلَيْهِ، وَ اُوَ عَاطِفٌ وَنِزْهُ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَرَفَاعٌ كُنْ كَر تَطْلِيَةٌ هُوَ كَر خَبَرٌ مُقَدَّمٌ مَعْنَى اِسْمٍ مَوْصُولٍ يُؤَدِّي فَعَلٌ مَجْمُولٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ تَابٌ فَعَلٌ اِلَى حَرْفٍ جَرَّ اَزْكَالِ الْعُمُرِ مُرَكَّبٌ اِسْمَانِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لِنَفْسٍ تَطْلِيَةٌ هُوَ، كَر حَرْفٌ جَرَّ كَيْ تَطْلِيَةٌ لِأَيْعَلْمَكَ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ هِيْنَ يُعَدُّ عِلْمٌ جَارٌ بِمَجْرُورٍ تَطْلِيَةٌ هُوَ شَيْءٌ مُنْقَطِعٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِحَالٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ كَر تَاوِيلٌ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ يُؤَدِّي كَر تَطْلِيَةٌ ثَانِيٌّ هُوَ، فَعَلٌ مَجْمُولٌ تَابٌ فَعَلٌ وَمَتَعَلِقِينَ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ صَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِصَلَةٍ مُبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِمَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ، مَعطوفٌ عَلَيْهِ بِمَعطوفٍ جَمْلَةٌ مَسْتَانَةٌ هُوَ (رُوحُ السَّالِي) بِأَيْعَلْمَكَ كُنْ مُقَدَّرٌ مَعطوفٌ هُوَ، وَ اُوَ عَاطِفٌ تَكْوِي فَعَلٌ اَنْتَ مُسْتَرَفَاعٌ اَلْاَرْضِ ذَوَالِجَالٍ هَامِدَةٌ اِسْمٌ فَعَلٌ هِيَ مُسْتَرَفَاعٌ سَلٌ كَر حَالٌ بِذَوَالِجَالٍ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِحَالٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ هُوَل

فَا وَ عَاطِفٌ اِذَا شَرِطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِي مُقَدَّمٍ اَنْزَلْنَا فَعَلٌ نَا مُبْرِدٌ فَعَلٌ عَالِيهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لِنَفْسٍ تَطْلِيَةٌ هُوَ اَلْمَاءُ مَفْعُولٌ بِهِ، جَارٌ سَلٌ كَر جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ كَر شَرْطِيَّةٌ اِيْهَتْ اَنْتَ فَعَلٌ هِيَ مُسْتَرَفَاعٌ سَلٌ كَر جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ عَلَيْهِ، وَ اُوَ عَاطِفٌ رَيْتَ فَعَلٌ هِيَ مُسْتَرَفَاعٌ، وَ دُونِ سَلٌ كَر جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ اَوَّلٌ، وَ اُوَ عَاطِفٌ اَنْبَيْتَ فَعَلٌ هِيَ مُسْتَرَفَاعٌ هِيْنَ حَرْفٌ جَرَّ كُنْ مَضَافٌ رَفُوحٌ بِهَيْبِجِ مُرَكَّبٌ تَوْصِيْلِيٌّ مَضَافٌ اِلَيْهِ، مَجْرُورٌ اِسْمَانِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ اَنْبَيْتَ كَر تَطْلِيَةٌ هُوَ، فَعَلٌ بِحَالٍ وَمَتَعَلِقِينَ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ ثَانِيٌّ، مَعطوفٌ عَلَيْهِ بِمَعطوفَيْنِ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ جَوَاهِرٌ، شَرْطِيَّةٌ بِجَوَاهِرٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَل

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُعْطِي الْمَوْتِي وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦٧﴾

آيَةٌ نَصْبِيَّةٌ: ذٰلِكَ اِسْمٌ اَشْرَفٌ، مُبْتَدَأٌ بِهَاءِ حَرْفٍ جَرَّ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ اَللّٰهُ اَسْمٌ كَامِلٌ هُوَ مُبْرِدٌ مُنْفَعِلٌ مُبْتَدَأٌ الْحَقُّ خَبَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِمَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ اَنْ كِي خَبَرٌ، اَنْ بِاِسْمٍ وَخَبَرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ عَلَيْهِ، وَ اُوَ عَاطِفٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ نَا مُبْرِدٌ اِسْمٌ كَامِلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ اَلْمَوْتِي مُنْصَوْبٌ تَقْدِيْرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَيْنِ سَلٌ كَر جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ كَر اَنْ كِي خَبَرٌ، اَنْ بِاِسْمٍ وَخَبَرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ اَوَّلٌ، وَ اُوَ عَاطِفٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ نَا مُبْرِدٌ اِسْمٌ كَامِلٌ عَلِيٌّ حَرْفٌ جَرَّ كُنْ هُوَ مُرَكَّبٌ اِسْمَانِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ تَطْلِيَةٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ وَتَطْلِيَةٌ مُقَدَّمَةٌ سَلٌ كَر شَرْطِيَّةٌ جَمْلَةٌ هُوَ كَر خَبَرٌ، اَنْ بِاِسْمٍ وَخَبَرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعطوفٌ ثَانِيٌّ، مَعطوفٌ عَلَيْهِ بِمَعطوفَيْنِ تَاوِيلٌ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لِنَفْسٍ تَطْلِيَةٌ هُوَ كَر تَطْلِيَةٌ هُوَ كَر ذٰلِكَ خَبَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِمَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَسْتَانَةٌ هُوَل

وَاَنَّ السَّاعَةَ اِيْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٦٨﴾

**آیت نمبر ۷:** **وَإِذِ اسْتَأْتَنِي يَا مُحَمَّدُ أَنْ حُرِفَ تَحْتِ السَّاعَةِ** اس کا اسم ایہ ہے مستتر فاعل ہے مستتر فاعل سے مل کر خبر ازل، لا نلی جس ریب اس کا اسم فیہا جہد باجہر و طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، لا ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ان کی خبر یعنی، ان ہام و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق لفظاً للکس کا اسم بیعت فعل ہو مستتر فاعل من ہام موصول فی القبول طرف مستقر فعل معذوف ثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ان ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

**وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝**

**آیت نمبر ۸:** **وَإِذِ اسْتَأْتَنِي مِنِ النَّاسِ جَدٍ** باجہر و طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم من ہام موصول یجادل فعل ہو مسترزوالحال بہاء حرف جر معطوف علیہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ لا زلہ ہدی معطوف ازل، واو عاطفہ لا زلہ کتب مبین مرکب توصیفی معطوف مثنیٰ، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جہد باجہر و طرف مستقر متکینسا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال یجادل کا فاعل فی اللہ جہد باجہر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں۔

**ثَانِي عِظْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ؕ إِنَّ فِي الدُّنْيَا خِرَافٌ وَنَذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ**

**الْحَرِيْقِ ۝**

**آیت نمبر ۹:** **ثَانِي عِظْفِهِ** مرکب اضافی یجادل کی ضمیر فاعل سے حال ہے لاہ حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے لیضلل فعل ہو ضمیر مستتر فاعل عن سبیل اللہ جہد باجہر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتادل مصدر مجرور، جہد باجہر و طرف لغو یجادل کے متعلق ہوئے کہ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی الدنیا ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم خیر ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نذیق فعل نخذن مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ ازل یوم القیامۃ مرکب اضافی مفعول بہ، عذاب الحریقی مرکب اضافی مفعول بہ مثنیٰ، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

**ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَكَيْسٌ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝**

**آیت نمبر ۱۰:** **ذَلِكَ** اسم اشارہ مبتدا بہاء حرف جر ہام موصول قدمت فعل یدک مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہد باجہر و طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق لفظاً للہ اس کا اسم لکیس فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم بہاء حرف جر لفظاً ظلام صیغہ مبالغہ ہو مستتر نائب فاعل للعبید جہد باجہر و طرف لغو متعلق ہوئے، صیغہ مبالغہ بافاعل و متعلق ملامتو خبر، لکیس فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان ہام و خبر بتادل مصدر مبتدا معذوف الا مڑو کی خبر ہے (روح المعانی) مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ ان اللہ کا عطف ما مصدریہ ہو۔

● رکوع نمبر ۲ ●

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِن أَصَابَتْهُ  
فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

**آیت نمبر ۱۱:** واؤ استیناء فیہ من الناس جہ باجہ و طرف مستقر کا تعلق ہے متعلق ہو کر خبر مقدم، من اسم موصول یُعْبُدُ فعل  
ہو مستقر فاعل لفظاً لکھے مفعول بہ، علی حَرْفٍ ظرف مستقر مُسْتَقَرًّا کے متعلق ہو کر یُعْبُدُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل ہا قائل  
و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں  
فما تقریر یہ یا ماطفران حرف شرطاً اَصَابَ فعل ضمیر مفعول بہ خَيْرٌ فاعل، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اَطْمَأَنَّ  
فعل ہو مستقر فاعل پہ جہ باجہ و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واؤ  
ماطفہ ان حرف شرطاً اَصَابَتْ فعل ضمیر مفعول بہ فِتْنَةٌ فاعل تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطاً اِنْقَلَبَ فعل ہو مستقر ذوالحال  
خَسِرَ فعل ہو مستقر فاعل الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ماعطوف علیہ ماعطوف مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنْقَلَبَ کی ضمیر فاعل  
سے حال ہے علی و وجہہ جہ باجہ و رکاوہ کے متعلق ہو کر اِنْقَلَبَ کی ضمیر فاعل سے حال ثانیہ ہے، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با  
جزاء جملہ شرطیہ معطوف، ماعطوف علیہ ماعطوف جملہ معطوفہ ہوں ذلک اسم اشارہ مرفوع عملاً مبتدأ ہو ضمیر فعل الخُسْرَانِ  
المُبِينِ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَا مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝

**آیت نمبر ۱۲:** يَدْعُوا فعل ہو مستقر فاعل من دُونِ اللَّهِ ظرف مستقر کا تعلق ہے متعلق ہو کر حال مقدم، مَا اسم موصول لَا يَنْصُرُهُمْ  
فعل ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ ماطفہ مَا اسم موصول لَا يَنْفَعُهُمْ فعل  
ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ ماعطوف ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال  
يَدْعُوا کا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں ذلک اسم اشارہ ہو ضمیر فعل الضَّلَالُ الْبَعِيدِ مرکب توصیفی  
خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

يَدْعُوا لَمَن صَرَكَ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِمَا لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝

**آیت نمبر ۱۳:** يَدْعُوا فعل ہو مستقر فاعل لاہر ابتداء من اسم موصول صَرَكَ مرکب اضافی مبتدأ اَقْرَبُ اسم تفضیل ہو مستقر  
فاعل من حرف جر نفعہ مرکب اضافی مجرور، جہ باجہ و اَقْرَبُ کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل ہا قائل و متعلق خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
صلہ، موصول باصلہ يَدْعُوا کا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں لاہر موطن للقرآن اور قسم محدود ہے لَيْسَ فعل  
ذم المَوْلَىٰ فاعل ہوں توں مل کر خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدأ محدود ہے ہو، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ اضافی ہو کر جواب قسم، قسم بہ جواب  
معطوف علیہ، واؤ ماطفہ لَيْسَ الْعَشِيرُ کی ترکیب لَيْسَ المَوْلَىٰ کی طرح ہے اور یہ اس پر معطوف ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ

اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

**آیت نمبر ۱۴:** إِنَّ حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسمِ مُدْخِلُ فعلِ ہو مستترِ فاعلِ الَّذِينَ اسمِ موصولِ آمَنُوا فعلِ واوِ ضمیرِ فاعلِ ہے مل کر معطوفِ علیہ، واوِ عاطفہ عَمِلُوا فعلِ واوِ ضمیرِ فاعلِ الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوفِ محذوفِ الْأَعْمَالِ کے مفعولِ بہ، فعلِ بافاعلِ ومفعولِ بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوفِ علیہ با معطوفِ صلہ، موصولِ باصلہ یُدْخِلُ کا مفعولِ بہ، جَنَّاتٍ موصوفِ تَجْرِي فعلِ مِنْ تَحْتِهَا جارِ باجور و ظرفِ لِمَوْ معلقِ ہوئے الْأَنْهَارُ فاعلِ، فعلِ بافاعلِ و متعلقِ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوفِ ہافت مفعولِ فیہ، فعلِ بافاعلِ و مفعولینِ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبرِ اَنَّ، بالاسمِ و خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ متانوہ۔ اِنَّ حرفِ تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسمِ یَفْعَلُ فعلِ ہو مستترِ فاعلِ مَا اسمِ موصولِ یُرِيدُ فعلِ ہو مستترِ فاعلِ، دونوں مل کر صلہ، موصولِ باصلہ مفعولِ بہ، فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبرِ اَنَّ، بالاسمِ و خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ متانوہ۔ (علامہ آلوسی روح المعانی)

مَنْ كَانَ يَتَّقِنَ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ  
ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** مَنْ اسم شرط مبتدأ، كَانَ فعل ناقص ہو مستترِ اَنْ اسمِ یَتَّقِنُ فعلِ ہو مستترِ فاعلِ اَنْ محذوفِ مِنَ اللہ ضمیرِ شانِ مقدّرِ اس کا اسمِ نَنْ یَنْصُرَهُ فعلِ ہو ضمیرِ مفعولِ بہ لفظاً اللہ فاعلِ فی حرفِ جرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ معطوفِ علیہ با معطوفِ مجرور، جارِ باجور و طرفِ لِمَوْ معلقِ ہوئے، فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ و متعلقِ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبرِ اَنَّ، بالاسمِ و خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ یَتَّقِنُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعلِ بافاعلِ و مفعولینِ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبرِ، فعلِ ناقصِ بالاسمِ و خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاءِ جزائیہ لِيَمْدُدْ فعلِ امرِ ہو مستترِ فاعلِ بَاءِ حرفِ جَسَبِ موصوفِ إِلَى السَّمَاءِ جارِ باجور و طرفِ مستقرِ کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوفِ ہافت مجرور، جارِ باجور و طرفِ لِمَوْ معلقِ ہوئے، فعلِ امرِ بافاعلِ جملہ فعلیہ امریہ معطوفِ علیہ، ثُمَّ عاطفہ لِيَقْطَعْ فعلِ امرِ ہو مستترِ فاعلِ جملہ انشائیہ معطوفِ اَوَّلِ فَاءِ عاطفہ لِيَنْظُرْ فعلِ امرِ ہو مستترِ فاعلِ هَلْ حرفِ استفہامِ یُذْهِبَنَّ فعلِ کَيْدَهُ مرکبِ اضافی فاعلِ مَا موصولِ یَغِيبُ فعلِ ہو مستترِ فاعلِ، دونوں مل کر صلہ، موصولِ باصلہ مفعولِ بہ، فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مَلَأَ منصوبِ لِيَنْظُرْ کا مفعولِ بہ، فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ جملہ انشائیہ معطوفِ ثانی، معطوفِ علیہ با معطوفینِ جزاء، شرطِ باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر صَنْ کی خبر، مبتدأ باجور جملہ اسمیہ خبریہ متانوہ۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَأَوْ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ۝

**آیت نمبر ۱۶:** واوِ استینافِ كَذَلِكَ جارِ باجور و طرفِ مستقرِ کائین کے متعلق ہو کر بواسطہ اِنَّ الا موصوفِ محذوفِ کے مفعولِ مطلقِ مقدم ہے اَنْزَلْنَاهُ فعلِ ناقصِ فاعلِ ضمیرِ مفعولِ بہ اَوَّلِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مرکبِ توصیفی مفعولِ بہ ثانی، فعلِ بافاعلِ و مفعولینِ خلاصہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفِ علیہ، واوِ عاطفہ اَنَّ حرفِ تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسمِ يَهْدِي فعلِ ہو مستترِ فاعلِ مَنْ موصولِ یُرِيدُ فعلِ ہو مستترِ



فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ تہدیبی کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر اَنَّ ہاں، خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر اَنْوَلْنٰهُ کی کا ضمیر مفعول بہ اور یہ بھی جائز ہے کہ اَنَّ اللہ جملہ الآمر مبتدأ مخدوف کی خبر ہو۔

**اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّبِيْنَ وَالنَّصْرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا اَسٰنَ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۵**

**آیت نمبر ۱۵:** اِنَّ حرف تحقیق الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا موصول باصلہ مفعول علیہ، واو عاطفہ الَّذِيْنَ هَادُوْا مخدوف اول واو عاطفہ الصَّبِيْنَ مفعول ثانی، واو عاطفہ النَّصْرٰى مفعول ثالث، واو عاطفہ الْمَجُوْسَ مفعول رابع، واو عاطفہ الَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا موصول باصلہ مفعول خامس، مفعول علیہ با مفعولات ثمرہ اِنَّ کا اسم اَنَّ حرف تحقیق لفظ اللّٰہ اس کا اسم یَفْصِلُ فعل ہو مستتر فاعل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فی اول یَوْمَ الْقِيٰمَةِ مرکب اضافی مفعول فی ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اَنَّ ہاں، خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پہلے اِنَّ کی خبر اَنَّ ہاں، خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق لفظ اللّٰہ اس کا اسم علی حرف جار کُنَّ تہیٰ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ہوئے، شَهِيدٌ مینہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے ل کر خبر اَنَّ ہاں، خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيْرٌ حَقًّا عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝۱۸**

**آیت نمبر ۱۸:** ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ اَنَّ حرف تحقیق لفظ اللّٰہ اس کا اسم يَسْجُدُ فعل ہو مستتر فاعل لہٗ جار باجزر ظرف لفظ متعلق ہوئے، مَنْ اس موصول فی السَّمٰوٰتِ ظرف مستقر فعل مخدوف قِيَّت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول علیہ، واو عاطفہ مَنْ اس موصول فی الْاَرْضِ ظرف مستقر فعل مخدوف قِيَّت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول اول، واو عاطفہ الشَّمْسُ مفعول ثانی، واو عاطفہ الْقَمَرُ مفعول ثالث، واو عاطفہ النُّجُوْمُ مفعول رابع، واو عاطفہ الْجِبَالُ مفعول خامس، واو عاطفہ الشَّجَرُ مفعول سادس، واو عاطفہ الدَّوَابُّ مفعول سابع، واو عاطفہ كَثِيْرٌ موصوف من النَّاسِ ظرف مستقر کثیرین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول ثامن، واو عاطفہ كَثِيْرٌ موصوف حَقًّا فعل علیہ ظرف لفظ متعلق ہوئے الْعَذَابُ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفت مفعول تاسع، مفعول علیہ با مفعولات تسع يَسْجُدُ کا فاعل، فعل بافاعل و متعلق اَنَّ کی خبر اَنَّ ہاں، خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انتظامیہ استفہامیہ ہو۔

واو استینافیہ مَنْ اس شرط مفعول بہ مقدم مہین فعل مضارع لفظ اللّٰہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط قیامہ جزائیہ لہٗ جار باجزر و ظرف مستقر کثیرین کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں حرف جزئ لَمْ مکتوم لفظ مجرور و محلاں نوع مبتدأ، خبر، مبتدأ باخبر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق لفظ اللّٰہ اس کا اسم يَفْعَلُ فعل ہو مستتر فاعل ما موصول يَشَآءُ فعل ہو مستتر فاعل سے

مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر ان کے نام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانف ہوں۔  
**هٰذِهِ خَصْمِنِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾**

**آیت نمبر ۱۹:** ہٰذِهِ اسم اشارہ مبتدأ، خَصْمِنِ موصوف اِخْتَصَمُوا فعل واو ضمیر قائل فی حرف جر تہم مرکب اضافی مجرور، جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانف ہوں۔  
 فَاذ تفریہ الذین کفروا موصول باصلہ مبتدأ، قُطِعَتْ فعل مجہول لہم جادہ باجرور و متعلق ہوئے ثیاب موصوف من تاء ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت نائب فاعل، فعل مجہول ہاتھب قائل و متعلق ہلہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اول یصبت فعل مجہول من حرف جرفوقی رءوسہم مرکب اضافی مجرور، جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، والحمیم نائب فاعل، فعل مجہول ہاتھب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ثانی، یا لہم کی ضمیر سے حال ہے، مبتدأ باخبر ان جملہ اسمیہ خبریہ مستانف ہوں۔

**يُصَبُّ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾**

**آیت نمبر ۲۰:** يُصَبُّ فعل مجہول پہ جادہ باجرور و متعلق ہوئے، موصول فی بُطُونِهِمْ ظرف مستقر فعل محذوف یبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْجُلُودُ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نائب قائل، فعل مجہول ہاتھب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الحمیم سے حال ہے۔

**وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾**

**آیت نمبر ۲۱:** واو عاطفہ لہم جادہ باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مقامع موصوف من حدید جادہ باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یصبت پہ معطوف ہے۔

**كَلَّمَآ اَرَادُوْآ اَنْ يَخْرُجُوْآ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيْدُوْآ فِيْهَا سِلَآءٌ وَّذُوْقُوْآ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾**

**آیت نمبر ۲۲:** كَلَّمَآ ظرفی مقسمین معنی شرط مفعول فیہ مقدم اَرَادُوْآ فعل واو ضمیر قائل اَنْ حرف مصدری و نصب یَخْرُجُوْآ فعل واو ضمیر قائل مِنْهَا جادہ باجرور مبدل منہ من غمّ جادہ باجرور مبدل، مبدل منہ ہا بِل یَخْرُجُوْآ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق بتادیل مصدر اَرَادُوْآ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اَعِيْدُوْآ فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل فیہا جادہ باجرور و متعلق ہوئے، فعل مجہول ہاتھب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ واو عاطفہ ذُوْقُوْآ فعل امر واو ضمیر قائل عَذَابَ الْحَرِيْقِ مرکب اضافی مفعول بہ، نیز مل کر جملہ انتہائیہ ہو کر تَقْوَل لَہُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ کا مقولہ ہے، قول با مقولہ اَعِيْدُوْآ کی ضمیر نائب قائل سے حال ہے۔

﴿ ۳ ﴾ رکوع نمبر ﴿ ۳ ﴾

**اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ**

**يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا مَّا وَ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۲۳﴾**

**آیت نمبر ۲۳:** ان حرف تہمتین اللہ اس کا اسم پند خُلُ فعل ہو مستتر قائل الذین اسم موصول امتوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطفہ عَمِلُوا فعل و او ضمیر فاعل الضمیریت بواسطہ موصوف محذوف الآعمال کے مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ یُحَلِّونَ کا مفعول بہ، جنتیہ موصوف تجویر فعلیہ من تحتیہا جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الا تہر قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر بیان ہا سم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**يُحَلِّونَ** فعل مجہول و او ضمیر ہذا مناسب قائل فیہا جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے من حرف جر اسَاوِرَ موصوف من ذہب جہد باجرور ظرف لغو مستتر کلایئہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف علیہ، و او عاطفہ لُؤْلُؤًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل مجہول ہاتھب قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطفہ لِبَاسُهُمْ مرکب اضافی مبتدا، فیہا جہد باجرور کلایئہ کے متعلق ہو کر حال مقدم حَرِيرٌ و اللال مال مؤخر و اللال ہمال خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جنتیہ سے حال ہے، بِالذِّینِ اَمْتُوا سے حال ہے۔

**وَهُدًىٰ اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ سَنَةٌ وَ هُدًىٰ اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿۲۴﴾**

**آیت نمبر ۲۴:** و او عاطفہ هُدًىٰ فعل مجہول و او ضمیر ہاتھب قائل اِلَى حرف جر الطَّيِّبِ ذوالحال من الْقَوْلِ جہد باجرور ظرف لغو مستتر کلایئہ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہمال جمرور جہد باجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول ہاتھب قائل و متعلق معطوف علیہ، و او عاطفہ هُدًىٰ فعل مجہول و او ضمیر ہاتھب قائل اِلَى حرف جر صِرَاطِ الْحَمِيدِ مرکب اضافی جمرور جہد باجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول ہاتھب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یُحَلِّونَ، معطوف ہے۔

**اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءًا لِّعَاكِفٍ فِيْهِ وَ الْبَادِيَةِ مَن يَّرِ ذُنُوْبُهُ يَظْلِمُ نَفْسَهُ مِّنْ عَدَابِ اللّٰهِ ﴿۲۵﴾**

**آیت نمبر ۲۵:** ان حرف تہمتین الذین اسم موصول كَفَرُوْا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطفہ يَصُدُّوْنَ فعل و او ضمیر فاعل عن حرف جر سَبِيْلِ اللّٰهِ مرکب اضافی معطوف علیہ، و او عاطفہ الْمَسْجِدِ موصوف الْحَرَامِ صفت اولیٰ، الَّذِيْ اسم موصول جَعَلْنَا فعل تا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ لِلنَّاسِ جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْمَسْجِدِ کی صفت ثانیہ، موصوف ہاتھتین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جمرور جہد باجرور متعلق ہوئے يَصُدُّوْنَ فعل و او ضمیر فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ ان کا اسم، اور اس کی خبر محذوف ہے هَالِكُوْنَ یا مُعَاكِبُوْنَ وغیرہ ان ہا سم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔



**آیت نمبر ۲۸:** لام حرف جر برائے تلمیح اور اس کے بعد ان مقدّر ہے یَشْهَدُوا الفعل واو ضمیر قائل متناهی موصوف اھم جاہ باجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفیہ یَذْکُرُوا الفعل واو ضمیر قائل اسم اللہ مرکب اضافی مفعول بہ یعنی حرف جرائیمہ مَعْلُومَاتِ مرکب توصیفی مجرور، جاہ باجرور یَذْکُرُوا کے متعلق اہل ہوئے علی حرف جر ہما اسم موصول و زوقی فعل ہو مستتر قائل اھم ضمیر منسوب مفعول بہ اول، اور مفعول بہ ثانی اَیَاتِہِ مخدوف ہے، ومن حرف جر ہیئۃ الأفعال مرکب اضافی مجرور، جاہ باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر زوقی کے مفعول بہ ثانی جو کہ مخدوف ہے سے حال ہے و زوقی فعل اپنے قائل و مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہ باجرور یَذْکُرُوا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ یَشْهَدُوا واو معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف متداول مصدر مجرور، جاہ باجرور ظرف لغو ہو کر یا تلو الفعل کے متعلق ہے فقاء نصیرہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا ذَکَرْتُمْ اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْہِ (فقیر) یا اِذَا صَحَّ الْأَكْلُ، کَلُوا الفعل امر واو ضمیر قائل و مہا جاہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ اَطْعَمُوا الفعل واو ضمیر قائل البیّاتس الفقیر مرکب توصیفی مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مخدوف کی جزاء ہے، شرط مخدوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

**ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا أُذُنَهُمْ وَلِيُقَرِّبُوا إِلَى الْغَيْبِ ۝**

**آیت نمبر ۲۹:** ثُمَّ عاطفہ لِيَقْضُوا الفعل امر واو ضمیر قائل تَفَثَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ لِيُؤْتُوا الفعل امر واو ضمیر قائل اُذُنَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ لِيُقَرِّبُوا الفعل واو ضمیر قائل باء حرف جر البیّاتس الغیبی مرکب توصیفی مجرور، جاہ باجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اَطْعَمُوا معطوف ہے۔

**ذٰلِكَ سِوٰہِ مَنْ يَّعْظَمُ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهٗوَ خَيْرٌ لَّہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ ؕ وَاُحْدِثَ لَكُمْ الْاَنْعَامَ اِلَّا مَا يَنْتَلٰی عَلَيْكُمْ فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝**

**آیت نمبر ۳۰:** ذٰلِكَ اسم اشارہ خبریہ مبتدا مخدوف الّا کو، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استثنائیہ من اسم شرط مبتدا یُعْظَمُ فعل ہو مستتر قائل حُرْمَتِ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائیہ ہو ضمیر مبتدا خَيْرٌ اسم تفضیل ہو ضمیر قائل کہ جاہ باجرور متعلق ہوئے عِنْدَ رَبِّہِ مرکب اضافی مفعول بہ ہے، اسم تفضیل باقائل و متعلق و مفعول بہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استثنائیہ اُحْدِثَ فعل مجہول لکم جاہ باجرور متعلق ہوئے الْاَنْعَامُ مستثنیٰ منہ الْاَحْرَفِ استثناء ما موصول یعنی فعل مجہول ہو ضمیر نائب قائل عَلَیْكُمْ جاہ باجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول بائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ منقطع ہے عند بعض، اور عند بعض متصل ہے، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ اُحْدِثَ نائب قائل، فعل مجہول بائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متنازع ہوں

فقاء نصیرہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ اَرَدْتُمْ الْخَيْرَ فَاَجْتَنِبُوا الفعل واو ضمیر قائل الرّجس ذوالکین من الْاَوْثَانِ جاہ باجرور

ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال و ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ را جتنبوا  
فعل واو ضمیر فاعل قول الرزوق مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط  
مخروف کی جزام، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهَا

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِه الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابِيٍّ ۝

آیت نمبر ۳۱: حُنْفَاءَ مینہ صفت اَلنَّمُ مستقر فاعل لِلَّهِ جہد با جزاء و متعلق ہوئے، مینہ صفت بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر  
اجتنبوا کی ضمیر فاعل ہے، حال اولی ہے، غَيْرَ مضاف مُشْرِكِينَ اسم فاعل اَلنَّمُ مستقر فاعل پہ جہد با جزاء و متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل  
و متعلق شبہ جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اجتنبوا کی ضمیر فاعل ہے، حال ثانیہ ہے۔ واو عاطفہ من اسم شرط مبتدایہ یُشْرِكُ  
فعل ہو ضمیر فاعل بِاللَّهِ جہد با جزاء و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاء جزائیہ کَانَ حرف تشبیہ مَا كَانَهُ حَرَّمَ  
فعل ہو ضمیر فاعل مِنَ السَّمَاءِ جہد با جزاء و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فَاء عاطفہ تَخْطَفُ فعل  
ضمیر مفعول بہ الطَّيْرُ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، او عاطفہ تَهْوِي فعل پہ جہد با جزاء و متعلق اول  
ہوئے الرِّيحُ فاعل فی حرف جر مکان سَحَابِيٍّ مرکب توسیعی جزاء، جہد با جزاء و متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ  
ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر من  
یُعْظَمُ معطوف ہے۔

ذٰلِكَ ۝ وَ مَنْ يُعْظَمُ شَعَابِرَ اللّٰهِ فَانَهَا مِنَ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ۝

آیت نمبر ۳۲: ذٰلِكَ اسم اشارہ و ملامت فرج خبر ہے مبتدایہ مخدوف الّا مودی، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ واو استثنائیہ من اسم شرط  
مبتدایہ یُعْظَمُ فعل ہو ضمیر فاعل شَعَابِرَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاء جزائیہ  
اِنَّ حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم من حرف جر تقوی الْقُلُوْبِ مرکب اضافی جزاء، جہد با جزاء و طرف مستقر کا تینہ کے متعلق ہو کر خبر بیان  
باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متنازعہ ہو۔

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحْلُهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

آیت نمبر ۳۳: لَكُمْ جہد با جزاء و طرف مستقر کا تینہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم فِعْيَا جہد با جزاء و طرف مستقر کا تینہ کے متعلق  
ہو کر حال مقدم مَنَافِعُ موصوفہ اِلٰى حرف جہد اَجَلٍ مُّسَمًّى مرکب توسیعی جزاء، جہد با جزاء و طرف مستقر کا تینہ کے متعلق ہو کر صفت،  
موصوفہ با صفت ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مبتدایہ مؤخر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ مَحْلُهَا مرکب اضافی مبتدایہ  
اِلٰى حرف جر الْبَيْتِ الْعَتِيقِ مرکب توسیعی جزاء، جہد با جزاء و طرف مستقر کا تینہ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف،  
معطوف علیہ با معطوف جملہ متنازعہ ہو۔

### ● رکوع نمبر ۵ ●

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ  
فَالَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَبُوا طَوْ بَشِيرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿۳۵﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا اللَّهُ وَجِلَّتْ  
قُلُوبُهُمْ وَالصُّبْرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقْبِسِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۳۶﴾

**آیت نمبر ۳۵، ۳۶:** او استیانیہ لاکر حرف جر کل اُمَّة مرکب اضافی مجرور، جہاں مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ یعنی مقدم جَعَلْنَا فعل کا ضمیر قائل مَنْسَكًا مفعول بہ اول مؤخر، لاکر حرف جر برای تعلیل اور اس کے بعد ان مقدّم سے یَذْكُرُوا فعل واو ضمیر قائل اسْمُ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ علی حرف جر مِمَّا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اس کی ترکیب آیت نمبر ۲۸ میں گزر چکی ہے اور یہ صلہ ہے، موصول ہاصلہ ظرف لغو رَزَقَ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جہاں مجرور جَعَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متنازعہ ہوا۔ قَاءَ اسْتِیَانِیَہِ الْهُكْمِ مرکب اضافی مبتدأ اللہ و اِجْحَادِ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متنازعہ ہوا۔ قاء اسْتِیَانِیَہِ الْهُكْمِ مرکب اضافی مبتدأ اللہ و اِجْحَادِ مرکب توصیفی خبر، لکہ طرف لغو متعلق مقدم ہوئے

أَسْلَبُوا فعل امر واو ضمیر قائل، تینوں مل کر جہاں، شرط جہاں جملہ شرطیہ ہوں۔

واو عاطفہ بَشِيرِ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل الْمُخْبِتِينَ موصوف، الَّذِينَ اسم موصول اِذَا شرطیہ مفعول فی مقدم ذُکِرُوا فعل مجہول لفظ اللہ نائب قائل تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط و جِلَّتْ فعل قُلُوبُهُمْ مرکب اضافی قائل ہوںوں مل کر جہاں، شرط باجزا صلہ، موصول ہا صلہ الْمُخْبِتِينَ کی صفت، موصوف ہفت معطوف علیہ، واو عاطفہ الصُّبْرِينَ اسم قائل هُمْ مستتر قائل علی حرف جر مِمَّا اسم موصول اَصَابَ فعل ہُوَ مستتر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہاں مجرور متعلق ہوئے، اسم قائل ہا قائل و متعلق یہ جملہ معطوف اول، واو عاطفہ الْمُقْبِسِي صیغہ صفت مضاف الصَّلَاةِ مضاف الیہ ہوںوں مل کر معطوف ثانی، واو عاطفہ مِنْ حرف جر مِمَّا موصول رَزَقْنَا فعل کا ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہاں مجرور طرف لغو متعلق مقدم يُنْفِقُونَ فعل واو ضمیر قائل، فعل ہا قائل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات بَشِيرِ کا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ استیانیہ امریہ ہو کر اَسْلَبُوا پر معطوف ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ مَلِ فَادُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا  
صَوَافٍ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا  
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾

**آیت نمبر ۳۷:** او استیانیہ فی الْبُدْنَ مفعول بہ ہے فعل مخدوف جَعَلْنَا کا جَعَلْنَا فعل کا ضمیر قائل، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مَعْتَرِ جَعَلْنَا فعل کا ضمیر قائل کا ضمیر مفعول بہ اول لَكُمْ جہاں مجرور متعلق ہوئے، مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ظرف مستتر کا کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ یعنی، فعل ہا قائل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جَعَلْنَا مخدوف کیلئے مَعْتَرِ ہے، لَكُمْ جہاں مجرور و طرف

متعلق ہونے کا تین اسم فاعل ہو ضمیر اس کا فاعل فیہا جار مجرور طرف لفظ متعلق ہوئے کا تین کے کا تین اسم فاعل اپنے فاعل و متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم خبیثہ مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسبہ خبریہ ہو کر جملہ انہما کی ضمیر مفعول بہ اول سے حال ہے۔ قاء نصیب اور اس کی شرط مخدوف ہے ان نَحْوِ تَكْوُنُهَا اَذْكُرُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل باسم اللہ مرکب اضافی مفعول بہ، علی حرف جار جار کا ضمیر ذوالحال، صَوِّاْ اَسْمَ فاعل ہی مستتر فاعل سے مل کر حال بذوالحال باحال مجرور، جار مجرور اذْكُرُوا کے متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و مفعول بہ، متعلق جملہ انشائیہ: کہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

قاء عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فی مقدم و جَبْتِ فعل جَزُوْا ہما مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط قاء ہے کَلِمَةُ فاعل امر واو ضمیر فاعل ہنہا جار مجرور متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطْعَمُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل الْقَائِمِ وَ الْمُتَعَتِّرِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوں کَذَلِكْ جار مجرور طرف مستقر کائیتا کے متعلق ہو کر بواسطہ بوصف مخدوف تَشْخِيْوُا کے مفعول مطلق مقدم، سَخَّرْنَا فاعل ہا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ لکھ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں لَعَلَّ حرف تری کُفَّ ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُوْنَ فاعل امر واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لَعَلَّ کی خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ منطوق ہوں یا راجح شُكْرٍ كُفَّ کی تاویل میں ہو کر سَخَّرْنَا فاعل ہا ضمیر فاعل سے حال ہے۔

لَنْ يَنْتَهِ اللهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَنْتَهِ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْتَبُوا وَاللَّهُ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَ يُبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝

آیت نمبر ۳: لَنْ يَنْتَهِ فاعل لفظ اللہ مفعول بہ مقدم لِحُومِهَا مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زَلَّةَ دِمَائِهَا سُرْبِ اِضَائِي معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَكِنْ حرف استدرک مہمل، يَنْتَهِ فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم التَّقْوَى ذوالحال مِنْكُمْ جار مجرور طرف مستقر کائیتا کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہوں کَذَلِكْ جار مجرور طرف مستقر کائیتا کے متعلق ہو کر بواسطہ بوصف مخدوف تَشْخِيْوُا کے مفعول مطلق مقدم، سَخَّرْنَا فاعل ہا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ لکھ جار مجرور متعلق اول ہوئے، لاکہ جارہ تعلیلہ اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ ہے تَكْتَبُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، علی حرف جار ما موصولہ ہڈی فعل ہُوَ فاعل کُفَّ ضمیر منقول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصولہ باصلہ مجرور، جار مجرور تَكْتَبُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، واو استینافیہ يُبَشِّرُ فاعل امر اَنْتَ مستتر فاعل الْمُحْسِنِينَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مستتر ہوں۔

اِنَّ اللّٰهَ يُدْفِعُ عَنِ الدّٰىنِ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كٰفُوْرٍ ۝

آیت نمبر ۳۸: اِنَّ حرف تحمیل لفظ اللہ اس کا اسم يُدْفِعُ فعل ہُوَ ضمیر فاعل عَنِ حرف جر الدّٰىنِ اسم موصول اٰمَنُوْا فاعل امر واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصولہ باصلہ مجرور، جار مجرور يُدْفِعُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ



خبر یہ ہو کر ان کی خبر ان باہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو ان حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم لا یجیب فعل ہو ضمیر فاعل کل مضاف حوآن کفؤ مرکب توسیعی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ان باہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں

● رکوع نمبر ۶ ●

**اِذْ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾**

**آیت نمبر ۳۹:** اِذْ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾  
دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہ با مجرور ظرف نعو متعلق اول، تاہم حرف جر ان حرف تحقیق ہنہ ضمیر اس کا اسم ظلموا فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول ہاتھ با نائب فاعل خبر ان باہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مجرور، جہ با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین، جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واؤ عاطفہ ان حرف تحقیق لفظ اللہ اسم علی حرف جہ نَصْرِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جہ با مجرور ظرف نعو متعلق مقدم ہوئے لہذا حلقہ قَدِيرٌ مینہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر ان باہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِذْ لِلَّذِينَ مفعول ہے۔

**الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ**  
**التَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَيْتُم صَوَاعِجَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَ مَسْجِدًا يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمَ**  
**اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَكِنْ صَرَفَ اللَّهُ مِنْ يَدِ صُرُكًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۰﴾**

**آیت نمبر ۴۰:** الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ التَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَيْتُم صَوَاعِجَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَ مَسْجِدًا يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَكِنْ صَرَفَ اللَّهُ مِنْ يَدِ صُرُكًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۰﴾  
حال، ذوالحال باحال نائب فاعل مِنْ دِيَارِهِمْ جہ با مجرور ظرف نعو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہاتھ با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر ہے مبتدا حذف ہنہ کی، یا آیت نمبر ۳۸ میں مذکور الَّذِينَ اِسْمًا سے بدلے سے اِلَّا حروف استثناء ان حرف مصدری و نصب يَقُولُوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول ہوئے تاکہ مرکب اضافی مبتدا اللہ اسم الجلالہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول، قول با مفعول مستثنی متعلق ہے۔ واؤ استثنائی لَوْلَا تاکہ دفع مصدر مضاف لفظاً اللہ مضاف الیہ معنی فاعل التَّاسِ مبدل منہ بَعْضَهُمْ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بدل دفع کا مفعول یہ بَعْضُ جہ با مجرور دفع کے متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی فاعل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا اور خبر حذف ہے ہو جو جو، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط لہذا جویہ ہنہ صفت فعل مجہول صَوَاعِجَ مفعول علیہ، واؤ عاطفہ بَيْعَ مفعول اول، واؤ عاطفہ صَلَوَاتٍ مفعول ثانی، واؤ عاطفہ مَسْجِدًا موصوف یذکر فعل مجہول فِیہا جہ با مجرور ظرف نعو متعلق ہوئے اِسْمَ اللہ مرکب اضافی نائب فاعل کَثِيرًا ابوابہ موصوف حذف ذکر موصوف مطلق، فعل مجہول ہاتھ با نائب فاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مَسْجِدًا کی صفت (علامہ آلوسی) موصوف ہفت مفعول ثانی، مفعول علیہ با مفعولات ثلاثا ہنہ صفت نائب فاعل، فعل مجہول ہاتھ با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جہا، شرط با جزاء، جملہ شرطیہ مستانہ ہوں۔

واو استینا فی لاکر موطنہ لقسیم اور قسم مخدوف ہے یعنی نفل لفظ اللہ فاعل من اسم موصول ینصرون نفل هو مشترک فاعل ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول باصلہ مفعول بہ، نفل بافاعل ومفعول بہ جواب قسم، قسم باجواب جملہ انشائیہ قسیمیہ ہولین حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم لاکر نہ ملکہ قوی عزیٰ و ذو خبر بان باسم و خبر جملہ اسیہ خبریہ منقلبہ ہوں

الَّذِينَ إِن مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ آقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

**آیت نمبر ۳۱:** الَّذِينَ اسم موصول ان حرف شرط مکتنا نفل فاعل ضمیر مفعول بہ فی الارض جار باجر و متعلق ہونے، نفل بافاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط آقاموا نفل واو ضمیر فاعل الصلوة مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اتوا نفل واو ضمیر فاعل الزکوة مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اتل، واو عاطفہ امرؤا نفل واو ضمیر فاعل بالمعروف جار باجر و طرف نفل متعلق ہونے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ نهوا نفل واو ضمیر فاعل عن المنکر جار باجر و طرف نفل متعلق ہونے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ بالمعطوفات ثلاثہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر صلہ موصول باصلہ یا لہم مبتدا مخدوف کی خبر ہے، یحلا جزو آیت نمبر ۳۸ میں مذکور الَّذِينَ اَمْرًا سے بدل ہے۔ واو استینا فی لاکر جار باجر و طرف مستقر کا ابتداء کے متعلق ہو کر خبر مقدم عاقبۃ الامور مرکب اضافی مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسیہ خبریہ متناہ ہوں

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۖ وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمٌ لُوطٌ ۖ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

**آیت نمبر ۳۲، ۳۳، ۳۴:** واو استینا فی لاکر حرف شرط یکنذبا نفل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عقابہ جزائیہ قتل ملامت نفل، کذبت نفل قبلہم مرکب اضافی مفعول فی قوم نوح مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ عاد معطوف اتل، واو عاطفہ ثمود معطوف ثانی، واو عاطفہ قوم ابرہیم مرکب اضافی معطوف ثالث، واو عاطفہ قوم لوط مرکب اضافی معطوف رابع، واو عاطفہ اصحاب مدین مرکب اضافی معطوف خامس، معطوف علیہ بالمعطوفات خمسہ فاعل، کذبت نفل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کذب نفل مجہول مؤنسی مرفوع تقدیر نائب فاعل، نفل مجہول نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جزاء ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متناہ ہوں

فام عاطفہ املاکت نفل تاکام مضمومہ فاعل للکفرین جار باجر و طرف نفل متعلق ہونے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثم عاطفہ اخذت نفل تاکام مضمومہ ضمیر فاعل هم ضمیر منسوب مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ معطوف ہوں فام استینا فی لاکر کیف طرف زمان کا کیتا کا مفعول فی ہو کر کیتا کا حال مقدم کیتا اصل میں زکیوئی تھا، مرکب اضافی ذوالحال

مؤخر ذوالحال ہمال کان فعل ہما کا قائل ہے، فعل ہما قائل جملہ انشائیہ استہمیہ ہوں۔

**فَكَأَيِّنْ مِنْ قَزِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَهَا عَلَىٰ عُدُوِّهَا وَيُمْرُ مَعْظَلَةٌ وَ**

**قَصْرِ مَشِيدٍ ①**

**آیت نمبر ۳۵:** فَاھ استینافہ کا گزینہ خبریہ میزبون قَزِيَّةٌ جہد باجرور تہیز، میز یا تہیز مبتدأ، اَهْلَكْنَاهَا فعل نا ضمیر قائل ہا ضمیر ذوالحال واو عالیہ می ضمیر مبتدأ، ظَالِمَةٌ قائل ہے مستقر قائل سے ل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال مذوالحال ہمال اَهْلَكْنَاهَا کا مفعول بہ، فعل ہما قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاھ عاقلہ ہے ضمیر مبتدأ، حَاوِيَةٌ قائل ہے مستقر قائل علی حرف جر عُدُوِّهَا کرب انسانی مجرور، جہد باجرور طرف لغو متعلق اسم قائل ہما قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں واو عاقلہ یزیر موصوف مَعْظَلَةٌ قائل ہے مستقر نائب قائل، دونوں مل کر صفت، موصوف با صفت معطوف، موصوف ہا صفت معطوف علیہ، واو عاقلہ قَصْرِ موصوف مَشِيدٍ اسم مفعول ہو مستقر نائب قائل، دونوں مل کر صفت، موصوف ہا صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَزِيَّةٍ خبر معطوف ہے۔

**اَفَلَمْ يَسْبُرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُوْنَ**  
**بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْقِي الْاَبْصَارَ وَ لَكِن تَعْقِي الْقُلُوبُ الْبَاقِي فِي الصُّدُوْرِ ②**

**آیت نمبر ۳۶:** ہمدہ حرف استہمام فَاھ عاقلہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے عَقِلُوا (احمد رضا) لَمْ یَسْبُرُوا فعل واو ضمیر قائل فی الْاَرْضِ جہد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہما قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں فَاھ عاقلہ سبیر تگنوں فعل نا قائل لَمْ لَهُمْ جہد باجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم قُلُوبٌ موصوف يَعْقِلُوْنَ فعل واو ضمیر قائل بِهَا جہد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہما قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہا صفت معطوف، موصوف ہا صفت معطوف، فعل واو ضمیر قائل بِهَا جہد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہما قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہا صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف تگنوں کا اسم مؤخر، فعل نا قائل ہا اسم و خبر بتاویل مصدر یَسْبُرُوْا مصدر معطوف ہے جو لَمْ یَسْبُرُوا سے حاصل کیا گیا ہے فَاھ تعلیل ان حرف تہمتیں ہا ضمیر اس کا اسم لا تَعْقِي فعل ال اَبْصَارَ قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاقلہ لَكِن حرف استدراک ہملہ تَعْقِي فعل الْقُلُوبُ موصوف الْبَاقِي اسم موصول فی الصُّدُوْر جہد باجرور طرف مستقر فعل مخدوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف ہا صفت قائل، فعل ہما قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْ کی خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں۔

**وَيَسْتَعْجِلُوْكَ بِالْعَذَابِ وَ لَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدًا ؕ وَاِنْ يَوْمَ مَا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةِ**  
**مِمَّا تَعْدُوْنَ ③**

**آیت نمبر ۳۷:** او استینافہ یَسْتَعْجِلُوْنَ فعل واو ضمیر قائل کان ضمیر مفعول بہ بِالْعَذَابِ جہد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے،

فعل بافاعل ومتعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستافہ ہوا و احوالیہ یا اعتراضیہ (علامہ آلوسی) لکن يُخْلِفُ فعل لفظاً لآلۃ فاعل وَعَدَ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ العَدَاب سے حال ہے یا آگے کیلئے معطوف علیہ ہے۔ واو عاطفہ اِنْ حرف تحقیق یَوْمَ مَا موصوف عِنْدَ رِبِّكَ مرکب اضافی کائِنَا کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف باصفت اِنْ کلام کاف حرف جر اَلْفِ سَنَةِ مرکب اضافی موصوف مِنْ حرف جر ما موصول تَعْدُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر در ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار باجر در ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر اِنْ ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معترضہ ہے یا العَدَاب کا حال ہے۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَهَا فَمَا جَاءَهَا بِالتَّائِبِينَ ﴿٣٨﴾

آیت نمبر ۳۸: واو استینا فیہ کائِن خبریہ مبرز مِنْ قَرْيَةٍ جار باجر در تمييز، مبرز یا تمييز مفعول بہ ہے فعل محذوف أَهْلَكْتُ کا اَهْلَكْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، أَهْلَكْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل لامر حرف جرہا ضمیر ذوالحال واو حالیہ ہی ضمیر مبتدا، کَالِیْمَةٌ اسم فاعل ہی مستقر فاعل، اسم فاعل بافاعل شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال ہا حال مجرور، جار باجر در ظرف لغو أَهْلَكْتُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومتعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، مفسر با مفسر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ أَخَذْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ مستافہ ہوا و احوالیہ یا اعتراضیہ یا استینا فیہ اِلٰی جار باجر در ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْحَصِيْبُ مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ یا مستافہ ہوا۔

﴿ ۳۸ ﴾ رکوع نمبر ۱

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٣٩﴾

آیت نمبر ۳۹: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل سے مل کر قول، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اس کی ترکیب اس سورت کی پہلی آیت میں گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے، اِنْ حرف تحقیق تَكُونُ، مَا کا نذیر، اَنَا ضمیر مبتدا، لَكُمُ جار باجر در ظرف لغو نَذِيرٌ کے متعلق ہوئے نَذِيرٌ صیغہ صفت اَنَا مستقر فاعل، ومتعلق مقدم سے مل کر موصوف مُبِينٌ صفت، موصوف باصفت خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء یا جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ ہوا۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٤١﴾

آیت نمبر ۴۰، ۴۱: فَآءَ تفریح اَلَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل باوا ضمیر فاعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل باوا ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ باوا ضمیر موصوف محذوف اَلْعَمَالِ کے منقول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف صلہ، موصول باصلہ لَهُمْ جار باجر در ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَغْفِرَةٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ رِزْقٌ کَرِيمٌ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اَوَّلِ کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر

معطوف علیہ، واو عاطفہ انذین نام موصول مستقلاً فعل واو ضمیر ذوالحال معجزین اسم فاعل ھمہ مستتر فاعل دونوں مل کر حال ذوالحال باحال فاعل فی حرف جر ایلتا مرکب اضافی بحر، جہ باجر و مستقلاً کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، اولیٰ لک اسم اشہہ مبتدأ، اهل اصحاب العجینہ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانہ ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَكَّنَّا أَلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ  
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

**آیت نمبر ۵۲:** واو استیناء فی مانا فیہ ارسلا فعل تاضیر فاعل من قبلك جہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے من حرف جر زائد رسول معطوف علیہ واو عاطفہ لازلہ نبی معطوف، معطوف علیہ بمعطوف موصول الآخر استیناء اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم تمکن فعل ھو مستتر فاعل و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط القى فعل الشیطان فاعل فی حرف جر امنیئہ مرکب اضافی بحر، جہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، اولیٰ لک اسم اشہہ مبتدأ، اهل اصحاب العجینہ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانہ ہوں۔

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ  
الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

**آیت نمبر ۵۳:** لآہر حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدم ہے لیجعل فعل ھو مستتر فاعل ما موصول یلقى فعل الشیطان فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ اول فتنۃ موصول لآہر حرف جر انذین اسم موصول فی قلوبہم جہ باجر و طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم مراض مبتدأ، اخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ واو عاطفہ القاسیۃ اسم فاعل قلوبہم مرکب اضافی فاعل، اسم فاعل بافاعل شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف بحر، جہ باجر و طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر فتنۃ کی صفت، موصول ہفت مفعول بہ یعنی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر بحر، جہ باجر و طرف لغو یسخر یا یحکم کے متعلق ہوئے۔ واو استیناء فی ان حرف تحقیق الظالمین اس کا اسم لآہر مقدم فی حرف جر شقاق بعید مرکب تو صیغی بحر، جہ باجر و طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

**آیت نمبر ۵۳:** وَاَوْعَافُ لَاهِرُ حَرْفِ جَرِّ مَرْأَةٍ لَعَلَّ اِسْمَ كَيْفِ اِسْمِ مَوْصُولٍ بَاوُؤُ اَوْ اَوْفَلْ  
 جہول واؤ ضمیر نائب فاعل العِلمِ مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول ہاسلہ یَعْلَمُ کا قائل اَنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ نَصِيرِ اِسْمِ کَامِ الْحَقِّ وَوَالِجِ  
 مِنْ زَيَاتِكَ جَدِّ بَاغْرٍ وَظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَاتِبَاتِكَ مَعْتَلِقٌ ہُوَ كَرَّحَالٍ مَذْوَالِجَالٍ بِعَالِ خَبْرٍ اَنْ بَاغْرٍ وَخَبْرُ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ ہُوَ كَيْفِ يَعْلَمُ كے دو مفعول كے  
 قائم مقام، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ یَمُوْا فاعل واؤ ضمیر فاعل یہ جَدِّ بَاغْرٍ وَظَرْفِ لَعُوْ مَعْتَلِقٌ ہونے،  
 فعل ہا قائل و مَعْتَلِقٌ جَمَلِ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعطوف اُولِ فقاء عاطفہ تَحْبِيْثِ لَعَلَّ كَلِمَةُ جَدِّ بَاغْرٍ وَظَرْفِ لَعُوْ مَعْتَلِقٌ ہونے، قَلُوْ يُهْمُ مَرْكَبِ اِمْثَالِ قَائِلِ،  
 فعل ہا قائل و مَعْتَلِقٌ جَمَلِ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعطوف ثانی، مَعطوف علیہ بَاغْرٍ وَظَرْفِ لَعُوْ مَعْتَلِقٌ ہونے، جَدِّ بَاغْرٍ وَظَرْفِ لَعُوْ مَعْتَلِقٌ كے مَعْتَلِقٌ  
 ہونے یَحْكُمُ كے مَعْتَلِقٌ ہونے ساواو اِسْتِثْنَاءِ نِیْرَانِ حَرْفِ تَحْقِيقِ لَفْظِ اَللّٰهِ اِسْمِ کَامِ لَاهِرُ مَذْوَالِجَالِ بَعْتَةً حَالِ دَوْنُوْنَ لُ كَر قَائِلِ، فعل ہا قائل  
 مَضَافِ اِلَیْهِ عَمَّا مَوْصُولِ بِرَبِّ حَرْفِ جَرِّ مَوْصُولِ مَرْكَبِ تَوْصِیْفِ خَبْرٍ جَزْوَیْةٌ اِسْمِ کَامِ لَاهِرُ مَذْوَالِجَالِ بَعْتَةً حَالِ دَوْنُوْنَ لُ كَر قَائِلِ مَضَافِ  
 لَیْ مَضَافِ اِلَیْهِ مَعْنٰی مَوْصُولِ بِہِ و مَعْتَلِقٌ سَلْ كَرْشِبِہِ جَمَلِہِ ہُوَ كَر اِنْ كِي خَبْرِ اِنْ بَاغْرٍ وَظَرْفِ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ مِثْلِ مِثْلِہٖ ہُو۔  
**وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ**  
**عَذَابٌ يَوْمَ عَقَابِهِمْ ۝**

**آیت نمبر ۵۵:** وَاوَاِسْتِثْنَاءِ نِیْرَانِ لَعَلَّ نَاقِصِ النَّدِيْنِ كَفَرُوْا مَوْصُولِ بَاغْرٍ اِسْمِ کَامِ لَاهِرُ مَذْوَالِجَالِ بَعْتَةً حَالِ دَوْنُوْنَ لُ كَر قَائِلِ،  
 ہا جَرِّ وَظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَاتِبَاتِكَ كے مَعْتَلِقٌ ہُوَ كَرْ مَعْت، مَوْصُولِ بَعْتِ جَزْوَیْةٌ جَزْوَیْةٌ جَزْوَیْةٌ مَوْصُولِ جَزْوَیْةٌ جَزْوَیْةٌ جَزْوَیْةٌ  
 غَاثِیۃٌ وَجَزْوَیْةٌ اِسْمِ كَامِ لَاهِرُ مَذْوَالِجَالِ بَعْتَةً حَالِ دَوْنُوْنَ لُ كَر قَائِلِ، فعل ہا قائل و مَعْتَلِقٌ جَمَلِ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعطوف علیہ، اَوْ  
 عَاطِفِ یَأْتِيْ كَر قَائِلِ، فعل ہا قائل و مَعْتَلِقٌ جَمَلِ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعطوف علیہ، عَذَابٌ مَضَافِ یَوْمِ عَقَابِهِمْ مَرْكَبِ تَوْصِیْفِ مَضَافِ  
 اِلَیْہِ، مَعْ مَرْكَبِ اِمْثَالِ یَأْتِيْ كَر قَائِلِ، فعل ہا قائل و مَعطوفِ بِہِ جَمَلِ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعطوف، مَعطوف علیہ بَاغْرٍ وَظَرْفِ لَعُوْ مَعْتَلِقٌ ہونے،  
 مَعْتَلِقٌ ہونے، فعل نَاقِصِ النَّدِيْنِ جَمَلِ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مِثْلِہٖ ہُو۔

**الْمَلِكُ يَوْمَ يَمِيزُ لِيْلَهُ اِيْحُكُمْ بِيْنَهُمْ ۙ قَالَتِ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فِيْ جَنَّتِ  
 النَّعِيْمِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا قَالُوْا لَوْلَا كَاتِبُنَا كَا مَوْصُولِ فِیہِ ہُو، يَوْمَ جَدِّ بَاغْرٍ وَظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَاتِبَاتِكَ كے مَعْتَلِقٌ**

**آیت نمبر ۵۶، ۵۷:** اَلْمَلِكُ مَبْتَدَا يَوْمِ يَمِيزُ مَرْكَبِ اِمْثَالِ كَاتِبُنَا كَا مَوْصُولِ فِیہِ ہُو، يَوْمَ جَدِّ بَاغْرٍ وَظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَاتِبَاتِكَ كے مَعْتَلِقٌ  
 ہونے، كَاتِبُنَا اِسْمِ قَائِلِ ہُوْ ضَمِيرِ اِسْمِ قَائِلِ وَ مَوْصُولِ فِیہِ و مَعْتَلِقٌ سَلْ كَرْشِبِہِ جَمَلِہِ ہُوَ كَر خَبْرِ، مَبْتَدَا خَبْرِ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ مِثْلِہٖ ہُو۔  
 اِيْحُكُمْ بِيْنَهُمْ مَرْكَبِ اِمْثَالِ مَوْصُولِ فِیہِ تینوں مل کر صلہ، موصول ہاسلہ یَمِيزُ کا قائل اِسْمِ کَامِ لَاهِرُ مَذْوَالِجَالِ بَعْتَةً حَالِ دَوْنُوْنَ لُ كَر قَائِلِ،  
 مَوْصُولِ اَمْتُوْا فاعل ہاؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوُ عَاطِفِ عَمِلُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل الصَّلٰحٰتِ بِوَاسِطَةِ مَوْصُولِ مَضَافِ  
 اَلْاَعْمَالِ كے مَوْصُولِ بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، مَعطوف علیہ بَاغْرٍ وَظَرْفِ لَعُوْ مَعْتَلِقٌ ہونے، جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ مِثْلِہٖ ہُو۔  
 مَرْكَبِ اِمْثَالِ جَزْوَیْةٌ جَزْوَیْةٌ جَزْوَیْةٌ مَوْصُولِ بِرَبِّ حَرْفِ جَرِّ مَوْصُولِ مَرْكَبِ تَوْصِیْفِ خَبْرِ جَزْوَیْةٌ اِسْمِ کَامِ لَاهِرُ مَذْوَالِجَالِ بَعْتَةً حَالِ دَوْنُوْنَ لُ  
 مَوْصُولِ كَفَرُوْا فاعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر مَعطوفِ اِلَیْہِ، وَاوُ عَاطِفِ كَذَّبُوْا فاعل واؤ ضمیر فاعل نَبَاہِ حَرْفِ جَرِّ اِتِّتَارِ مَرْكَبِ اِمْثَالِ جَزْوَیْةٌ جَزْوَیْةٌ جَزْوَیْةٌ

ہاجر در طرف نحو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاسلہ مقسّمین معنی شرط مبتدأ لغامہ جزائیہ یا لادۃ اُولَیِّکُمْ اسم شدہ مبتدأ لہُم جملہ ہاجر در طرف مستقر کلّیّ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَدَاثٌ مَہْمُیْنِ مرکب توصیفی مبتدأ موخر، مبتدأ ہاجر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ ہاجر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الّذِیْنِ کی خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ ہاجر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف یتَحَكَّمُ بہ معطوف ہے۔

﴿ ۸ ﴾ رکوع نمبر ۸

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿۸﴾

**آیت نمبر ۵۸:** واؤ عطف الّذِیْنِ اسم موصول ہَاجَرُوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال فی سَبِيلِ اللَّهِ جملہ ہاجر در طرف مستقر کلّیّیْنِ کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال فاعل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف قُتِلُوا فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اُولَیِّکُمْ عطف مَاتُوا فعل واؤ ضمیر فاعل، ہودوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف یعنی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول ہاسلہ مبتدأ لہم موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے یَرْزُقَنَّ فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ، اَللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل رِزْقًا حَسَنًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب جملہ انتظائیہ قسمیہ ہو کر الّذِیْنِ کی خبر، مبتدأ ہاجر جملہ اسمیہ خبریہ پہلے الّذِیْنِ بہ معطوف ہے۔ واؤ اعتراضی رِزْقًا حرف تھمیں اَللّٰهُ اسم الجلالہ اس کا اسم لہم نہ ملحق ہو ضمیر مبتدأ خَیْرُ الرَّزُقِیْنِ مرکب اضافی خبر، مبتدأ ہاجر ان کی خبر بران با م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

لَيَنْجَلِيَنَّهُمْ مَدَّخَلًا يَرْزُقُوهُ ؕ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۹﴾

**آیت نمبر ۵۹:** لاہر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے لَيَنْجَلِيَنَّهُمْ فعل ہُو ضمیر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ اُولَیِّکُمْ مَدَّخَلًا موصوف یَرْزُقُوْنِ فعل ہُو ضمیر فاعل ہُو ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر مفت، موصوف ہفت مفعول بہ یعنی، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب جملہ انتظائیہ قسمیہ ہو کر لَيَنْجَلِيَنَّهُمْ سے بدل ہے واؤ استینا فی ران حرف تھمیں اَللّٰهُ اس کا اسم لہم نہ ملحقہ عَلِيمٌ حَلِيمٌ و خبر بران با م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاثرہ ہوا

ذٰلِكَ ؕ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهٖ ثُمَّ يُغْنِ عَنِّيْ كَيْنُصْرَتُهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ

عَفُوٌّ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۶۰:** ذٰلِكَ خبریہ مبتدأ محذوف اَلْاَمْرُ بِاَلْاَشْاَنِ کی، مبتدأ ہاجر جملہ اسمیہ خبریہ متاثرہ ہوں۔ واؤ استینا فی ہن موصولہ عَاقَبَ فعل ہُو ضمیر فاعل ہَا حرف جر مِثْلِ مضاف مَآسَم موصول عَوْقِبَ فعل مجہول ہُو مستتر نائب فاعل بہ جملہ ہاجر در متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول ہاسلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی ہاجر در، جملہ ہاجر در طرف نحو متعلق ہوئے عَاقَبَ کے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عطف غِنِیْ فعل مجہول ہُو مستتر راجع ہونے مصدر نائب فاعل عَلَیْکُمْ جملہ ہاجر در متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ

فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، لامر موطرہ، القسم اور قسم مخدوف ہے، یَنْصُرُونَ فعل کا ضمیر منصوب مفعول بہ، واللہ اسم الجلالہ، قائل، ینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، دونوں مل کر خبر، ینا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں، اِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا لامر مذکر ملحقہ لَعَفُوْا غَفُوْرُوْا خبر اِنَّ، ہام و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ منقلبہ با مستانہ ہوں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُؤَلِّجُ النّٰلَ فِي التّٰهَارِ وَيُؤَلِّجُ التّٰهَارَ فِي النّٰلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۶۱: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، بَاء حرف جر اِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم يُؤَلِّجُ فعل ہو مستتر قائل النّٰل مفعول بہ فی التّٰهَارِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاو عاطفہ يُؤَلِّجُ فعل ہو مستتر قائل التّٰهَارِ مفعول بہ فی النّٰلِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کی خبر اِنَّ، ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ دو خبر اِنَّ، ہام و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبٰطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْكَبِيْرُ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۶۲: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، بَاء حرف جر اِنَّ حرف تحقیق لفظ اللّٰه اس کا اسم هُوَ ضمیر مبتدأ، الْحَقُّ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَنَّ کی خبر اِنَّ، ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق مآس موصول يَدْعُوْنَ فعل کا ضمیر قائل، هُوَ ضمیر منصوب مقدر ذوالحال مِنْ دُوْنِهٖ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور کائینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باصلہ يَدْعُوْنَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اَنَّ کا اسم هُوَ الْبٰطِلُ مبتدأ با خبر اَنَّ کی خبر اِنَّ، ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، اَو، وَاو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم هُوَ ضمیر مبتدأ، الْعَلِيْمُ الْكَبِيْرُ دو خبر، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ اَنَّ کی خبر اِنَّ، ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۶۳: هَمْزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ فعل اَنْتَ مستتر قائل اَنَّ حرف تحقیق لفظ اللّٰه اس کا اسم اَنْزَلَ فعل ہو ضمیر قائل مِنَ السَّمَآءِ جار مجرور متعلق ہوئے مَآءٌ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فَمَا عاطفہ تُصْبِحُ فعل بافاعل و مفعول بہ اَنَّ کا اسم مُخْضَرَّةً خبر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کی خبر اِنَّ، ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ اضافیہ استفہامیہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق لفظ اللّٰه اس کا اسم لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ دو خبر اِنَّ، ہام و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۱۴﴾



**آیت نمبر ۶۳:** لکہ جہاں باجر در طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم ما موصولہ فی حرف جر السَّمَوَاتِ مجرور، جہاں باجر در طرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما موصولہ فی الْأَرْضِ جہاں باجر در طرف محذوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق لفظا لَلَّهَ اس کا اسم لآرہ مذ حلقہ هُوَ ضمیر مبتدأ، الْعَفْصُ الْوَحِيدُ ذُو جِرِّ، مبتدأ با خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اِنْ خبر، اِنْ با م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاثر ہو۔

﴿ ۱ ﴾ ر کوع نمبر ۹ ﴿ ۲ ﴾

**اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِ ؕ وَ اَوْ يَمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَكَرُوۡمٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۶۴﴾**

**آیت نمبر ۶۴:** ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ فعل آنت ضمیر مستتر ناعل اَنْ حرف تحقیق لفظا لَلَّهَ اس کا اسم سَخَّرَ فعل ہُوَ مستتر ضمیر ناعل لَكُمْ جہاں باجر در طرف لغو متعلق ہوئے ما موصولہ فی الْأَرْضِ جہاں باجر در طرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْفُلْكَ ذوالحال تَجْرِى فعل ہی ضمیر مستتر ذوالحال بِاَمْرِ جہاں باجر در طرف مستقر مَمْلُوكَةٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال تَجْرِى کا ناعل فی الْبَحْرِ جہاں باجر در طرف لغو تَجْرِى کے متعلق ہوئے، فعل با ناعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف سَخَّرَ کا مفعول بہ، فعل با ناعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ خبر، اِنْ با م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر متاویل مفرد لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با ناعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

واو استینافیر مَيْسِكُ فعل ہُوَ مستقر ناعل السَّمَآءِ مفعول بہ اَنْ حرف مصدری و نسب تَقَعَ فعل ہی مستقر ناعل عَلَى الْاَرْضِ جہاں باجر در طرف لغو متعلق اَوَّل ہوئے اَلَا حرف استفہام بِاَمْرِ حرف جرائذیہ مرکب اضافی مجرور، جہاں باجر در طرف لغو مستثنیٰ مفرغ متعلق معنی ہوئے، فعل با ناعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر بواسطہ مضاف محذوف خَشِيَّةٌ کے مَيْسِكُ کا مفعول لہ ہے، فعل با ناعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متاثر ہو ل اِنْ حرف تحقیق اَللّٰهَ اسم الجلال اس کا اسم بِالنَّاسِ جہاں باجر در طرف لغو عَوْفٌ کے متعلق ہوئے لآرہ مذ حلقہ هُوَ ضمیر مبتدأ، اِنْ با م و خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ متاثر ہو۔

**وَ هُوَ الَّذِىۡ اٰخِيَاكُمْ ؕ ثُمَّ يَمِيۡتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيۡكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنۡسَانَ لَكَفُوۡرٌ ﴿۶۵﴾**

**آیت نمبر ۶۵:** واو استینافیر اٰخِيَاكُمْ ہُوَ ضمیر مبتدأ، الَّذِىۡ با م موصول اٰخِيَاً فعل ہُوَ مستقر ناعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل با ناعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ يَمِيۡتُكُمْ فعل ہُوَ مستقر ناعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّل، ثُمَّ عاطفہ يُحْيِيْكُمْ فعل ہُوَ مستقر ناعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاثر ہو ل اِنْ حرف تحقیق اَلْاِنۡسَانَ اس کا اسم لآرہ مذ حلقہ كَفُوۡرٌ خبر اِنْ با م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاثر ہو۔

لَٰكِن اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَاۓزِعُنَكَ فِي الْاَمْرِ وَاذْعُرْ اِلَى رَبِّكَ طَائِفًا

لَعَلَّ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝

**آیت نمبر ۶۷:** لآخر حرف جر کے اُمَّة مرکب اضافی مجرور، جار باجر در ظرف مستقر کا کینا کے متعلق ہو کر مفعول بہ مابنی مقدم جَعَلْنَا فعل تانیہ فاعل مَنْسَكًا موصوف ہُم ضمیر مبتدأ نَاسِكُوْهُ موصوف مرکب اضافی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ اول مؤخر، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قیام نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ نَاقَشُوْكَ فِيْ اَمْرِ الشَّرِيْعَةِ، لَا يُنَاۓزِعُ عَنْ فِعْلِ وَاَوْ مَحذُوْف لِقَاءِ السَّكِيْنِ فاعل کاف ضمیر مفعول بہ فی الْاَمْرِ جار باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں وَاَوْ عاطفہ اذْعُرْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل الی حرف جر رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ لَا يُنَاۓزِعُ عَنْ ہر معطوف ہے اِنْ حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم لام نہ طلق علی حرف جار هُدًى مُّسْتَقِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جار باجر در ظرف مستقر کا کین کے متعلق ہو کر اِنْ کی خبر اِنْ کلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا

وَاِنْ جَدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۶۸:** وَاَوْ عاطفہ اِنْ حرف شرط جَدَلُوْكَ فعل وَاَوْ ضمیر قائل کاف ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قیام جزائیہ قُلِ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل ہوں و انوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول بِاللّٰهِ مبتدأ اَعْلَمُ اسم تفضیل ہُوْ مستتر قائل بآء حرف جر مَا موصول تَعْمَلُوْنَ فعل وَاَوْ ضمیر قائل ہوں و انوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر در متعلق ہوئے نام تفضیل ہا قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر شرط محذوف اِنْ نَاقَشُوْكَ اِنْ کی جزاء ہے۔

اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۶۹:** بِاللّٰهِ مبتدأ يَحْكُمُ فعل ہُوْ ضمیر مستتر فاعل بَيْنَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اول يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مرکب اضافی مفعول بہ مابنی فی حرف جر مَا موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم فیہ جار باجر در ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے تَخْتَلِفُوْنَ فعل وَاَوْ ضمیر قائل، فعل ہا قائل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہَا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر در ظرف لغو تَخْتَلِفُوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

**آیت نمبر ۷۰:** ہمزہ حرف استفہام اَلَمْ تَعْلَمُوْا فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل اَنَّ حرف تحقیق اَللّٰهُ اسم الجلالہ اس کا اسم تَعْلَمُوْا فعل ہُوْ مستتر فاعل مَا موصول فی حرف جر السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ معطوف علیہ ہا معطوف مجرور، جار باجر در ظرف مستقر فعل محذوف حَبِيْت کے

متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ تَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ كَ خبر اَنْ ہاں م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویں مصدر لَمْ تَعْلَمُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استہمایہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق ذلک لیس کا اسم فی کلمہ جہد باجر در ظرف مستقر کاتبتا کے متعلق ہو کر خبر اَنْ ہاں م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَطَّلِعٌ ہوں اِنَّ حرف تحقیق ذلک لیس کا اسم علی اللہ جہد باجر در ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے یَسْبُو مینہ مَطَّلِعٌ ہُوَ مستقر فاعل، مینہ صفت بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر اَنْ کی خبر اَنْ ہاں م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاثر ہو۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ذَا مَا  
لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَبِيٍّ ۝

آیت نمبر ۱۷: اَوَاٰسِيَانِي يَعْْبُدُونَ فاعل واؤ ضمیر فاعل مِنْ دُونِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جہد باجر در ظرف مستقر کاتبتا کے متعلق ہو کر حال مقدم ہاں م موصول لَمْ يَنْزِلْ فاعل ہُوَ مستقر فاعل پہ جہد باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے سُلْطَانًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَآ موصول لَيْسَ فاعل ناقص لَهْمُ جہد باجر در ظرف مستقر کاتبتا کے متعلق ہو کر خبر مقدم پہ جہد باجر در ظرف لغو مستقر کاتبتا کے متعلق ہو کر حال مقدم عِلْمٌ ذَا و افعال مؤخر ذوالحال ہاں م اسم مؤخر، فعل ناقص ہاں م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف ذوالحال مؤخر ذوالحال ہاں م مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متاثر ہو۔ اَوَاٰسِيَانِي مَآ نَافِي لِلظَّالِمِينَ جہد باجر در ظرف لغو مستقر کاتبتا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِنْ حرف جر زائد نَبِيٍّ لِقَاطِبِجْرٍ در محاورہ مَبْدَا مَوْخِر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متاثر ہو۔

وَإِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيْتَانَا يَتَّبِعُنِي فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ لَا يَكَادُونَ  
يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذِكْرِكُمْ ءالْتَارُونَ  
وَعَدَاهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَا وَيُنَسِّئُ ۝

آیت نمبر ۱۸: واؤ عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم تَنَلَىٰ فعل مجہول عَلَيْهِمْ جہد باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے اَيْتَانَا مرکب اضافی ذوالحال یَتَّبِعُنِي حال، ذوالحال ہاں م نائب فاعل، فعل مجہول ہَاتِبِجْرٍ فاعل، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، تَعْرِفُ فعل آت مستقر فاعل فیہ حرف جر و جُوہ مضاف اِلَى الَّذِيْنَ اسم موصول كَفَرُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل ہوں ل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہد باجر در ظرف لغو تَعْرِفُ کے متعلق ہوئے الْمُنْكَرُ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط ہا جزا جملہ شرطیہ ہو۔

يَكَادُونَ فعل متدبہ واؤ ضمیر اس کا اسم يَسْطُونَ فاعل واؤ ضمیر فاعل بِنَاء حرف جہد اِلَى الَّذِيْنَ اسم موصول يَتْلُونَ فاعل واؤ ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ جہد باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے اَيْتَانَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہد باجر در ظرف لغو تَعْرِفُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل متدبہ ہاں م و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ

ہو کہ الذین کفروا سے حال ہے۔ قُلْ فعل امر آت مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول، ہمّزہ حرف استفہام قائم عاقلہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے اُحَابِیْکُمْ اَنْتُمْ فعل انکا مستتر قائل کُم ضمیر مفعول بہ بآء حرف جر ضمیر اسم تفضیل ہو مستتر قائل ہون ذلکُم جار باجر اور اسم تفضیل کے متعلق ہوئے اسم تفضیل باقائل و متعلق بواسطہ موصوف مخدوف شیء کے جر و جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا اَنْتَا و مبتدأ و عَدَّ فعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ بول لفظ اللہ فاعل الذین کفروا و موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو استینا فی یُسْ فاعل ذم المصیو اس کا قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدأ مخدوف ہے ہیج اور ہیج کا مرجع اَنْتَا ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مستافہ ہوا۔

﴿ کوٹ نمبر ۱۰ ﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ مَا سْتَعْبُوا لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْنَهُمْ ذُّبَابٌ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ط  
ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿

آیت نمبر ۷۳: بآء حرف نداء اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل انکا ضمیر مستتر قائل ائی موصوف ہا برائے حمیہ الناس مفت، دونوں مل کر عطا منصوب مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندہ ضَرْبٌ فعل مجہول مَثَلٌ نائب قائل، دونوں مل کر ندہ کا جواب، ندہ با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ قائم فیسو اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ اَزِدْتُمْ الْعِبْرَةَ اسْتَعْبُوا فعل امر واو ضمیر قائل کہ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق الذین اسم موصول تَدْعُونَ فعل واو ضمیر قائل ہُم ضمیر منصوب مخدوف ذوالحال مِنْ دُونِ اللَّهِ جار باجر و طرف مستتر کالذین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ اِنْ کا اسم لَنْ يَخْلُقُوا فعل واو ضمیر قائل ذُبَابًا مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ خبریہ ہو۔

واو حالیہ کو طرف شرط با اجْتَمَعُوا فعل واو ضمیر قائل کہ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء مخدوف ہے لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا شرط با جزاء جملہ شرطیہ ذُبَابًا سے حال ہے۔ واو عاقلہ اِنْ حرف شرط يَسْلُبُ فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ الذُّبَابُ فاعل شَيْئًا مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لا يَسْتَنْقِذُوهُ افعال واو ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، وندہ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر اِنْ الذین... الخ با معطوف ہے، ضَعُفَ فعل الطالِبِ وَالْمَطْلُوبِ معطوف علیہ با معطوف قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ مستافہ ہوا۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ نَقِيُّ عَزِيزٌ ﴿

آیت نمبر ۷۴: مَا تانفیر قَدَرُوا فعل واو ضمیر قائل لفظ اللہ مفعول بہ حَقَّ قَدْرِهِ ہر کب اضافی مفعول مطلق، فعل باقائل

و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستافہ ہوں۔ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لامر مذکر مطلقہ قوی عزیز و دو خبریں ان کا اسم خبرین جملہ اسمیہ مطلقہ ہوں۔

**آیۃ نمبر ۷۵:** اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

آیۃ نمبر ۷۵: اللہ مبتدہ، یصطفی فعل ہو ضمیر مستتر قائل رسلًا مفعول بہ، مِنَ الْمَلَائِكَةِ جار مجرور مفعول علیہ، و او عاطفہ مِنَ النَّاسِ جار مجرور مفعول علیہ، مفعول علیہ با مفعول ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستافہ ہوں۔ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لامر مطلقہ قوی عزیز و دو خبریں ان کا اسم خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مستافہ ہوں۔

**یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝**

آیۃ نمبر ۷۶: یَعْلَمُ فعل ہو مستتر قائل ما اسم موصول بَیْنِ مضاف اَیْدِيهِمْ مرکب اضافی مضاف الیہ، بحر مرکب اضافی فعل مذكور بَیْتِ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مفعول علیہ، و او عاطفہ ما اسم موصول خَلْفَهُمْ مرکب اضافی فعل مذكور بَیْتِ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مفعول علیہ، مفعول علیہ با مفعول مفعول بہ، یَعْلَمُ اپنے قائل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ، و او عاطفہ اِلَى اللَّهِ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، تُرْجَعُ فعل مجہول الْأُمُورُ نائب قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول، مفعول علیہ با مفعول جملہ مستافہ یا ان کی خبر ثالث ہے۔

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا وَاَسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝**

آیۃ نمبر ۷۷: یَا آیۃ حرف نداء اذْکُرُوا کے قائم مقام، اذْکُرُوا فعل انا مستتر قائل اَنْیُّ موصوف ہا، بارے تنبیہ، الَّذِينَ اسم موصول اَمَّنُوا فعل با و ضمیر قائل، دو نون مل کر صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف ہفت مطلقاً منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر نداء، اذْکُرُوا فعل امر با و ضمیر قائل جملہ انشائیہ امر یہ مفعول علیہ، و او عاطفہ اَسْجُدُوا وَاَفْعَلُوا فعل امر با و ضمیر قائل جملہ انشائیہ امر یہ مفعول اول، و او عاطفہ اَعْبُدُوا فعل امر با و ضمیر قائل، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مفعول علیہ، و او عاطفہ اَفْعَلُوا فعل امر با و ضمیر قائل الْخَيْرَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امر یہ مفعول ثالث، مفعول علیہ با مفعولات ثلاثہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء یہ ہوں لَعَلَّ حرف ترمیمی ضمیر منصوب اس کا اسم مُفْلِحُونَ فعل با و ضمیر قائل خبر، لَعَلَّ اسم و خبر راجعی الفلاح کا تکرار میں ہو کر اَفْعَلُوا کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

**وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ مِمَّنْ قَامَ الصَّلَاةَ وَآتَا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝**

**آیت نمبر ۷۸:** وَاَوْعَافِمْ جَاهِدُوْا فَعَلَّ امْرَاؤُ ضَمِيْر فاعل فی اللّٰہ جاد باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے حَتّٰی جہاد امر مرکب اضافی مفعول مطلق، چاروں مل کر جملہ انشائیہ اور کھڑا کا معطوف راجع ہے۔ ہُو ضمیر مبتدأ اجتنابی فعل ہُو مستتر قائل کُمہ ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَافِمْ مآثر ف لقی جَعَلَنَّ فعل ہُو ضمیر مستتر قائل عَلَیْکُمْ جَد باجر در ظرف مستقر کَانَکَا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم فی الذّٰن جَد باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے مِنْ حرف جر زائد حَرَجَ تَقَطَّا جَر در مَلَّا منصوب مفعول بہ اَوَّل، فعل ہا قائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہَا مَعطوف ہُو کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطْلَہ ہُو لِمَلَّة مضاف آیینکُمہ مرکب اضافی مبدل مِنْ اَبْرُؤِہِمْ بَدَل، مبدل مِنْ بَدَل لِمَلَّة کَا مضاف الیہ، مرکب اضافی فعل مَحذوف اَبْرُؤِہِمْ کَا مفعول بہ ہے، فعل امر ہَا قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

ہُو ضمیر مبتدأ مستقی فعل ہُو ضمیر مستتر قائل کُمہ ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلِ الْمُؤْمِنِیْنَ مفعول بہ ثانی، مِنْ قَبْلُ جَد باجر در معطوف علیہ، وَاَوْعَافِمْ فی ہَذَا جَد باجر در معطوف، معطوف علیہ ہَا مَعطوف طرف لغو متعلق اَوَّل ہوئے، کَا حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ نَسْب مصدریہ مقدّمہ یہ یَكُوْنُ فعل ناقص الرَّسُوْلُ اس کا اسم شہیداً صیغہ صفت ہُو مستتر قائل عَلَیْکُمْ جَد باجر در متعلق ہوئے، صیغہ صفت ہَا قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہَا سَم وَخبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَافِمْ کُنُوْا فعل ناقص (اصل میں کُنُوْا تُوْن ہے) اور اُو ضمیر اس کا اسم، شَہِدَاْ صیغہ صفت اَللّٰہ ضمیر مستتر قائل عَلَی النَّاسِ جَد باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، فعل ناقص ہَا سَم وَخبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہَا مَعطوف بتاویل مصدر مجرور، جَد باجر در ظرف لغو متعلق ہُو کی متعلق ثانی ہوئے، فعل ہَا قائل و مفعولین و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہُو کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطْلَہ ہو۔

قَاہ فیصیہ اور شرط محذوف ہے اِنْ کُنْتُمْ اَهْلًا لِّلْہٰذِہِ التَّشْمِیْۃِ اَقِیْمُوْا فعل وَاُو ضمیر قائل الصَّلٰوۃ مفعول بہ تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَافِمْ اَتُوْا فعل وَاُو ضمیر قائل الزکوٰۃ مفعول بہ تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف اَوَّل، وَاَوْعَافِمْ اَعْتَصِمُوْا فعل وَاُو ضمیر قائل بِاللّٰہ جَد باجر در ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہَا مَعطوفین، جزاء، شرط محذوف ہَا جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ ہُو ضمیر مبتدأ مَعُوْلُکُمْ مرکب اضافی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ لِقَطَا اللّٰہ سے حال ہے۔ قَاہ استینافیہ لغتہ فعل مدح العَوٰی قائل دونوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء اور مبتدأ محذوف ہے ہُو اور ہُو کَا مَرَجِ اللّٰہ ہے، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، وَاَوْعَافِمْ لَغْمَ النَّصِیْبِ تُوْکِ تَرْکِیْب لَغْمَ العَوٰی کی طرح ہے، اور یہ جملہ معطوف ہے، معطوف علیہ ہَا مَعطوف جملہ مستانفہ ہو۔

## بِحَمْدِہِ تَعَالٰی

(سورۃ الحج کی ترکیب الملکہ ہوٹل کراچی کی بالائی منزل پر ۲۳، ۱۰، ۲۰۱۷ء بروز جمعہ صبح ۹:۳۰ پر مکمل ہوئی ہے)

## ترکیب سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ

● رُكُوعٌ نَبْرًا ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ  
خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُوْ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوٰةِ فِعْلُوْنَ ۝ وَ  
الَّذِیْنَ هُمْ لِقُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵:** قَدْ اَفْلَحَ لُحْلُ اَفْلَحَ لُحْلُ الْمُؤْمِنُوْنَ موصوف الذیْن اسم موصول هُم ضمیر مبتدا فی حرف جر  
صلواتهم مرکب اضافی مجرور، جلد باجر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے خٰشِعُوْنَ اسم قائل اپنے هُم ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر  
شبه جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الذیْن هُم عن اللغو معترضون کی ترکیب  
الذیْن هُم فی صلواتهم خٰشِعُوْنَ کی مثل ہے اور یہ معطوف اول ہے، واو عاطفہ الذیْن هُم للزکوٰۃ فِعْلُوْنَ کی ترکیب الذیْن هُم  
فی صلواتهم خٰشِعُوْنَ کی مثل ہے اور یہ معطوف ثانی ہے، واو عاطفہ الذیْن اسم موصول هُم ضمیر مبتدا لاکر حرف جلد فُرُوْجِهِمْ  
مرکب اضافی مجرور، جلد باجر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، حٰفِظُوْنَ اسم قائل اپنے هُم ضمیر متعلق فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبه جملہ  
ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ الْمُؤْمِنُوْنَ کی مفت، موصول  
ہفت قائل، لُحْلُ با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

اِلَّا عَلٰی اَرْوَاحِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غٰیثٌ مَّلُوْمِیْنَ ۝

**آیت نمبر ۶:** اِلَّا حرف استثناء علی حرف جلد اَرْوَاحِهِمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ مَا اسم موصول مَلَكَتْ لُحْلُ اَیْمَانُهُمْ  
مرکب اضافی قائل ہوں توئیں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جلد باجر و مستثنیٰ مفرغ طرف لغو حٰفِظُوْنَ  
کے متعلق جلی ہونے کا مقام برائے تعلیل اِنَّ حرف تحقیق هُم ضمیر منصوب اس کا اسم غٰیثٌ مَّلُوْمِیْنَ مرکب اضافی خبر بان ہا اسم و خبر جملہ  
اسیہ خبریہ مطلقہ ہوں

فَمَنْ اَبْتَغٰی وَّرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۷:** فَاہ عاطفہ مَنْ اسم موصول اَبْتَغٰی لُحْلُ ہُوْ متعلق وَّرَآءَ ذٰلِكَ مرکب اضافی مفعول فیہ تینوں مل کر صلہ،  
موصول باصلہ مبتدا متعین معنی شر و عاقہ جڑا یہ اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدا ہُم ضمیر فصل الْعٰدُوْنَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَنْ کی خبر  
قائم مقام جڑا، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَالَّذِیْنَ هُمْ لَا مُلْتَمٰتِهِمْ وَ عٰہِدِهِمْ رُعُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۸:** واو عاطفہ الذیْن اسم موصول هُم ضمیر مبتدا لاکر حرف جملہ اَلْمُلْتَمٰتِہُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ

عَنْهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطَائِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ بِجُرُورٍ، جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَ مَتَعَلِقٌ مَقْدَمٌ هُوَ، زَوْعُونَ اِسْمٌ قَاعِلٌ اِسْمٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ وَ مَتَعَلِقٌ مَقْدَمٌ مَلِكٌ كَرِخْرٍ، مَبْتَدَأٌ بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِوَسْطَةِ عَطْفِ الْقَائِمِيْنَ كِي صِفَتٌ هِيَ۔

### وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

**آیت نمبر ۹:** واو عاطفہ الذین اسم موصول ہُم ضمیر مبتدأ، علی حرف جر صلواتہم مَرْكَبٌ اِضْطَائِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ بِجُرُورٍ، جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَ مَتَعَلِقٌ مَقْدَمٌ هُوَ، زَوْعُونَ اِسْمٌ قَاعِلٌ اِسْمٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ اور متعلق مقدم مَلِكٌ كَرِخْرٍ، مَبْتَدَأٌ بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِوَسْطَةِ عَطْفِ الْقَائِمِيْنَ كِي صِفَتٌ هِيَ۔

### اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۰:** اُولَئِكَ اِسْمٌ اِسْمَاءٌ مَبْتَدَأٌ، هُمْ ضَمِيرٌ بَرَاءٌ لِفِعْلِ الْوَارِثُونَ مَوْصُولٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ يَرِثُوْنَ فِعْلٌ وَاوْ ضَمِيرٌ ذُو اِلْحَاقٍ هُمْ ضَمِيرٌ مَبْتَدَأٌ فِيْهَا جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ مَتَعَلِقٌ مَقْدَمٌ هُوَ، خَالِدُونَ اِسْمٌ قَاعِلٌ اِسْمٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ اور متعلق مقدم مَلِكٌ كَرِخْرٍ، مَبْتَدَأٌ بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِوَسْطَةِ عَطْفِ الْقَائِمِيْنَ كِي صِفَتٌ هِيَ، مَوْصُولٌ بِاِسْمِ الْوَارِثُونَ كِي صِفَتٌ، مَوْصُولٌ بِصِفَتٍ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ ہوں۔

### وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ ۝

**آیت نمبر ۱۱:** واو استینا فیرا لام موطرہ القسم اور قسم محذوف ہے، قَدْ علامت فعل، خَلَقْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ الْاِنْسَانَ مَوْصُولٌ، مِنْ حَرْفٌ جَرِ سُلٰلَةٍ مَوْصُولٌ مِنْ طِيْنٍ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَ ظَرْفٌ سِتْرٌ كَاثِبَةٌ كِي مَتَعَلِقٌ ہوں، مَوْصُولٌ بِصِفَتٍ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ خَلَقْنَا كِي مَتَعَلِقٌ ہوں، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَوْصُولٌ بِہِ وَ مَتَعَلِقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِوَسْطَةِ عَطْفِ الْقَائِمِيْنَ كِي صِفَتٌ ہوں۔

### ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نٰطِقًا فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝

**آیت نمبر ۱۲:** ثُمَّ عَاطِفٌ جَعَلْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ نَا ضَمِيرٌ مَوْصُولٌ، اَوَّلُ نٰطِقًا مَوْصُولٌ بِہِ، اَوَّلُ نٰطِقًا مَوْصُولٌ بِہِ، ثَمَانِيٌّ، فِيْ حَرْفٍ جَرِ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ جُرُورٌ، جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ جَعَلْنَا كِي مَتَعَلِقٌ ہوں، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَوْصُولٌ بِہِ وَ مَتَعَلِقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِوَسْطَةِ عَطْفِ الْقَائِمِيْنَ كِي صِفَتٌ ہوں۔

### ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ اَنْشَاْنُہُ خَلْقًا اٰخَرَ ۝ وَفَدَبَرَكَ اللهُ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۳:** ثُمَّ عَاطِفٌ خَلَقْنَا بِمَعْنَى صَدَّرْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ النَّطْفَةَ مَوْصُولٌ بِہِ، اَوَّلُ، عَلَقَةً مَوْصُولٌ بِہِ، ثَمَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَوْصُولٌ بِہِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ عَلَيْهِ، فَاءٌ عَاطِفٌ خَلَقْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ الْعَلَقَةَ مَوْصُولٌ بِہِ، اَوَّلُ، مُضْغَةً مَوْصُولٌ بِہِ، ثَمَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَوْصُولٌ بِہِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ عَلَيْهِ، فَاءٌ عَاطِفٌ خَلَقْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ الْمُضْغَةَ مَوْصُولٌ بِہِ، اَوَّلُ عِظْمًا مَوْصُولٌ بِہِ، ثَمَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَوْصُولٌ بِہِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ عَلَيْهِ، فَاءٌ عَاطِفٌ جَعَلْنَا بِمَعْنَى صَدَّرْنَا فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ اَحْسَنًا مَوْصُولٌ بِہِ، اَوَّلُ اَحْسَنًا مَوْصُولٌ بِہِ، ثَمَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَوْصُولٌ بِہِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاطِفٌ اَنْشَاْنُہُ فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ نَا ضَمِيرٌ مَوْصُولٌ، ذُو اِلْحَاقٍ خَلْقًا مَوْصُولٌ اٰخَرَ اِسْمٌ



تفضیل ہو مستقر فاعل سے مل کر صفت، موصوف بہفت حال، نداء الحال یا حال اَنشَأْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف حَاقَلْنَا الْمُضَعَّفَہُ معطوف ہے۔ فاء استثنائیہ تَبَرُّوْنَ فعل اللہ نام اجمالاً مبدل منہ اَحْسَنَ مِنَ الْخَلْقِیْنَ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بادل فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ و عائیہ متناظر ہوں

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ ﴿۱۸﴾

**آیت نمبر ۱۷، ۱۸:** ثُمَّ عَاطِرَانَ حرف تحقیق کُم ضمیر اس کا اسم بَعْدَ ذَلِكَ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم لامر مذ مطلق مَيْتُونَ صیغہ صفت اَنشَأْنَا ضمیر مستقر فاعل، صیغہ صفت بافاعل و مفعول فیہ مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر بیانِ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِرَانَ حرف تحقیق کُم ضمیر اس کا اسم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم تَبْعُونَ فعل مجہول وَاو ضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر خبر بیانِ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اَنشَأْنَاہُ معطوف ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ سَلٰ وَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿۱۹﴾

**آیت نمبر ۱۹:** وَاوایستنا فیہ لاکر موطن القسم اور قسم مخذوف سے قد علامت فعل خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل فَوْقَكُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ سَبْعَ طَرَائِقٍ مرکب اضافی یا میز یا تمیز مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم یا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ وَاو حال یہ مانا فیہ کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم عَنِ الْخَلْقِ جہد باجہر در متعلق مقدم ہوئے غٰفِلِيْنَ اسم فاعل ناقص ضمیر مستقر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خَلَقْنَاکُمْ ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنْتَهُ فِي الْاَرْضِ سَلٰ وَ اِنَّا عَلٰی ذٰلِكَ لَقٰدِرُونَ ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۱۸، ۱۹:** وَاو عطف اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل مِنَ السَّمَاءِ جہد باجہر در ظرف لغو متعلق ہوئے مَاءً موصوف بقَدَرٍ جہد باجہر در ظرف مستقر کَانَکُمْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہفت اَنْزَلْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عطف اَسْكَنْتُمْ فعل نا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ فی الْاَرْضِ جہد باجہر در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل، مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خَلَقْنَاہُ معطوف ہے۔ وَاو حال یہ اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم علی حرف جہد ذہاب مصدر بہ جہد باجہر در مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر اپنے متعلق سے مل کر مجرور، جہد باجہر در متعلق مقدم ہوئے، لاکر مذ مطلق قَدِرُونَ اسم فاعل تَحْنُ ضمیر مستقر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم مل کر شبہ جملہ ہو کر بیانِ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اسکنگناکام ضمیر فاعل سے حال ہے۔

فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنَّٰتٍ مِّنْ نَّجْوٰیٍ وَّ اَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيْهَا فَاوَاكِهِ كَعِذْرَةٍ وَّ مِنْهَا

تَاْكُلُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَّ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرٍ سَيْنَاً تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَ صَبْغٍ لِّلْاَكْلِیْنَ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۰، ۲۱:** فاء عطف اَنشَأْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَكُمْ جہد باجہر در ظرف لغو متعلق اول ہوئے، یہ جہد باجہر در ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجْوٰیٍ وَّ اَعْنَابٍ معطوف علیہ یا معطوف مجرور، جہد باجہر در ظرف مستقر کَانَکُمْ کے متعلق ہو کر

صفت اولیٰ لکھ جا بجز در طرف مستقر ہو کر کائتہ کے متعلق ہوئے کائتہ اسم فاعل ہے ضمیر مستقر فاعل فیہا جا بجز در طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہوئے کائتہ اسم فاعل اپنے فاعل و متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہوگا ایک کئیبتہ مرکب تو صغی مبتدا مؤخر مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہیٹھا جا بجز در طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تاکلؤن فعل واو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جئت کی صفت ثانیہ، موصوف یا مستغنی معطوف علیہ، واو عاطفہ شجرۃ موصوف تخرج فعل ہے ضمیر مستقر والیٰ تکتبت فعل ہے ضمیر مستقر فاعل ہاء حرف جرالذہن معطوف علیہ، واو عاطفہ صبیغ موصوف لامر حرف جرائکیلین مجرور، جا بجز در طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف یا صفت معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مجرور، جا بجز در تکتبت کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، بذوالحال باحال تخرج کا فاعل میں حرف جر طور سینئہ مرکب اضافی مجرور، جا بجز در طرف لغو تخرج کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شجرۃ کی صفت، موصوف یا صفت جئت بہ معطوف ہے، معطوف علیہ یا معطوف انشاء کا مفعول بہ ہے، فعل بافاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ آسکتہ معطوف ہے۔

وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَعْمَارِ لَعِبْرَةً لِّتُنْذِرُوهُمْ مَّا فِي بُطُونِهَا وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ  
وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝۲۴ وَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۴: ۲۴: واو عاطفہ ان حرف تحقیق لکم جا بجز در طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہوئے کائتہ اسم فاعل ہے ضمیر مستقر فاعل فی الاعمار جا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے اسم فاعل بافاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، لامر لاہر حلقہ جبرۃ اسم مؤخر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لکھ خلقتکم معطوف ہے، نسق فعل تخرج ضمیر مستقر فاعل لکم ضمیر منصوب مفعول بہ میں حرف جر ما اسم موصول فی حرف جر بطونہا مرکب اضافی مجرور، جا بجز در طرف مستقر فعل حذف تکتبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جا بجز در نسق کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لکم جا بجز در طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہوئے کائتہ اسم فاعل ہے ضمیر مستقر فاعل فیہا جا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم منافع کئیبتہ مرکب تو صغی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ ہیٹھا جا بجز در طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تاکلؤن فعل واو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ علیہا جا بجز در معطوف علیہ، واو عاطفہ علی الفلک جا بجز در معطوف، معطوف علیہ یا معطوف طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تحملون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثلاث، معطوف علیہ یا معطوف ثلاث جملہ معطوف ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۲۳:** وَإِذَا اسْتَأْذَنَّاكَ لِمَا هُوَ لَكَ مِنَ الْعَمَلِ فَاسْتَجِبْ لَهُمْ لِقَاءَهُمْ فِي يَوْمٍ هُمْ فِي شَفْعٍ لَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

حرف جر قَوْمِهِ مرکب اضافی مجرور، جار باجہ اور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ قائل فعل ہو ضمیر مستتر قائل، و دولوں ل کر قول، بیادہ حرف نداء اذْعُوْا کے قائم مقام، اذْعُوْا فعل انا ضمیر قائل قَوْمِهِ پر اصل میں قَوْمِی ہے اور یہ متلائی مضاف منسوب تقدیر مفعول بہ ہے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، اذْعُوْا فعل امر واو ضمیر قائل لفظ اللہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب نداء، پھر نداء با جواب مقولہ، قول با مقولہ معطوف، دولوں ل کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ مستانہ ہول متانیہ لکھم جار باجہ اور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر مقدم میں حرف جر ذلک الیہ لفظ جار مجرور جار مجرور قیوم موصوف حکیمہ فاعل انشائیہ مفت، موهوب ہفت مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسیم خبریہ مطلقہ یا مستانہ سینہ ہول ہمزة حرف استہتم قاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے عَصَبِيْنَكُمْ، لَاسْتَقُوْنَ فعل واو ضمیر قائل، دولوں ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہول

**فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِي كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَوَاتِهِ اَنْهَارًا مِنْ فِضَّةٍ حَقِيْقَةٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهَا وَيَسْمَعُوا بِهَا نَبْءَ الْاُولِيْنَ**

**آیت نمبر ۲۴:** وَإِذَا اسْتَأْذَنَّاكَ لِمَا هُوَ لَكَ مِنَ الْعَمَلِ فَاسْتَجِبْ لَهُمْ لِقَاءَهُمْ فِي يَوْمٍ هُمْ فِي شَفْعٍ لَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ قائل کا قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، متانیہ ہذا اسم شہادہ مبتدا، اذْعُوْا حرف استہتم بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مرکب اضافی مفت اول، اذْعُوْا فعل انا ضمیر مستتر قائل، اذْعُوْا حرف مستقر قائل علیکم جار باجہ اور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدری یاد، مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بَشَرٌ مِثْلُكُمْ موصوف ہا صغیر مستثنیٰ مفرغ ہو کر ہذا کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسیم خبریہ ہو کر بَشَرٌ مِثْلُكُمْ موصوف ہا صغیر مستثنیٰ مفرغ ہو کر ہذا کی خبر، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہول متانیہ سینہ مستر فعل انا ضمیر قائل یہذا جار باجہ جار مجرور طرف لغو متعلق اول ہوئے فی حرف جرائب انشائیہ موصوف الاولین سینہ مفت ہفت مستر قائل دولوں ل کر مفت، موصوف ہفت مجرور، جار باجہ اور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہول

**اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ حِجَّةٌ فَكَرَبْنَا بِهٖ حَتَّىٰ حَبِئْنَا**

**آیت نمبر ۲۵:** اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ حِجَّةٌ فَكَرَبْنَا بِهٖ حَتَّىٰ حَبِئْنَا

خبر مقدم حِجَّةٌ مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسیم خبریہ ہو کر مفت، موصوف ہفت مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسیم خبریہ مستانہ ہول فقاء نصیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ اَرَدْتُمْ مَعْرِفَةَ حَقِيْقَةِ هَذَا الرَّجُلِ، فَكْرَبْنَا فعل امر واو ضمیر قائل یہ جار باجہ اور طرف لغو متعلق اول ہوئے، حَتَّىٰ حَبِئْنَا جار باجہ اور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و متعلقین جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط

مخروف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

## قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۲۶:** قَالَ لَوْلَى هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ربّ یہ اصل میں آیا کرتی ہے، بیاد حرف ندا، اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل اذاع ضمیر فاعل، برقی مٹائی مضارع منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر ندا، انصُرْ فعل امر آت مستتر ضمیر فاعل نون برائے وقایہ، بیاد ضمیر منصوب مفعول بہ، بیاد حرف جرّما مصدر یہ کذبوا فعل و اذ ضمیر فاعل نون برائے وقایہ اور بیاد ضمیر مخدوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور انصُرْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ جواب ندا، پھر ندا، جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں۔

فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَاِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزُورَ ۙ فَاسْأَلْكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ الْأُثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۗ وَ لَأَخْطِئَنَّ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۲۷:** فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اَوْحَيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل اَيْلَيْهِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر مستتر، اَنْ حرف تفسیر اصْنَعِ فعل امر آت مستتر ذوالحال، بیاد حرف جرّ اَعْيُنِنَا مرکب اضافی معطوف علیہ، و اَوْحَيْنَا متعلق و اَوْحَيْنَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور طرف مستتر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باصل فاعل الْفُلْكَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر مستتر ہے۔ فَأَوْحَيْنَا (از فقیر) اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل اَمْرُنَا مرکب اضافی فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و اَوْحَيْنَا فَاِذَا فعل التَّنْزُورِ فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فَاِذَا جزائی اَسْأَلْكَ فعل امر آت مستتر فاعل فِيهَا جار مجرور طرف لغو متعلق اول ہوئے، هُنَّ كُلُّ جَارِ مجرور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، وَوَحَيْنَا الْأُثْنَيْنِ مؤكد باتا کید معطوف علیہ، و اَوْحَيْنَا اَهْلَكَ مرکب اضافی معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مستثنیٰ منہ، اِلَّا حرف استثناء، اسم موصول سَبَقَ فعل عَلَيَّهِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے الْقَوْلِ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ ہوا، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ اَسْأَلْكَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ منطوق ہوں۔

وَيُنذِرُهُمْ بِالْجَزَاءِ عَذَابَ ظُلْمٍ مَسْتَرَفَاعٌ كائِنَا کے متعلق ہو کر عَلَيَّهِ كَيْفَ ضمیر سے حال ہے۔ و اَوْحَيْنَا لَأَخْطِئَنَّ فعل ثانی آت مستتر فاعل نون برائے وقایہ ضمیر منصوب مفعول بہ، فی حرف جرّ الَّذِينَ اسم موصول ظَلَمُوا فعل و اذ ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور طرف لغو لَأَخْطِئَنَّ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر اَسْأَلْكَ فعل امر بہ معطوف ہے۔ اِنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم موصول هُمْ مُخْرَجُونَ اسم مفعول هُمْ ضمیر مستتر نائب فاعل، اسم مفعول نائب فاعل شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنْ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منطوق ہوں۔



مجروح طرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت اَوَسَلْنَا کا مفعول بہ، فعل ہا قاع و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر آتشاکی معطوف ہے۔ اَن حرف مصدری و نصب اُعْبُدُوا و الفعل امر واو ضمیر فاعل لفظاً اللہ مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مجروح ہے حرف جر محذوف ہا کے لئے، جاہ باجر و طرف لغو اَوَسَلْنَا کے متعلق ہوئے، مآنا یہ لکھ جاہ باجر و طرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر خبر مقدم وین حرف جر ذلک الیہ لفظا مجروح و ملامر فروع موصوف غایۃ مرکب اضافی صفت، موصوف ہفت مبتدا مؤخر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا اَفَلَا تَتَّقُونَ کی ترکیب اسی سورت کی آیت نمبر ۲۳ میں گزر چکی ہے۔

### ● رکوع نمبر ۳ ●

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ لَا يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝

**آیت نمبر ۳۳:** واو استینا یہ قال فعل الملام ذوالحال وین حرف جر قومہ مرکب اضافی موصوف الذین اسم موصول کَفَرُوا و الفعل واو ضمیر فاعل بدو نوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کَذَّبُوا و الفعل واو ضمیر فاعل ہا حرف جر لِقَاعِ الْآخِرَةِ مرکب اضافی مجروح، جاہ باجر و طرف لغو کَذَّبُوا کے متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَتْرَفْنَاهُمْ و الفعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ فی حرف جر الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مرکب توحیثی مجروح، جاہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ قومہ کی صفت ہے، موصوف ہفت مجروح، جاہ باجر و طرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر حال، ہذا حال باحال قَالَ کا قاع، فعل ہا قاع جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، مآنا یہ ہذا اسم اشارہ مبتدا، اَلْآخِرَةِ اسثناء بَشْرٌ موصوف مِثْلُكُمْ مرکب اضافی صفت، موصوف ہفت مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ، قول، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہوا۔

یَأْكُلُ فعل ہُوَ مستتر فاعل وین حرف جر ہا اسم موصول تَأْكُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل وینہ جاہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ وین کا مجروح، جاہ باجر و طرف لغو يَأْكُلُ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَشْرَبُ و فعل ہُو ضمیر مستتر فاعل وین حرف جر ہا اسم موصول تَشْرَبُونَ فعل واو ضمیر فاعل، بدو نوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجروح، جاہ باجر و يَشْرَبُ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہے یا يَشْرَبُ کا حال۔

**سوال:** آپ نے کہا بَشْرٌ موصوف اور مِثْلُكُمْ اس کی صفت ہے، حالانکہ بَشْرٌ مکرہ ہے اور مِثْلُكُمْ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرف ہے تو موصوف اور صفت کے درمیان تعریف اور تکمیل کے اعتبار سے مطابقت نہ ہوئی حالانکہ مطابقت ضروری ہے

**جواب:** لفظ مثل ان اسم شمس سے ہے جو متوکل فی الایہام ہے جو معرفد کی طرف مضاف ہونے کے باوجود بھی معرف نہیں بنتے۔ لہذا لفظ مثل بھی مکرہ ہے لہذا موصوف اور صفت دونوں مکرہ ہوئے۔ (فلا اعتراض)

وَلَيْنَ اَطَعْتُمْ بِشْرًا مِثْلَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اِذَا لَخِيْسُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۳:** واؤ عطف لآہر موطن اللّٰم اور قسم مخدوف ہے ان حرف شرطاً اَطَعْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل بِشْرًا موصوف  
مِثْلَكُمْ مرکب اضافی صفت، موصوف باہفت مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطاً اِنْ حرف تحقیق کُنْ ضمیر اس کا اسم اِذَا  
حرف جواب و جہاد مہمل، لآہر مذ طلوع خِیْسُوْنَ اسم فاعل اَلْکُنْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر شرطاً اِنْ بال اسم و خبر جملہ اسمیہ  
خبریہ ہو کر قسم مخدوف کا جواب ہے، اور شرط کی جہاد مخدوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو کر بواسطہ  
عطف قَالَ کا مقولہ ہے۔

اَيُّدُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَرَابًا وَعِظًا مَا اَنْتُمْ مَخْرُجُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۵:** ہمزہ حرف استفہام یَعِدُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل کُنْ ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلَ اَنْ حرف تحقیق کُنْ ضمیر  
منصوب اس کا اسم اِذَا ظرف زمان مضاف مِثْلُ فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ عطف کُنْتُمْ فعل ناقص ثَمَّ ضمیر مرفوع اس  
کا اسم تَرَابًا وَعِظًا مَا معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص بال اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف محلاً خبر و اِذَا  
کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مَخْرُجُوْنَ کا مفعول فی مقدم ہے، اَلْکُنْ یہ پہلے اَلْکُنْ کی تاکید ہے مَخْرُجُوْنَ اسم مفعول اَلْکُنْ  
ضمیر مستتر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل و مفعول فی مقدم سے مل کر اَنْ کی خبر اِنْ بال اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر  
یَعِدُ کا مفعول بہ بنتی ہے، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

هِيَ هَاتِ هِي هَاتِ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۶:** هِيَ هَاتِ اسم فعل ماضی بمعنی بَعْدُ نَوَكِدُ هِيَ هَاتِ تالی اس کی تاکید ہے لآہر حرف جر زائد مَا مصدر تُوْعَدُوْنَ  
فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر بتاویل مصدر هِيَ هَاتِ کا فاعل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۷:** اِنْ حرف نفی ہجی ضمیر مبتدأ اِلَّا حرف استثناء حَيَاتُنَا تکرار کب اضافی موصوف الدُّنْيَا صفت، موصوف باہفت  
مستثنیٰ مفرغ ہو کر ہجی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں نَمُوْتُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ،  
واؤ عطف نَحْيَا فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عطف مَا تَانِيہ جہاد یہ نَحْنُ ضمیر منفصل مبتدأ تَانِيہ  
حرف جر زائد مَبْعُوْثِيْنَ اسم مفعول نَحْنُ ضمیر مستتر نائب فاعل، اسم مفعول با نائب فاعل شبہ جملہ ہو کر خبر، مَا تَانِيہ بال اسم و خبر جملہ اسمیہ  
خبریہ معطوف تالی، معطوف علیہ با معطوفین یا تُوْحِيَاتُنَا کی ضمیر نَا سے حال ہے یا جملہ متانفہ ہے۔

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اِفْتَرَىٰ عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۸:** اِنْ حرف نفی ہجی ہو ضمیر مرفوع مبتدأ اِلَّا حرف استثناء رَجُلٌ موصوف اِفْتَرَىٰ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل عَلٰى اللّٰهِ  
جہاد با خبر و طرف لغو متعلق ہوئے کَذِبًا مَعْدُوْبًا کی بتاویل میں ہو کر مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ،

واو عاطفہ ما جاز یہ تَعْنُ ضمیر منفصل اس کا اسم لفظ جاد یا جحر در طرف لغو متعلق ہوئے، بآء حرف جر زائد مَعْنِیْنِ اسم فاعل تَعْنُ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با قائل و متعلق مقدم لفظاً مجرور و معاً منصوب شبہ جملہ ہو کر خبر، مآ جاز یہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف و جمل کی صفت ہے، موصوف بہ صفت مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتُونِ ۝**

**آیت نمبر ۳۹:** قَالَ لَعَلَّ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ ندا ہے، انصُرْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ بآء ضمیر منصوب معقول بہ، بآء حرف جر زائد مآ مصدر یہ کَذَّبْتُوا فعل واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ بآء مخدوف ضمیر معقول بہ ہے، فعل با قائل و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جاد یا جحر در طرف لغو انصُرْ کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و معقول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر ندا کا جواب، پھر ندا با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِيَيْنِ ۝**

**آیت نمبر ۴۰:** قَالَ لَعَلَّ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، عَمَّا حرف جر مآ زائد قَلِيلَيْنِ مجرور، جاد یا جحر در طرف لغو نَادِيَيْنِ کے متعلق مقدم ہوئے، لآء موطن القوم اور قسم مخدوف ہے يُصْبِحُنَّ فعل ناقص واو مخدوف لاقاء السکین اس کا اسم لَدِيَيْنِ اسم فاعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر قسم مخدوف کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

**فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غَنَاءً ۝ فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝**

**آیت نمبر ۴۱:** فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ جاد یا جحر در طرف لغو مُتَكَبِّرِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با قائل و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَأَخَذَتْهُمُ جَعَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل هُمُ ضمیر معقول بہ اول، غَنَاءٌ معقول بہ ثانی، فعل با قائل و معقولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔ فَأَخَذَتْهُمُ بَعْدًا مطلق مطلق فعل مخدوف اَبْعَدُوا کا، اَبْعَدُوا فعل امر واو ضمیر فاعل، لآء حرف جر القَوْمِ الظَّالِمِينَ مرکب تو صغی مجرور، جاد یا جحر در متعلق ہوئے فعل مخدوف کے، فعل با قائل و متعلق و معقول مطلق جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

**ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُونًا آخَرِينَ ۝**

**آیت نمبر ۴۲:** ثُمَّ عطفہ انشأنا فعل ناقص ضمیر فاعل مِنْ حرف جر بَعْدِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جاد یا جحر در طرف لغو متعلق ہوئے قَرُونًا آخَرِينَ مرکب تو صغی معقول بہ، فعل با قائل و متعلق و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ أَخَذَتْهُمُ بَعْدًا معطوف ہے۔

**مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝**

**آیت نمبر ۴۳:** مَاذَا فِي تَسْبِقُ فعل مِنْ حرف جر أُمَّةٍ لفظاً مجرور و معاً مرفوع فاعل أَجَلَهَا مرکب اضافی معقول بہ، فعل با قائل و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَاذَا فِي تَسْبِقُ أَخِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف انشأنا بَعْدًا معطوف ہے بِأَقْرَبُونَ آخِرِينَ کی صفت ہے۔



ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ آحَادِيثًا ۖ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** ثُمَّ حَرْفِ عَطْفٍ أَرْسَلْنَا فَعَلٌ تَأْمِيرٌ فَاعِلٌ رُسُلُنَا مَرْكَبٌ اِضْطِنَافٌ زَوَالِجٌ يَكْتُمُوا مَعْدَمٌ بِسْمِیِّ اسْمِ فَاعِلٍ حَالٍ بِذَوَالِجٍ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ اِنْشَاءً كَمَا مَعْفُوفٌ هُوَ۔ كُلَّمَا مُتَّصِفٌ بِمَعْنَى شَرْطٍ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ جَاءَ فَعَلٌ اُمَّةٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ رُسُلُهَا مَرْكَبٌ اِضْطِنَافٌ فَاعِلٌ مُؤَخَّرٌ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ، كَذَّبُوا فَعَلٌ وَدَائِمٌ فَعَلٌ تَأْمِيرٌ مَفْعُولٌ فِيهِ تَبْيِذٌ لَمْ يَكْرَمْ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَامٍ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ۔

فَاءٌ عَاطِفَةٌ اِتِّبَعْنَا فَعَلٌ تَأْمِيرٌ فَاعِلٌ بَعْضُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافٌ مَفْعُولٌ فِيهِ اَوَّلُ بَعْضًا مَفْعُولٌ فِيهِ ثَانِي، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ جَعَلْنَا فَعَلٌ تَأْمِيرٌ فَاعِلٌ هُمْ مَفْعُولٌ فِيهِ اَوَّلُ اَحَادِيثٌ مَفْعُولٌ فِيهِ ثَانِي، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ اَرْسَلْنَا فِيهِ مَعْفُوفٌ هُوَ۔ فَاءٌ عَاطِفَةٌ بَعْدًا مَعْدَمٌ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ فِيهِ فَعَلٌ مَعْدُوفٌ اَبْعَدُوا، اَكَا، اَبْعَدُوا فَعَلٌ اِمْرٌ دَائِمٌ فَعَلٌ تَأْمِيرٌ اِسْمٌ كَا فَاعِلٌ، لَاهِرٌ حَرْفٌ جَارٌ قَوْمٍ مَوْصُوفٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَعَلٌ دَائِمٌ فَعَلٌ تَأْمِيرٌ فَاعِلٌ، دُونَ لَمْ يَكْرَمْ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْمٍ كِي مَعْنَى، مَوْصُوفٌ بِهَفْتٍ جَرٌّ، جَدٌّ بِاَجْرٍ وَرَفْعٌ مَعْدُوفٌ كَيْ مَعْتَلِقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ مُطْلَقٌ وَمَعْتَلِقٌ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ هُوَ كَرَفَعْنَا مَعْدُوفٌ كَا مَعْتَلِقٌ هُوَ، قَوْلٌ بِاِسْمٍ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَعَلْنَاهُمْ مَعْفُوفٌ هُوَ۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ ۖ اِلَىٰ قَوْمِهِمْ ۖ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ قَوْمٍ مَلَآئِكَةٌ قَاسَتْ كِبْرًا ۚ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۴:** ثُمَّ حَرْفِ عَطْفٍ اَرْسَلْنَا فَعَلٌ تَأْمِيرٌ فَاعِلٌ مُوسَىٰ مَفْعُولٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ اَخَاهُ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافٌ مِيدَلٌ مِنْهُ، هَارُونَ مِيدَلٌ مِنْهُ، مِيدَلٌ مِنْهُ بِاِیْدِلٍ مَعْفُوفٌ، پھر مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ ذَوَالِجٍ، اِنْبَاءٌ حَرْفٌ جَرٌّ اِلْتِمَافٌ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ سُلْطَنٌ مَبْنِيٌّ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَرٌّ، جَدٌّ بِاَجْرٍ وَرَفْعٌ مَسْتَقَرٌّ مَبْنِيٌّ كَيْ مَعْتَلِقٌ هُوَ كَرَفَعْنَا، ذَوَالِجٍ بِحَالٍ اَرْسَلْنَا كَا مَفْعُولٌ فِيهِ، اِلَىٰ حَرْفٌ جَرٌّ فِرْعَوْنَ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ مَلَآئِكَةٌ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافٌ مَعْفُوفٌ، پھر مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَرٌّ، جَدٌّ بِاَجْرٍ وَرَفْعٌ اَرْسَلْنَا كَا مَعْتَلِقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ فِيهِ وَمَعْتَلِقٌ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ اَرْسَلْنَا رُسُلُنَا مَعْفُوفٌ هُوَ۔ فَاءٌ عَاطِفَةٌ اِسْتِكْبَرُوا فَعَلٌ تَأْمِيرٌ فَاعِلٌ دُونَ لَمْ يَكْرَمْ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ كَانُوا فَعَلٌ تَأْمِيرٌ فَاعِلٌ اَسْمٌ، قَوْمًا مَوْصُوفٌ عَالِينَ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُمْ فَعَلٌ تَأْمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَلَّمَ كَرَفَعْنَا، مَوْصُوفٌ بِهَفْتٍ خَبْرٌ، فَعَلٌ تَأْمِيرٌ فَاعِلٌ هُمْ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ مَعْفُوفٌ هُوَ۔

فَقَالُوا اَنْتُمْ مِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ۚ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُونَ ﴿۳۵﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۶﴾

**آیت نمبر ۳۵، ۳۶:** فَاءٌ عَاطِفَةٌ قَالُوا فَعَلٌ تَأْمِيرٌ فَاعِلٌ دُونَ لَمْ يَكْرَمْ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، هَمْزَةٌ حَرْفٌ سَتْمٌ تَأْمِيرٌ فَعَلٌ

تَنْصُرْ مَسْتَرِزًا لِحَالِ، وَاَوْجَالِهِ قَوْمُهُمَا مَرْكَبٌ اَضَائِي مَبْدَأًا لِمَا جَاءَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْعِ مَقْدَمٍ هُوَ عَيْدٌ وَنَاقِلٌ اسْمٌ قَاعِلٌ هُمُ مَضْمِيرٌ مَسْتَرِزٌ قَاعِلٌ، اسْمٌ قَاعِلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَقْدَمٌ مَعْلٌ لَمْ يَكُنْ جَمْلَةً هُوَ كَرِخْرٌ، مَبْدَأٌ بِأَجْرٍ جَمْلَةٌ اَسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ حَالٌ بِذَوِّ لِحَالٍ بِحَالٍ نَوْؤُونٌ كَقَاعِلٍ لَمْ يَكُنْ حَرْفٌ جَرٌّ يَنْصُرُونَ مَوْصُوفٌ بِمِثْلَتَا مَرْكَبٍ اَضَائِي مَفْعَلٌ، مَوْصُوفٌ بِاصْفَتٍ مَجْرُورٍ، جَاءَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْؤُونِ كُنْ مَعْتَلِقٌ هُوَ عَيْ، فَعْلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَقْدَمٌ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَةٌ اِسْتِغْنَائِيَةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاقَوْلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَعَاءٌ عَاطِفَةٌ كَقَوْلِ نَوْؤُونِ فَعْلٌ وَوَعَلٌ مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ هُمَا مَضْمِيرٌ مَوْصُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَوْصُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اِسْتِغْنَائِيٍّ وَوَعَلٌ مَعْطُوفٌ بِهِ، فَعَاءٌ عَاطِفَةٌ كَقَوْلِ نَوْؤُونِ فَعْلٌ نَاقِلٌ وَوَعَلٌ مَضْمِيرٌ اسْمٌ قَاعِلٌ، هُوَ اَلْمُهَلِّكِينَ جَاءَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مَسْتَرٍ كَقَوْلِ نَوْؤُونِ كُنْ مَعْتَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٌ، فَعْلٌ نَاقِلٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ كَقَوْلِ نَوْؤُونِ هُوَ مَعْطُوفٌ بِهِ۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣٩﴾

**آیت نمبر ۳۹:** وَاَوْ اِتَيْنَا فِي لَاهِرِ مَوْصُوفٌ اَلْقِسْمُ اَوْ رِقْمٌ مَحْذُوفٌ هُوَ قَدْ عَلِمْتَ فَعْلٌ، اَتَيْنَا فَعْلٌ نَاقِلٌ مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ مُوسَى مَوْصُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، الْكِتَابُ مَوْصُولٌ بِهِ ثَانِي، فَعْلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَقْدَمٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ قِسْمٌ كَا جَوَابِ، قِسْمٌ بِاَجْوَابِ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَةٌ قَسْمِيَةٌ هِيَ اَلْعَلُّ حَرْفٌ تَرْجِي مَضْمِيرٌ اسْمٌ قَاعِلٌ كَا اِسْمٌ يَهْتَدُونَ فَعْلٌ وَوَعَلٌ مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ، وَوَعَلٌ مَوْصُولٌ لَمْ يَكُنْ جَمْلَةً فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ هُوَ كَرِخْرٌ، حَرْفٌ تَرْجِي بِاَجْرٍ وَخَبْرٍ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَةٌ تَرْجِيَةٌ هُوَ كَرِخْرٌ اِجْرِي الْاِهْتِدَاءِ اَوَّلٌ كَا تَوَابِلٌ مِشْ هُوَ كَرِخْرٌ اَتَيْنَا كِي مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ سَعَالٌ هُوَ۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَامَةً اَيَةً وَاَوَيْنَهُمَا اِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَوَعَيْنٍ ﴿٥٠﴾

**آیت نمبر ۵۰:** وَاَوْ عَاطِفَةٌ جَعَلْنَا فَعْلٌ نَاقِلٌ مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ اِبْنَ مَرْيَمَ مَرْكَبٌ اَضَائِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ اَمَةٌ مَرْكَبٌ اَضَائِي مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَوْصُولٌ بِهِ اَوَّلٌ اَيَةً مَوْصُولٌ بِهِ ثَانِي، فَعْلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَقْدَمٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ اَوَيْنَا فَعْلٌ نَاقِلٌ مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ هُمَا مَضْمِيرٌ مَوْصُولٌ بِهِ اِلَى حَرْفٍ جَرٌّ رُبْوَةٌ مَوْصُولٌ ذَاتِ قَرَارٍ وَوَعَيْنٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَضَائِي، اَلْبَحْرُ مَرْكَبٌ اَضَائِي رُبْوَةٌ كِي مَفْعَلٌ، مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَاءَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْؤُونِ كُنْ مَعْتَلِقٌ هُوَ عَيْ، فَعْلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَقْدَمٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اَتَيْنَا مُوسَى مَعْطُوفٌ بِهِ۔

﴿ ۳۹ ﴾ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۳ ﴿ ۵۰ ﴾

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

**آیت نمبر ۵۱:** يَا هُوَ حَرْفٌ نَدَاءٌ اَدْعُوْا كَيْ تَقَامَ فَعْلٌ اَدْعُوْا فَعْلٌ اَنَا مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ اَنْتَ مَوْصُوفٌ بِاَسْمٍ لَمْ يَكُنْ حَرْفًا بِرَأْسِهِ تَحْيِيَةٌ اَلرُّسُلُ مَفْعَلٌ بِاَوَّلِ، مَوْصُوفٌ بِاصْفَتٍ مَلْأَمَوْصُوبٌ مَوْصُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَقْدَمٌ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَةٌ هُوَ كَرِخْرٌ، كَلُّوْا فَعْلٌ اَمْرٌ وَوَعَلٌ مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ مِنَ الطَّيِّبَاتِ جَاءَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْعِ مَقْدَمٍ هُوَ عَيْ، فَعْلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَقْدَمٌ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ اَعْمَلُوا فَعْلٌ اَمْرٌ وَوَعَلٌ مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ صَالِحًا بِاَوَّلِ مَوْصُوفٌ مَحْذُوفٌ عَمَلًا كَيْ مَوْصُولٌ مَطْلُوقٌ هُوَ، بِاَصْحَابِهَا مَوْصُولٌ بِهِ هُوَ، تَيَسُّوْا لَمْ يَكُنْ جَمْلَةً اَنْشَائِيَةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ نَدَاءٌ كَا جَوَابِ، نَدَاءٌ بِاَجْوَابِ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَةٌ نَدَائِيَةٌ هِيَ اَلْحَرْفُ تَحْقِيقِيٌّ يَا هُوَ مَضْمِيرٌ مَوْصُولٌ اسْمٌ قَاعِلٌ حَرْفٌ جَرٌّ مَوْصُولٌ تَعْمَلُونَ فَعْلٌ اَمْرٌ وَوَعَلٌ مَضْمِيرٌ قَاعِلٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ هِيَ، مَوْصُولٌ بِاصْفَتٍ مَجْرُورٍ، جَاءَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لِنَوْعِ مَقْدَمٍ هُوَ عَيْ، فَعْلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَقْدَمٌ جَمْلَةٌ اَنْشَائِيَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اَنَا مَسْتَرٌ قَاعِلٌ مِيثْرٌ مَفْعَلٌ بِاقَاعِلٍ وَوَعَلٌ مَقْدَمٌ اِنْ كَلَّ خَبْرٌ اِنْ اَسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اَسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَعْلَةٌ هِيَ۔

## وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝

**آیت نمبر ۵۲:** واوستینا فیہ یاظاہران حرف تحقیق ہذاہم اشہداس کلام اُمَّتُکُم مرکب اضافی ذوالحال اُمَّةً وَاحِدَةً مرکب توصیفی حال ذوالحال باحال خبر بیان ہاںم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ انا ضمیر مبتدایہ اُمَّتُکُم مرکب اضافی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں یاواسطہ عطف کے جواب بناہے۔ فقاء استینا فی اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا تَقَفْتُمْ بِکُوْفِي رَبِّا (از فقیر کا تقو فعل امر واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ اور یاء مخدوفہ لسانہ بالفواصل معقول بہ، فعل بافاعل و معقول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط مخدوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

## فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝

**آیت نمبر ۵۳:** فقاء استینا فیہ تَقَطَّعُوا فعل واو ضمیر ذوالحال زُبُرًا حال باحال فاعل اَمْرَهُمْ مرکب اضافی معقول بہ بَيْنَهُمْ مرکب اضافی معقول فیہ، فعل بافاعل و معقولین جملہ انشائیہ امریہ متانفہ ہوں۔ كُلُّ حِزْبٍ مرکب اضافی مبتدایہ، تاء حرف جرہ کلام موصول لَدَيْهِمْ مرکب اضافی فعل مخدوف کَيْتَبُ کا معقول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ بحرور، جد باجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے فَرِحُونَ صیغہ صفت ہُم ضمیر مستتر فاعل، صیغہ صفت بافاعل و متعلق مقدم شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

## فَدَرَبُهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ۝

**آیت نمبر ۵۴:** فقاء استینا فیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بیان يَفْعُو حَوَائِبًا لَدَيْهِمْ مخدوف فعل امر آتت ضمیر مستتر فاعل ہُم ضمیر ذوالحال فی حرف جر غَمَرَتِهِمْ مرکب اضافی بحرور، جد باجرور ظرف لغو متعلق مستقر مَتَّحِطِينَ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال معقول بہ حَتَّى حِينٍ جد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و معقول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

## أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ۝ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط بَلْ لَا

## يَشْعُرُونَ ۝

**آیت نمبر ۵۵، ۵۶:** ہمزہ حرف استفہام اَيَحْسَبُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق ملام موصول مُبَدُّ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل ہُم ضمیر منصوب معقول بہ یہ جد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و معقول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من حرف جر مَالٍ وَ بَنِينَ معطوف علیہ با معطوف بحرور، جد باجرور ظرف لغو متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال اَنْ کلام، نُسَارِعُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل لاہر حرف جر ہُم ضمیر ذوالحال فی الْخَيْرَاتِ جد باجرور ظرف لغو متعلق مستقر کَائِنِينَ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال بحرور، جد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ کی خبر، اَنْ ہاںم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَيَحْسَبُونَ کے دو معقول کے قائم مقام، فعل بافاعل و متعلقین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں بَلْ حرف عطف واخراب اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ، لَا يَشْعُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معقول، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۱۰﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾  
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۱۲﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلَّ لَهُمْ وِجْلَةٌ أَنَّهُمْ  
إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۱۳﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۱۴﴾

**آیت نمبر ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴:** ان حرف تحقیق الذین اسم موصول ہُنَّ ضمیر مبتدہ، من حرف جر خشیۃ مضاف بہ، ہُمْ مرکب اضافی مضاف الیہ، بحر مضاف با مضاف الیہ بحر، واد باجر اور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، مشفقون اسم فاعل ہُنَّ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الذین اسم موصول ہُنَّ ضمیر مرفوع متصل مبتدہ، ہاں حرف جر ایات مضاف بہ، ہُمْ مرکب اضافی مضاف الیہ، بحر مضاف با مضاف الیہ، یاد کا بحر، واد باجر اور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، یؤمنون فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف ازل، واو حرف عطف الذین اسم موصول ہُنَّ ضمیر مرفوع مبتدہ، ہاں حرف جر ربہم مرکب اضافی مرفوع، واد باجر اور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، لا یشرکون فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، واو عاطفہ الذین اسم موصول یؤتوں فعل واو ضمیر ذوالحال، قَلَّ یُجْعَلُہُمْ مرکب اضافی مبتدہ، وِجْلَةٌ صیغہ صفت ہی مستتر ضمیر فاعل، ان حرف تحقیق ہُنَّ ضمیر اس کا اسم الی حرف جر ربہم مرکب اضافی مرفوع، واد باجر اور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، راجعون اسم فاعل ہُنَّ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتا ویل مفرد وِجْلَةٌ کا مفعول بہ، صیغہ صفت بافاعل و مفعول بہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال یؤتوں کا فاعل، ما اسم موصول اکتوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ یؤتوں کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ان کا اسم ہے، اُولَٰئِكَ اسم اشرہ مبتدہ، یُسْرِعُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال و او حالہ ہُنَّ ضمیر مبتدہ، لہا جاد باجر اور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، سَابِقُونَ اسم فاعل ہُنَّ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال یُسْرِعُونَ کا فاعل فی الخیرات جاد باجر اور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں۔

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَدَيْهَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

**آیت نمبر ۱۵:** واو عاطفہ لَا تُكَلِّفُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل نَفْسًا مفعول بہ، ازل، اِلَّا حرف استثناء وُسْعَهَا مرکب اضافی مستثنیٰ مفرغ ہو کر مفعول بہ، ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَدَيْهَا كِتَابٌ اضافی کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم کِتَابٌ موصوف یَنْطِقُ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل بِالْحَقِّ ظرف مستقر هَتَّيْتَسَا کے متعلق ہو کر یَنْطِقُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف بہ صفت مبتدہ مؤخر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ازل، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدہ لَا يَظْلَمُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ان الذین، معطوف ہے یا پھر جملہ متانہ ہے۔

بَلْ قُلُوْهُمۡ فِيْ عَمْرٍۭةٍ مِّنْ هٰذَا وَاَلَهُمۡ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمۡ لَهَا عَمِلُوْنَ ۝۶۳

**آیت نمبر ۶۳:** بَلْ حَرْفِ عَطْفٍ وَاضْرَابٍ قُلُوْهُمۡ مَّرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَبْتَدَاً فِي حَرْفِ جَرِّ عَمْرٍۭةٍ مَوْصُوفٍ مِّنْ هٰذَا اَجَابَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مَسْتَقَرِّ كَايْنَةِ كَيْ مَتَّلَقٍ هُوَ كَرَجْرٍ، مَبْتَدَاً بِاَخْبَرِ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَاَوْ حَرْفِ عَطْفٍ اَلَهُمْ جَابَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مَسْتَقَرِّ كَايْنَةِ كَيْ مَتَّلَقٍ هُوَ كَرَجْرٍ مَقْدَمٌ اَعْمَالٌ مَوْصُوفٍ مِّنْ حَرْفِ جَرِّ دُوْنِ ذٰلِكَ مَّرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَابَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ مَسْتَقَرِّ كَايْنَةِ كَيْ مَتَّلَقٍ هُوَ كَرَجْرٍ مَقْدَمٌ اَعْمَالٌ مَوْصُوفٍ مِّنْ حَرْفِ جَرِّ دُوْنِ ذٰلِكَ مَقْدَمٌ هُوَ عَمِلُوْنَ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُوَ مَصْمُومٌ مَسْتَقَرِّ فَاعِلٍ اِسْمٌ فَاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَتَّلَقٍ مَقْدَمٌ شَبَّهَ جَمَلَهُ هُوَ كَرَجْرٍ، مَبْتَدَاً بِاَخْبَرِ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ اَعْمَالٌ كِي مَعْتَبَةٌ، مَوْصُوفٍ بِاَضْمِيْنَ مَبْتَدَاً، مَوْخَرٍ، مَبْتَدَاً بِاَخْبَرِ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ جَمَلِ مَسْتَقَرِّ هُوَاً.

حَتّٰى اِذَا اَخَذْنَا مَثَرًا مِّنْ فِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُوْنَ ۝۶۴

**آیت نمبر ۶۴:** حَتّٰى حَرْفِ اِبْتِدَاً اِذَا كَثْرِيَةٌ مَعْفُولٌ فِيْ مَقْدَمٍ اَخَذْنَا فَاَعْلٌ نَا مَصْمُومٌ فَاَعْلٌ مَّتَّوْفِيْهِمْ مَّرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَعْفُولٌ فِيْ بِالْعَذَابِ جَابَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لَفْوٍ مَتَّلَقٍ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَعْفُولِيْنَ وَ مَتَّلَقٍ جَمَلِ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَةٍ هُوَ كَرَجْرٍ اِذَا اَعْنَابًا جَابِيَةٍ مَعْفُولٌ فِيْ مَقْدَمٍ هُوَ مَصْمُومٌ مَرْفُوعٌ مَفْضَلٌ مَبْتَدَاً، يَجْعَرُوْنَ فَعْلٌ وَاَوْ مَصْمُومٌ فَاَعْلٌ وَاَوْ نُوْنٌ لَمْ يَكْرَجْرٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَةٍ هُوَ كَرَجْرٍ، مَبْتَدَاً بِاَخْبَرِ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ جَزَاءً، شَرْطُ اَجْرَاءِ جَمَلِ شَرْطِيَّةٍ هُوَاً.

لَا تَجْعَرُوْا اَلْيَوْمَ فَدٰ اِنۡكُمْ مِّنۡنَا لَا تَنْصَرُوْنَ ۝۶۵

**آیت نمبر ۶۵:** لَا تَجْعَرُوْا فَعْلٌ وَاَوْ مَصْمُومٌ فَاَعْلٌ اَلْيَوْمَ مَعْفُولٌ فِيْ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَعْفُولٌ فِيْ جَمَلِ اِنشَائِيَّةٍ نَبِيَةٍ هُوَاً اِنّ حَرْفِ تَحْقِيْقٍ كُنْتُمْ مَصْمُومٌ اِسْمٌ كَلَامٌ مَبْتَدَاً جَابَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لَفْوٍ مَتَّلَقٍ مَقْدَمٌ هُوَ لَا تَنْصَرُوْنَ فَعْلٌ بِمَجْهُولٍ وَاَوْ مَصْمُومٌ فَاَعْلٌ، فَعْلٌ بِمَجْهُولٍ اِسْمٌ نَائِبٌ فَاَعْلٌ وَ مَتَّلَقٍ مَقْدَمٌ سَلَّمَ كَرَجْرٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَةٍ هُوَ كَرَجْرٍ اِنّ اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ مَعْلِيَّةٍ هُوَاً.

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تَتْلٰى عَلَيْنِكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُوْنَ ۝۶۶ مُسْتَكْبِرِيْنَ ۝۶۷

سَبِيْرًا تَتَّهَجُرُوْنَ ۝۶۸

**آیت نمبر ۶۶، ۶۷، ۶۸:** قَدْ كَانَتْ فَعْلٌ نَائِبٌ اَلْيَوْمَ اِسْمٌ كَلَامٌ تَتْلٰى فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَعْفُولٌ فِيْ جَمَلِ اِنشَائِيَّةٍ نَبِيَةٍ هُوَاً اِنّ حَرْفِ تَحْقِيْقٍ كُنْتُمْ مَصْمُومٌ اِسْمٌ نَائِبٌ فَاَعْلٌ جَابَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لَفْوٍ مَتَّلَقٍ هُوَ، فَعْلٌ بِمَجْهُولٍ بِاِنَائِبِ فَاَعْلٍ وَ مَتَّلَقٍ مَقْدَمٌ مَوْصُوفٍ خَبْرٍ، فَعْلٌ نَائِبٌ اَلْيَوْمَ اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، فَكَاً عَاطِفَةٌ كُنْتُمْ فَعْلٌ نَائِبٌ اَلْيَوْمَ اِسْمٌ كَلَامٌ عَلٰى حَرْفِ جَابَ اَعْقَابِكُمْ مَّرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَابَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لَفْوٍ مَتَّلَقٍ مَقْدَمٌ هُوَ تَنْكِبُوْنَ فَعْلٌ وَاَوْ مَصْمُومٌ فَاَعْلٌ اِسْمٌ فَاَعْلٌ اَنْتُمْ مَصْمُومٌ مَسْتَقَرِّ فَاعِلٍ بِهٖ جَابَ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٍ لَفْوٍ مَتَّلَقٍ هُوَ، اِسْمٌ فَاَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَتَّلَقٍ شَبَّهَ جَمَلَهُ هُوَ كَرَجْرٍ اِلٰوٰى، سَبِيْرًا اِحَالٌ ثَانِيَّةٌ، تَتَّهَجُرُوْنَ فَعْلٌ وَاَوْ مَصْمُومٌ فَاَعْلٌ وَاَوْ نُوْنٌ لَمْ يَكْرَجْرٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَةٍ هُوَ كَرَجْرٍ، مَبْتَدَاً بِاَخْبَرِ جَمَلِ اَسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ جَمَلِ مَعْلِيَّةٍ هُوَاً.

**سوال:** سبب الامر مفرد کا صیغہ ہے تو یہ تَنْكِيضٌ كُنْ اَوْ ضَمِيرٌ جَمْعٍ سے حال کیسے بن سکتا ہے۔

**جواب:** علامہ راغب فرماتے ہیں کہ سبب الامر "حاج اور راکب کی طرح جمع جمع ہے، لہذا اس کا جمع کی ضمیر سے حال واقع ہونا درست ہے۔

**أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾**

**آیت نمبر ۶۸:** ہمزہ حرف استقیام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے جہلُوا یا فَعَلُوا اَمَّا فَعَلُوا اَلَمْ يَدَّبَّرُوا فَعَلُوا ضمیر قائل الْقَوْلَ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف یا معطوف جملہ متانفہ ہوا۔ اَمَّا مفسرہ بمعنی بکن جَاءَ فعل ہُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ، ماسم موصول لَمْ يَأْتِ فعل ہُوَ ضمیر مستتر قائل اَبَاءَهُمْ مرکب اضافی موصوف الْأَوَّلِينَ صیغہ صفت ہُوَ ضمیر مستتر قائل، دونوں نکر صفت، موصوف ہفت لَمْ يَأْتِ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ جَاءَ کا قائل، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ متانفہ ہوا۔ (اعراب القرآن محمود صانی)

**أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا أَسْأَلَهُمْ فَمَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾**

**آیت نمبر ۶۹:** اَمَّ مفسرہ بمعنی بکن لَمْ يَعْرِفُوا فعل واو ضمیر قائل اَسْأَلَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، بتینوں نکر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ ہُوَ ضمیر مبتدا، کہ جاہ باجز و در ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، مُنْكَرُونَ اسم قائل ہُوَ ضمیر مستتر قائل، اسم قائل باقاعل و متعلق مقدم شبہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

**أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُوهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٧٠﴾**

**آیت نمبر ۷۰:** اَمَّ مفسرہ بمعنی بکن يَقُولُونَ فعل واو ضمیر قائل، دونوں نکر جملہ فعلیہ خبریہ قول، پہ جاہ باجز و در ظرف مستقر جِنَّةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم جِنَّةٌ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بَلْ حرف انصراب جَاءَ فعل ہُوَ ضمیر مستتر و الحال بِالْحَقِّ ظرف مستقر مُتَكَبِّرِينَ کے متعلق ہو کر حال، و الحال باحال قائل ہُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل باقاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا و او حالیہ اَكْثَرُوهُمْ مرکب اضافی مبتدا، لِلْحَقِّ جاہ باجز و در ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، كِرْهُونَ اسم قائل ہُوَ ضمیر مستتر قائل، اسم قائل باقاعل و متعلق مقدم شبہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ضمیر منصوب کا حال ہے۔

**وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ**

**بِذِكْرِهِمْ فَمَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مَعْرِضُونَ ﴿٧١﴾**

**آیت نمبر ۷۱:** وَاوَاغْرَضُوا لَوْ حرف شرط اتَّبَعَ فعل الْحَقِّ قائل أَهْوَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط ملاحہ جماییہ فَسَدَتِ فعل السَّمَوَاتُ معطوف علیہ، وَاوَاغْرَضُوا لَوْ وَاوَاغْرَضُوا موصول فِيهِنَّ موصول فِيهِنَّ جاہ باجز و در ظرف مستقر فعل محذوف لَبَّتِ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین فَسَدَتِ کا قائل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معترضہ ہوا۔ بَلْ حرف انصراب أَتَيْنَا فعل ہُوَ ضمیر قائل ہُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ، بناء حرف جر ذِكْرِهِمْ مرکب اضافی جزاء، جاہ باجز و در ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء

عاطفہ ہُم ضمیر مبتدأ عن حرف جر ذی کثر ہم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے مُعْرِضٌ مَوْءِنٌ اسم فاعل ہُم ضمیر مستتر فاعل اور متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ مستأنف ہوں۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ سَلَىٰ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿۵۱﴾

**آیت نمبر ۵۱:** اَمْ حَرْف عطف تَسْأَلُ فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل ہُم ضمیر معقول یہ اول سَخَّرَ جَا مفعول بہ ثانی فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستأنف ہوں سَاءَ تعلق علیہ خَرَّاجٌ تعلق علیہ خَرَّاجٌ مرکب اضافی مبتدأ خَيْرٌ اسم تفضیل ہُوَ مستتر فاعل دونوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہُوَ او عاطفہ ہُوَ ضمیر مبتدأ خَيْرٌ الرَّزَاقِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ معطلہ ہوں۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۵۲﴾

**آیت نمبر ۵۲:** وَاوَاثِنَا فِرَافِنَ حَرْف تَحْقِيقِ كَانِ ضمیر اس کا اسم لآءِ مَذْحِجَةٌ تَدْعُو فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ الی حرف جر صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور ظرف لغو تَدْعُو کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیانِ بسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنف ہوں۔

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكِبُونَ ﴿۵۳﴾

**آیت نمبر ۵۳:** وَاوَاثِنَا فِرَافِنَ حَرْف تَحْقِيقِ الَّذِينَ اسم موصول لَا يُؤْمِنُونَ فعل وَاوَاثِنَا فِرَافِنَ بِالْآخِرَةِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باسمرانِ کلام، عَنِ الصِّرَاطِ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم بلاءِ مَذْحِجَةٌ نُكِبُونَ اسم فاعل ہُم ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بیانِ اپنے اسم و خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اولیٰ معطوف ہے۔

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُوفُ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْتَهُونَ ﴿۵۴﴾

**آیت نمبر ۵۴:** وَاوَاثِنَا فِرَافِنَ حَرْفِ شَرْطٍ رَحِمْنَا فعل نَا ضمیر فاعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ، تَبِيزٌ ل ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَاثِنَا كَشَفْنَا فعل نَا ضمیر فاعل مَا اسم موصول بِهِمْ جار مجرور ظرف مستقر فعل مَحْذُوفٌ كَيْتٌ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ ضُرٍّ جار مجرور ظرف مستقر كَانُوا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال كَشَفْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف شَرْطٌ بلاءِ جَوَابِيهِ لَجُوفٌ فعل وَاوَاثِنَا ذوالحال فی حرف جر طُعْيَانِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے يَعْتَهُونَ فعل وَاوَاثِنَا فاعل و متعلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال باحال لَجُوفٌ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شَرْطٌ باجزاء جملہ شرطیہ مستأنف ہوں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۵۵﴾

**آیت نمبر ۵۵:** وَاوَاثِنَا فِرَافِنَ لآءِ مَوْءِنٌ لِقَمِّمْ اور قسم مَحْذُوفٌ ہے قَدْ علامت فعل أَخَذْنَا فاعل نَا ضمیر فاعل ہُم ضمیر منصوب

مفعول بہ یا لَعْدَابٍ جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ صَا حَرْفِ لُغِي  
اِسْتَكْتَاوُا فَعَلٌ وَاوُضْمِيرٌ قَاعِلٌ لَّا حَرْفٌ جَزْوِيٌّ هُجْرٌ مَرْبٌ اِسْنَانِيٌّ جَزْوَرٌ، جہد باجر و طرف لغو اِسْتَكْتَاوُا کے متعلق ہوئے، فعل باقائل  
و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاوُ عاطفہ صَا حَرْفِ لُغِي يَتَضَمَّرُ عُنُونٌ فَعَلٌ اِدَاوُضْمِيرٌ قَاعِلٌ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با  
معطوفین قسم مخدوف کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انتہائی قسمیہ ہوں۔

حَتَّىٰ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۷۷﴾

آیت نمبر ۷۷: حَتَّىٰ حَرْفٌ اِبْتِدَائِيٌّ اَشْرَطِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ فَتَحْنَا فَعَلٌ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ عَلَيْهِمْ جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے  
بَابًا موصوفہ ذَا اِسْمَاتٍ مَصْفَاةٌ مَضَافٌ لِّعَذَابٍ شَدِيدٍ مَرْبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَضَافٌ اِلَيْهِ، پھر مَرْبٌ اِسْنَانِيٌّ بَابًا کی صفت، موصوفہ ہفت  
فَتَحْنَا کا مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شَرَطًا اِذَا مَفْجَاةِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ، هُمْ ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مَبْتَدَاؤُهُ جہد  
باجر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے مُبْلِسُونَ اِسْمٌ قَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ و مفعول فی مقدم و متعلق سے ل کر شدہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا  
باجر جملہ اسمیہ خبریہ جزم، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوں۔

﴿۷۷﴾ رُكُوْعٌ عَمْرٍ ۵ ﴿۷۷﴾

وَهُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾

آیت نمبر ۷۸: وَاوُضْمِيْرٌ اِسْنَانِيٌّ فِي هُوَ ضَمِيرٌ مَبْتَدَاؤُهُ الَّذِي اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ اَنْشَأَ فَعَلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ لَّا حَرْفٌ جہد باجر و طرف لغو  
باجر و طرف لغو متعلق ہوئے السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ  
خبریہ صلہ، موصول باصل خبر، مبتدا باجزء اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں قَلِيْلًا مَوْكِدٌ مَّا زَلَّةٌ تَاكِيْدٌ، مَوْكِدٌ بَا تَاكِيْدٍ بِيَاوُضْمِيْرٌ مَوْصُوْلٌ مَخْدُوْفٌ شُكْرًا  
کے مفعول مطلق مقدم تَشْكُرُونَ فَعَلٌ وَاوُضْمِيْرٌ قَاعِلٌ، فعل باقائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَالْيَهْ تُحْشَرُونَ ﴿۷۹﴾

آیت نمبر ۷۹: وَاوُضْمِيْرٌ اِسْنَانِيٌّ فِي هُوَ ضَمِيرٌ مَبْتَدَاؤُهُ الَّذِي اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ ذَرَا فَعَلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِي فِي الْاَرْضِ جہد  
باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاوُضْمِيْرٌ اِسْنَانِيٌّ جہد باجر و طرف لغو متعلق مقدم  
ہوئے تُحْشَرُونَ فَعَلٌ مَجْهُوْلٌ وَاوُضْمِيْرٌ نَابٌ قَاعِلٌ، فعل مجہول بابائے قاعِل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف  
صلہ، موصول باصل خبر، مبتدا باجزء اسمیہ خبریہ جملہ مستانفہ معطوف ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُعْجِي وَيُيَسِّتُ وَلَهُ اِخْتِلَافُ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: وَاوُضْمِيْرٌ اِسْنَانِيٌّ فِي هُوَ ضَمِيرٌ مَبْتَدَاؤُهُ الَّذِي اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ يُعْجِي فَعَلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ،  
وَاوُضْمِيْرٌ اِسْنَانِيٌّ فَعَلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاوُضْمِيْرٌ اِسْنَانِيٌّ جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوں کہ خبر  
مقدم، اِخْتِلَافٌ مَضَافٌ اِلَيْهِ وَالنَّهَارِ معطوف علیہ با معطوف مَضَافٌ اِلَيْهِ، پھر مَرْبٌ اِسْنَانِيٌّ مَبْتَدَاؤُهُ خَبْرٌ، مَبْتَدَاؤُهُ جہد باجر و طرف لغو متعلق  
ثانی، معطوف علیہ با معطوفین الَّذِي کا صلہ، موصول باصل خبر، مبتدا باجزء اسمیہ خبریہ جزم، مستانفہ ہوں۔



معطوف علیہ محذوف ہے تَعْلَمُونَ، لَا تَعْلَمُونَ فعل باو ضمیر قائل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف یا معطوف بہ متاخر ہوں

### بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالِ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾

آیت نمبر ۸۱: بَلْ حرف اضرب قَالُوا فعل باو ضمیر قائل مِثْلَ مضاف مآسَم موصول قَالِ فعل الْأَوَّلُونَ قائل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مِثْلَ کا مضاف الیہ، مرکب اضافی بواسطہ موصوف محذوف قَوْلَا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

### قَالُوا إِذًا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظًا مَا عَرَانَا كَمُبْعُو نُؤُونَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: قَالُوا فعل باو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ھمزہ حرف استہمام اِذًا شرطیہ مفعول فیہ مقدم مِثْنًا فعل نا ضمیر قائل، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ كُنَّا فعل نا ضمیر اس کلام کُنَّا تَرَابًا وَعِظًا مَا معطوف علیہ یا معطوف خبر، فعل نا قص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف شرط اور جزاء محذوف ہے نُبْعُثْ، نُبْعُثْ فعل مجہول نَحْنُ ضمیر مستتر نائب قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں ھمزہ حرف استہمام اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کلام لآہرہ ملحقہ مَبْعُو نُؤُونَ اسم مفعول نَحْنُ ضمیر مستتر نائب قائل، دونوں مل کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسیہ انشائیہ جزاء محذوف نُبْعُثْ کی تفسیر ہے

### لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۸۳: لآہرہ موطن القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، وَعِدْنَا فعل مجہول نا ضمیر مؤکد نَحْنُ ضمیر تاکید، مؤکد یا تاکید معطوف علیہ، واو عاطفہ اٰبَاؤُنَا کا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف نائب قائل، ھذا اسم اشارہ مفعول بہ، مِنْ قَبْلُ جہد باجزاء و ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول یا نائب قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب ہے، قسم محذوف باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہولین حرف نفی ھذا اسم اشارہ مبتدأ بالآحرف استہمام اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ مرکب اضافی مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسیہ خبریہ ہوں

### قُلْ لِيْسَ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۴﴾

آیت نمبر ۸۴: قُلْ فعل امر آت ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر قول، لآہرہ حرف رخصت استہمامیہ عَلَّمَ جہد، جہد باجزاء و خبر ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْاَرْضُ وَالْمَنْ فِيْهَا موصول معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْ اِسْم موصول فیہا جہد باجزاء و خبر ظرف مستقر فعل محذوف قَبِيْت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسیہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہولین حرف شرط كُنْتُمْ فعل نا قص ضمیر اس کلام تَعْلَمُوْنَ فعل باو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل نا قص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے قَائِمِيْ وَفِي لِيْسَ ھما شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

### سَيَقُولُوْنَ لِيْلٰهٍ قُلْ اَقْلَاتَدَّ كُرُوْنَ ﴿۸۵﴾

**آیت نمبر ۸۵:** میں علامت فعل، يَقُولُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ قول، يَلْتَمِسُ جاد باجرور ظرف مستقر كَاتِبَةً کے متعلق ہو کر خبر اور مبتدا مخدوف ہے۔ اَلْاَرْضُ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قُلْ امر اَنْتَ ضمیر مستقر فاعل، و دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، هَذِهِ حرف استفہام فاء عاطفہ اور مخدوف علیہ مخدوف ہے تَعْفَلُونَ، لَا تَدْكُرُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

**قُلْ مَنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝**

**آیت نمبر ۸۶:** قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستقر فاعل، و دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، مَنْ اسم استفہام مبتدا، رَبِّ مضاف السَّمَوَاتِ السَّبْعِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف علیہ، او او عاطفہ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا باخبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

**سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۝**

**آیت نمبر ۸۷:** سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ کی ترکیب سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَدْكُرُونَ کی مثل ہے۔

**قُلْ مَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝**

**آیت نمبر ۸۸:** قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستقر فاعل، و دونوں مل کر جملہ انشائیہ قول، مَنْ اسم استفہام مبتدا، بِأَمْرِ حَرْفِ جَدِيدٍ بہ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف مستقر كَلِّئِمْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَلَكُوتَ مضاف كَلِّئِمْ مَرْكَبِ مَرْكَبِ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، يُجِيرُ فعل هُوَ مستقر فاعل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفہ لَا يُجَارُ فعل مجہول هُوَ ضمیر مستقر نائب فاعل عَلَيَّهِ جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف هُوَ کی خبر، مبتدا باخبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں اور اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی ترکیب آیت نمبر ۸۳ میں دیکھئے۔

**سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَاَنى تَسْحَرُونَ ۝**

**آیت نمبر ۸۹:** اور سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ کی ترکیب آیت نمبر ۸۵ میں دیکھئے۔ قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستقر فاعل، و دونوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول، فاء نصیرہ اور شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، یا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ هٰذَا اَنْى اسم استفہام كَاتِبِينَ کا منقول فیہ ہو کر حال مقدم تَسْحَرُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول ہا نائب فاعل جملہ انشائیہ جزاء، شرط مخدوف ہا جزاء مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔

**بَلْ اَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَانَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۝**

**آیت نمبر ۹۰:** بَلْ حرف اضراب اَتَيْنَهُمْ فاعل نا ضمیر ذوالحال بِالْحَقِّ ظرف مستقر مُتَّبِعِينَ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال فاعل هُمْ ضمیر منصوب ذوالحال، او او عاطفہ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ هُمْ ضمیر اس کلام لآمرہ مطلقہ لَكٰذِبُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل، و دونوں مل کر

خبرِ باریّ باسم و خبر حال ہذا دل حال با حال مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ اَسْبِغْنَ اللهُ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۹۱﴾**

**آیت نمبر ۹۱:** ما حرف نفی اِتَّخَذَ فعل اَللّٰهُ اسم الجلالہ قائل من حرف جر زائد وَلَدٍ لفظاً مجرور مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاو عطفہ مَاتَانِیْ كَانَ فعل ناقص مَعَهُ مرکب اضافی ظرف مستقر کَاتِنَا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، مِنْ حرف جر زائد اِلٰهٍ لفظاً مجرور مفعول فرج اسم مؤخر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہوا۔ اِذَا حرف جواب مہمل لام جرایی ذَهَبَ فعل کُلُّ اِلٰهٍ مرکب اضافی قائل تَاء حرف جر ماسم موصول خَلَقَ فعل هُوَ ضمیر مستتر قائل و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہد با مجرور ظرف لغو ذَهَبَ کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاو عطفہ لَام جرایی عَلَا فعل بَعْضُهُمْ مرکب اضافی قائل عَلٰی بَعْضٍ جہد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جہد ہے شرط مقدّر لَوْ كَانَ مَعَهُ اِلٰهَةٌ کی، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ سُبِغْنَ مصدر مضاف اَللّٰهُ ماسم الجلالہ مضاف الیہ عَنْ حرف جر ماسم موصول یَصِفُوْنَ فعل وَاو ضمیر قائل و دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہد با مجرور مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر اپنے مضاف الیہ و متعلق سے ل کر فعل مخدوف نَسْبِحْ کا مفعول مطلق ہے، فعل با قائل و مفعول مطلق جملہ مستانہ ہوں۔

**عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۹۲﴾**

**آیت نمبر ۹۲:** عِلْمِ صیغہ سفت مضاف الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ لفظاً اَللّٰهُ کا بدل ہے، فَآء عطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے عِلْمِ اللّٰهِ الْغَيْبِ، تَعَلٰی فعل هُوَ ضمیر مستتر قائل عَنْ حرف جر ماسم موصول يُشْرِكُوْنَ فعل وَاو ضمیر قائل و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہد با مجرور ظرف لغو تَعَلٰی کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف اپنے معطوف سے مل کر جملہ مستانہ ہوں۔

﴿ ۹۲ ﴾ رکوع نمبر ۶ ﴿ ۹۱ ﴾

**قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيّٰنِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۴﴾**

**آیت نمبر ۹۳، ۹۴:** قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر قائل سے ل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول رَبِّ یہ اصل میں کیا کرتی ہے اور یہ مؤکد ہے، اور دوسرا رَبِّ تاکیدیہ ہے، مؤکد ہا یکیدہ نامہ ہے، اِنْ حرف شرط مآلذ وَرِيّٰنِيْنَ فعل نون فقہیہ برائے تاکیدیہ اور نون و قایہ مخدوفہ کے قائم مقام ہے، یَاء ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّل، ماسم موصول يُوْعَدُوْنَ فعل مضارع مجہول وَاو ضمیر نائب قائل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ رَبِّ یہ پہلے رَبِّ کی تاکیدیہ ہے، فَآء جزائیہ لَا تَجْعَلْ فعل نمی اَنْتَ ضمیر مستتر قائل نون برائے و قایہ یَاء ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّل فی حرف جر الْقَوْمِ موصوف الظّٰلِمِيْنَ صفت، موصوف با صفت کَاتِنَا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر نامہ کا جواب، نامہ با جزاء نامہ

مقولہ قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ متافہ ہوں۔

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿۹۵﴾

**آیت نمبر ۹۵:** واؤا انا فی انہ ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم علی حرف جار ان حرف مصدری و نصب نُوی فعل مضارع معلوم نُحْن ضمیر مستتر فاعل کان ضمیر منصوب مفعول بہ اؤل ما کام موصول نجد فعل نُحْن ضمیر مستتر فاعل هُم ضمیر منصوب مفعول بہ فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مفعول بہ یعنی فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرد و جار باجر و در ظرف لغو متعلق مقدم ہونے کا درجہ ملکہ قدیرون کام فاعل نُحْن ضمیر مستتر فاعل باسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر ان کی خبر انہ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متافہ ہوں۔

إِذْفَعُ بِالْقَبِيْهِ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ إِذْفَعُ عَلَمٌ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۶﴾

**آیت نمبر ۹۶:** إذفَع فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل بآء حرف جر القبیہ کام موصول ہی ضمیر منفصل مبتدأ أَحْسَنُ اسم تفضیل ہی ضمیر مستتر فاعل بدو نون مل کر خبر مبتدأ باجر صلہ موصول باصلہ بواسطہ موصوف عمد و الفصلة کے مجرد و جار باجر و در ظرف لغو إذفَع کے متعلق ہونے السَّيِّئَةِ مفعول بہ فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ متافہ ہوں۔ نُحْن ضمیر مبتدأ عَلَمٌ اسم تفضیل نُحْن مستتر فاعل بآء حرف جر ما کام موصول یَصِفُونَ فعل باؤا ضمیر فاعل بملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مجرد و جار باجر و در ظرف لغو متعلق ہونے اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**سوال:** اس آیت میں أَحْسَنُ اور عَلَمٌ مبتدأ کی خبریں أَحْسَنُ ہی ضمیر کی خبر اور عَلَمٌ نُحْن ضمیر کی خبر ہے مگر مبتدأ اور خبر کے درمیان مطابقت نہیں ہے اس لئے کہ مبتدأ مؤنث اور خبر أَحْسَنُ مذکر ہے اسی طرح نُحْن ضمیر مبتدأ جمع کی ضمیر ہے اور عَلَمٌ صیغہ واحد مذکر خبر ہے لہذا مبتدأ اور خبر کے درمیان مطابقت نہیں ہے؟

**جواب:** أَحْسَنُ اور عَلَمٌ اسم تفضیل ہون کے ساتھ مستعمل ہیں کیونکہ أَحْسَنُ کے بعد مؤنثہ اور عَلَمٌ کے بعد مؤنث کی شے ہی مقدر ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جب اسم تفضیل مؤنث کے ساتھ ہو تو وہ ہمیشہ واحد مذکر آیا کرتا ہے خواہ اس کا موصوف یا مبتدأ مذکر ہو یا مؤنث، واحد ہو یا مشبہ یا جمع (فلا اشکال)

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۹۸﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضَبُوْنَ ﴿۹۹﴾

**آیت نمبر ۹۸، ۹۹:** واؤ اعوذ علیہ واؤ اعطفہ قُل فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل بدو نون مل کر جملہ انشائیہ قول رب میں یا کرتی ہے اور یہ نداء ہے، اَعُوْذُ فعل انا ضمیر مستتر فاعل بلك جار باجر و در ظرف لغو متعلق ہونے من حرف جر هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ مرکب اضافی مجرد و جار باجر و در ظرف لغو متعلق یعنی ہونے، یا خائف کا متعلق ہو کر اَعُوْذُ کی ضمیر فاعل سے حال ہونے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ معطوف علیہ واؤ اعطفہ اَعُوْذُ فعل انا ضمیر مستتر فاعل بلك جار باجر و در ظرف لغو متعلق اؤل ہونے، اَنْ حرف مصدری و نصب يَخْضَبُوْنَ فعل اور حالت نصب میں نون اعرابی نون جمع حذف ہو گیا ہے نون برائے و قایہ اور یاء عمد و برائے نواصل مفعول بہ ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر منصوب بنزع الفاعل متعلق یعنی فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ

خبر یہ جواب نہادہ مقدم، رتبہ یہ اصل میں نکاتی ہے اور یہ نہادہ مؤخر ہے، نہادہ باہجواب نہادہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ پہلے قُلْ رَتَبٌ معطوف ہے۔

### حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾

**آیت نمبر ۹۹:** تحقق حرف ابتدا اِذَا شرطیہ مفعول فی مقدم جَاءَ فعل اَحَدَهُم مرکب اضافی مفعول بہ مقدم الْمَوْتُ فاعل، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول رَتَبٌ یہ اصل میں نکاتی ہے اور یہ نہادہ ہے اِزْجِعُوا فعل امر وَاوَّضِعُوا ضمیر فاعل نون برائے وقایہ، یَاہُ عطفہ لرحایہ لغواصل مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہادہ با جواب نہادہ، باہجواب مقولہ، قول با مقولہ جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوں۔

لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَاَوْ مِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى

### يَوْمٍ رَّيْبَعُونَ ﴿۱۰۰﴾

**آیت نمبر ۱۰۰:** لَعَلِّيْ حرف ترمی یَاہُ ضمیر منصوب اس کا اسم، اَعْمَلُ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل صَالِحًا مینہ صفت هُوَ مستتر فاعل سے مل کر عَمَلًا موصوف مخدوف کی صفت اُولٰٓئِیْ فی حرف جر صَا اس موصول تَرَكَتُ فعل تَاء مضمومہ ضمیر فاعل اور تَا مَخْدُوف مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مَقَابِلِ مضاف مخدوف کا مضاف الیہ، مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کَلِمَاتِ کے متعلق ہو کر عَمَلًا مخدوف کی صفت ثانیہ، موصوف با مضمین مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَعَلِّيْ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ انشائیہ مستانفہ ہوں۔

كَلَّا حرف روع غیر عامل اِنَّ حرف تحقيق ہا ضمیر اس کا اسم كَلِمَةٌ موصوف هُوَ ضمیر مبتدا، قَائِلُهَا مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت خبر اِنَّ ہا ضمیر خبریہ معطوف علیہ، وَاوَّ عطفہ من حرف جار وَاوَّ اِیْہُم مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کَلِمَاتِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، بَرْزَخٌ موصوف اِلٰی حرف جار یَوْمٍ مضاف یُرْعَوْنَ فعل مجہول وَاوَّ ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر جملہ مجرور مضاف الیہ، مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کَلِمَاتِ کے متعلق ہو کر بَرْزَخٌ کی صفت، موصوف با صفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

### فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَنْسَاۗءُ لٰوْنَ ﴿۱۰۱﴾

**آیت نمبر ۱۰۱:** فَاِذَا استیثنا فی اِذَا شرطیہ مفعول فی مقدم نُفِخَ فعل مجہول هُوَ ضمیر مستتر راجع بسوئے مصدر نائب فاعل فی الصُّورِ جاد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوتے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاِذَا جزائیہ لَان لئی جنس اَنْسَابِ اس کا اسم بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اِذَا کَلِمَةٌ کا، یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فی ثانی، کَلِمَةٌ اسم فاعل ہی مستتر نائب فاعل و مفعولین سے مل کر خبر، اِلٰی اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ وَاوَّ عطفہ لایکسآء لٰوْنَ فعل ہا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۱۰۳﴾

**آیت نمبر ۱۰۲، ۱۰۳:** فَاہ تقریبیہ من اسم شرط مبتدأ، ثَقَلَتْ فعل موزونہ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاہ جزائیہ اُولَئِكَ اسم اشدہ مبتدأ، هُمْ ضمیر برائے فعل الْمُفْلِحُونَ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ من اسم شرط مبتدأ، خَفَّتْ فعل موزونہ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاہ جزائیہ اُولَئِكَ اسم اشدہ مبتدأ، الَّذِينَ اسم موصول خسیسُوْا فعل واو ضمیر فاعل اَنفُسُهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر اولیٰ فی جہنم جہ باجر و در طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، خَالِدُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شدہ جملہ ہو کر خبر ثانی، مبتدأ باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متنازعہ ہو۔

تَكْفُوحٌ وَّجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿۱۰۴﴾

**آیت نمبر ۱۰۴:** تَكْفُوحٌ فعل وَّجُوهَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم النَّارُ فاعل مؤخر تَمِيزُونَ لں کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر منفصل مبتدأ، فِيهَا جہ باجر و در طرف لغو متعلق مقدم كَالِحُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شدہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خَالِدُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

اَلَمْ تَكُنْ اَلِیَّتِیْ تَتَمَلَّیْ عَلَیْکُمْ فَکُنْتُمْ بِهَا تُکَدِّیُونَ ﴿۱۰۵﴾

**آیت نمبر ۱۰۵:** هَمْزاً حرف استہمام اَلَمْ تَكُنْ فعل ناقص اَلِیَّتِیْ مرکب اضافی مرفوع تقدیرہ اس کا اسم تَمَلَّیْ فعل مجہول ہی ضمیر مستتر نائب فاعل عَلَیْکُمْ جہ باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائیب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فَاہ عاطفہ کُنْتُمْ فعل ناقص اَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم اِنھیں جہ باجر و در طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، تُکَدِّیُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قول، مقدر یَقَالُ لَہُمْ کا متولہ، قول با متولہ كَالِحُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

قَالُوا رَبَّنَا عَلَبْتَ عَلَيْنَا سِحْقُوْنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِیْنَ ﴿۱۰۶﴾

**آیت نمبر ۱۰۶:** قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل، دو دونوں مل کر قول ہوئے، رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے، یَاہ حرف ندا، اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اَنْتُمْ ضمیر مستتر فاعل، رَبَّنَا ملامیٰ مضاف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، عَلَبْتَ فعل عَلَيْنَا جہ باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے سِحْقُوْنَا امرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كُنَّا فعل ناقص اَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم قَوْمًا موصوف صَالِیْنَ صیغہ صفت هُمْ ضمیر مستتر فاعل، دو دونوں مل کر شدہ جملہ ہو کر قَوْمًا کی صفت، موصوف با صفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداہ کا جواب، نداہ با جواب متولہ، قول با متولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

## رَبَّنَا آخِرُ جَنَّتَا مِنْهَا فَإِن عَدْنَا فَأَنَا ظَلِمُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ علامہ ہے آخری فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل کا ضمیر منسوب مفعول بہ، مِنْهَا جہاد باجور و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ، و متعلق جملہ انشائیہ امر یہ علامہ کا جواب، علامہ باجواب جملہ انشائیہ علامتہ ہوں۔ فاعل ماعظمان حرف شرط عَدْنَا فعل کا ضمیر مرفوع متصل فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ فاعل جزائیہ اِنْ حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم ظلمون اسم فاعل تَخْن ضمیر مستتر فاعل دونوں مل کر خبر اِنْ ہا م و خبر جملہ اسبیہ خبریہ جزاء، شرطہ باجواب جملہ شرطیہ ہوں۔

## قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہا حَسَبُوا فعل امر واو ضمیر فاعل فِيهَا جہاد باجور و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو ماعظمان لَ تَكَلِّمُوا فعل نہی واو ضمیر فاعل لون برائے وقایہ، یَا کہ ضمیر محذوف مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

## إِنَّه كَانَ قَرِيْبِي قَرِيْبِي عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۲:** اِنْ حرف تحقیق کا ضمیر منسوب اس کا اسم کان فعل ناقص قَرِيْبِي موصوف صون حرف جر عِبَادِي مرکب اضافی باجور و جہاد باجور و طرف مستتر کالون کے متعلق ہو کر قَرِيْبِي کی صفت، موصوف ہفت کان کا اسم يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول و رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ علامہ ہے اَمَّنَّا فعل کا ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ علامہ کا جواب، علامہ باجواب علامہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ خبر، فعل ناقص ہا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اسبیہ خبریہ مستاف ہوں۔ فاعل ضمیر اور شرط محذوف ہے اِنْ تُكَلِّمُوْنَا اَغْفِرْ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل لَنَا جہاد باجور و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو ماعظمان اَرْحَمْنَا فعل امر آت ضمیر مستتر و الحال، واو حال اَنْتَ ضمیر مبتدا، خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ مرکب اضافی خبر، مبتدا باجور و جملہ اسبیہ خبریہ حال ہذا و الحال ہا م اَرْحَمْنَا کا فاعل کا ضمیر منسوب مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امر یہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرطہ محذوف باجواب جملہ شرطیہ ہوں۔

## فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سَخِرَ يَا حَقِيْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ ذِيْ كُرْبِيْ وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿۱۳﴾

**آیت نمبر ۱۳:** فاعل ماعظمان اَتَّخَذْتُمْ فعل نہی کا ضمیر فاعل اَنْتُمْ ضمیر منسوب مفعول بہ اول اَنْتُمْ سَخِرَ يَا حَقِيْ مفعول بہ اول، حَقِيْ حرف غلیت و جر اَنْتُمْ واو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اول ذِيْ كُرْبِيْ مرکب اضافی منسوب تقدیر مفعول بہ اول، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو ماعظمان كُنْتُمْ فعل ناقص اَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم مِنْهُمْ جہاد باجور و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تَضْحَكُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف عملاً باجور و جہاد باجور و طرف لغو اَتَّخَذْتُمْ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ خبریہ قَوْلُونَ ہر معطوف ہے۔

## اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا وَاِنَّهُمْ هُمُ الْفَاكِرُونَ ﴿۱۴﴾

**آیت نمبر ۱۴:** اِنْ حرف تحقیق یَا کہ ضمیر منسوب اس کا اسم جَزَيْتُ فعل ناقص اِنَّهُمْ مضمومہ فاعل هُمْ ضمیر منسوب مفعول بہ اول، الْيَوْمَ

مفعول فیہ، بئام حرف جر ما حرف مصدر صبیح و فعل باء و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرد، باجر و طرف لئو جَزَّيْتُس کے متعلق ہوئے اَنْ حرف تحقیق کُم ضمیر منصوب اس کا اسم کُم کُم ضمیر مرفوع منفصل مبتدأ، اَلْاَسْمُ موصول بمعنی اَلَّذِيْنَ، فَاقْبُذُوْنَ اِسْم فاعل کُم ضمیر مستتر فاعل و دونوں مل کر بتاویل فعل ماضی قاض و اصلہ، موصول باصلہ خبر اَنْ باسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر جَزَّيْتُس کا مفعول بہ، اِنِّی، فعل بافاعل و مقابیل ماضی خبر اَنْ باسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

### قُلْ كَمْ لِيْبُنْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ۝۱۳

**آیت نمبر ۱۳ :** قَالَ فَعَلْ هُوَ مُسْتَرَفَاعِل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، کَمْ اِسْم استفہام میز، عَدَدَ سِنِيْنَ مرکب اضافی تیز، میز یا تیز مفعول فیہ مقدم بَلِيْبْتُمْ فَعَلْ ضمیر و افعال فی الْاَرْضِ ظرف مستقر کا کِلْبِيْنَ کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ مقدم جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

### قَالُوْا اَلَيْسَ لَنَا يَوْمَ مَا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ مَّرَقَسَلِ الْعَادِيْنَ ۝۱۴

**آیت نمبر ۱۴ :** قَالُوْا اَفَلَا فَعَلْ هُوَ مُسْتَرَفَاعِل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَلَيْسَ لَنَا يَوْمَ مَا مَعْطُوف عَلَيْهِ، اَوْ مَعْطُوف بَعْضُ يَوْمٍ مَّرَقَسَلِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قَامَ فَعِل اور شرط محذوف ہے اِنْ هِيْثُ، اِسْتَكْمَلْ فعل امر اَنْتَ مُسْتَرَفَاعِل الْعَادِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

### قُلْ اِنْ لِيْبُنْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَوْ اَنْكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۵

**آیت نمبر ۱۵ :** قَالَ فَعَلْ هُوَ مُسْتَرَفَاعِل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ حرف شرط لِيْبُنْتُمْ فَعَلْ ضمیر فاعل اِلَّا حرف استثناء قَلِيْلًا بواسطہ موصوف محذوف عَدَدًا کے مفعول فیہ ہے اور یا بواسطہ موصوف محذوف لِيْبُنَا کے مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و مفعول جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ لَوْ حرف شرط اَنْ حرف تحقیق کُم ضمیر منصوب اس کا اسم کُنْتُمْ فَعَلْ ناقص کُم ضمیر اس کا اسم تَعْلَمُوْنَ فَعَلْ باء و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص باسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر فعل محذوف لِيْبْنَا کا فاعل ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے لَمَّا اَجْبَنْتُمْ بِهَذَا الْمُدَّةِ لَا تَقْرَم اِس مدت کے ساتھ جواب نہ دیتے

### اَفَحَسِبْتُمْ اَنْنَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنْكُم اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۝۱۶

**آیت نمبر ۱۶ :** هَمْز ہ حرف استفہام قَامَ عَاطِف اور معطوف علیہ محذوف ہے عَفَلْتُمْ يَا كَيْفَا هَلْتُمْ، حَسِبْتُمْ فَعَلْ ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق كُفْرًا، مَا كَاذَرَ خَلَقْنَا فَعَلْ نَا ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ عَبَثًا بمعنی اِسْم فاعل عَابِدِيْنَ کے خَلَقْنَا كَيْفَا ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف علیہ، ہوا و عَاطِف اَنْ حرف تحقیق کُم ضمیر اس کا اسم اِلَيْنَا جلد باجر و ظرف لئو متعلق مقدم ہوئے لَا تُرْجَعُوْنَ فَعَلْ، مَجْهُول باء و ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَنْ باسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حَسِبْتُمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ معطوف، معطوف علیہ مقدر با معطوف جملہ متساوی ہو۔



## فَقَطَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكِ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝

**آیت نمبر ۱۱۶:** فَاذْهَبْ عَلَى اللَّهِ مُوصُوفُ الْمَلِكِ صَفَتِ اَوَّلِي الْحَقِّ صَفَتِ بَيْنِي، موصوف باصتخین فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہول لا حرف نفی جس اللہ اس کا اسم اور خبر محذوف مؤجود ہے، مؤجود اسم مفعول ہو ضمیر مستتر بدل منرا لا حرف استثناء ہو ضمیر مرفوع منفصل مبدل منہ یا مبین ربُّ العرش الکریم مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل، یا عطف بیان، مبدل منہ یا بدل مؤجود میں ہو ضمیر سے بدل ہے، مبدل منہ یا بدل نائب فاعل، اسم مفعول نائب فاعل لا کی خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً اللہ سے حال ہے۔

## وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۱۷:** وَاوَاثِنَا فِيهِ مِنْ اِسْمِ شَرْطِ مَبْتَدَا، يَدْعُ فعل هو مستتر فاعل مع اللہ مرکب اضافی کا ٹکڑا کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، (إِلَهًا آخَرَ) مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال يَدْعُ کا مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لا حرف نفی جس بُرْهَانَ اس کا اسم کہ جہ باجور طرف مستقر کائن کے متعلق اول ہوئے یہ جہ باجور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے تکلیف اسم فاعل هو ضمیر فاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر (إِلَهًا آخَرَ) کی صفت ہے، فاء جزائیہ اِن حرف تحقیق کوفہ، ماکانہ حِسَابُهُ مرکب اضافی مبتدا، عند مضاف ربِّہ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی کائن کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر صفت کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اِن حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لا يُفْلِحُ فعل الْكَافِرُونَ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِن کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول۔

## وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

**آیت نمبر ۱۱۸:** وَاوَاثِنَا فِيهِ قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، و رَبِّ یہ اصل میں یا رَبِّ ہے اور یہ علم ہے اِغْفِرْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، وَاوَاثِنَا اِزْحَمْ فعل امر، اَنْتَ مستتر ذوالحال، وَاوَاثِنَا اَنْتَ ضمیر مبتدا، خَيْرُ الرَّاحِمِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال اِزْحَمْ کا فاعل اِزْحَمْ فعل بافاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف تمام کا جواب، تمام با جواب جملہ انشائیہ مقول، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امر یہ ہول۔

## بِحَمْدِهِ تَعَالَى

جامعہ سران العلوم لودھراں کے دارالحدیث میں بروز اتوار بوقت ایک بجے دوپہر ۲۰۱۸ء ۱۳ مئی  
سورۃ المؤمنون کی ترکیب کے لکھنے سے فارغ ہوئے۔

## ترکیب سُورَةُ النَّوْرِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ سُورَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱:** سُورَةُ موصوف قائل ہا ضمیر مفعول بہ، بتینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ فَرَضْنٰهَا فعل نا ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، بتینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، ہوا و عاطفہ اَنْزَلْنٰهَا فعل نا ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ ہا خبر و حرف لغو متعلق ہوئے، آیت بَيِّنٰتٍ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین سُورَةُ کی صفت، موصوف ہفت مبتدا محذوف ہڈیہ کی خبر ہے یا فَيَمَّا يَنْتَهِىٰ محذوف کا مبتدا ہے، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لکن حرف تہی کُم ضمیر اس کا اسم تَذَكَّرُوْنَ فعل واو ضمیر قائل ہوا دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف تہی اپنے اسم و خبر سے مل کر اصحاب کُم کو کہہ کر تامل میں ہو کر اَنْزَلْنَا کی ضمیر قائل سے حال ہے یا جملہ انشائیہ متناہیہ ہوا۔

الرَّٰزِيَةِ وَاَلَّذِيْنَ قٰجَلِدُوْا وَاَكُلُوْا وَاَحَدٍ مِّنْهُمَا مِائَةٌ جَلْدَةٍ ۝ وَلَا تَاْخُذْ كُمْ بِهِنَّ رَاقَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَاَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۝ وَ لِيَشْهَدَ عَدَاِبُهُمْ طَٰغِفَةٌ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۲:** الرَّٰزِيَةِ وَاَلَّذِيْنَ معطوف علیہ ہا معطوف مضاف الیہ ہے مضاف محذوف حُكْمُہَا کا پھر مرکب انشائیہ مبتدا ہے، فَيَمَّا يَنْتَهِىٰ عَلَيْكُمْ فَيَمَّا بعد خبر محذوف ہے، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا قاء جزائیہ اَجْلِدُوْا وَاَكُلُوْا ضمیر قائل کُلُّ وَاَحَدٍ مرکب انشائی موصوف جنہما جاد ہا خبر و حرف مستقر کا کتا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ مائَةٌ جَلْدَةٍ مہمیز ہا ضمیر مفعول مطلق عددی ہے، فعل اپنے قائل و مفعولین سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ وَلَا تَاْخُذْ كُمْ ضمیر مفعول مطلق ہا خبر و حرف مستقر کا کتا کے متعلق ہو کر حال مقدم رَاقَةٌ ذوالحال مؤخر ذوالحال و حال مل کر لَا تَاْخُذْ كُمْ کا قائل، ہا خبر و حرف جز دین اللہ مرکب انشائی مجرور، جاد ہا خبر و حرف لغو تَاْخُذْ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء مقدم ہدایال بر جزاء ہے، ہا خبر شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم تُوْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر قائل، ہا خبر حرف جمالیہ اسم الجلالہ معطوف علیہ ہوا و حرف عطف الیَوْمِ الْاٰخِرِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مجرور، جاد ہا خبر و حرف لغو تُوْمِنُوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط جزاء جملہ شرطیہ ہوا و عاطفہ لِيَشْهَدَ فعل امر عَدَاِبُهُمَا مرکب انشائی مفعول بہ، طَٰغِفَةٌ موصوفین مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جاد ہا خبر و حرف مستقر کا کتا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت قائل مؤخر، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جملہ اولیہ معطوف ہے۔



**آیت نمبر ۷:** **اَوْ مَا ظَنَنْتَ الَّذِيْنَ كَانَتْ يَدُكَ عَلَيْهِمْ يَدُ الَّذِيْ يُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْغَمَامِ لَنْ يَكُنَّ فِئْتَانًا يَلْعَابُ عَيْنَيْكَ**  
 مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ شہد آء مبدل منہ الّا حرف استثناء آنفُسُهُمْ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بادل اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال ہا حال یُرْسِلُ کاتال کا ازل و اجہُھم مرکب اضافی اس کا مفعول یہ، فعل ہا ناقص و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ متضمن معنی شرط مبتداء فقاء جزائیہ شہادت مضاف اَحَدُهُمْ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ مبتداء اَرْبَعٌ میز مضاف شہدات مصدر ہا اللہ جاد ہا مجرد و ظرف لغو متعلق ہوئے اِنَّ حرف تحقیق کاسمیر منصوب اس کا اسم لاکر مطلقہ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ جاد ہا مجرد و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مضاف مفعول بہ، مصدر اپنے متعلق و مفعول بہ سے ل کر تمیز مضاف الیہ، میز ہا تمیز خبر، مبتداء ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ الَّذِيْنَ یُرْسِلُ السَّمَاءَ جاد ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**سوال:** حرف مشبہ بالفعل اِنَّ جب اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بہ واقع ہو تو وہاں اَنْ لفظ الہزہ ہوتا ہے اور اس آیت میں اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ بھی شہدات کا مفعول بہ واقع ہے تو پھر اِنَّ کسرا الہزہ کیوں ہے؟  
**جواب:** اِنَّ کی خبر لاکر مطلقہ داخل ہے اس لئے اِنَّ کی جگہ اِنَّ واقع ہوا ہے۔

### وَ الْخَامِسَةَ اَنَّ لَعَنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۸:** **اَوْ مَا ظَنَنْتَ الْخَامِسَةَ اِسْمٌ مَّحذُوفٌ مِّنْ شَهَادَاتِكَ** مبتداء اِنَّ حرف تحقیق لَعَنَتَ اللّٰهِ مرکب اضافی اس کا اسم علیہ جاد ہا مجرد و ظرف لغو کائنات کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر خبر، مبتداء ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ اِنَّ حرف شرط کا ن فعل ناقص ہو کاسمیر متضمن اس کا اسم مِنَ الْكٰذِبِيْنَ جاد ہا مجرد و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے فَعَلَيْكَ لَعَنَتُ اللّٰهِ، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

### وَيَذُرُّوْا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۹:** **اَوْ مَا ظَنَنْتَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ** حرف تحقیق لَعَنَتَ اللّٰهِ مرکب اضافی اس کا اسم علیہ جاد ہا مجرد و ظرف لغو و نصب تَشْهَدُ فعل صحیح ضمیر مستتر قائل اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ کی ترکیب اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ کی طرح ہے۔ اور یہ تَشْهَدُ کا مفعول مطلق ہے، فعل ہا قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر يَذُرُّوْا کاتال ہے، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

### وَ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۰:** **اَوْ مَا ظَنَنْتَ الْخَامِسَةَ** مبدل منہ اِنَّ حرف تحقیق غَضَبَ اللّٰهِ مرکب اضافی اس کا اسم علیہ جاد ہا مجرد و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدل، مبدل منہ بادل اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ پر معطوف ہے۔ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ کی ترکیب اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ کی مثل ہے اور یہ شرط ہے اور اس کی جزاء محذوف ہے فَعَلَيْكَ غَضَبَ اللّٰهِ، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

**آیت نمبر ۱۰:** واو عاطفہ لو لا حرف امتناع فضّل مصدر مضاف اللہ اسم الجلالہ مضاف الیہ علیکم جار مجرور طرف لغو مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر اپنے مضاف الیہ و متعلق سے ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ورحمته مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم تَوَّابٌ حَكِيمٌ دو خبریہ ان بلا سم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ بتادل مصدر معطوف ثانی، معطوف علیہ معطوفین مبتدا اور خبر معذوف مَوْجُودُونَ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط ہے، اور جزاء معذوف ہے لَفَضَّلَكُمْ (اللہ تم کو سوا کر دیتا) یا معذوف ہے لَعَا جَلَّتْ بِالْعُقُوبَةِ (تم کو جلدی سزا دیتا) شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

**آیت نمبر ۱۱:** ان حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول جَاءُوا الفعل واو ضمیر قائل بِالْإِفْكِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بالقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ان کا اسم عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ جار مجرور طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبریہ ان بلا سم و خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ لَاتَحْسَبُوهُ فعل نہی واو ضمیر قائل ہُوَ ضمیر مفعول بہ اول، شَرًّا موصوف لکھ جار مجرور طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل بالقائل و مفعولین جملہ انشائیہ نہی ہوں۔ لکل حرف اضراب ہُوَ ضمیر مبتدا، خیر موصوف تفضل ہُوَ ضمیر مستقر قائل لکھ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل بالقائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

لاہر حرف جر کلّ امریہ مرکب اضافی موصوف و منھمہ جار مجرور طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ما اسم موصول لاکتسب فعل ہُوَ ضمیر مستقر قائل ہُوَ ضمیر منصوب معذوف مفعول بہ، جنوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، مِنَ الْإِثْمِ جار مجرور طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال ملامر فروع مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول تَوَلَّى فعل ہُوَ ضمیر مستقر ذوالحال و منھمہ جار مجرور طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال قائل کِبْرَهُ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بالقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا لکھ جار مجرور طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ عَظِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں

لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝



## هَيْتًا يَهُ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝

آیت نمبر ۱۵: اِذْ تُرْفَعُ رِجَالُ مَنْ يَكْفُرُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اِسْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۵ اصل میں تَكْفُرُوْنَ فعل اصل میں تَكْفُرُوْنَ ہے واو ضمیر فاعل کا ضمیر منصوب مفعول بہ، بناء حرف جر اَلَيْسَ كَيْتُمْ مَرْكَبِ اِسْمَانِيْ جَرور، جلد باجمرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا تامل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَكْفُرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بناء حرف جَرَاوْ اِهْكُمْ مَرْكَبِ اِسْمَانِيْ جَرور، جلد باجمرد طرف مستقر کائیتا کے متعلق ہو کر حال مقدم، مَعَا سَم موصول لَيْسَ فعل ناقص لَكُمْ جلد باجمرد طرف مستقر کائیتا کے متعلق اول ہوئے، پہلے جلد باجمرد طرف لغو کائیتا کے متعلق ثانی ہوئے، کائیتا اسم فاعل هُوَ ضمیر مستقر فاعل، دونوں ل کر شہہ جملہ ہو کر خبر مقدم عَلِمَ اِسْم مَوْخِر، فعل ناقص ہا اِسْم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ ذوالحال مَوْخِر ذوالحال ہا حال تَكْفُرُوْنَ کا مفعول بہ، فعل ہا تامل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ تَحْسَبُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل کا ضمیر منصوب مفعول بہ اول، هَيْتًا ذوالحال واو عالیہ هُوَ ضمیر مرفوع مبتدأ، عِنْدَ اللَّهِ مَرْكَبِ اِسْمَانِيْ مفعول فی مقدم عَظِيمٌ مینہ صفت هُوَ مستقر فاعل، مینہ صفت اپنے فاعل و مفعول فی مقدم سے ل کر شہہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ باجمرد جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال ہا حال تَحْسَبُوْنَ کا مفعول بہ ثانی، فعل ہا تامل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین اِذْ کا مضاف الیہ، پھر مَرْكَبِ اِسْمَانِيْ مَسَّنْ کا مفعول فی ہے،

وَلَوْ لَا اِذْ سِعْتُمْوَهَ قَلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا اِنَّ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ

## عَظِيمٌ ۝

آیت نمبر ۱۶: وَاِذْ تَنْتٰنِيْ لَوْ لَا اِحْرَفَ تَضْمِيْنُ فِرْعٰلِ اِذْ مَضَى سِعْتُمْ فَعَلْتُ ضَمِيْرُ مَرْفُوْعٍ مُّتَعَلِّقٌ بِفَاعِلِ الضَّمِيْرِ مُنْصَوْبٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فعل ہا تامل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مَرْكَبِ اِسْمَانِيْ مَفْعُوْلٌ فِيْ مَقْدَمٍ، قَلْتُمْ فَعَلْتُ ضَمِيْرُ مُتَعَلِّقٌ بِفَاعِلِ، فعل ہا تامل و مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَعَا ثَانِيَةً يَكُوْنُ، فعل ناقص لَنَا جلد باجمرد طرف مستقر کائیتا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَنْ حرف مصدری و نصب لَتَكَلَّمْ فَعَلْتُ ضَمِيْرُ مُسْتَقَرٌّ بِفَاعِلِ جلد باجمرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا تامل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر اسم مَوْخِر، فعل ناقص ہا اِسْم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہول سُبْحٰنَكَ مَرْكَبِ اِسْمَانِيْ فعل مخدوف تُسَبِّحُ کا مفعول مطلق ہے، تُسَبِّحُ فعل تَحْنُ و ضمیر مستقر فاعل، فعل ہا تامل و مفعول مطلق جملہ مترضہ انتظامیہ و عامیہ ہول هٰذَا اِسْم اَشْرٰهٖ مبتدأ، بُهْتَانٌ موصوف عَظِيمٌ مینہ صفت هُوَ ضمیر مستقر فاعل، دونوں ل کر شہہ جملہ ہو کر صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ باجمرد جملہ اسمیہ خبریہ منطبق ہول

## يَعِظُكُمْ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْذُوْا بِالْحٰلِیَةِ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۷: يَعْظِيْكُمْ فَعَلْتُ ضَمِيْرُ مُنْصَوْبٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ مَقْدَمٌ، اِنَّ اللّٰهَ اِسْمُ الْجَلَالِ فَاعِلٌ اَنْ حَرْفٌ مَدْرِيْ تَعُوْذُوْا فَعَلْتُ ضَمِيْرُ فَاعِلٌ لَّا حَرْفٌ جَرِيْهِ مَرْكَبِ اِسْمَانِيْ جَرور، جلد باجمرد طرف لغو تَعُوْذُوْا کے متعلق ہوئے اَبَدًا مَفْعُوْلٌ فِيْ، فعل ہا تامل و متعلق و مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ حَشِيْمَةٌ مضاف مخدوف کا مَرْكَبِ اِسْمَانِيْ يَعْظِيْكُمْ کا مفعول لہ، فعل ہا تامل و مفعول بہ و مفعول لہ جملہ فعلیہ

خبر یہ ہوا۔ ان حرف شرط لگتے ہیں، فعل ناقص ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم مؤنثین اسم فاعل اَنْتُمْ ضمیر مستتر فاعل، ودونوں مل کر خبر، فعل ناقص ہا ضم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے۔ فَلَا تَعُوْذُوْا لِهٰٓئِهٖ جملہ شرطیہ ہوا۔

**وَيَبِّئِنَّا اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ دَاوَاللّٰهُ عَلَیْمٌ حٰكِیْمٌ ۝**

**آیت نمبر ۱۸:** واو عاطفہ یبئین فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لکم جاہ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الایات منصوب بالجر مفعول بہ، فعل ناقص ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جملہ اولیٰ، معطوف ہے۔ واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، عَلَیْمٌ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، ودونوں مل کر خبر جملہ ہو کر خبر اولیٰ حَکِیْمٌ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، ودونوں مل کر خبر جملہ ہو کر خبر ثانی، مبتدا با خبر اسمیہ خبریہ مستانہ ہوا۔

**اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الدِّیْنِ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝**  
**الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ دَاوَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۹:** اِنَّ حرف تختین الدین اسم موصول یحبون فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تشیع فعل الفاحشۃ فاعل فی حرف جرائدین اسم موصول اٰمنوا فعل واو ضمیر فاعل، ودونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جملہ با مجرور ظرف لغو تشیع کے متعلق ہوئے، فعل ناقص ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتادل مصدر یحبون کا مفعول بہ، فعل ناقص و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اِنَّ کا اسم لہم جاہ مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم عذاب الیم صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل، ودونوں مل کر صفت اولیٰ فی حرف جرائدین تقدیر مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ الاخیرۃ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مجرور، جاہ مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف باصغین مبتدا و خبر، مبتدا با خبر اسمیہ خبریہ اِنَّ کی خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، یعلم فعل ہو مستتر فاعل، ودونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، لَا تَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، ودونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستانہ ہوا۔

**وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝**

**آیت نمبر ۲۰:** واو استینافیہ لو لا حرف اتناہ فضل اللہ علیکم وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوْفٌ رَّحِیْمٌ کی ترکیب فضل اللہ علیکم وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَابٌ حَکِیْمٌ کی ترکیب کی مثل ہے جو کہ اسی سورت کی آیت نمبر ۱۰ میں گزر چکی ہے۔

**﴿ رُكُوْعٌ ثَمَر ۳ ﴾**

**يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ دَاوَمَنْ یَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ فَاِنَّهٗ یَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ وَ الْمُنْكَرِ دَاوَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰی مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَّلٰكِنْ اللّٰهُ یُزَكِّیْ مَنْ یَّشَآءُ دَاوَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝**



**آیت نمبر ۲۱:** بِكَا حَرْفِ مَدٍّ اَدْعُوْا كَيْ تَقُوْا مَقَامُ اَدْعُوْا فَاعِلٌ اَنْكَا خَمِيْرٌ مَسْتَقْرًا قَالِ اَنْتَ مَوْصُوْفٌ بِاِيْمَلٍ مِّنْ هَا بَرَاءَةِ تَخْبِيْرٍ اَلَّذِيْنَ تَسْمُوْا مَوْصُوْلٌ اَمَّا فَاعِلٌ وَاوَّ خَمِيْرٌ قَالِ وِدُوْنٌ لِّلْ كَرْمَلِيَّةِ خَبْرِيَّةٍ صِلَةٌ مَوْصُوْلٌ بِاصْلٍ صَفْتٍ بِاِيْمَلٍ مَوْصُوْفٌ بِصَفْتٍ مَعْلَا مَنصُوْبٌ اَدْعُوْا كَامْفَعُوْلٍ بِهٖ، فَاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ لَعْنِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ لَا تَكْتَبِيْعُوْا فَاعِلٌ نِيْمِي اَدَّ خَمِيْرٌ قَالِ خُطُوْبَاتٍ مَضَافٍ الشَّيْطٰنِيْنَ مَضَافٍ اِلَيْهٖ، مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فَاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ اَنْشَائِيَّةٌ عَدَاتِيَّةٌ هُوَلٌ وَاوَّ اِسْتِيْنَايَةً مِّنْ اِسْمِ شَرْطٍ مَبْتَدَايَةً يَتَّبِعُ فَاعِلٌ هُوَ مَسْتَقْرًا قَالِ خُطُوْبَاتٍ الشَّيْطٰنِيْنَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فَاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ لَعْنِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ وَاوَّ جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ بِهٖ فَفَقَلَّ صَلَّ، شَرْطٌ بِاجْزَاءِ جَمَلَةٍ هُوَ كَرْمَلَةٌ نِيْمِي خَبْرِيَّةٌ، مَبْتَدَايَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْمُوْمَةٌ بِهٖ مَسَافَةٌ هُوَلٌ

قَاة تَلْيِيْرًا حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ اَمْضِيْرٌ اِسْمٌ كَامِيْمٌ وَاوَّ فَاعِلٌ هُوَ خَمِيْرٌ مَسْتَقْرًا قَالِ بِاَيِّ حَرْفٍ جَزَاءٌ فَخَشَاةٌ وَ اَلْمُنْكَرُ مَعْرُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ بَجَرٍّ، جَدٍّ بِجَرٍّ وَ طَرَفٌ لَعْنِيٌّ اَمْضِيْرٌ كَيْ مَعْتَقٌ هُوَ، فَاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَعْتَقٌ جَمَلَةٌ لَعْنِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ بِاِسْمِ خَبْرِيَّةٍ جَمَلَةٌ اَنْشَائِيَّةٌ اَلَّذِيْنَ تَلْعِيْبٌ بِهٖ يَا مَن يَتَّبِعُ كِي تَلْعِيْبٌ هُوَلٌ اِسْتِيْنَايَةً لَوْ لَا حَرْفٌ اِضَافِيٌّ مَعْرُوفٌ اِلَيْهٖ اِسْمُ الْجَلَالَةِ مَضَافٍ اِلَيْهٖ، عَلَيْكُمُ جَدٍّ بِجَرٍّ وَ طَرَفٌ لَعْنٌ مَعْتَقٌ هُوَ، مَعْرُوفٌ اِلَيْهٖ اِسْمٌ مَعْتَقٌ هُوَ، وَ اَوَّ عَاطِفٌ هُوَ اَوْ عَاطِفٌ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَعْرُوفٌ، بِجَرٍّ مَعْرُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ مَبْتَدَا، خَبْرٌ مَعْرُوفٌ هُوَ جَزَاءٌ، مَبْتَدَايَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَعَانِيَّةٌ لَعْنِيَّةٌ فَاعِلٌ مَبْتَدَايَةٌ جَدٍّ بِجَرٍّ وَ طَرَفٌ مَسْتَقْرًا قَالِ كَيْ مَعْتَقٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَبْتَدَايَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَعَانِيَّةٌ لَعْنِيَّةٌ فَاعِلٌ مَبْتَدَايَةٌ جَدٍّ بِجَرٍّ وَ طَرَفٌ نِيْمِي، فَاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ لَعْنِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، شَرْطٌ بِاجْزَاءِ جَمَلَةٍ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَبْتَدَايَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَعَانِيَّةٌ لَعْنِيَّةٌ فَاعِلٌ مَبْتَدَايَةٌ جَدٍّ بِجَرٍّ وَ طَرَفٌ اِسْمٌ كَامِيْمٌ فَاعِلٌ هُوَ خَمِيْرٌ مَسْتَقْرًا قَالِ مِّنْ اِسْمِ مَوْصُوْلٍ بِشَاةٍ فَاعِلٌ هُوَ خَمِيْرٌ مَسْتَقْرًا قَالِ وِدُوْنٌ لِّلْ كَرْمَلِيَّةِ خَبْرِيَّةٍ صِلَةٌ مَوْصُوْلٌ بِاصْلٍ يُوْنِيَّةٌ كَامْفَعُوْلٍ بِهٖ، فَاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ لَعْنِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، لَكِنِ اِسْمٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَعْرُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ جَمَلَةٌ مَسَافَةٌ هُوَلٌ وَاوَّ اِسْتِيْنَايَةً لَوْ لَا اِسْمُ الْجَلَالَةِ مَبْتَدَايَةً يَتَّبِعُ صِفَةً هُوَ خَمِيْرٌ مَسْتَقْرًا قَالِ وِدُوْنٌ لِّلْ كَرْمَلِيَّةِ خَبْرِيَّةٍ مَبْتَدَايَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْمُوْمَةٌ بِهٖ مَسَافَةٌ هُوَلٌ

وَلَا يَأْكُلُ اَوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اَوْلِيَ الْقُرْبٰى وَ الْمَسْكِيْنِ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِيَعْفُوْا وَ لِيَصْفَحُوْا اَلَا لِيُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۝ ۲۳ وَ اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

**آیت نمبر ۲۳:** وَاوَّ اِسْتِيْنَايَةً لَعْنِيَّةٌ اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُ فَاعِلٌ نِيْمِي اِسْمٌ يَأْكُلُ هُوَ اَوْلُو الْفَضْلِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ اَوْلِيَ الْقُرْبٰى مَبْتَدَايَةٌ خَبْرِيَّةٌ جَدٍّ بِجَرٍّ وَ طَرَفٌ مَسْتَقْرًا قَالِ كَيْ مَعْتَقٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَبْتَدَايَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَعَانِيَّةٌ لَعْنِيَّةٌ فَاعِلٌ مَبْتَدَايَةٌ جَدٍّ بِجَرٍّ وَ طَرَفٌ نِيْمِي، فَاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ لَعْنِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَبْتَدَايَةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَعَانِيَّةٌ لَعْنِيَّةٌ فَاعِلٌ مَبْتَدَايَةٌ جَدٍّ بِجَرٍّ وَ طَرَفٌ اِسْمٌ كَامِيْمٌ فَاعِلٌ هُوَ خَمِيْرٌ مَسْتَقْرًا قَالِ مِّنْ اِسْمِ مَوْصُوْلٍ بِشَاةٍ فَاعِلٌ هُوَ خَمِيْرٌ مَسْتَقْرًا قَالِ وِدُوْنٌ لِّلْ كَرْمَلِيَّةِ خَبْرِيَّةٍ صِلَةٌ مَوْصُوْلٌ بِاصْلٍ يُوْنِيَّةٌ كَامْفَعُوْلٍ بِهٖ، فَاعِلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ لَعْنِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، لَكِنِ اِسْمٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ، مَعْرُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ جَمَلَةٌ مَسَافَةٌ هُوَلٌ وَاوَّ اِسْتِيْنَايَةً لَوْ لَا اِسْمُ الْجَلَالَةِ مَبْتَدَايَةً يَتَّبِعُ صِفَةً هُوَ خَمِيْرٌ مَسْتَقْرًا قَالِ وِدُوْنٌ لِّلْ كَرْمَلِيَّةِ خَبْرِيَّةٍ مَبْتَدَايَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْمُوْمَةٌ بِهٖ مَسَافَةٌ هُوَلٌ

امر واؤ ضمیر قائل، فعل باقائل جملہ انشائیہ معطوف اول، واؤ عاطفہ لیتضقیحوا فعل امر واؤ ضمیر قائل واولوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستانہ ہوں کہ حرف استفہام لا اذ حیون فعل واؤ ضمیر قائل آن حرف مصدری و نصب یغفرو فعل اللہ اسم الجلالہ قائل لکھ جا رہا ہے اور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں واؤ استثنائی اللہ اسم الجلالہ مبتدا، غفرو خبر اول، و حیون خبر ثانی، مبتدا خبر ثانی، جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمِحْصَنَاتِ الْعُقُلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِعُنُوَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ الَّذِينَ اسم موصول يَزُمُونَ فعل واؤ ضمیر قائل الْمُحْصَنَاتِ موصوف الغُقُلَاتِ مفت اول الْمُؤْمِنَاتِ مفت ثانی، موصوف با مستثنین مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلواتن کاسم لِعُنُوَانِ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب قائل فی حرف جر الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَهُمْ جار مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ عَظِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر ثانی، موصول با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: يَوْمَ مضاف تَشْهَدُ فعل عَلَيْهِمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے أَلْسِنَتُهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ أَيْدِيهِمْ مرکب اضافی معطوف اول، واؤ عاطفہ أَرْجُلُهُمْ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین تَشْهَدُ کا قائل تہا حرف جر ماضی مصدری کَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کاسم يَعْمَلُونَ فعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم واؤ خبر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور طرف لغو تَشْهَدُ کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ماضی خبریہ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی لَهُمْ کے متعلق ہو کر کائن کا مفعول بہ ہے۔

يَوْمَ يَدْعُوكَ الَّذِينَ كَانُوا آلَ اللَّهِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: يَوْمَ يَدْعُوكَ مرکب اضافی کَانُوا کا مفعول بہ مقدم ہے يَدْعُوكَ فعل ہذا ضمیر منصوب مفعول بہ اول اللہ اسم الجلالہ قائل يَدْعُوكَ مرکب اضافی موصوف الحَقِّ مفت، موصوف ہفت مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مقابل ثلاث جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَتْلُونَ فعل واؤ ضمیر قائل آن حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کاسم ہو ضمیر فصل الحَقِّ الْمُشْرِكِينَ مرکب توصیفی خبر، آن کاسم واؤ خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر یقولون کے در مفعول کے قائم مقام، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہوں

الْحَبِيبَاتِ وَالْبُكَيْرَاتِ وَالرَّحِيمَاتِ وَالصَّالِحَاتِ وَالسُّبْحَانَ رَبِّكَ رَبَّنَا رَبُّهُنَّ ﴿۲۶﴾

لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مَبْرُؤُونَ ۚ مِمَّا يَفْعَلُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۷﴾



اور اس کے بعد ان نامہ مقدر ہے یُوَدِّقَنَّ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل لَكُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا ویل مصدر مجرور، جار مجرور طرف لغو لا کَنْ خُلُوْا کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط جار جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطف ان حرف شرط قبیل فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل لَكُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِزْجِعُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فکاد جزائیہ اِزْجِعُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط جار جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف جواب نماہر معطوف ہے ہو ضمیر منفصل مبتدأ، اِزْی اِسْم تَفْصِيْلٌ ہو ضمیر مستتر نائب فاعل لَكُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، اِسْم تَفْصِيْلٌ باقاعل و متعلق شبہ جملہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطبوعہ ہول واو استینا فی اَللّٰه اِسْم اَلْجَلَالِ، مبتدأ، تاک حرف جار ما کام موصول تَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، عَلَيْكُمْ صِيْنَةٌ صِفْتٌ ہو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہول

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَكُمْ طَوَّ اَللّٰهُ يَعْلَمُ

مَا تَكْتُمُوْنَ ۝ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۹: لَيْسَ فعل ناقص عَلَيْكُمْ جار مجرور طرف مستتر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر خبر مقدم جُنَاحٌ موصوف آن حرف مصدری و نصب تَدْخُلُوْا فعل واو ضمیر فاعل بُيُوْتًا موصوف غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ مرکب اضافی صفت اولیٰ، فِيْهَا جار مجرور طرف مستتر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَتَاعٌ موصوف لَكُمْ جار مجرور طرف مستتر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ بُيُوْتًا کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مفعول فیہ، فعل باقاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ بنا ویل مصدر منصوب، بزج الفاضل مجرور اصل میں فی آن ہے، جار مجرور طرف مستتر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر جُنَاحٌ کی صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہول

واو استینا فی اَللّٰه اِسْم اَلْجَلَالِ، مبتدأ، يَعْلَمُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ما کام موصول تَكْتُمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما کام موصول تَكْتُمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہول

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوبُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْرُوجَهُمْ طَاذَلِكِ اَزْی لِهَمْ اِنَّ اللّٰهَ

خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۰: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لِّلْمُؤْمِنِيْنَ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ قول، مقولہ محذوف ہے غَضُوبًا اَبْصَارِهِمْ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہول يَغْضُوبُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، مِّنْ حرف جر اَبْصَارِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار

ہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَحْفَظُوا لُغْلُ وَاو ضمیر فاعل فُرُو وَجَهْتُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف شرط محذوف ان تَقَلُّ لَهْمُ عَضُّوْا اَبْصَارَكُمْ کی جزاء ہے کیونکہ یہ جواب امر ہے، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ لُغْلُ لُغْلًا اسم مبتدأ، اَزْیٰی کاسم تفضیل ہو ضمیر مستتر فاعل لَهْمُ جاد ہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لُغْلُ حَرْف تَحْقِیْقُ اللّٰهِ اِسْمُ الْجَلَالِ اس کا اسم حَبِیْبٌ صِنْدٌ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل بَاء حَرْفِ جَرْمَا سَم موصول یَضْمَعُونَ لُغْلُ ہا وَاو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ مجرد، جاد ہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، صیند صفت ہا فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر بَرَانَ ہا سَم وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَیْسَ بِنَّ یُخْمِرْنَ عَلٰی جُیُوْبِهِنَّ سِوَا لَیْبِدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنَاتِ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنَاتِ اَخْوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُنَّ اَوِ التَّبَعِیْنَ غَیْرِ اُولٰٓئِکَ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الذِّیْنَ لَمْ یَظْهَرُوْا عَلٰی عَوْرَاتِ النِّسَاءِ سِوَا لَیْبِرِّیْنَ بِاَزْجُلِهِنَّ لَیُعَلِّمَنَّ مَا یُخْفِیْنَ مِنْ زِیْنَتِهِنَّ وَ اَوْ تُوْبُوْا اِلٰی اللّٰهِ جَمِیْعًا اٰیةُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۱: واو عاطفہ قُلْ لُغْلُ امر آت ضمیر مستتر فاعل، لِّلْمُؤْمِنَاتِ جاد ہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے یہ جملہ انشائیہ قول اور مقولہ محذوف ہے اَعْضُضْنَ اَبْصَارَكُمْ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو لَیْبِدِیْنَ لُغْلُ نون مفتوحہ ضمیر فاعل ہن حرف جر اَبْصَارِهِنَّ مرکب اضافی مجرد، جاد ہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَحْفَظْنَ لُغْلُ نون مفتوحہ ضمیر متصل فاعل فُرُوْجَهُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف شرط محذوف ان تَقَلُّ لَهْمُ عَضُّوْا اَبْصَارَكُمْ کی جزاء ہے، کیونکہ یہ جواب امر ہے، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

واو عاطفہ لَا یُبْدِیْنَ لُغْلُ نون مفتوحہ ضمیر متصل فاعل زِیْنَتَهُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ، اِلَّا حَرْف استثناء، مَا سَم موصول ظَهَرُوْا لُغْلُ ہو ضمیر مستتر فاعل مِنْهَا جاد ہا مجرد طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف شرط محذوف و مفعولین جملہ اولیٰ پر معطوف ہے۔ واو استثناء فِی لَیْبِرِّیْنَ لُغْلُ امر نون مفتوحہ ضمیر فاعل بَاء حَرْفِ جَرْمَا سَم مرکب اضافی مجرد، جاد ہا مجرد طرف لغو متعلق اول ہوئے، علی حرف جر جُیُوْبِهِنَّ مرکب اضافی مجرد، جاد ہا مجرد طرف لغو متعلق ہن ہوئے، فعل امر بافاعل و متعلقین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا یُبْدِیْنَ لُغْلُ نون مفتوحہ ضمیر فاعل زِیْنَتَهُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ، اِلَّا حَرْف استثناء، لَآ حَرْفِ جَر بُعُوْلَتِهِنَّ مرکب اضافی معطوف علیہ، او عاطفہ اَبَائِهِنَّ مرکب اضافی معطوف اول، او حرف عطف اَبَاءِ مضاف بُعُوْلَتِهِنَّ مرکب اضافی



علیہ مَعْطُوفٌ اَلَيْكُهَا كالمفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ تَوْبُوْا بِر مَعْطُوفٌ بِہٖ اِنْ حرف شرط یُكُوْنُوْنَ اَفْعَل ناقص واو ضمیر اس کا اسم فِعْرٌ اَمَّ مَیْنِہ مَفْتُوحٌ ضمیر مستتر قاعل و دونوں مل کر خبر، فعل ناقص ہا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ یُغْنِیْنَ فعل اور یہ اصل میں یُغْنِیْ ہے ہم ضمیر منصوب مفعول بہ اَللّٰہُ اسم الجلالہ قاعل و مَن حرف جر فَعْلُوْہِ مرکب اضافی مجرور، جہاد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جہاد، شرط باجزامہ جملہ شرطیہ ہوا و او استینائیہ اَللّٰہُ اسم الجلالہ مبتدا، و اَسْبَعُ مَیْنِہ اسم قاعل ہوا ضمیر مستتر قاعل و دونوں مل کر خبر اذل عَلَیْہِ مَیْنِہ مَفْتُوحٌ ضمیر مستتر قاعل و دونوں مل کر خبر مبنی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستافہ ہوا۔

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَ الَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَّ  
أَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ لَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ  
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَأَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

**آیت نمبر ۳۳:** واو عاطفہ لَيْسْتَغْفِرَ فعل امر الَّذِينَ اسم موصول لَا يَجِدُونَ فعل واو ضمیر قاعل نِكَاحًا مفعول بہ حَتَّى حرف غایت و جر اور اس کے بعد اَنْ مَبْدُوءٌ مَقْدَرٌ ہے یُغْنِيْ فعل ضمیر منصوب مفعول بہ اَللّٰہُ اسم الجلالہ قاعل و مَن حرف جر فَعْلُوْہِ مرکب اضافی مجرور، جہاد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جہاد با مجرور ظرف لغو لَا يَجِدُونَ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قاعل، فعل امر اپنے قاعل سے مل کر جملہ انشائیہ مَعْطُوفٌ بِر جملہ اولیٰ ہے و او استینائیہ اَلَّذِينَ اسم موصول يَبْتَغُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال، و مَن حرف جر مِمَّا مَلَكَتْ مَلَكَتْ فعل اَيْمَانُكُمْ مرکب اضافی قاعل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہاد با مجرور ظرف مستقر كَاتِبِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال يَبْتَغُونَ کا قاعل الْكِتَابَ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مَقْصُومٌ معنی شرط مبتدا، قَامَ جہاد یہ کَاتِبُوْا فعل امر واو ضمیر قاعل ہُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر خبر قائم مقام جہاد ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اِنْ حرف شرط عَلِمْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر قاعل فَيُحِبُّہمْ ظرف مستقر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم حَتَّى مفعول بہ اول مؤخر، فعل باقاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جہاد مَحْذُوفٌ ہے فَكَاتِبُوْہُمْ، شرط باجزامہ جملہ شرطیہ ہوا۔

واو عاطفہ اَفْعَل اَفْعَل واو ضمیر قاعل ہُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، و مَن حرف جر مَالِ اللّٰہِ مرکب اضافی موصول الَّذِي اسم موصول اُنَّی فعل ہُوْ ضمیر مستتر قاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مَالِ اللّٰہِ كُمْ مَفْتُوحٌ، موصول باصفت مجرور، جہاد با مجرور ظرف لغو اَتَوْا کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ کَاتِبُوْا مَعْطُوفٌ بِہٖ و او عاطفہ لَا تُكْرِهُوا فعل نئی واو ضمیر قاعل فَتَيَاتِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ عَلَي الْبِغَاءِ جہاد با مجرور ظرف لغو متعلق اذل ہوئے لَآہ حرف جر اور اس کے بعد اَنْ مَبْدُوءٌ مَقْدَرٌ ہے، اَتَيْتُمْ قاعل واو ضمیر قاعل عَرَضَ مَضَافٌ اَلْحَيَوةِ الدُّنْيَا مَبْرُكٌ تَوْصِيفٌ مَضَافٌ اِلَيْہِ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقاعل و

مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاؤں مصدر مجرد، جہ باجر اور لا کٹر ہوا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ و متعلقین جملہ انشائیہ خبریہ

ہوں

اِنْ حَرْفِ شَرْطِ اَرْذَنْ فَعَلْ نون مفتوحہ ضمیر قائل تَحَصُّنًا مفعول بہ۔ تینوں مل کر شرط ہے، اور جہاء مخدوف ہے فَلَا كِتْرٌ هُوَا فَتَبَيَّنْتُكَ عَلَى الْيَقَاءِ جس پر شرط ہے پہلے والا جملہ وال ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ او ایسا تینا یہ من اسم شرط مبتدأ، يَكُونُ فاعل هُوَا ضمير مستتر قائل هُنَّ ضمير منصوب مفعول بہ۔ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جہاء مخدوف ہے قَائِلَةٌ يَحَاسِبُ وَيَعْفُو اللَّهُ لَهُنَّ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ قَاءَ تَعْلِيلٌ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ اَللَّهِ اسْمُ الْجَلالِ اس کا اسم ہون حرف جر بتدب مضاف اِكْرَاهًا مضاف الیہ مضاف ہون مضاف الیہ، اِكْرَاهًا اپنے مضاف الیہ سے مل کر بتدب کا مضاف الیہ، پھر مجرد، جہ باجر اور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَفُوًّا مینہ صفت هُوَا ضمير مستتر قائل، مینہ صفت اپنے فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر اذِلَّ وَرَحِيمٌ مینہ صفت هُوَا ضمير مستتر قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی، اِنْ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ متعلیہ ہوں

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰیٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَ مَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** او ایسا تینا یہ لاکر موطن القسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل، اَنْزَلْنَا فاعل نا ضمیر قائل اِلَيْكُمْ جہ باجر اور ظرف لغو متعلق ہوئے اٰیٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ مرکب توصیلی معطوف علیہ، او ایسا تینا یہ مَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ اسْمٌ موصول خَلَوْا فاعل وَاُوْا ضمیر قائل ہون حرف جر قَبْلِكُمْ مرکب اضافی مجرد، جہ باجر اور ظرف مستقر کَانَتْ کے متعلق ہو کر مَثَلًا کی صفت، موصوف ہفت معطوف اذِل، او ایسا تینا یہ مَوْعِظَةً موصوف لِّلْمُتَّقِيْنَ جہ باجر اور ظرف مستقر کَانَتْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین اَنْزَلْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب جملہ قسمیہ متانفہ ہوں

﴿۳۳﴾ رُكُوْعٌ اَحَدٌ

اَللّٰهُ نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ صَعْلٌ نُورٌ كَيْشْكُوٰةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَانَتْهَا كَوْكَبٌ دُرٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ اَلْيَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيْءُ وَ كَوْنٌ كَمِ تَمْسَسُهُ نَارٌ اَنْوُرٌ عَلَى نُورٍ اَللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَن يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۴:** اللہ اسم الجلال مبتدأ، نُورٌ مضاف السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ معطوف علیہ ہا معطوف مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں مَثَلٌ مضاف نُورٌ ہا مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدأ، کاف حرف جر مِصْبَاحٌ موصوف فِیْهَا جہ باجر اور ظرف مستقر کَانَتْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِصْبَاحٌ موصوف اَلْمِصْبَاحُ مبتدأ، فی حرف جار زُجَاجَةٍ موصوف اَلزُّجَاجَةُ مبتدأ، کاف حرف تشبیہیہ ہا ضمیر اس کا اسم کَوْكَبٌ موصوف دُرٌّ اِسْمٌ مَسْبُوْبٌ هُوَا ضمير مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر کَوْكَبٌ



کی صفت، موصوف ہفت کلان کی خبر، کلان ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ زُجَاجِیۃ کی صفت، موصوف ہفت بحرور، جد باجر و ظرف مستقر کلان کے متعلق ہو کر اَلِصَّبَاحِ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ وَصْبَاحِ کی صفت، موصوف ہفت مبتدا موخر، مبتدا با خبر وَشُكُوۃ کی صفت، موصوف ہفت بحرور، جد باجر و ظرف مستقر کلان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

يُوۡقَدُّ فَعْلٌ مَّجْهُولٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُّسْتَرْتَابٌ فاعل مِنْ حَرْفٍ جَارٌ شَجَرَةٌ موصوفٌ مُّبْدِئَةٌ مفعولٌ هِیْ مُسْتَرْتَابٌ فاعل سے مل کر صفت اولیٰ، زَيۡتُوۡنَةٌ صفت ثانیہ، لآرۡلَهُ شَرۡقِيَّةٌ صفت ثالثہ، وَاوۡعَاطِفٌ لآرۡلَهُ غَرْبِيَّةٌ صفت رابعہ یَکَادُ فاعل مُتَدَبِّرٌ زَيۡتُهَا مَرۡکَبٌ اِضَاطِيٌّ اس کا اسم یعنی فاعل هُوَ ضَمِيرٌ مُّسْتَرْتَابٌ دو نونوں مل کر خبر، فاعل مُتَدَبِّرٌ ہام و خبر جملہ فعلیہ انتہائی صفت خامسہ، موصوف ہفت بحرور، جد باجر و ظرف لغوی یُوۡقَدُّ کے متعلق ہوئے، فاعل مجہول ہائیب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ وَصْبَاحِ کی صفت ثانیہ ہے، وَاوۡعَاطِفٌ لَوۡ حَرْفٌ شَرۡطٌ لَمَّا تَمَسَّسَ فاعل هُوَ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مفعول بہ، نَاوۡعَاطِفٌ فاعل، فاعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شَرۡطٌ طَوۡرٌ جَزَاؤٌ مَحذُوفٌ ہے یَکَادُ زَيۡتُهَا یعنی نَاوۡعَاطِفٌ شَرۡطٌ طَوۡرٌ جَزَاؤٌ جملہ شرطیہ ہو کر موصوف ہام کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ نُوۡوۡعٌ موصوف علی نُوۡوۡجٌ جد باجر و ظرف مستقر کلان کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتدا محذوف ہو کر خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

يَهْدِيۡ فَعْلٌ اِلٰلَّهِ اِسْمُ الْجِلَالِ فاعل لآهَر حَرْفٌ جَرۡوۡرٌ مَرۡکَبٌ اِضَاطِيٌّ بحرور، جد باجر و ظرف لغوی ہوتے ہیں ہام موصول بِشَآءِ فاعل هُوَ ضَمِيرٌ مُّسْتَرْتَابٌ، دونوں مل کر، موصول باصل یَهْدِيۡ کا مفعول بہ، فاعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوۡعَاطِفٌ مُضَرَّبٌ فاعل اِلَّهِ اِسْمُ الْجِلَالِ فاعل اِلْمَتَّكِلِ مفعول بہ لِلسَّمَاۡئِ جَد باجر و ظرف لغوی ہوتے ہیں، فاعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اِذۡلِ وَاوۡعَاطِفٌ اِلَّهِ اِسْمُ الْجِلَالِ مبتدا، نَاوۡعَاطِفٌ حَرْفٌ جَرۡوۡرٌ مَرۡکَبٌ اِضَاطِيٌّ بحرور، جد باجر و ظرف لغوی متعلق مقدم ہوتے ہیں مَعۡلُوۡمٌ صَيۡنٌ صفت هُوَ ضَمِيرٌ مُّسْتَرْتَابٌ و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانہ ہو۔

فِيۡ بُيُوۡتٍ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيۡهَا اِسْمُهُۥۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيۡهَا بِالْغُدُوۡ وَ الْاَصَالِ ﴿٣٦﴾  
رِجَالٌۙ اَلَّا تَلٰهُمۡهُمۡ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنۡ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِۙ يَخَافُوۡنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيۡهِ الْقُلُوۡبُ وَاَلْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

آیت نمبر ۳۶، ۳۷: فی حرف جر بیوت موصوف اذین لعل اللہ اسم الجلال فاعل ان حرف مصدری و نصب ترفع فعل مجہول ہج ضمیر مستتر نائب فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوۡعَاطِفٌ یُذْکَرُ فَعْلٌ مَّجْهُولٌ فِیۡهَا جَد باجر و ظرف لغوی متعلق ہوئے اِسْمُهُۥ مَرۡکَبٌ اِضَاطِيٌّ نائب فاعل، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف، تاویل مصدر منصوب، بزعم الفاضل یہ اصل میں فی ان ہے، جَد باجر و اذین کے متعلق ہوئے، فاعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفت بحرور، جد باجر و ظرف لغوی یُسَبِّحُ کے متعلق مقدم ہوئے یُسَبِّحُ فاعل لہ جَد باجر و ظرف لغوی متعلق ثانی ہوئے فِیۡهَا جَد باجر و فی بیوت کی تاکید ہے، نَاوۡعَاطِفٌ جَرَالُغُدُوۡ وَ الْاَصَالِ معطوف علیہ با معطوف بحرور، جَد باجر و ظرف لغوی متعلق ثالث ہوئے، رِجَالٌ موصوف لآکُلِیۡ فاعل هِیْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مفعول بہ تِجَارَةٌ با معطوف

علیہ واؤ عاطفہ لازلہ یبِیْعُ معطوف بدوونوں مل کر فاعل عَنْ حرف جر و کُرِ اللّٰهُ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اِقَامِر الصَّلٰوَةِ  
مرکب اضافی معطوف اِذْل، واؤ عاطفہ اِیْتَاَ الرَّکُوْعَةَ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور ظرف لغو  
کَافٍ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یہ جَاَل کی صفت اولیٰ، یَحْتَفُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل یَوْمَ مَا مَوْصُوْف  
تَنْقَلِبُ فعل فِیْہِ جار مجرور متعلق ہوئے الْقَلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل بافاعل و متعلق یَوْمَ مَا کی صفت، موصوف  
ہفت مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ یہ جَاَل کی صفت ثانیہ، موصوف ہا صَیْنِیْنَ یُسَبِّحُ کَانَ فاعل، فعل بافاعل و متعلقات  
ثانیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ

### بَغْيَرِ حِسَابٍ ۝

آیت نمبر ۳۸: لآخر حرف جار برائے تلیل اور اس کے بعد ان نہیہ مقدّمہ ہے یَجْزِيْ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ  
اِذْل، اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل أَحْسَنَ مضاف مآسم موصول عَمِلُوا فعل با داؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، پھر  
مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ یَزِيدُ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب  
مفعول بہ، یمن حرف جر فضلیہ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو یَزِيدُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ  
خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوا، واؤ استینا فی اللّٰهُ اسم الجلالہ مبتدا، یَرْزُقُ فعل هُوَ ضمیر مستتر ذوالحال، بہاء حرف جر  
عَنْہِ حِسَابٍ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل مَن ام موصول یَشَاءُ فعل هُوَ  
ضمیر مستتر فاعل، ودوونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ یَرْزُقُ کے مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ  
خبریہ متاخر ہوں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً ۖ وَحَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمَمٌ

يَجِدُهُ شِبَاءًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قُوْفُهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

آیت نمبر ۳۹: واؤ استینا فی اللّٰهُ اسم موصول کَفَرُوا فعل واؤ ضمیر فاعل، ودوونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا، أَعْمَالُهُمْ  
مرکب اضافی مبتدا مکاف حرف جار سَرَابٍ موصوف بہاء حرف جر قِيَعَةٍ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ،  
یَحْسَبُ فعل ہُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْل، الظَّنُّ فاعل مَاءً مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف  
ہا صَیْنِیْنَ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَاتِبَةٍ کے متعلق ہو کر أَعْمَالُهُمْ کی خبر، مبتدا با خبر مبتدا اِذْل کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔  
حَتَّىٰ حرف ابتدا واذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل ہُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط،  
لَمَمٌ یَجِدُ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل ہُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْل، شِبَاءًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط  
ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو عاطفہ و جَدَّ فعل ہو ضمیر مستتر قائل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، عندئذ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ و فی فعل ہو ضمیر مستتر قائل و ضمیر مفعول بہ اول، حسابتہ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف علیہ مخدوف بہ معطوف ہے، تقدیر عبارت یوں بن جائے گی وَالْكَافِرُ إِذَا جَاءَهُ النَّوْتُ لَمْ يَجِدْ عَمَلَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَوَجَدَ اللَّهُ لِمَنْ حَسَبَ اللَّهُ... الخ و او استثنائیہ یا اعتراضیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، مستر فی ج الحساب مرکب اضافی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستتر یا معترضہ ہوں۔

أَوْ كَظَلُمْتُ فِي بَحْرِ لُتَيْجٍ يَغْشَى مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلُمْتُ  
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرِيهَا وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا  
لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

آیت نمبر ۳۰: اُو حرف عطف کاں حرف جر ظَلُمْتُ موصوف فی حرف جر بَحْرِ لُتَيْجٍ صفت اول یَغْشَى فعل ہا ضمیر مفعول بہ مَوْجٌ موصوف و من حرف جر فَوْقِهِ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَوْجٌ موصوف و من حرف جر فَوْقِهِ مرکب اضافی جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم سَحَابٌ مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَوْجٌ کی صفت، موصوف با صفت مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مَوْجٌ کی صفت، موصوف با صفت یَغْشَى کا فاعل فعل باقاعل و مفعول بہ بَحْرِ لُتَيْجٍ کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر اُو پر معطوف ہے ظَلُمْتُ موصوف بَعْضُهَا مرکب اضافی مبتدا فَوْقِ بَعْضٍ بعض مرکب اضافی کائین کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت اولیٰ اِذَا أَخْرَجَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل یَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرِيهَا فعل ہو ضمیر مستتر اس کا لام یَزِي لُتَيْجٍ فعل ہو ضمیر مستتر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، فعل باقاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل مقاب بالاسم و خبر جملہ فعلیہ انطوائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ظَلُمْتُ کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مبتدا مخدوف ہیج کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مِّنْ اس شرط مبتدا، لَمْ يَجْعَلِ فعل اللہ اسم الجلالہ قائل کہ جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی و او مفعول بہ اول مؤخر، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزیئیہ مانا فیہ کہ جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، و من حرف جر وَ لَمْ يَجْعَلِ لُتَيْجٍ لُتَيْجٍ مجرور و مفعول مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَن کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستتر ہوں۔

﴿ ۷۶ نمبر ﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّيْرُ صَفِيَتْ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ  
صَلَاتِهِ وَ كَسْبِيحَهُ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝  
إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

**آیت نمبر ۳۲، ۳۱:** ہمزہ حرف استفہام لہ تکرر فعل اَنتَ ضمیر مستتر قائل اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم مستخرج فعل لہ جاد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے ہن اسم موصول فی حرف جبر السُّلُوٰتِ وَاَلْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد باجرور طرف مستقر فعل مخذوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْقَارِيْنَ ذُو الْاَلْحَالِ صَفِيْحَةً صیغہ اسم قائل ہُنَّ ضمیر مستتر قائل، و دونوں مل کر حال، ذُو الْاَلْحَالِ باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف مُسْتَبِيْحٌ کا قائل، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ اَنْ ہمزہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر لہ تکرر کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقائل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

کُلُّ ہَمْدَةٍ قَدْ حَرَفَ تَحْقِيْقٌ عَلَيْہِہُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل صَلَاتُہُ مرکب انسانی معطوف علیہ، واو عاطفہ تَسْمِيْعُہُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول ہے، فعل باقائل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مُسْتَبِيْحٌ کے قائل سے حال ہے واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا عَلَيْہِہُ صیغہ مفت ہو ضمیر مستتر قائل بَاءُ حرف جر متاویل مصدریہ یَفْعَلُوْنَ فعل واو ضمیر قائل، دونوں مل کر متاویل مصدر مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، صیغہ مفت باقائل و متعلق شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لِلّٰہِ جاد باجرور طرف مستقر کَلِيْمٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُلْكٌ مضاف السُّلُوٰتِ وَاَلْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اذل، واو عاطفہ اِلَى اللّٰہِ جاد باجرور طرف مستقر کَلِيْمٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلصِّبْيُ مبدأ مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متناہیہ ہوں۔

**اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُرِجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَہُمْ ثُمَّ يَجْعَلُہُمْ رِکَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِہِ وَ یُنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِیْہَا مِنْ بَرَدٍ فِیْصِیْبُ بِہِ مَنْ یَّشَاءُ وَ یَصْرِفُہُ عَنِ مَنْ یَّشَاءُ طَیْکَادٌ سَنَا بَرَقَہُ یَذْہَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝**

**آیت نمبر ۳۳:** ہمزہ حرف استفہام لہ تکرر فعل اَنتَ ضمیر مستتر قائل اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم مستخرج فعل ہو ضمیر مستتر قائل سَحَابًا مفعول ہے، فعل باقائل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ یُوَلِّفُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل بَيْنَہُمْ مرکب اضافی مفعول ہے، تینوں مل کر معطوف اذل، ثُمَّ عاطفہ یَجْعَلُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل رِکَامًا مفعول ہے۔ اذل و رکامًا مفعول ہے۔ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبریہ اَنْ ہمزہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مصدر لہ تکرر کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقائل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

قَامَ عَاطِفٌ قَرِيْبٌ فَحَرَفَ تَحْقِيْقٌ عَلَيْہِہُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل الْوَدْقَ ذُو الْاَلْحَالِ یَخْرُجُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل مِنْ جِبَالِہِ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق حال، ذُو الْاَلْحَالِ باحال تَرَى کا مفعول ہے، فعل باقائل و مفعول ہے لہ تکرر معطوف ہے۔ واو عاطفہ یُنزِلُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل مِنَ السَّمَآءِ جاد باجرور مدہل منہ مِنْ جِبَالٍ موصوف فیہا جاد باجرور طرف مستقر کَلِيْمَةٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف صفت مجرور، جاد باجرور بدل، مبدل منہ با بدل یُنزِلُ کے متعلق ہوئے، مِنْ بَرَدٍ جاد باجرور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل باقائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ معطوف ہے۔ فَاءُ عاطفہ یَصِیْبُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل بِہِ جاد باجرور طرف انہ متعلق ہوئے، ہن اسم موصول یَشَاءُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل، و دونوں مل کر صلہ موصول باصلہ یَصِیْبُ کا مفعول ہے،

فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یُکَلِّمُ بہ معطوف ہے۔

واو عاطفہ یَصْرِفُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل کا ضمیر منسوب مفعول بہ عن حرف جار من اسم موصول یَشَاءُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول وصلہ مل کر مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یُصَيِّبُ بہ معطوف ہے۔ یُکَادُّ فعل مقادب سننا مضارع یُزِقُّ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی یُکَادُّ کا اسم کَذَّهَبَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بِالْأَبْصَارِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل مقادب بالاسم و خبر جملہ فعلیہ جملہ انشائیہ التَّوْحَىٰ یَا بَرُّوْا سے حال ہے۔

### يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۳۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** یُقَلِّبُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متساوہ اور اِنَّ حرف تحقیق فی ذلک جار مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لا مرہ مذ عطفہ عجزوۃ موصوف لآمر حرف جار اُولی الْأَبْصَارِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہافت اسم مؤخر اِنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلّمہ ہو۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۴:** واو عاطفہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل کُلِّ دَابَّةٍ مرکب اضافی مفعول بہ۔ مِّن مَّاءٍ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ یُقَلِّبُ بہ معطوف ہے۔ فاء تفریغیہ مِنْهُمْ جار مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِّن اسم موصول یَمْشِي فعل ہو ضمیر مستتر فاعل علی حرف جار بطنہ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ مِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ کی ترکیب واضح ہے معطوف اول، واو عاطفہ مِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ کی ترکیب واضح ہے معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہو۔

يَخْلُقُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل مَّا موصول یَشَاءُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل و فاعل و مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو اِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم علی حرف جار کُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے قَدِيرٌ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلّمہ ہو۔

لَقَدْ آتَيْنَا آيَاتٍ مَّبِينَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۵﴾

**آیت نمبر ۲۶:** لاہر موطئہ القم اور قسم مخدوف ہے۔ قد علامت فعل اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل آیت موصوف مُبَيَّنَاتِ اسم فاعل ہُنَّ ضمیر مستتر فاعل بدوئوں مل کر صفت ہافت اَنْزَلْنَا کا مفعول بہ، فعل ہاقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم مخدوف باجواب جملہ اضافیہ متانفہ ہواواستینا فی اللہ اسم الجلالہ مبتدا، یہدی فعل ہو ضمیر مستتر فاعل صَنَّ اسم موصول یَشَکُّہ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بدوئوں مل کر صلہ، موصول وصلہ مل کر مفعول بہ، الی حرف جار صوابی مُسْتَقِيمِ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہاقاعل و مفعول بہ، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

**وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ اطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ اَوْ لِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ** ﴿۲۷﴾

**آیت نمبر ۲۷:** ۲۷:۱۷ اوواستینا فی اللہ یَقُولُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بدوئوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، وَاْمَنَّا فعل نا ضمیر فاعل بآء حرف جار اللہ اسم الجلالہ مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، وَاَوْ اطاعنا بِالرَّسُولِ جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَمَنَّا کے متعلق ہوئے، فعل ہاقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْ اطاعنا اَطَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل بدوئوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقول، قول ہاقول معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف یَتَوَلَّى فعل فَرِيقٌ موصوف مِنْهُمْ جار مجرور طرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت ذوالحال، وَاَوْ حالہ ما جازیہ اَوْ لِيكَ غلام نوع اس کا اسم بآء حرف جار ذلک الْمُؤْمِنِينَ مَعًا منصوب خبر، معًا جازریہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال ہاقال یَتَوَلَّى کا فاعل صَنَّ کا مفعول بہ، اسانی مجرور، جار مجرور طرف لغو یَتَوَلَّى کے متعلق ہوئے، فعل ہاقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

**وَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۸﴾ وَ اِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۲۹﴾**

**آیت نمبر ۲۸، ۲۹:** ۲۸:۱۸ اووا اطاعنا اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم دُعُوا فعل مجهول واؤ ضمیر نائب فاعل الی حرف جار اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، وَاَوْ اطاعنا رَسُوْلِهِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق اول ہوئے، لاہر حرف جار برائے لتعلیل اور اس کے بعد اَنْ ہبہ مقدر ہے، یَحْكُمَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل ہاقاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ بتا و صلہ مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل مجهول ہانائب فاعل و متعلقین و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ اِذَا مضاف جاتیہ مُعْرِضُونَ کا مفعول فیہ مقدم فَرِيقٌ موصوف مِنْهُمْ جار مجرور طرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتدا، مُعْرِضُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل و مفعول فیہ مقدم مل کر خبر، مبتدا باخبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، وَاَوْ اطاعنا حرف شرطیہ یَكُنْ فعل ناقص اَلَهُمْ جار مجرور طرف مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْحَقُّ اسم موخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ اِذَا فعل واؤ ضمیر ذوالحال، مُذْعِنِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل بدوئوں مل کر حال، ذوالحال ہاقال فاعل اِلَيْهِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہاقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

اِنِّی قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ اَزْكَابُوْا اَمْ یَخَافُوْنَ اَنْ یَّحِیْفَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُوْلُهُ ذَبْنٌ  
اَوْ لَیْكَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ ﴿۵۰﴾

**آیت نمبر ۵۰:** ہمزہ حرف استفہام فی حرف جار قُلُوْبِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَرَضٌ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انطیہ معطوف علیہ، اَمّ حرف استفہام ازْكَابُوْا فعل واو ضمیر قائل دو دونوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ذل، اَمّ متعلقہ حرف عطف یَخَافُوْنَ فعل واو ضمیر قائل اَنْ حرف مصدری وَصَب یَحِیْفَ فعل اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلُهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف قائل عَلَیْهِمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدری یَخَافُوْنَ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی ہے۔ بَلّ حرف عطف براے اضراب اَوْ لَیْكَ اسم اشرہ مبتدا ہُمْ ضمیر فصل الظَّالِمُوْنَ اسم قائل ہُمْ ضمیر قائل دو دونوں ل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿۵۰﴾ رکوع نمبر ۷

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا  
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ اَوْ لَیْكَ هُمْ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵۱﴾

**آیت نمبر ۵۱:** اَنْ حرف تفتیح حرف اور ما کا ذہ ہے، لیکن فعل ناقص قَوْلَ مصدر مضاف الْمُؤْمِنِيْنَ مضاف الیہ، اِذَا ظرف زمان مضاف دُعُوْا فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل اِلَى حرف جار اللّٰهُ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلِهِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، لاہر حرف جار براے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مصدر مقدّر ہے یَحْكُمَ فعل ہو ضمیر مستقر قائل یَقُوْلُوْا مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو دُعُوْا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل مجہول با نائب قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ قَوْلَ کا مفعول فیہ مصدر اپنے مضاف الیہ مفعول فیہ سے مل کر گناہ کی خبر مقدم اَنْ حرف مصدری وَصَب یَقُوْلُوْا فعل واو ضمیر قائل دو دونوں ل کر قول سَمِعْنَا فعل واو ضمیر قائل دو دونوں ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطَعْنَا فعل واو ضمیر قائل دو دونوں ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطَعْنَا فعل واو ضمیر قائل، دو دونوں ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ بتا ویل مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص با م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ واو استیناف اَوْ لَیْكَ اسم اشرہ مبتدا ہُمْ ضمیر فصل الْمُفْلِحُوْنَ اسم قائل ہُمْ ضمیر مستقر قائل دو دونوں ل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہو۔

وَمَنْ یُّطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَیَخْشِ اللّٰهَ وَیَتَّقْهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْقَابِرُوْنَ ﴿۵۲﴾

**آیت نمبر ۵۲:** واو عاطفہ مَنْ اسم شرط مبتدا، یُطِيعُ فعل ہو ضمیر مستقر قائل اللّٰهُ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلُهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَخْشِ فعل یہ اصل میں یَخْشَوْنَ ہے ہو ضمیر مستقر قائل اللّٰهُ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ذل، واو عاطفہ یَتَّقِ فعل یہ اصل میں یَتَّقُوْنَ ہے ہو ضمیر مستقر قائل ہ ضمیر مفعول بہ، بتیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط، قیامہ اُولٰٓئِكَ اسم اشرہ

مبتداً هُمْ ضمیر فعل الْقَائِدُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل بدو نون مل کر خبر، مبتداً خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزم، شرط باجزاء جملہ شرطیہ من کی خبر ہے، مبتداً خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزم، مبنیاً خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزم، شرط باجزاء جملہ شرطیہ

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا بِطَاعَةِ  
مَعْرُوفَةَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: واو عطف اقسموا فعل واو ضمیر فاعل باللہ جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے جہد معنی اکیمانہم مرکب اضافی معنی الیہ، باجر مرکب اضافی چاہدین کی تاویل میں ہو کر اقسموا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل باقاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ قسم لاکر موصوفہ القوم اور قسم محذوف ہے ان حرف شرطاً موزن فعل قائم متعوضہ ضمیر فاعل ہم ضمیر منسوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط لاکر جوابیہ یخروجن فعل واو محذوف لائقاہ السائین فاعل بدو نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم باجواب قسم اول کا جواب، قسم باجواب قسم اکتان کا کہ معطوف ہے۔ اور ان اموتہم شرط کی جزم محذوف ہے لیکھو جوا: قُلْ فعل امر انت ضمیر مستتر فاعل، دو نون مل کر قول، لا تقسموا فعل نمی واو ضمیر فاعل، دو نون مل کر جملہ انشائیہ نہیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہول طاعة موصوفہ معروفہ قلام مفعول ہی ضمیر مستتر نائب فاعل، دو نون مل کر صفت، موصوفہ ہفت مبتدا اور محذوف ہے خیر موصوفہ قسمیہ، مبتداً خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم حبیہ صیغہ صفت ہو ضمیر مستتر فاعل بآء حرف جد ماصدر ہے تَعْمَلُونَ فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر مجرور، جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، صیغہ صفت باقاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر بیان ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منطوق ہول

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوا فَتُهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: قُلْ فعل امر انت ضمیر مستتر فاعل، دو نون مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، اقسموا فعل امر واو ضمیر فاعل، اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عطف اطیعوا فعل امر واو ضمیر فاعل الرسول مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ اسمیہ خبریہ ہول قائداً استینا فی ان حرف شرطاً تَوَلَّوْا فعل ہی اصل میں تَوَلَّوْا ہے واو ضمیر فاعل بدو نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط قائداً جزائیہ ان حرف تحقیق کونہ، مآکانہ علیہ جہد باجر و طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مآسام موصول حیل فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل، دو نون مل کر صلہ، موصول با صلہ مخلصاً مرفوع مبتدا موزر، مبتداً خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف علیکم جہد باجر و طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مآسام موصول حیل فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل، دو نون مل کر صلہ، موصول وصلہ مل کر مبتدا موزر، مبتداً خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ معطوف جزم، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عطف ان حرف شرطاً تطیعوا فعل واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطاً تَهْتَدُوا فعل واو ضمیر فاعل، دو نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزم، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با



معتوف جملہ مستتر ہوا، واؤ استینا فی یامالی مانانا فی عَمَلِ الرَّسُوْلِ جہد باجور و طرف مستتر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ بالآ حرف استیثما بلتبع المبین مرکب تو معنی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستتر ہوا، یا تظنی مؤذنی کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے۔

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَوَعَدَنَا كَمَا قَالَ، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ معتوف علیہ، واؤ عاطفہ عَمِلُوا فعل واؤ ضمیر قائل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف محذوف الْأَعْمَالِ کے مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معتوف، معتوف علیہ با معتوف صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ اذل، واؤ وَعَدْنَا کا مفعول بہ یعنی محذوف ہے، اَلِاسْتِخْلَافِ وَالتَّمَكُّنِ فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

بَعْدَ ذَلِكَ قَاوَلِكُ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝

**آیت نمبر ۵۵:** وَعَدَ اللهُ اِسْمًا بِالرَّسُوْلِ قَالِ الْذٰلِیْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ اَمْنُوْا فِعْلٌ وَاوْ ضَمِیْرٌ زَوَالٌ اِنْ كُنْهُمُ جَدُّ بَا جَرُّ وَّرَ تَرْفِ مَسْتَرٌّ كَا کَیْنِیْنَ كَے مَتَعَلَّقٌ ہُو كَر حَالِ ہَذَا اِلَّا اِلَّا بِحَالٍ وَاوْ عَدْنَا كَمَا قَاوَلِ، فِعْلٌ ہَا قَاوَلِ جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ مَعْتُوْفٌ عَلَیْہِ، وَاوْ عَاظِفَہٗ عَمِلُوا فِعْلٌ وَاوْ ضَمِیْرٌ قَاوَلِ الصَّالِحَاتِ بِوَاَسْطَہٗ مَوْصُوْفٌ مَحْذُوْفٌ اَلْعَمَالِ كَے مَفْعُوْلٌ بِہٖ، تِیْنُوْنَ ل كَر جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ مَعْتُوْفٌ، مَعْتُوْفٌ عَلَیْہِ بِا مَعْتُوْفٌ صِلَہٗ، مَوْصُوْلٌ بِا صِلَہٗ مَفْعُوْلٌ بِہٗ اذَل، وَاوْ وَعَدْنَا كَمَا مَفْعُوْلٌ بِہٖ اِنِّیْ مَحْذُوْفٌ ہُو اَلِاسْتِخْلَافِ وَالتَّمَكُّنِ فِعْلٌ ہَا قَاوَلِ و مَفْعُوْلِیْنِ جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ ہُو۔

لاہر موطن القیم اور قسم محذوف ہے، یسْتَخْلِفُنَّ فِعْلٌ ہُو ضَمِیْرٌ مَسْتَرٌّ قَاوَلِ ہُو ضَمِیْرٌ مَوْصُوْبٌ مَفْعُوْلٌ بِہٖ، فِی الْاَرْضِ جَدُّ بَا جَرُّ وَّرَ تَرْفِ لَو مَتَعَلَّقٌ ہُو، کَا ف حَرْفٌ جَدُّ مَحْذُوْفٌ مَعْتُوْفٌ عَلَیْہِ مَوْصُوْلٌ مَوْصُوْلٌ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ مِّنْ حَرْفِ جَدِّ قَبْلِہُمْ مَرْکَبٌ اِضَافِیٌّ جَرُّ وَّرَ، جَدُّ بَا جَرُّ وَّرَ تَرْفِ مَسْتَرٌّ فِعْلٌ مَحْذُوْفٌ مَعْتُوْفٌ عَلَیْہِ، فِعْلٌ ہَا قَاوَلِ مَفْعُوْلٌ بِہٖ، تَاوِیْلِ مَصْدَرِ جَرُّ وَّرَ، جَدُّ بَا جَرُّ وَّرَ تَرْفِ مَسْتَرٌّ كَا کَیْنِیْنَ كَے مَتَعَلَّقٌ ہُو كَر بِوَاَسْطَہٗ مَوْصُوْفٌ مَحْذُوْفٌ اِسْتِخْلَافًا كَا کَیْنِیْنَ كَے مَفْعُوْلٌ مَطْلُقٌ، فِعْلٌ ہَا قَاوَلِ و مَتَعَلَّقٌ و مَفْعُوْلِیْنِ جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ قِسْمٌ كَا جَوَابِ، قِسْمٌ بَا جَوَابِ مَعْتُوْفٌ عَلَیْہِ، وَاوْ عَاظِفَہٗ لَاہر مَوْطَنُ الْقِیْمِ كَا کَیْنِیْنَ كَے فِعْلٌ ہُو ضَمِیْرٌ مَسْتَرٌّ قَاوَلِ ہُو ضَمِیْرٌ جَدُّ بَا جَرُّ وَّرَ تَرْفِ لَو مَتَعَلَّقٌ ہُو، تِیْنُوْنَ ل كَر جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ صِلَہٗ، مَوْصُوْلٌ و صِلَہٗ ل كَر دِیْنَهُمْ كَا مَعْتُوْفٌ، مَوْصُوْفٌ بِا مَعْتُوْفٌ بِہٖ، فِعْلٌ ہَا قَاوَلِ و مَتَعَلَّقٌ و مَفْعُوْلٌ بِہٖ جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ قِسْمٌ كَا جَوَابِ، قِسْمٌ بَا جَوَابِ مَعْتُوْفٌ اذَل، وَاوْ عَاظِفَہٗ لَاہر مَوْطَنُ الْقِیْمِ اور قسم محذوف ہے، یَسْتَدِیْنَنَّ فِعْلٌ ہُو ضَمِیْرٌ مَسْتَرٌّ قَاوَلِ ہُو ضَمِیْرٌ جَدُّ بَا جَرُّ وَّرَ تَرْفِ لَو مَتَعَلَّقٌ ہُو، تِیْنُوْنَ ل كَر جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ قِسْمٌ كَا جَوَابِ، قِسْمٌ بَا جَوَابِ مَعْتُوْفٌ اِضَافِیٌّ جَرُّ وَّرَ، جَدُّ بَا جَرُّ وَّرَ تَرْفِ لَو مَتَعَلَّقٌ ہُو، اَمَّا بِمَعْنٰی اَمْرِیْنِیْنَ مَفْعُوْلٌ بِہٖ ثَانِی، فِعْلٌ ہَا قَاوَلِ و مَتَعَلَّقٌ و مَفْعُوْلِیْنِ جَوَابِ قِسْمٌ، قِسْمٌ بَا جَوَابِ مَعْتُوْفٌ ثَانِی، مَعْتُوْفٌ عَلَیْہِ بِا مَعْتُوْفِیْنِ جَمْلَہٗ مَسْتَرٌّ ہُو۔

یَعْبُدُوْنَ فِعْلٌ وَاوْ ضَمِیْرٌ قَاوَلِ نَوْنِ بَرَاۓ وَقَاوِہٖ یَاۓ ضَمِیْرٌ مَفْعُوْلٌ بِہٖ، فِعْلٌ ہَا قَاوَلِ و مَفْعُوْلٌ بِہٖ جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ یَسْتَدِیْنَنَّ كَے ضَمِیْرٌ مَفْعُوْلٌ بِہٖ سَے حَالٌ ہُو كَر لَیَسْتَدِیْنَنَّ كُوْنَ فِعْلٌ وَاوْ ضَمِیْرٌ قَاوَلِ جَدُّ بَا جَرُّ وَّرَ تَرْفِ لَو مَتَعَلَّقٌ ہُو، یَسْتَدِیْنَنَّ مَفْعُوْلٌ بِہٖ، جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ یَعْبُدُوْنَ كَے ضَمِیْرٌ قَاوَلِ سَے حَالٌ ہُو، وَاوْ عَاظِفَہٗ مِّنْ اِسْمِ شَرْطِ مَبْتَدَا اَكْفُوْا فِعْلٌ ہُو ضَمِیْرٌ مَسْتَرٌّ قَاوَلِ بَعْدَ ذٰلِکَ مَرْکَبِ اِضَافِیٍّ مَفْعُوْلٌ بِہٖ، تِیْنُوْنَ ل كَر جَمْلَہٗ فِعْلِیَہٗ خَبَرِیَہٗ شَرْطِ عَاظِفَہٗ جَزَاۓہٗ اَوْ لَیْسَہٗ اَعْلَامُ فِرْوَعِ مَبْتَدَا، ہُو ضَمِیْرٌ فِعْلٌ الْفٰسِقُوْنَ اِسْمٌ قَاوَلِ ہُو ضَمِیْرٌ مَسْتَرٌّ قَاوَلِ، دَوَّلُوْا ل كَر خَبَرٌ، مَبْتَدَا بَا جَرُّ جَزَاۓہٗ، شَرْطِ ہَا جَزَاۓہٗ مِّنْ كَے خَبَرٌ، مَبْتَدَا بَا جَرُّ جَمْلَہٗ اِسْمِیَہٗ خَبَرِیَہٗ وَاوْ عَدْنَا اَللّٰہُ مَعْتُوْفٌ ہُو۔

## وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝۵۱

**آیت نمبر ۵۱:** واؤاقتینا فاقیوہا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الصلوٰۃ مفعول بہ تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاقلہ واؤ ضمیر فاعل الزکوٰۃ مفعول بہ تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واؤ عاقلہ اُطیعوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الرسول مفعول بہ تینوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانف ہوں لعل حرف ترقی کُم ضمیر اس کا اسم کُرحمُوْنَ فعل واؤ ضمیر نائب فاعل بدوئوں مل کر خبر، لعل ہا م خبر جملہ انشائیہ مطلق ہوں یا واجب الزخمہ کی تاویل میں ہو کر اُطیعوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

## لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِیْنَ فِی الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ الْاُتَّارُ وَلَا یَسْتَبِیْهُوْا ۝۵۲

**آیت نمبر ۵۲:** لا تحسبن فعل تمنا آتک ضمیر مستتر فاعل الذین کفروا موصول باصلہ مفعول بہ اول معجزین اسم فاعل ہُم ضمیر مستتر فاعل فی الارض جار مجرور متعلق ہوئے تینوں مل کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل ومفعولین جملہ انشائیہ نسبیہ ہوں۔ واؤ عاقلہ ماؤہم مرکب اضافی مبتدأ، اتار خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، اور معطوف علیہ محذوف ہے بلکن ہُم مَقْفُوْوْنَ، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانف ہوں واؤاقتینا فی لآہر موطن القوم اور قسم محذوف ہے یسئس فعل ذم المصیروں فاعل بدوئوں مل کر خبر، اور مخصوص بالذم مبتدأ محذوف ہے ہی، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ قسم کا جواب، قسم کا جواب جملہ متانف ہوں۔

### ﴿ رکوع نمبر ۸ ﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَیْسَتْ اٰیٰتُنَا لَكُمْ مَّكٰثِبًا ۚ لَیْسَتْ اٰیٰتُنَا لَكُمۡ وَاٰیٰتُنَا لَكُمۡ مَّزٰیۡرٌ ۚ مِّنۡ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِیۡنٍ تَّصَعُّوْنَ نِیۡۤاۤیۡبَكُمۡ مِّنۡ الظَّهْرِیۡرَةِ وَ مِّنۡۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۚ كُلُّ عُوۡدٍ لَّكُمْ ؕ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَا لَا عَلَیْهِمۡ جُنَاحٌۢ بَعۡدَھُنَّۙ اِذَا طُوفُوۡنَ عَلَیْكُمْۙ بِعَضۡكُمۡ عَلٰی بَعۡضِ كٰذٰلِكَۙ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ وَ اللّٰهُ عَلِیۡمٌ حٰكِیۡمٌ ۝۵۸

**آیت نمبر ۵۸:** یٰایہا الذین آمنوا لیس آیتنا تمنا کی ترکیب بہت مرتبہ کر چکی ہے اور یہ علامہ ہے لیس آیتنا فعل امر کُم ضمیر مفعول بہ الذین اسم موصول ملکث فعل ایکنانکُم مرکب اضافی فاعل بدوئوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عاقلہ الذین اسم موصول لکم یبیلوہا فعل واؤ ضمیر ذوالحال منکم ظرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل الخلمہ مفعول بہ کلث مزایر مرکب اضافی بواسطہ موصوف محذوف ایشئذ انا کے مفعول مطلق برائے لیس آیتنا، لکم یبیلوہا فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لیس آیتنا کا فاعل من حرف جار قبل مضاف صلوٰۃ الفجر مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو لیس آیتنا کے متعلق ہوئے واؤ عاقلہ حیئن مضاف تصعون فعل واؤ ضمیر فاعل نیا بکم مرکب اضافی مفعول بہ من الظہیریۃ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی بواسطہ عطف لیس آیتنا کا مفعول فیہ ہے، واؤ عاقلہ من حرف جار بعد مضاف صلوٰۃ العشاء مرکب اضافی

مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جہد باجمر و بواسطہ عطف متعلق جانی ہوئے، فعل امر اپنے قائل و مفعولین و متعلقین جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء باجواب جملہ انشائیہ ہوں۔

کَلِمٌ مِّمَّزٍ عَوَّزَاتٍ موصوف لکھم جہد باجمر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت تہیز مضاف الیہ، مہیز ہائیز خبریہ ہے مبتدا مخدوف ہذیہ کی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں لیکس فعل ناقص عَلَیْکُمْ جہد باجمر و معطوف علیہ واو عاطفہ لازلہ عَلَیْہُمْ جہد باجمر و معطوف، دونوں ل کر ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہوئے کَلِمًا موصوف لکھم جہد باجمر و ضمیر مستقر قائل یَعَدُّہُنَّ مرکب اضافی مفعول فیہ، اسم قائل ہا قائل و مفعول فیہ خبر مقدم، جُنَاحٌ م مؤخر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

طَوَّافُوْنَ صیغہ مبالغہ ھم ضمیر مستقر قائل عَلَیْکُمْ جہد باجمر و متعلق ہوئے، تہیزوں ل کر مبتدا مخدوف ھم کی خبریہ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مبدل منہ بعضکم مرکب اضافی مبتدا، علی بعض جہد باجمر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اولی سے بدل ہے۔ کَذٰلِکَ جہد باجمر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف تہیزینا کے مفعول مطلق مقدم، یَبِیْنُ فعل اللہ اسم الجلالہ قائل لکھم جہد باجمر و طرف لغو متعلق ہوئے الٰہیت مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا عَلَیْہُمْ صیغہ صفت ھو ضمیر مستقر قائل سے ل کر خبر اول حکیمہ صیغہ صفت ھو ضمیر مستقر قائل سے ل کر خبر ثانی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالَ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا کَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ

کَذٰلِکَ یَبِیْنُ اللّٰهُ لَکُمْ اٰیٰتِہٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ حٰکِیْمٌ ۝

آیت نمبر ۵۹: واو عاطفہ، اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم بَلَغَ فعل الاطفال ووالحال و منکم جہد باجمر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال ووالحال بحال قائل الْحُلُمَ مفعول بہ، چاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، جزاء جزائیہ لیسْتَأْذِنُوْا فعل امر واو ضمیر قائل، کان حرف جہد صا حرف مصدری اسْتَاذَنَ فعل الَّذِیْنَ اسم موصول من حرف جہد قَبْلِہُمْ مرکب اضافی مجرور، جہد باجمر و طرف مستقر فعل مخدوف تہیزوا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ اسْتَاذَنَ کا قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جہد باجمر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اسْتَاذَنَ انا کے مفعول مطلق، فعل ہا قائل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط جہد باجمر جملہ شرطیہ ہوں۔

کَذٰلِکَ جہد باجمر و کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف تہیزینا کے مفعول مطلق مقدم، یَبِیْنُ فعل اللہ اسم الجلالہ قائل لکھم جہد باجمر و طرف لغو متعلق ہوئے اٰیٰتِہٖ مرکب منصوب بالکسر اضافی مفعول بہ، چاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو اعتراضیہ یا حالہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا عَلَیْہُمْ حکیمہ و خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہے یَبِیْنُ کے قائل سے حال ہے۔

وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِیْ لَا یَرْجُوْنَ نِکَاحًا فَلِیْسَ عَلَیْہِنَّ جُنَاحٌ اَنْ یَّضَعْنَ

ثِیَابَہُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِیْنَةٍ ؕ وَ اَنْ یَّسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّہُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝

**آیت نمبر ۶۰:** **وَإِذَا عَاطَفَ الْقَوَاعِدُ دَخَلُوا مِنَ النِّسَاءِ جَدَّ بِأَجْرٍ وَظَرْفٍ مَسْتَقِرَّ كَالْقَائِمَاتِ** کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باہال موصوف الخیام موصول لَازِمٌ جَوْنُ فعل نون مفتوحہ فاعل زَكَاتًا مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہفت مبتدا مقسمین معنی شرط اس لئے کہ الْقَوَاعِدُ ہر الف لاکر ام موصول ہے، فقاء جزائیہ لَیْسَ فعل ناقص عَلَیْہِمْ جَدَّ بِأَجْرٍ وَظَرْفٍ مَسْتَقِرَّ کَالْقَائِمَاتِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، جُتَّحَا موصوف ان حرف مصدری و نصب یَضَعْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل یَضَعْنَ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر تاویل مصدر منصوب بترجیع لفظ مجرد یہ اصل میں فی ان... الخ ہے جَدَّ بِأَجْرٍ وَظَرْفٍ مَسْتَقِرَّ کے متعلق ہو کر جُتَّحَا کی صفت، موصوف ہفت اسم مؤخر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مبتدا کی خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں۔

**عَنْوَ** مضاف مُتَّكِرٌ جَلِیْبٌ مَسْتَقِرَّ فاعل ہُنَّ ضمیر مستقر فاعل یُوْنِقَةُ جَدَّ بِأَجْرٍ وَظَرْفٍ مَسْتَقِرَّ کے متعلق ہوئے ہام فاعل بافاعل و متعلق مضاف الیہ، ہجر مرکب اضافی یَضَعْنَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، واو استینافیہ ان حرف مصدری و نصب یَسْتَعْفِفْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل دو دونوں مل کر تاویل مصدر مبتدا، خِیْرٌ م تفصیل ہو ضمیر مستقر فاعل لَہُنَّ جَدَّ بِأَجْرٍ وَظَرْفٍ مَسْتَقِرَّ کے متعلق ہوئے ہام تفصیل بافاعل و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستوف ہوں واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، سَمِیعٌ عَلِیْمٌ دو خبر، مبتدا با خبر مل اسمیہ خبریہ ہوں۔

**لَیْسَ عَلَی الْأَعْلَى حَرَجٌ وَلَا عَلَی الْأَعْرَاجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَی أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَیُوتِكُمْ أَوْ بَیُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بَیُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بَیُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بَیُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بَیُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَیُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بَیُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بَیُوتِ خَلَّتِكُمْ أَوْ مَا مَلَکَتْهُم مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِیْعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَی أَنْفُسِكُمْ تَحِیَّةً**

**فَإِنْ عِنْدَ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَیِّبَةٌ كَذَلِكَ یَبِیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** ۱۱

**آیت نمبر ۱۱:** لَیْسَ عَلَی الْأَعْلَى جَدَّ بِأَجْرٍ وَظَرْفٍ مَسْتَقِرَّ کَالْقَائِمَاتِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم حَرَجٌ اسم مؤخر، فعل ناقص ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ لا لزدہ عَلَی الْأَعْرَاجِ حَرَجٌ بواسطہ عطف لَیْسَ کا اسم و خبر ہے، واو عاطفہ لا لزدہ عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ بواسطہ عطف لَیْسَ کا اسم و خبر ہے، واو عاطفہ لا لزدہ عَلَی حَرَفِ جَدَّ أَنْفُسِكُمْ مرکب اضافی مجرد، جَدَّ بِأَجْرٍ وَظَرْفٍ مَسْتَقِرَّ کے متعلق ہو کر لَیْسَ کی خبر مقدم، ان حرف مصدری و نصب تَأْكُلُوا فعل واو ضمیر فاعل ہُنَّ جَدَّ بِأَجْرٍ وَظَرْفٍ مَسْتَقِرَّ کے متعلق ہو کر جَبِیْعًا أَوْ أَشْتَاتًا کے عطف بیوت ابائیکم مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ بیوت امہاتیکم مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ بیوت اخوانیکم مرکب اضافی معطوف ثالث، واو عاطفہ بیوت اخواتیکم مرکب اضافی معطوف رابع، واو عاطفہ بیوت اعمامیکم مرکب اضافی معطوف خامس، واو عاطفہ بیوت عماتیکم مرکب اضافی معطوف سادس، واو عاطفہ بیوت خواتیکم مرکب اضافی معطوف سابع، واو عاطفہ بیوت خلالتیکم مرکب اضافی معطوف ثامن، واو عاطفہ ماکم موصول مملکتیکم فعل ثُمَّ ضمیر فاعل مَفَاتِحَهُ مرکب اضافی معطول بہ، تینوں مل

کر صلہ، موصول باصلہ بواسطہ مضارع بیوت کے معطوف تاسخ، اَوْ عاطفہ صِدِّ لِقٰكُمْ مرکب اضافی بواسطہ مضارع مخدوف بیوت کے معطوف عاشر، معطوف علیہ با معطوفات عشرہ میں کا مجرور، جاد باجرور طرف لغو تَأْكُلُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتبادل مصدر مجرور، کیونکہ یہ اصل میں فی آن... الخ ہے جاد باجرور صحیح کے متعلق ہوئے۔

لیکن فعل ناقص عَلَيكُمْ جاد باجرور طرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر خبر مقدم جُنَّاحٌ موصوف آن حرف مصدری و نصب تَأْكُلُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال جَعِيْبًا اَوْ اَشْتَمًا معطوف علیہ با معطوف حال ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل بتاویل مصدر مجرور، کیونکہ یہ اصل میں فی آن... الخ ہے جاد باجرور کائین کے متعلق ہو کر جُنَّاحٌ کی صفت ہے، موصوف ہفت اسم موخر، فعل ناقص ہم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَا م استینافیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم دَخَلْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل یُؤْتُوْا مفعول فیہ، جادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فَا م جزائیہ سَلِمُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل علی حرف جاد اَنْفِيسِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور طرف لغو سَلِمُوْا کے متعلق ہوئے تَحِيَّةٌ موصوف میں حرف جاد عِنْدِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور کائینہ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، مَلِكًا موصوف مفعول ہی مستتر بہ فاعل سے مل کر صفت ثانیہ، کَلِيْمَةً صیغہ صفت ہی مستتر فاعل سے مل کر صفت ثالثہ، موصوف باصفات ثلاثہ بواسطہ موصوف مخدوف تَسْلِيْمًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ كَذٰلِكَ یُتَبَيَّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِیْ كِی ترکیب آیت نمبر ۵۸ میں گزر چکی ہے، الْعَلَّ حرف ترقی کُفَّ ضمیر اس کا اسم تَعْقِلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف ترقی اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ مطبوعہ ہوں۔

﴿ ۷۹ ﴾

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلٰی اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰی يَسْتَاْذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْكَ اَوْ لِيْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِيَبْعُثْ شَاْنَهُمْ فَاذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ۷۹ ﴾

آیت نمبر ۶۲: اِنْ حرف تحقیق کفوفہ اور مآ کا اللّٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ مبتدأ، الَّذِيْنَ اسم موصول اَمَنُوْا فعل واو ضمیر فاعل باہم حرف جاد اللّٰہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلِهِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق سلمہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم كَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم مَعَهُ مرکب اضافی کائینین کا مفعول فیہ علی حرف جاد اَمْرٍ جامع مرکب توصیفی مجرور، جاد باجرور کائینین کے متعلق ہوئے کائینین اسم فاعل اپنے ہنہ ضمیر مستتر فاعل و متعلق سے مل کر خبر، فعل ناقص ہم و خبر مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، اَلَمْ يَذْهَبُوْا فعل واو ضمیر فاعل حقیقی حرف غایت و جر اور اس کے بعد اَنْ مقرر ہے یَسْتَاْذِنُوْا فعل واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مجرور، جاد باجرور کُفَّ يَذْهَبُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ

باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق اَلَّذِيْنَ اسم موصول يَسْتَأْذِنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر صلہ موصول حاصلہ اسم اولیٰ لفظ اسم اشارہ مبتدأ اَلَّذِيْنَ اسم موصول يُوْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بِاللَّوْ وَرَسُولِهِ متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول حاصلہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ

فَاء عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَسْتَأْذِنُوْا فعل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ لآء حرف جہ تبغیض شَأْنُهُمْ مرکب اضافی مجرور، جہ باخبر و متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اِذَنْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل لآء حرف جار صِنْ اسم موصول شِئْتَ فعل تَاَم مفتوحہ فاعل بدو نوں مل کر صلہ موصول حاصلہ ذوالحال ہائے جہ باخبر و طرف مستقر کَانِتَا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہا حال مجرور، جہ باخبر و طرف لِعَآءِ ذَنْ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و متعلق جملہ انتہائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِسْتَعْفُوْا فعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل لَهُمْ جہ باخبر و طرف لِنُو متعلق ہوئے، اَللّٰهُ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل ہا قاع و متعلق و مفعول بہ جملہ انتہائیہ معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء بملہ شرطیہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق اَللّٰهُ اسم الجلالہ اس کلام غَفُوْرٌ وَرَحِيْمٌ دو خبر، اِنْ با م و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۗ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

آیت نمبر ۶۳: لَا تَجْعَلُوا فعل نمی واو ضمیر فاعل دُعَاءَ الرَّسُولِ مرکب اضافی ذوالحال، بَيْنَكُمْ مرکب اضافی کَانِتَا کا مفعول فیہ ہو کر حال ذوالحال ہا حال مفعول بہ اِذَل کاف حرف جار دُعَاءِ مصدر مضاف بَعْضِكُمْ مرکب اضافی مضاف الیہ معش فاعل بَعْضًا مفعول بہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول بہ سے مل کر مجرور، جہ باخبر و طرف مستقر کَانِتَا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل ہا قاع و مفعولین جملہ انتہائیہ خبریہ ہوں۔ قَدْ حرف تحقیق يَعْلَمُ فعل اَللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل اَلَّذِيْنَ اسم موصول يَتَسَلَّلُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال، مِثْلَهُمْ جہ باخبر و طرف مستقر کَانِتَا کے متعلق ہو کر حال اولیٰ، لِوَاذًا معنی اسم فاعل ثانیہ ذوالحال ہا حالین يَتَسَلَّلُونَ کا فاعل، فعل ہا قاع جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول حاصلہ یَعْلَمُ کا فاعل، فعل ہا قاع جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں

فَاء نصیبہ اور شرط محذوف ہے اِذَا کَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، لِيَحْذَرِ فعل امر اَلَّذِيْنَ اسم موصول يُخَالِفُونَ فعل واو ضمیر فاعل عَنْ حرف جار صِنْ، اَنْ حرف مصدری و نصب تَصِيبُ فعل هُجْ ضمیر منصوب مفعول بہ فِتْنَةٌ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اُوَ عاطفہ تَصِيبُ فعل هُجْ ضمیر مفعول بہ، عَذَابٌ اَلِيمٌ مرکب توصیفی فاعل، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر لِيَحْذَرِ کا مفعول بہ، فعل ہا قاع و مفعول بہ جملہ انتہائیہ امریہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

الْآرِثِينَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۗ وَيَوْمَ تَوَدُّوْنَ  
 اِلَيْهِ فَيَنْتَبِهُوْنَ ۗ بِمَا عَمِلُوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

**آیت نمبر ۶۳:** الآ حرف ضمیر غیر مال لائن حرف تحقیق اللہ جار باجروء ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مآ اسم  
 موصول فی حرف جار السموات والارض معطوف علیہ بمعطوف مجرور، جار باجروء ظرف مستقر فعل محذوف تبت کے متعلق ہو کر صلہ،  
 موصول باصلہ اسم مؤخر بان اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ قَدْ حرف تحقیق یَعْلَمُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل مآ اسم موصول اَنْتُمْ ضمیر  
 مبتدا، عَلَیْهِ جار باجروء ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول و صلہ مل کر معطوف علیہ ہواؤ  
 عاطفہ یَوْمَ مضاف یُوْجَعُوْنَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل اِلَیْهِ جار باجروء ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف  
 الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ بمعطوف یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ  
 یُنْفِقُوْا فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، بناء حرف جار ما حرف مصدری عَمِلُوْا فعل باواؤ ضمیر فاعل بتا ویل مصدر مجرور، جار  
 باجروء یُنْفِقُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ مثلاً ہوا۔ واؤ استثنائیہ  
 اللہ اسم الجلالہ، مبتدا، بناء حرف جار کُلِّ شَیْءٍ ہو مرکب اضافی مجرور، جار باجروء ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، عَلَیْهِمْ صلہ صفت ہو ضمیر  
 مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متناظر ہو۔ یا یَعْلَمُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔



## ترکیب سُورَةُ الْفُرْقَانِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیَكُوْنَ  
لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ۝ الَّذِیْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ

لَهُ شَرِیْكَ فِی الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِیْرًا ۝

**آیت نمبر ۱:** تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ موصول نَزَّلَ فعل ہو موصول مستتر نازل الفُرْقَانَ مفعول بہ علی حرف جار عُنْدِہٖ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق نَزَّلَ ہوئے، تاکہ حرف جار اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ ہے یَكُوْنَ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کلام لِلْعٰلَمِیْنَ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، تَبٰرَكَ صیغہ مفت ہو ضمیر مستتر نازل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور نَزَّلَ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل ناقص ہا مفعول بہ و متعلقین صلہ موصول باصلہ مبدل منہ، الَّذِیْ ہا اسم موصول لَمْ جار مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُلْكُ مضاف السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ یَتَّخِذْ فعل ہو ضمیر مستتر نازل و لَدًا مفعول بہ مبنی اور مفعول بہ اول اَحَدًا معذوف ہے، فعل ناقص ہا مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَمْ یَكُنْ فعل ناقص لَمْ جار مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم شَرِیْكَ موصوف فی الملک جار مجرور کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت ہا اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستتر نازل و كُلَّ شَیْءٍ مرکب اضافی مفعول بہ، تَمِیْزٌ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، بقاء عاطفہ قَدَرٌ فعل ہو ضمیر مستتر نازل و مَوْجُوْب مفعول بہ، تَقْدِیْرًا مفعول مطلق، فعل ناقص ہا مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف رابع معطوف علیہ با معطوفات لاریبہ صلہ موصول باصلہ بدل، مبدل منہ ہا بدل تَبٰرَكَ کا نازل، فعل ناقص ہا مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہو۔

وَ اتَّخَذَ وَا مِنْ دُوْنِہِ الْاٰلٰهَۃَ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَّ هُمْ یُخْلَقُوْنَ وَّلَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِہِمُ  
صُرًا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا یَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَیْوَةً وَّلَا نَشُوْرًا ۝

**آیت نمبر ۲:** وَا اتَّخَذَ الْاٰلٰهَۃَ مَوْجُوْبًا مفعول بہ مبنی مقدم الْاٰلٰهَۃَ موصوف لَا یَخْلُقُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو عالیہ هُمْ ضمیر مبتدا یُخْلَقُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال با حال لَا یَخْلُقُوْنَ کا نازل شَیْئًا مفعول بہ، فعل ناقص ہا مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا یَمْلِكُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل تاکہ حرف جار اَنْفُسِہِمُ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے صُرًا معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا نَفْعًا معطوف، دونوں مل کر مفعول بہ، فعل ناقص ہا مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو



عاطفہ لَا یَتَلَبَّثُونَ فعل واو ضمیر فاعل مَوْثِقًا وَلَا حَبِیْبًا وَلَا نُشُوْرًا معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف بیانی، معطوف علیہ با معطوفین الہتہ کی صفت، موصوف ہفت اِتَّخَذُوا كَمَا مَفْعُولٌ اِذْل، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكٌ لِآفْتِنَاهُ وَاَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوْ

طَلْمًا وَّزُوْرًا ۝۵۳ وَقَالُوْا اَسْاطِرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْنٰلٌ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَّاَصِيْلًا ۝

**آیت نمبر ۵۳:** وَاوَاثِنَا یہ قول ہے کہ ان کو تو نے ہذا اسم اشدہ مبتدا الّا حرف استثناء فاک موصوف اِفْتَرٰی فعل ہو ضمیر مستتر فاعلہ ضمیر مفعول بہ بیٹوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَکَانَ فعل ہ ضمیر مفعول بہ، عَلَیْہِ جاد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، قَوْمٌ موصوف اَخْرُوْنَ اسم تفضیل ہُمہ مستتر فاعل بدووں مل کر صفت، موصوف ہفت فاعل، فعل بافاعل ومتعلق ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِفْکٌ کی صفت، موصوف ہفت مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، قائم عاطفہ قَدْ علامت فعل، جَاءُوا فاعل واو ضمیر فاعل طَلْمًا وَّزُوْرًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اِذْل، واو عاطفہ قَالُوْا فعل واو ضمیر فاعل بدووں مل کر قول اَسْاطِرُ الْاَوَّلِيْنَ مرکب اضافی اِذْل اِکْتَتَبَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ہَا ضمیر مفعول بہ بیٹوں مل کر حال، اِذْ اِلال باحال مبتدا محذوف ہی کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف بیانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف مستانہ ہوں

**فائدہ:** اِکْتَتَبَ سے پہلے حرف قَدْ محذوف ہے کیونکہ جب ماضی حال واقع ہوتی ہے تو اس پر قَدْ کا ہونا ضروری ہے خواہ لغو ظ ہو یا مقدر ہو۔

قائم عاطفہ یا تطبیہ ہی ضمیر مبتدا، تُمْنٰلٌ فعل مجہول ہی ضمیر مستتر نائب فاعل عَلَیْہِ جاد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، بُکْرَةٌ وَّاَصِيْلًا معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، فعل مجہول نائب فاعل ومتعلق ومفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ منطلہ ہوایا اِکْتَتَبَ بہ معطوف ہے۔

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

**آیت نمبر ۵۴:** قُلْ فعل امر اَنْزَلَ ضمیر مستتر فاعل بدووں مل کر جملہ اضافیہ قول، اَنْزَلَ فعل ہ ضمیر مفعول بہ مقدم الَّذِي نَامٍ موصول يَعْلَمُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل السِّرَّ مفعول بہ اِذْل یعنی حرف جاد السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد باجرور طرف مستتر کا رتبا کے متعلق ہو کر مفعول بہ بیانی، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اَنْزَلَ کا فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ اضافیہ ہو لہذا حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم عَفُوْرًا رَّحِيْمًا خبر، فعل ناقص ہَا ضمیر مفعول بہ خبر، اِنَّ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منطلہ ہوں۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ط لَوْ لَا أَنْزَلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ  
فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

**آیت نمبر ۷:** واؤ عطف قائلوا فعل باؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، مآسماً استفہام مبتدا لاکر حرف جار ہذا اسم اشارہ  
موصوف الرسول مفت، موصوف ہفت ذوالحال یأکل فعل ہو ضمیر مستتر فاعل الطعام مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ ذیہ معطوف  
علیہ، واؤ عطف یشی فعل ہو ضمیر مستتر فاعل فی الأسواق جار باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با  
معطوف حال، ذوالحال باحال باجر و در طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ پہلے  
قائلوا پر معطوف ہے۔ لولا حرف تخیل انزل فعل مجہول الیہ جار باجر و در متعلق ہوئے مَلَكٌ نائب فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ  
ہو۔ فاء برائے سبب یكون فعل ناقص ہو ضمیر مستتر ذوالحال نذیراً صیغہ مفت ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر حال، ذوالحال باحال اس  
کلام معاً مرکب اضافی کائناتاً کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہاسم و خبر مصدر کی تاویل میں ہو کر معطوف ہے، اور معطوف علیہ جملہ اولی  
سے حاصل ہونے والا مصدر ہے کیونکہ جملہ اولیٰ ہلاکان انزال ملک کی تاویل میں ہے۔

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كُرًا ۖ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ط وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا  
رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝

**آیت نمبر ۸:** او عطف یلقى فعل مجہول الیہ جار باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے، کڑا نائب فاعل، تینوں مل کر انزل پر معطوف ہے  
او عطف تكون فعل ناقص کہ جار باجر و در طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، جنة موصوف یأکل فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ومنها جار  
باجر و در متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، فعل ناقص ہاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ انزل پر معطوف  
ہے۔ واؤ عطف قال فعل الظالمون فاعل بدولوں مل کر قول بان حرف نئی تتبعون فعل واؤ ضمیر فاعل الاحرف استثناء رجلاً مسحوراً  
مرکب توصیفی مشتق مفرغ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ قائلوا پر معطوف ہے۔

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ۝

**آیت نمبر ۹:** انظر فعل امر انت ضمیر مستتر فاعل کيف کائناتین کا مفعول فیہ ہو کر ضروا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، ضروا  
فعل واؤ ضمیر فاعل لك جار باجر و در متعلق ہوئے الامثال مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، فاء عطف  
ضروا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر معطوف اول، فاء عطف لا يستطيعون فعل واؤ ضمیر فاعل سبيلاً مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف ثانی،  
معطوف علیہ با معطوفین ملاً منسوب انظر کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

﴿ رُكُوعٌ ۲ ﴾

تَبَرُّكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جُنَّتْ تَجْرِبِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ  
يَجْعَلُ لَكَ قَصُورًا ۝

**آیت نمبر ۱۰:** اَتَّبِعُوا لِمَنْ يُدْعِيَنَّكُمْ فَرِحَ ثَرْوَتُهُمْ فَلَمْ يُعْوِذُوا بِاللّٰهِ لَعَلَّ يُكْفَرُوْنَ  
 فاعل لک جاد باجور و طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر مفعول بہ یعنی مقدم و مخیر اسم تفصیل ہو ضمیر مستقر فاعل میں ذلک جاد باجور و متعلق ہوئے اسم تفصیل ہا فاعل و متعلق شہ جملہ ہو کر مبدل منہ جنت نام موصول تَجَوَّی فاعل میں حرف جاد تختہ ہا مرکب اضافی مجرور، جاد باجور و طرف لغو متعلق ہوئے، اَلَا تَهْتَفُوْنَ اَعْلٰی تینوں مل کر جنت کی صفت، موصوف بہ صفت بدل، مبدل منہ بادل مفعول بہ۔ اذل مؤخر، فاعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَجْعَلْ فاعل ہو ضمیر مستقر فاعل لک جاد باجور و طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر مفعول بہ، یعنی مقدم مَقْصُوْرًا مفعول بہ اذل، فاعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء صلہ، موصول ہا صلہ تَبَوُّوْا کا فاعل، فاعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَقَدْ اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝**

**آیت نمبر ۱۱:** بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَقَدْ اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝  
 تا ضمیر فاعل لام حرف جاد من نام موصول كَذَّبَ فاعل ہو ضمیر مستقر فاعل بِالسَّاعَةِ جاد باجور و متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جاد باجور و طرف متعلق ہوئے سَعِيْرًا مفعول بہ، فاعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال و ذوالحال باحال مجرور، جاد باجور و كَذَّبُوْا کے متعلق ہوئے، فاعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**اِذَا رَأٰتَهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَبَّحُوْا لَهُمْ تَغِيْثًا وَ زَفِيْرًا ۝ وَاِذَا اَلْقَوْا مِنْهَا مَكَانًا**

**صَبِيْرًا مَّقْرَبِيْنَ دَعَوْا هٰذَا لِكَ تَبُوْرًا ۝**

**آیت نمبر ۱۲، ۱۳:** اِذَا رَأٰتَهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَبَّحُوْا لَهُمْ تَغِيْثًا وَ زَفِيْرًا ۝  
 توصیفی مجرور، جاد باجور و طرف متعلق ہوئے، فاعل ہا فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، سَبَّحُوْا فاعل داؤ ضمیر فاعل لہا جاد باجور و متعلق ہوئے تَغِيْثًا وَ زَفِيْرًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فاعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول بہ مقدم اَلْقَوْا فاعل مجہول داؤ ضمیر نائب فاعل مِنْهَا جاد باجور و طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم مَكَانًا صَبِيْرًا مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ مَقْرَبِيْنَ ۝ اَلْقَوْا کی ضمیر نائب فاعل سے حال ہے، فاعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، دَعَوْا فاعل داؤ ضمیر فاعل هٰذَا لِكَ طرف مکان مفعول بہ تَبُوْرًا مفعول بہ، چادوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

**لَا تَدْعُوْا الْيَوْمَ تَبُوْرًا وَاِجْدًا وَاِذْعُوْا تَبُوْرًا كَيْبُوْرًا ۝**

**آیت نمبر ۱۴:** لَا تَدْعُوْا الْيَوْمَ تَبُوْرًا وَاِجْدًا وَاِذْعُوْا تَبُوْرًا كَيْبُوْرًا ۝  
 جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَذْعُوْا فاعل امر داؤ ضمیر فاعل تَبُوْرًا كَيْبُوْرًا مرکب توصیفی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قول محذوف تَقْوُلُ لَهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ کا مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ أَذِيكَ حَيُّوْا مَرْجُوْهُ الْخُلْدِ الَّذِي وَعَدَ الْمُتَّقُوْنَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيْرًا ۝

**آیت نمبر ۱۵:** قُلْ أَذِيكَ حَيُّوْا مَرْجُوْهُ الْخُلْدِ الَّذِي وَعَدَ الْمُتَّقُوْنَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيْرًا ۝  
تفضیل ہو ضمیر مستتر قائل و دونوں مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ انشائیہ مقولہ، امر عاطفہ جَزَاءً الْخُلْدِ مرکب اضافی موصوف الَّتِي موصوف الَّتِي موصول وَعَدَ فعل مجہول الْمُتَّقُوْنَ نائب قائل و دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت حَيُّوْا یہ معطوف ہے۔  
کانت فعل ناقص ہے ضمیر مستتر اسم لہم جہا بجز و طرف لغو جَزَاءً کے متعلق ہوئے، جَزَاءً وَ مَصِيْرًا معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ خُلْدِيْنَ ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ۝

**آیت نمبر ۱۶:** لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ خُلْدِيْنَ ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ۝  
قائل ہو مستتر قائل و متعلقین سے مل کر خبر مقدم ہا م موصول يَشَاءُوْنَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال خُلْدِيْنَ اسم فاعل ہُم ضمیر قائل و دونوں مل کر حال بذوالحال باحال قائل، فعل باقائل صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ کان فعل ناقص ہو ضمیر اس کلام علی حرف جہا رَبِّكَ مرکب اضافی خبر و طرف مستتر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم وَعْدًا مَّسْئُوْلًا مرکب توسیعی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال خبر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَيَوْمَ يَخْشَوْنَهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُوْنَ ءَا نُنۡمِ اَصۡلٰكُمۡ عِبَادِيْ  
هُوَ الَّذِيۡ اَمَرَ هُمْ۬مْ صَلُّوْا السَّبِيۡلَ ۝

**آیت نمبر ۱۷:** وَيَوْمَ يَخْشَوْنَهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُوْنَ ءَا نُنۡمِ اَصۡلٰكُمۡ عِبَادِيْ  
هُوَ الَّذِيۡ اَمَرَ هُمْ۬مْ صَلُّوْا السَّبِيۡلَ ۝  
قائل واؤ عاطفہ وَيَوْمَ مضاف يَخْشَوْنَ فعل ہو مستتر قائل ہُم ضمیر منصوب معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا م موصول يَعْبُدُوْنَ فعل واؤ ضمیر قائل ہ ضمیر مخدوف ذوالحال مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مرکب اضافی خبر و طرف مستتر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال معقول ہے، فعل باقائل و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَخْشَوْنَ کالمعقول ہے، فعل باقائل و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاعل عاطفہ يَقُوْلُوْنَ فعل ہو مستتر قائل و دونوں مل کر قول، ہمزہ حرف استفہام اَلَا تَرَ ضمیر مبتدا اَصۡلٰكُمۡ فعل ناقص ضمیر قائل عِبَادِيْ مرکب اضافی موصوف ہُوَ الَّذِيۡ اسم اشارہ صفت، موصوف با صفت معقول ہے، فعل باقائل و معقول بہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، امر عاطفہ ہُم ضمیر مبتدا، صَلُّوْا فعل واؤ ضمیر قائل السَّبِيۡلِ معقول ہے، تیوں مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف وَيَوْمَ کالمضاف الیہ، مرکب اضافی فعل مخدوف اَذِيۡكَ موصول فیہ، اَذِيۡكَ فعل امر آت مستتر قائل و معقول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ قُلْ یہ معطوف ہے۔

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُغَيِّبُنِيۡ لَكَ اَنْ تَتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاۡءَ وَ لٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ  
وَ اٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوْا الَّذِيۡ كُرِهٖۡ وَ كَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ۝



واو عاطفہ جعلنا فعل ناقصیر فاعل یتضحکم مرکب اضافی مفعول بہ اول، بل بعضی جہاں بحر و طرف مستقر کا تعلق کے متعلق ہو کر حال مقدم و فتنۃ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ما از سلنا پر معطوف ہے۔ ہذا حرف استفہام تصدیقوں فعل واو ضمیر ذوالحال، واو عالیہ کان فعل ناقص ربک مرکب اضافی اسم تصدیق اسبیتہ صفت ہو مستقر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص باس و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ

اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** واو عاطفہ یا ستانیہ قال فعل الذین اسم موصول لا یرجون فعل واو ضمیر فاعل لقاۃ تاکمب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لوقا حرف تخصیص غیر عامل اُنزل فعل مجہول علیتنا جہاں بحر و طرف لغو متعلق ہوئے المملکۃ نائب فاعل، فعل مجہول بہا تب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف لزی فعل مضارع نحن ضمیر مستقر فاعل ربنا مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستقر ہوں لاکر موطن القوم اور قسم محذوف ہے قذ علامت فعل استکبروا فعل واو ضمیر فاعل فی حرف جہاں انفسہم مرکب اضافی بحر و جہاں بحر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عتوا فعل واو ضمیر ظاہر فاعل، عتوا موصوف کبیرا اسبیتہ صفت ہو ضمیر مستقر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف باصفت مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم محذوف کا جواب ہے، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسیہ ہوا یوم یرکون المملکۃ لا یشئری یوم ینزل للمجرمین و یقولون حجرا محجورا ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۲:** یومہ مضاف یوزون فعل واو ضمیر فاعل المملکۃ ذوالحال، لانی جس یشئری مصدر یومین مرکب اضافی مفعول بہ، دونوں مل کر لاکر کلام للمجرمین جہاں بحر و طرف مستقر کا تعلق ہو کر خبر، لاکے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسبیتہ خبریہ قائلین محذوف کا مقولہ ہو کر المملکۃ کا حال ہے، ذوالحال باحال یوزون کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یقولون فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، حجرا متحجورا ماؤکد ہا تکیہ فعل محذوف حجرتا کا مفعول مطلق ہے، فعل مجہول بہا تب فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یومہ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل محذوف اذکو کا مفعول مطلق ہے، اذکو فعل امر انت ضمیر مستقر فاعل، فعل امر بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۳:** واو استیناء فی قدیمنا فعل ناقصیر فاعل الی حرف جہاں ما موصول عمیلوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، مین عمیل جہاں بحر و طرف مستقر کا تعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال بحر و جہاں بحر و طرف لغو قدیمنا کے

متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ معافہ جَعَلْنَا فعل ناقص خبریہ نازل کا ضمیر منصوب معطوف بہ اَوَّلَ هَبْنَاءَ موصوفہ مَنذُورِہ اسم معطوف ہو ضمیر مستتر نائب فاعل بدو نون ل کرشبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف بہ ثانی، فعل بافاعل و معطوفین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہوں۔

### أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

**آیت نمبر ۲۳:** أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مرکب اضافی مبتدأ یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی کا معطوف فیہ مقدم، خَيْرٌ اسم تفضیل ہُوَ ضمیر مستتر نازل مُسْتَقَرًّا تہیز اسم تفضیل اپنے فاعل اور تہیز و معطوف فیہ مقدم سے ل کرشبہ جملہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَحْسَنُ اسم تفضیل ہُوَ ضمیر مستتر نازل مَقِيلًا تہیز اسم تفضیل اپنے فاعل و تہیز شبہ جملہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**سوال:** أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مبتدأ صح ہے اور خبر خَيْرٌ اور أَحْسَنُ مفرد ہے حالانکہ افزاء، تشبیہ اور جمع کے اعتبار مبتدأ اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری ہے؟

**جواب:** جب اسم تفضیل میں کے ساتھ مستعمل ہو تو یہ ہمیشہ واحد آتا ہے اس کا مبتدأ اور موصوف جو بھی ہو اور یہاں بھی خَيْرٌ اور أَحْسَنُ میں کے ساتھ مستعمل ہے اس لئے کہ یہ اصل میں خَيْرٌ مِنَ الْكَافِرِينَ وَأَحْسَنُ مِنَ الْكَافِرِينَ ہے اس لئے اسم تفضیل مفرد لایا گیا ہے۔

### وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۝

**آیت نمبر ۲۵:** واو استینا فیہ یَوْمَ مضاف تَشْقُقُ فعل السَّمَاءُ ذوالحال بال غَمَامِ جار مجرور ظرف مستقر مُتَكَبِّرَةً کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تُزَلُّ فعل مجہول الْمَلَائِكَةُ نائب فاعل تَنْزِيلًا معطوف مطلق، فعل مجہول نائب فاعل و معطوف مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَوْمَ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اذْكَرُ کا معطوف فیہ ہے، اذْكَرُ فعل امر آتت ضمیر مستتر فاعل، فعل امر اپنے فاعل و معطوف فیہ سے ل کر جملہ انشائیہ امریہ اذْكَرُ یَوْمَ یَزُونَ بہ معطوف ہے یا جملہ مستانہ ہے۔

### الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝

**آیت نمبر ۲۶:** الْمَلِكُ مصدر یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی معطوف فیہ بدو نون ل کر موصوف الْحَقُّ صفت، موصوف ہفت مبتدأ، لِلرَّحْمَنِ جار مجرور ظرف مستقر کافِرِينَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَانَ فعل ناقص ہُوَ ضمیر مستتر اس کا اسم یَوْمًا موصوف عَلَى الْكَافِرِينَ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَسِيرًا صیغہ صفت ہُوَ ضمیر مستتر نازل، صیغہ صفت بافاعل و متعلق مقدم یَوْمًا کی صفت، موصوف ہفت خبر، فعل ناقص بِالْأَسْمَاءِ خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہوں۔

### وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ صَعَ الرَّسُولِ سِدِيلًا ۝

**آیت نمبر ۲۷:** واو عاقلہ یَوْمَ مَضَىٰ لِقَاصُ فِعْلِ الْقَائِلِ مُتَعَلِّقٌ عَلَى حَرْفِ جَاهِدَ يَكْتَبُ فِيهِ اِصْلٌ مِمَّنْ يَكْتُبُونَ، پھر مرکب اضافی مجرور، جہاد باجمر و ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل مخدوف اذْکُرُوْا کا مفعول فیہ ہے، یَقُوْلُوْنَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول بیجاہ حرف نہاد برائے تنجیہ بلیت حرف تمہنی نون برائے وقایہ کیاہ ضمیر منصوب اس کا اسم اَتَّخَذْتُ فعل قائم منصوبہ ضمیر متصل قائل صَاحِبِ الرَّسُوْلِیٰ مرکب اضافی کا کئیٹا کا مفعول فیہ ہو کر مفعول یہ جانی مقدم، سہیل کا مفعول بہ اول مؤخر، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف تمہنی اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول ہا مقولہ القائل کا حال ہے۔

**يُوَيَّلْتِي كَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فَلَا تَا حَلِيْلًا ۝**

**آیت نمبر ۲۸:** بیجاہ حرف نہاد اذْخُوْا کے قائم مقام، اذْخُوْا فعل انا ضمیر مستتر قائل و یَلْتِي فِيهِ اِصْلٌ مِمَّنْ يَلْتَقِي فِيهِ يَآءُ کے عوض الف لائی گئی ہے یہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نہاد، بلیت حرف تمہنی نون برائے وقایہ کیاہ ضمیر منصوب اس کا اسم اَلَمْ اَتَّخِذْ فعل انا ضمیر مستتر قائل فَلَا تَا مفعول بہ اول، حَلِيْلًا مفعول بہ ثانی، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف تمہنی ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ تمنیہ نہاد ہا جواب، نہاد ہا جواب جملہ انشائیہ نہاد یہ ہوں۔

**لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي وَوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ حَدُوْلًا ۝**

**آیت نمبر ۲۹:** لاہر موطن اللہ اسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل، اَضَلَّ فعل ہو ضمیر مستتر قائل نون برائے وقایہ کیاہ ضمیر منصوب مفعول بہ، عَنِ الذِّكْرِ جہاد باجمر و ظرف لغو متعلق ہوئے بَعْدَ ظرف زمان مضاف اذْ ظرف زمان مضاف جَاءَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل نون برائے وقایہ کیاہ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ اذ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی بَعْدَ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی اَضَلَّ کا مفعول فیہ ہے، فعل ہا قائل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم ہا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ واو استینا فیہ کان فعل ناقص الشَّيْطٰنُ اس کا اسم لِلْاِنْسٰنِ جہاد باجمر و ظرف مستقر کا کئیٹا کے متعلق ہو کر حال مقدم حَذُوْلًا و ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ لِلْاِنْسٰنِ "حَذُوْلًا کے متعلق مقدم ہوں۔

**وَ قَالَ الرَّسُوْلُ يُرِيْبُ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا ۝**

**آیت نمبر ۳۰:** واو استینا فیہ قَالَ فعل الرَّسُوْلُ قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول بیجاہ حرف نہاد اذْخُوْا کے قائم مقام، اذْخُوْا فعل انا ضمیر مستتر قائل رِبُّ ہے اصل میں کیا ترقی ہے اور یہ مثالی مضاف منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نہاد، اِنَّ حرف تحقیق قَوْمِيٰ مرکب اضافی منصوب تقدیر اس کا اسم اَتَّخَذُوْا فعل واو ضمیر قائل هٰذَا اسم اشارہ موصوف پاسدل منہ یاسمین، الْقُرْآنُ مفت یا مل یا عطف بیان، موصوف ہفت مفعول بہ اول مَهْجُوْرًا اسم مفعول ہو مستتر نائب قائل، دونوں مل کر مفعول یہ جانی، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نہاد ہا جواب، نہاد ہا جواب نہاد مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہوں۔



وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٢٥﴾

**آیت نمبر ۳۱:** واوستینا فی کذلک جہد باجر در طرف مستقر کا کینا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جھلا کے مفعول مطلق مقدم جھلتا فعل تا ضمیر قائل لہ حرف جہد کینا نبی مرکب اضافی مجرور، جہد باجر در طرف مستقر کا کینا کے متعلق ہو کر مفعول بہ مانی مقدم، عدو موصوف من المجرمین جہد باجر در طرف مستقر کا کینا کے متعلق ہو کر مفعول بہ اول مؤخر، فعل ہاتھل و مغامیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ مستقر ہو سو واوستینا فی کفی فعل ہاتھل جہد کینا مرکب اضافی لفظا مجرور و عملا مرفوع قائل ہادی یا و نصیرا معطوف علیہ ہ معطوف تیز، فعل ہاتھل و تیز جملہ فعلیہ خبریہ مستقر ہو۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٢٦﴾

**آیت نمبر ۳۲:** واوستینا فی کاف فعل الذین اسم موصول کفروا فعل واو ضمیر قائل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاتھل قائل، فعل ہاتھل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لولا حرف تخصیص غیر عامل نزل فعل مجہول علیہ جہد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے القرآن نائب قائل جملہ واحده مرکب تصنیفی القرآن کا حال ہے یا فعل کی نسبت سے تیز ہے، فعل مجہول ہاتھل قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول ہاتھل قال الذین لای یزجون ہ معطوف ہے یا جملہ مستقر ہے

کذلک جہد باجر در متعلق ہوئے فعل مقدر نزلنا القرآن کے، لہ حرف جہد برائے تلیل اور اس کے بعد ان مقدسہ، لکنیت فعل تھن ضمیر مستقر قائل پہ جہد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے فوادک مرکب اضافی مفعول بہ، فعل ہاتھل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جہد باجر در نزلنا مقدر کے متعلق مانی ہوئے نزلنا فعل ہاتھل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاقلہ و کلتنا فعل تا ضمیر قائل مرفوع متصل قائل ہ ضمیر منصوب مفعول بہ تترتیل مفعول مطلق، فعل ہاتھل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہ معطوف جملہ مستقر ہو۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٢٧﴾

**آیت نمبر ۳۳:** واوستینا فی لای آتئون فعل واو ضمیر قائل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، بے مثال جہد باجر در طرف لغو متعلق ہوئے الا حرف استثناء جھلتا فعل تا ضمیر قائل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، ہاتھل جہد الحق معطوف علیہ، واو عاقلہ احسن اسم تفصیل ہو مستقر قائل تفسیر تیز تیزوں مل کر معطوف دونوں مل کر مجرور، جہد باجر در طرف متعلق ہوئے، فعل ہاتھل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستثنی مفرغ عملا مجرور، اور اس کا مستثنیٰ منہ محذوف ہے، فی حال قین الاحوال، مستثنیٰ منہ ہ مستثنیٰ متعلق مانی ہوئے، فعل ہاتھل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مستقر ہو۔

الَّذِينَ يُخَشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ سُورًا مَكَانًا وَّاصِلًا سَبِيلًا ﴿٢٨﴾

**آیت نمبر ۳۴:** الذین اسم موصول یخشرون فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل علی و جھوہم جہد باجر در طرف مستقر مانی ہیں

کے متعلق ہو کر نائب قائل سے حال ہے، اِنی جَہَنَّمَ جہاں بجز اور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ اولیٰ لِقَلْبِکُمْ اسم اشارہ مبتدأ مشرک اسم تفصیل اس لئے کہ یہ اصل میں اَشْرُف ہے ھُوْ ضمیر مستتر قائل مکتاناً تیز، تینوں مل کر معطوف علیہ، او واو عاطف اَحْمَلُ اسم تفصیل ھُوْ ضمیر مستتر قائل سینگیلاً تیز، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَلَّذِیْنَ یُحْشَرُوْنَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿ ۳ ﴾ رکوع نمبر ۳

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ وَ جَعَلْنَا مَعَهَا اٰخَاہُ هٰرُوْنَ وَ زَیْرًا ۙ فَلَمَّا اَذْهَبَّا اِلٰی الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا ۙ اَفَدَمَرْنٰهُمْ کَذْمًا ۙ

**آیت نمبر ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸** و او اتینا فی لاکر موطن القوم اور قسم مذروف ہے قد علامت فعل، اٰتینا فعل نا ضمیر قائل موسیٰ مفعول بہ اول، الکتب مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او واو عاطف جَعَلْنَا فعل نا ضمیر قائل مَعَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ، اَخَاہُ مرکب اضافی مبدل منہ، یا تین، ھَرُوْنٌ بول یا عطف بیان، مبدل منہ بادل مفعول بہ اول، زَیْرًا مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مناسبت جملہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطف فَلَمَّا فعل نا ضمیر قائل دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِذْهَبْنَا فعل امر الف ضمیر قائل اِنی حرف جہاں الْقَوْمِ موصول الَّذِیْنَ اسم موصول کَذَّبُوْا فعل نا ضمیر قائل بآہ حرف جہاں اٰتینا مرکب اضافی مجرد، جہاں بجز اور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مجرد، جہاں بجز اور طرف لغو اَذْهَبْنَا کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین قسم مذروف کا جواب، قسم باجواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ فاء عاطف اور معطوف علیہ مذروف ہے اصل عبارت ہے ذَهَبْنَا اِلَیْھُمْ فَدَمَرْنٰھُمْ اِلٰی الْاِیْمَانِ فَکَذَّبُوْھُمْ، دَمَرْنَا فعل نا ضمیر قائل ھُوْ ضمیر منصوب مفعول بہ، اِنَّذْمًا مفعول مطلق، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ محذوف یا معطوف جملہ متاخر ہوں۔

وَ قَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا کَذَّبُوْا الرُّسُلَ ۙ اَعْرَفْنٰھُمْ وَ جَعَلْنٰھُمْ لِلنَّاسِ اٰیۃً ۙ وَ اَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِیْنَ عَذَابًا اَلِیْمًا ۙ

**آیت نمبر ۳۷** : او واو عاطف قَوْمَ نُوْحٍ مرکب اضافی مفعول بہ فعل محذوف اَذْكُرُ کا، اَذْكُرُ فعل امر آتت ضمیر مستتر قائل لَمَّا شرطیہ، لَمَّا فی مقدم کَذَّبُوْا فعل نا ضمیر قائل الرُّسُلِ مفعول بہ، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطاً اَعْرَفْنَا فعل نا ضمیر قائل ھُوْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او واو عاطف جَعَلْنَا فعل نا ضمیر قائل ھُوْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، لِلنَّاسِ جہاں بجز اور طرف لغو متعلق ہوئے، یا کا اٰیۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم، اٰیۃ مفعول بہ ثانی، یا ذوالحال موخر، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، او واو عاطف اَعْتَدْنَا فعل نا ضمیر قائل، لِلظَّٰلِمِیْنَ جہاں بجز اور طرف لغو متعلق ہوئے عَذَابًا اَلِیْمًا مرکب موصول مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین جزاء، شرطاً باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

## وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝

**آیت نمبر ۳۸:** واو عاطفہ عَادًا معطوف علیہ واو عاطفہ تُمُودًا معطوف اذل، واو عاطفہ أَصْحَابَ الرَّسِّ مرکب اضافی معطوف علیہ واو عاطفہ قُرُونًا موصوف بَیْنَ ذَلِكَ مرکب اضافی کا مفعول فیہ ہو کر مفت اولیٰ، کَثِيرًا مینہ مفت ہیج ضمیر مستتر قائل سے مل کر مفت ثانیہ، موصوف باصْخَبِینَ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مفعول بہ۔ فعل مَحْدُوفٌ أَهْلَكْنَا کایا فعل مَحْدُوفٌ أَذْکُرُکَا، أَذْکُرُکَا فعل امر آتے ضمیر مستتر قائل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امر یہ ہوں۔

## وَكَلَّا ضَمَّرْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۝

**آیت نمبر ۳۹:** واو عاطفہ كَلَّا مفعول بہ ہے فعل مَحْدُوفٌ أَذْکُرُکَا کَا، أَذْکُرُکَا فعل کا ضمیر قائل، فعل بافاعل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ ضَمَّرْنَا لَهُ فعل کا ضمیر قائل کہہ جاہر و مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الْأَمْثَالَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقبّرہ ہوں۔ واو عاطفہ كَلَّا مفعول بہ مقدم تَبَّرْنَا فعل کا ضمیر قائل تَتْبِيرًا مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

## وَلَقَدْ آتَوْا عَلَىٰ الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا ۚ أَقَلَّمْ يَكُونُوا يَبْرُونَ ۚ وَهِيَ بَلَدٌ كَانُوا

### لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ۝

**آیت نمبر ۴۰:** واو استینا فی لآہر موطن القسم اور قسم مَحْدُوفٌ ہے قَدْ، علامت فعل آتَوْا فعل واو ضمیر قائل عَلَيَّ حرف جاہل الْقَرْيَةِ موصوف الَّتِي اسم موصول أَمْطَرْنَا فعل مجہول ہیج ضمیر مستتر نائب فاعل مَطَرًا سَوِيًّا مرکب اضافی مفعول مطلق من غیر باب، فعل مجہول بہا باب فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْقَرْيَةِ کی صفت، موصوف باصفت مجرور، جاہر باجرور ظرف لغو آتَوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم مَحْدُوفٌ کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ متانہ ہوں۔ هَمَزَةٌ حرف استہمام قَاء عاطفہ اور معطوف علیہ مَحْدُوفٌ ہے لَمْ يَكُونُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا (روح المعانی) لَمْ يَكُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم بَيْرُونَ فعل مضارع واو ضمیر اس کا فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ مَحْدُوفٌ با معطوف جملہ انشائیہ متانہ ہوں۔ بَلَدٌ كَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، لَا يَرْجُونَ فعل واو ضمیر قائل نَشُورًا مفعول بہ، ہیئوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

## وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝

**آیت نمبر ۴۱:** واو استینا فی اذّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم رَأَوْكَ فعل ناقص واو ضمیر قائل کَانَ ضمیر منصوب مفعول بہ، پلہوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط بان حرف نفی يَتَّخِذُونَ فعل ناقص واو ضمیر قائل کَانَ ضمیر منصوب مفعول بہ اذل، بِالْآحْرَفِ استثناء هُوَ وَمَا سَمِعْتُمْ مَفْرَعٌ مفعول بہ، ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانہ ہوں۔ هَمَزَةٌ حرف استہمام هَذَا اسم استثناء مبتداء، الَّذِي اسم موصول بَعَثَ فعل کا ضمیر منصوب مَحْدُوفٌ ذوالحال ہُوَ رَسُولًا بمعنی مُرْسَلًا حال بذوالحال باحال مفعول بہ اَللَّهُ اسم الجلالہ قائل،

فصل ہا قاع و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یَقُولُونَ محذوف کا مقولہ، قول ہا مقول جملہ متاخر ہوا، یَلْتَمِذُونَ کی ضمیر قاع سے حال ہے۔

**إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْدَتَا لَوْ لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۗ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۝**

**آیت نمبر ۳۲:** اِنْ كَادَ مِنْ الْمُضْعَفِ ضمیر شان محذوف اس کا اسم اصل مَثَلَانَهُ ہے کادَ فعل متقارب ہو ضمیر مستتر اس کا اسم کادَ فاعل تَرْتِيضُ لُفْظِ هُوَ ضمیر مستتر قاع کا ضمیر مفعول بہ، عَن حرف جَدَالِ هَيْدَتَا مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور ظرف لُفْظِ متعلق ہوئے، فصل ہا قاع و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فصل متقارب ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ اِنْ كَادَ کی خبر، اِنْ كَادَ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لَوْ لَا حرف امتناع اَنْ مصدر یہ صَبَرْنَا قاع کا ضمیر قاع عَلَيَّهَا جاد با مجرور ظرف لُفْظِ متعلق ہوئے، فصل ہا قاع و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتا و یل مصدر مبتدأ اور خبر محذوف ہے ہو جَوْدُ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے لَاحِظْنَا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ وَاِذَا اسْتَبَانَا فَيَسُوْفَ عَلَامَاتِ لُفْظِ يَسُوْفَ عَلَامَاتِ لُفْظِ هُوَ ضمیر قاع حِينَ مضاف يَسُوْفَ يَكُوْنُونَ لُفْظِ هُوَ ضمیر قاع الْعَذَابِ مفعول بہ، تَبَيَّنَ لُفْظِ كَرِجْلِهِ فَخَرِيَةٍ مُلَاجِرٍ مضاف الیہ مجرور مضاف الیہ مَجْرُوكِ مضاف انشائیہ يَكُوْنُونَ کا مفعول فیہ ہے، مَن اسم استفہام مبتدأ، أَضَلَّ اسم تفضیل ہُوَ ضمیر مستتر اس کا قاع سَبِيْلًا تَبَيْرًا اسم تفضیل ہا قاع و تَمِيْرًا خبر جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ يَكُوْنُونَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فصل ہا قاع و مفعولین و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

**أَرَاهِيْتِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَهُ ۗ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۝**

**آیت نمبر ۳۳:** أَرَاهِيْتِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ فِي الْأَعْيَادِ لُفْظِ مَنِ اتَّخَذَ ضمیر مستتر قاع نون برائے و قایہ یاء ضمیر منسوب مفعول بہ اِذِلْ، مَنِ اسم موصول اتَّخَذَ لُفْظِ هُوَ ضمیر مستتر قاع إِلَهَهُ مرکب اضافی مفعول بہ اِذِلْ، هُوَهُ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فصل ہا قاع و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ اِخْتِيَادِ کا مفعول بہ ثانی، فصل ہا قاع و مفعولین لُفْظِ جملہ انشائیہ استفہامیہ اور معنی انشائیہ امریہ ہوا۔ هُوَهُ حرف استفہام قائم استثنائی (روح المعانی) اَنْتَ ضمیر منفصل مبتدأ، تَكُوْنُ لُفْظِ نَا قاع ضمیر مستتر اس کا اسم عَلَيَّهِ جاد با مجرور ظرف لُفْظِ متعلق مقدم ہوئے ہو کَيْلًا صیغہ صفت اَنْتَ ضمیر مستتر قاع، صیغہ صفت ہا قاع و متعلق مقدم خبر، فصل نَا قاع ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متاخر ہوا۔

**أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ ۗ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ**

**سَبِيْلًا ۝**

**آیت نمبر ۳۴:** أَمْ تَحْسَبُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ فِي الْأَعْيَادِ لُفْظِ مَنِ اتَّخَذَ ضمیر مستتر قاع اَنْتَ ضمیر مستتر قاع اَنْتَ حَقِيْقًا أَكْثَرُهُمْ مرکب اضافی اَنْتَ کا اسم يَسْمَعُونَ لُفْظِ هُوَ ضمیر قاع، فصل ہا قاع جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عَاطِفٌ يَتَقَلَّبُونَ لُفْظِ هُوَ ضمیر قاع، ہود و نون لُفْظِ مَعْطُوفٌ، معطوف علیہ ہا معطوف خبر، اَنْتَ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتا و یل مصدر تَحْسَبُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فصل ہا قاع و مفعولین لُفْظِ

جملہ انشائیہ، معنی جملہ خبریہ ہوں۔ ان حرف لئی ہُمُ ضمیر منفصل مبتدأ، اَلَا حرف استنکار کاف حرف جہا لآ تَعْمَارُ مجرور، جہا با مجرور ظرف مستقر کَايَوْمَ کے متعلق ہو کر مستثنیٰ مفرغ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، بِئِنَّ حرف عطف ہُمُ ضمیر مبتدأ، اَصْلُ اسْم تفصیل ہُمُ ضمیر مستتر قائل سَبِيْلًا تَمِيْز، تَمِيْزوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستافر ہوں۔

●●● رکوع نمبر ۵ ●●●

اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۙ

آیت نمبر ۳۵: ہمزہ حرف استفہام اَلَمْ تَرَ فعل اَنْتَ ضمیر مستتر قائل الی حرف جار، رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جہا با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، کَيْفَ ظرف زمان کَايَوْمَ کا مفعول فیہ ہو کر الظِّلَّ کا حال مقدم، مَدَّ فعل ہو ضمیر مستتر قائل، الظِّلَّ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔ او او استراسیہ یا عالیہ لَوْ حرف شرط ہَاءُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل، دو فوں مل کر شرط، لَا ھر جوابیہ جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل، ضمیر مفعول بہ اَوَّل، سَاكِنًا مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء، جملہ شرطیہ مترضہ ہوا، یا رَبِّكَ سے حال ہے۔ ثُمَّ عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر قائل الشَّمْسُ مفعول بہ اَوَّل، عَلَيْہِ جہا با مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے دَلِيْلًا صیغہ مفت ہو ضمیر مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَدَّ الظِّلَّ پر معطوف ہے۔

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِنِّنَا قَبْضًا يَسِيْرًا ۙ

آیت نمبر ۳۶: ثُمَّ عاطفہ قَبَضْنَا فعل نا ضمیر قائل، ضمیر مفعول بہ اَوَّل، اِنِّنَا جہا با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے قَبْضًا موصوف یَسِيْرًا صیغہ مفت ہو ضمیر مستتر قائل، دو فوں مل کر صفت، موصوف ہفت مفعول مطلق، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَدَّ الظِّلَّ پر معطوف ہے۔

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ لِبَاسًا وَ النَّوْمَ سُبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۙ وَ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا ۙ

آیت نمبر ۳۷، ۳۸، ۳۹: او او استتیا فیہ ہو ضمیر مبتدأ، الَّذِي اسم موصول جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل لَكُمُ جہا با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے الْيَوْمَ مفعول بہ اَوَّل، لِبَاسًا مفعول بہ ثانی، او او عاطفہ النَّوْمَ سُبَاتًا بواسطہ عطف جَعَلَ کے دو مفعول بہ، جَعَلَ فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفہ جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل النَّهَارَ مفعول بہ اَوَّل، نُشُوْرًا مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ ہو کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ، الَّذِي اسم موصول اَرْسَلَ فعل اَلْبُشْرُ ذوالحال بُشْرًا ذوالحال باحال مفعول بہ، بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفہ اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر قائل مِنَ السَّمَاءِ جہا با مجرور طرف لغو

متعلق ہوئے، مَاءً ظَهْرًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہا صلہ ہوگی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متناہیہ ہو۔

لِنُجِّيٰ بِهٖ بَلَدًا مَّيْمَنًا وَ نُسُقِيْهٖ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّ اَنْاسٍ كَثِيْرًا ﴿۳۹﴾

**آیت نمبر ۳۹:** لآہر حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان نامہ، مقدر ہے نُجِّيٰ، فعل تَخْنُ ضمیر مستتر فاعل پہ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، بَلَدًا مَّيْمَنًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفُ شُسُقِیْجِ فعل تَخْنُ ضمیر مستتر فاعل ضمیر منسوب مفعول بہ اول، مین حرف جار موصولہ خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ جبرور، جار باجرور ظرف مستقر کَاثِرًا کے متعلق ہو کر حال مقدم، اَنْعَامًا معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفُ اَنْاسِیْ کَثِيْرًا مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال موزوں ذوالحال باحال شُسُقِیْجِ کا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف، بتاویل مصدر جبرور، جار باجرور ظرف لغو اَنْوَلْنَا کے متعلق ہوئے۔

**سوال:** بَلَدًا مَّيْمَنًا موصوفہ مؤنث ہے تو اس کی صفت مَّيْمَنًا مذکر کیوں ہے؟

**جواب:** بَلَدًا مَّيْمَنًا کی تاویل میں ہونے کی وجہ سے مذکر ہے اس لئے اس کی صفت مذکر لائی گئی ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا وَاِذْ قَالُوْا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۵۰﴾

**آیت نمبر ۵۰:** وَاَوْ اِسْتِزْنٰیہ لآہر موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ خلاصت فعل، صَرَّفْنَاهُ فعل نا ضمیر فاعل ضمیر منسوب مفعول بہ، بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، لآہر حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَذَّكَّرُوْا وَاَوْ اِسْتِزْنٰیہ لآہر ضمیر فاعل، دونوں مل کر بتاویل مصدر ہو کر جبرور، جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قَاءَ عَاطِفَةُ اَبِيْ فعل اَكْثَرُ النَّاسِ مرکب اضافی فاعل اَلْاَحْرَفِ اسْتِزْنٰی مَفْرُغٌ ہو کر مفعول بہ، فعل بافاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم محذوف کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ متناہیہ ہو۔

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ لَّذِيْرًا ﴿۵۱﴾

**آیت نمبر ۵۱:** وَاَوْ عَاطِفَةُ لَوْ حرف شرط شِئْنَا فعل نا ضمیر فاعل اور مفعول بہ محذوف ہے بَعَثَ الرَّسُوْلُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط لآہر جوابیہ بَعَثْنَا فعل نا ضمیر فاعل، حرف جار كُلِّ قَرْيَةٍ مرکب اضافی جبرور، جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، لَّذِيْرًا بواسطہ موصوفہ محذوف لَّذِيْرًا کے مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ہو۔

فَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿۵۲﴾

**آیت نمبر ۵۲:** قَاءَ نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ يٰۤاِنْ اَوْ سَلَّمْنَاكَ اِلَى النَّاسِ كَاقْفَةٍ، لَا تَطْعَمُ فعل نہی اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل الْكُفْرِيْنَ مفعول بہ، مینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، وَاَوْ عَاطِفَةُ جَاهِدْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل هُمْ

ضمیر منصوب مفعول بہ پہلے جار مجرور متعلق ہوئے جہاں ادا کی پیروی امر کب تو صیغی مفعول مطلق، فعل باقاعل و متعلق مفعولین جملہ اضافیہ امر یہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط معطوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَوْاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿۵۳﴾

**آیت نمبر ۵۳:** واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ الَّذِي اسم موصول مَرَجَ فعل ہو ضمیر مستتر قاعل الْبَحْرَيْنِ موصوف کیونکہ اس پر داخل ہونے والا الف لامر عہد ذہنی کا ہے اور یہ کمرہ کے حکم میں ہے لہذا اسم اشارہ مبتدأ عَذْبٌ فَوْاتٌ مرکب تو صیغی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لہذا اسم اشارہ مبتدأ مِلْحٌ أُجَاجٌ مرکب تو صیغی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال بذوالحال باقاعل مَرَجَ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف، معطوف علیہ با معطوف قاعل بَيْنَهُمَا امر کب اضافی مفعول فی، بَرْزَخًا وَ حِجْرًا مَّحْجُورًا امر کب تاکیدی موصوف بہ صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ ہو کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو الَّذِي اُرْسِلَ بہ معطوف ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا ۚ وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۵۴﴾

**آیت نمبر ۵۴:** واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر قاعل مِنَ الْمَاءِ جار مجرور متعلق ہوئے بَشَرًا مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر قاعل ضمیر مفعول اول، نَسَبًا وَ صِهْرًا معطوف علیہ با معطوف بواسطہ مضاف معطوف ذکا کا مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ ہو کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو الَّذِي مَرَجَ بہ معطوف ہے۔ واو عالیہ باعاطفہ کان فعل ناقص رَبُّكَ مرکب اضافی اس کا اسم قَدِيرًا صیغہ صفت ہو مستتر قاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خَلَقَ کی ضمیر قاعل سے حال ہے۔ یا ہو الَّذِي خَلَقَ بہ معطوف ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَ كَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿۵۵﴾

**آیت نمبر ۵۵:** واو استینا فیہ یَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر قاعل مِنْ دُونِ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور و حرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، ماسم موصول لَا يَنْفَعُهُمْ فعل ہو ضمیر مستتر قاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَضُرُّهُمْ فعل ہو ضمیر مستتر قاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ ذوالحال او موزن ذوالحال یَعْبُدُونَ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں واو استینا تیہ کان فعل ناقص الْكَافِرُ اس کا اسم عَلَى حرف جار رَبِّهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ظَهِيرًا صیغہ صفت ہو مستتر قاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

### وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۵۶﴾

**آیت نمبر ۵۶:** واو استینا فی مآثانیہ اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، اَلْاَ حَرْفِ اسْتِثْنَاءٍ مُّبَشِّرًا وَنَذِيرًا معطوف علیہ بالمفعول مستثنیٰ منفرغ حال ہے عموم احوال سے اور یہ اصل میں فی حالِ حَیْنِ الْاَاحْوَالِ اَلْاَ مُّبَشِّرًا ہے، جارِ باجور و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہوں۔

### قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۵۷﴾

**آیت نمبر ۵۷:** قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، مآثانیہ اسْأَلُ فعل اَنَا مستتر فاعل اَنْتَ ضمیر مفعول بہ اَوَّل، عَلَيْهِ جارِ باجور و کَلَامَتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم، وَ مِنْ حَرْفِ جَارِ زَلَّةٍ اَجْرٍ لِقَطَاعِ بَجْرٍ مَعْمَا منصوب ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ موقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ اَلْاَ حَرْفِ اسْتِثْنَاءٍ بِمَعْنَى لَيْكِنْ "مَنْ" اسم موصول شَاءَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل اَنْ حَرْفِ مَصْدَرِي وَ نَصْبِ يَتَّخِذُ فعل ہو مستتر فاعل اِنِّی حَرْفِ جَارِ يَتَّخِذُ مَرْكَبِ اَضَائِي بَجْرٍ وَ جارِ باجور و ظرف مستقر کَلَامَتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم، سَبِيلًا ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ، بِنَا و ایل مصدر شَاءَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ متضمن معنی شرط مبتدأ اور خبر اور جر اور جملہ مخدوف ہے فَلْيَفْعَلْ، شرط باجرارہ جملہ شرطیہ ہوں۔

### وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ط وَكُفِّي بِهِ يَدْنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ﴿۵۸﴾

**آیت نمبر ۵۸:** واو استینا فی تَوَكَّلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل عَلٰی حَرْفِ جَارِ الْحَيِّ موصول الذی اسم موصول لَا يَمُوتُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول ہاسلہ صفت، موصوف ہفت بجرور، جارِ باجور و ظرف لَتَوَكَّلْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سَبِّحْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر ذوالحال بَاءَ حَرْفِ جَارِ حَمْدِهِ مَرْكَبِ اَضَائِي بَجْرٍ وَ جارِ باجور و ظرف مستقر مَتَكَلِّمًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال سَبِّحْ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ متناظر ہوں۔ واو استینا فی كُفِّي فعل بَاءَ جَارِ زَلَّةٍ هُ ضمیر مَعْلَمٌ مَرْفُوعٌ فاعل بَاءَ حَرْفِ جَارِ يَدْنُوبَ عِبَادِهِ مَرْكَبِ اَضَائِي بَجْرٍ وَ جارِ باجور و متعلق مقدم ہوئے، خَيْرًا مَبْنِيَةٌ صِفَتٌ هُوَ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر كُفِّي کے فاعل سے حال ہے، یا فعل کی نسبت سے تمیز ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہوں اور یا الْحَيِّ سے حال ہے (مظہری)

### الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ عَلَيْهِ خَيْرًا ﴿۵۹﴾

**آیت نمبر ۵۹:** اَلَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل السَّمَوَاتِ منصوب بالکسره معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلْاَرْضِ معطوف اَوَّل، واو عاطفہ مَا اسم موصول بَيْنَهُمَا مَرْكَبِ اَضَائِي فعل مخدوف كَسَبَتْ کا مفعول بہ، ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوف خَلَقَ کا مفعول بہ، فی حَرْفِ جَارِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مَرْكَبِ اَضَائِي بَجْرٍ وَ جارِ باجور و ظرف لَتَوَكَّلْ کے متعلق ہوئے، فعل



باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ رَاسْتَوَى لَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ عَلَى الْعَرَبِ جَدٌ بِحَرْفٍ وَ طَرَفٌ لَعْلٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لَعْلٌ بِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَعطوفٌ مَعطوفٌ عَلَيَّ بِمَعطوفٍ صَلَ، موصولٌ بِصَلَّةٍ مُبْتَدَأٌ الْخُحْنُ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ اَوْ اَلْخُحْنُ كُنْ كُنْ تَرْكِيْبٌ مِمَّنْ وَ اِغْمَاطٌ اَنْظُرُوا فِي التَّفْسِيْرِ اَلْمُتَّظِهَرِي، فَاَعَّ فَعِيَّةٌ اِدْرَاسٌ كِي شَرْطٌ مَحذُوفٌ هُوَ (رُوحُ الْعَالِي) اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كُنْ لِكَمْ، يَاشَرْطُ مَحذُوفٌ اِنْ شِئْتُمْ تَفْصِيْلٌ مَا ذَا كَيْ هُوَ، اِسْتَقْلٌ لَعْلٌ اَمْرٌ اَنْتَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ بِه جَدٌ بِحَرْفٍ وَ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ هُوَ خَبْرٌ مَعطوفٌ بِه، لَعْلٌ بِقَاعِلٍ وَ مفعولٌ بِه جَمَلٌ اِنشَائِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ مَحذُوفٌ بِجَزَاءٍ جَمَلٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اسْجُدْوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا الرَّحْمٰنُ اَلَا نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٢٥﴾

**آیت نمبر ۲۵:** وَاِذَا سْتِئْتَفِرَ اِذَا شَرْطِيَّةٌ مفعولٌ فِيه مُقَدَّمٌ قِيْلَ لَعْلٌ بِجَهْلٍ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ اِدْرَاسٌ ضَمِيرٌ كَامِرٌ رَجْعٌ قِيْلَ كَامِرٌ قَوْلٌ هُوَ، اَلَهُمْ جَدٌ بِحَرْفٍ وَ طَرَفٌ لَعْلٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لَعْلٌ بِجَهْلٍ بِاَنْتَابٍ قَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ مفعولٌ فِيه جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ اَسْجُدْوا لَعْلٌ اِمْرٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ لِلرَّحْمٰنِ جَدٌ بِحَرْفٍ وَ طَرَفٌ لَعْلٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لَعْلٌ اِمْرٌ بِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ اِنشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ شَرْطٌ، قَالُوْا لَعْلٌ اَوَّ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ لَعْلٌ كَر جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، وَاوَّ زَلَّةٌ، مَا اِسْتَهَامِيَّةٌ مُبْتَدَأٌ، الرَّحْمٰنُ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِجَزَاءٍ جَمَلٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ كَر الَّذِي خَلَقَ بِه مَعطوفٌ هُوَ بِاِهْلَةٍ مُسْتَفِةٌ هُوَ، هَمْزٌ اَحْرَفٌ اِسْتَهَامِيَّةٌ اَسْجُدْ لَعْلٌ مَضارعٌ اَنْحَنُ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ لَاحِرٌ حَرْفٌ جَدٌ مَا موصولٌ كَأَمْرٌ لَعْلٌ اَنْتَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ قَاعِلٌ ضَمِيرٌ مفعولٌ بِه، تِيْنٌ لَعْلٌ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صَلَ، موصولٌ بِصَلَّةٍ بِحَرْفٍ وَ جَدٌ بِحَرْفٍ وَ نَسْجُدْ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لَعْلٌ بِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ اِنشَائِيَّةٌ اِسْتَهَامِيَّةٌ هُوَ وَاوَّ اِسْتِئْتَفِرَ زَادَ لَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مفعولٌ بِه اِذْ لَعْلٌ نُفُوْرًا مفعولٌ بِه مَبْنِيٌّ، لَعْلٌ بِقَاعِلٍ وَ مفعولٌ فِيه جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَالُوْا وَ مَا الرَّحْمٰنُ بِه مَعطوفٌ هُوَ، بِاِهْلَةٍ مُسْتَفِةٌ

﴿ ۲۶ ﴾ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۶ ﴿ ۲۵ ﴾

تَبٰرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَ جَعَلَ فِيْهَا سِيْرًا جَا وَ قَمَرًا مُّذِيْبًا ﴿٢٦﴾

**آیت نمبر ۲۶:** تَبٰرَكَ لَعْلٌ الَّذِي اِسْمٌ موصولٌ جَعَلَ لَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ فِي السَّمَآءِ جَدٌ بِحَرْفٍ وَ طَرَفٌ مَسْتَقَرٌّ كَالْبَيْتِ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر مفعولٌ بِه اِذْ لَعْلٌ مَوْخَرٌ، لَعْلٌ بِقَاعِلٍ وَ مفعولٌ فِيه جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعطوفٌ عَلَيَّ، وَاوَّ عَاطِفٌ جَعَلَ لَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ فِيْهَا جَدٌ بِحَرْفٍ وَ طَرَفٌ مَسْتَقَرٌّ كَالْبَيْتِ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر مفعولٌ فِيه اِذْ لَعْلٌ مُقَدَّمٌ، سِيْرًا جَمَلٌ مَعطوفٌ عَلَيَّ، وَاوَّ عَاطِفٌ قَمَرًا مُّذِيْبًا مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَعطوفٌ، مَعطوفٌ عَلَيَّ بِمَعطوفٍ مفعولٌ بِه اِذْ لَعْلٌ مَوْخَرٌ، لَعْلٌ بِقَاعِلٍ وَ مفعولٌ فِيه مَعطوفٌ، مَعطوفٌ عَلَيَّ بِمَعطوفٍ صَلَ، موصولٌ بِصَلَّةٍ تَبٰرَكَ كَاعِلٌ، لَعْلٌ بِقَاعِلٍ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَفِةٌ هُوَ

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْاَيْلَ وَ النَّهَارَ خَلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذْكُرَ اَوْ اَرَادَ سُكُوْرًا ﴿٢٧﴾

**آیت نمبر ۲۷:** وَاوَّ عَاطِفٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ الَّذِي اِسْمٌ موصولٌ جَعَلَ لَعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ الْاَيْلَ وَ النَّهَارَ مَعطوفٌ عَلَيَّ بِمَعطوفٍ مفعولٌ بِه اِذْ لَعْلٌ، خَلْفَةً مفعولٌ بِه مَبْنِيٌّ، لَاحِرٌ حَرْفٌ جَدٌ اِسْمٌ موصولٌ اَرَادَ لَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ اَنْ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ وَ نَصْبٌ يَذْكُرُ لَعْلٌ هُوَ

مستتر فاعل ہو دونوں مل کر بنا ویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عطف آواز فعل ہو مستتر فاعل ہو، او عطف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرد، جاد با مجرد و جَعَلَ کے متعلق ہوئے یا خَلَفَهُ مصدر کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کَبَلَ الْاِذْنَ بہ معطوف ہے۔

وَعِبَادَ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا  
سَلٰمًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سٰجِدًا وَّ قِيَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ  
عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝

**آیت نمبر ۲۳، ۲۴، ۲۵:** او ایستنا فی عباد الرحمن مرکب اضافی موصوف الذین اسم موصول یتمشون فعل واو ضمیر ذوالحال ہوتا یعنی ھتین حال ذوالحال بافاعل علی الارض جاد با مجرد و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عطف آواز شرطیہ مفعول فی مقدم، خاکبہ فعل ھم ضمیر منسوب مفعول بہ الجھلون فاعل، پادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قالوا فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، سلما مفعول مطلق فعل مخدوف نسبیہ کا کھریہ قول کا مقولہ ہے، یا سلما بواسطہ موصوف مخدوف قول مفعول مطلق ہے، قول کا مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف الذین کاسلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، او عطف موصوف الذین اسم موصول یتبیتون فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، لاکہ حرف جار یتبیتون مرکب اضافی مجرد، جاد با مجرد و سجدا کے متعلق مقدم ہوئے، سجدا صیغہ صفت ھم ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر معطوف علیہ، او عطف قیاما صیغہ اسم فاعل ھم ضمیر مستتر فاعل ہو دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف اول، او عطف الذین اسم موصول یقولون فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، یکتا یہ اصل میں یکتا ہے اور یہ عدا ہے، اصروف فعل امر انک ضمیر مستتر فاعل عتقا جاد با مجرد و طرف لغو متعلق ہوئے عتآب جھنمہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ عدا کا جواب، عدا با جواب جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول کا مقولہ صلہ، موصول با صلہ معطوف ثانی، ان حرف تحقیق عتآبہا مرکب اضافی اس کا اسم کان فعل ناقص ھم ضمیر مستتر اس کا عواما خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اصروف عتآبہا جھنمہ کی تعلیل اول ہے۔

اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مَقَامًا ۝

**آیت نمبر ۲۶:** ان حرف تحقیق ھا ضمیر اس کا اسم ساءت فعل ذم ہی مستتر ذوالحال مستقر او مقاما معطوف علیہ با معطوف حال ذوالحال ہمال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر اور مخصوص بالذم مبتدا مخدوف ہے ہی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اصروف عتآبہا جھنمہ کی تعلیل ثانی ہے۔

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَعُوْا لَمْ يُسِرُّوْا وَاَوْ كَانْ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَمًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ

فِيهِ مَهَاتًا ۖ

**آیت نمبر ۶۸، ۶۹، ۷۰:** واو عاطفہ الَذِّیْنَ اسم موصول اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَلْفَعُوْا فعل واو ضمیر قائل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ یُسُوْا فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ لَمْ یَقْتُوْا فعل واو ضمیر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ كَانَ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم بَیِّنٌ ذَلِکَ مرکب اضافی کَاوِیْمًا کا مفعول فیہ ہو کر خبر اول، قَوَّامًا خبر ثانی، فعل ناقص ہام و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف ثالث، واو عاطفہ الَذِّیْنَ اسم موصول لَا یَزْنُوْنَ فعل واو ضمیر قائل مَعَ اللّٰہِ مرکب اضافی مفعول فیہ، اِلٰہًا اَخْرَجَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا یَقْتُلُوْنَ فعل واو ضمیر قائل النَّفْسَ موصوف الَّتِی اسم موصول حَرَّمَ فعل اللّٰہ اسم الجلالہ قائل اِلَّا حرف استثنائی بِالْحَقِّ جہد باجر و مستثنیٰ مفرغ ہو کر متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول ہاسلہ صفت، موصوف ہفت لَا یَقْتُلُوْنَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا یَزْنُوْنَ فعل واو ضمیر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین الَذِّیْنَ کاسلہ، موصول ہاسلہ معطوف رابع، واو اعتراضیہ (تقریباً) اسم شرط مبتدأ، یَفْعَلْ فعل ہو ضمیر مستتر قائل ذَلِکَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، یَلْقَیْ یُفْعَلْ فعل یہ اصل میں یَلْقَیْ ہے، ہو ضمیر مستتر قائل اَتَمًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبدل منہ، یُضْعَفُ فعل مجہول لکہ جہد باجر و ظرف لغو متعلق ہوئے الْعَذَابُ نائب قائل یَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل مجہول ہائیب قائل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، مفعول با معطوفین صلیب جہد باجر و ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَلْقَیْ اَتَمًا کا بدل ہے، مبدل منہ باہل جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر منہ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسبیہ خبریہ مترفعہ ہوں۔

اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صٰلِحًا فَاُولٰٓئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِہُمْ حَسَنٰتٍ وَ

كَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَاحِمًا ۖ

**آیت نمبر ۷۰:** اِلَّا حرف استثناء، یعنی لیکن اور یہ استثناء منقطع ہے (روح المعانی) اور مستثنیٰ متصل نہ ہونے کی وجہ علیہ محمود اوس کی تقریر میں مرقوم ہے، مَنْ اسم موصول تَابَ فعل ہو ضمیر قائل، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَمَنَ فعل ہو ضمیر قائل، دونوں مل کر معطوف اول، واو عاطفہ عَمِلَ فعل ہو ضمیر قائل عَمَلًا صٰلِحًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول ہاسلہ متعین معنی شرط مبتدأ، فَاہ جزائیہ اُولٰٓئِکَ اسم اشارہ مبتدأ، یُبَدِّلُ فعل مضارع اللّٰہ اسم الجلالہ قائل سَيِّئَاتِہُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اول حَسَنٰتٍ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسبیہ

خبر یہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو اعتراضیہ کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم معطوف واو حینما  
دو خبر، فعل ناقص بالاسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہول (روح المعانی)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿۱۹۸﴾

آیت نمبر ۱۹۸: واو عاطفہ من اسم موصول تائب فعل ہو ضمیر فاعل، فعل ناقص جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ  
فعل ہو ضمیر مشترک فاعل صالِحًا بواسطہ موصوف مخدوف عملاً کے مفعول بہ، فعل ناقص و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف،  
معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ متضمن معنی شرط مبتدا، فقاء جزائیہ إن حرف مشبہ بالفعل وا ضمیر اس کا اسم یَتُوبُ فعل ہو ضمیر  
فاعل الی حرف جہد اللہ اسم الجلالہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے متتاباً مفعول مطلق، فعل ناقص و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر،  
إن بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ پہلے من تائبہ معطوف ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿۱۹۹﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا  
بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُنْيًا ﴿۲۰۰﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ  
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۲۰۱﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ  
بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا كَرِيمًا ﴿۲۰۲﴾

آیت نمبر ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲: واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول لَا يَشْهَدُونَ فعل ناقص و ضمیر فاعل الزُّور مفعول بہ، ینوں مل کر  
جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم مَرُّوا فعل ناقص و ضمیر فاعل بِاللَّغْوِ جار مجرور و ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل  
ناقص و متعلق مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، مَرُّوا فعل ناقص و ضمیر ذوالحال یکرَامًا حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل ناقص جملہ فعلیہ  
خبریہ جزاء، شرط با جزاء لَا يَشْهَدُونَ مفعول، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ معطوف خاص، واو عاطفہ الَّذِينَ اسم  
موصول إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ذُكِرُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل بآیاتِ مفعول مرکب اضافی مجرور، جار مجرور و ظرف  
لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لَمْ يَخِرُّوا فعل ناقص و ضمیر ذوالحال صُمًّا وَعُنْيًا معطوف علیہ با  
معطوف حال، ذوالحال باحال فاعل عَلَيْهَا جار مجرور و متعلق ہوئے، فعل ناقص و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر صلہ،  
موصول باصلہ معطوف سادس، واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول يَقُولُونَ فعل ناقص و ضمیر فاعل، دونوں مل کر قول، رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے  
اور یہ عداہ ہے، هَبْ فعل امر اور یہ اصل میں اَوْهَبْ ہے، اَنْتَ ضمیر مشترک فاعل لَنَا جار مجرور و ظرف لغو متعلق ہوئے، صِنْ حرف جار و اَوْجِنَا  
مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ ذُرِّيَّاتِنَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور و ظرف مستقر كَرِيمًا کے  
متعلق ہو کر حال مقدم، قُرَّةَ أَعْيُنٍ مرکب اضافی ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال هَبْ کا مفعول بہ، فعل ناقص و متعلق مفعول بہ جملہ انشائیہ  
امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اجْعَلْ فعل امر اَنْتَ مشترک فاعل تَامِرِ اس کا اسم لِلْمُتَّقِينَ جار مجرور و ظرف كَرِيمًا کے متعلق ہو کر حال مقدم،  
إِمَامًا ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل ناقص و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف عداہ کا جواب، عداہ باجراب

جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ صلہ، موصوف یا صلہ معطوف سابع، معطوف علیہ یا معطوفات سبعہ عِبَادُ الرَّحْمٰن کی صفت ہے، موصوف یا صفت مبتدأ، اُوْلٰئِكَ اَسْمَ اَشْرَافِہٖ مُبْتَدَا، یُجَزُّوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الْغُرُفَةُ مفعول بہ، بتاء حرف جہدماً مصدر یہ صَمَّوْذًا فعل باواو ضمیر فاعل بتا ویل مصدر مجرور، جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائےب فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَلْقَوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، فِیْہَا جہد باجرور متعلق ہوئے تَحِیَّةً وَسَلَامًا معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، فعل مجہول ہائےب فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اُوْلٰئِكَ کی خبر، مبتدأ باخر جملہ اسمیہ خبریہ عِبَادُ الرَّحْمٰن کی خبر ہے، مبتدأ باخر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

خُلِیْدِیْنَ فِیْہَا حَسُنَتْ مُسْتَقْرَّآ وَّ مَقَامًا ۝

آیت نمبر ۷۶: خُلِیْدِیْنَ اسم فاعل ہُمْ ضمیر مستتر فاعل فِیْہَا جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر شہ جملہ ہو کر یُجَزُّوْنَ کی واو ضمیر سے حال ہے حَسُنَتْ فعل ہی ضمیر مستتر ذوالحال مُسْتَقْرَّآ وَّ مَقَامًا معطوف علیہ یا معطوف حال، ذوالحال باعمال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ منطلاً ہوا یا بتقدیر قَدْ عَلَا منصوب الْغُرُفَةَ سے حال ہے۔

قُلْ مَا یَعْبُوْا بِكُمْ رَیِّ لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ فَحَقَّ كَذِبُكُمْ فَسَوْفَ یَكُوْنُ لِرَاٰمَآءَ ۝

آیت نمبر ۷۷: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول، مَا نَافِعَ یَعْبُوْا فعل یکم جہد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے رَیِّ مرکب اضافی مرفوع تقدیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ لَوْ لَا حرف امتناع دُعَاؤُكُمْ مرکب اضافی مبتدأ اور خبر محذوف ہے مَوْجُوْذٌ مبتدأ باخر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، اور اس کی جزاء اور جواب محذوف ہے لَا یَعْبُوْا بِكُمْ رَیِّ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اِنَّ اللّٰهَ دَعَاكُمْ اِلٰی عِبَادَتِہٖ، قَدْ عَلَاست فعل، كَذِبُكُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، یا فَقَدْ ہر داخل فقاء حرف تعلیل ہے اور یہ جملہ مسئلہ ہے، فقاء فیصیہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِکَ یَمٰنٌ یُّكٰذِبُ سَوْفَ عَلَاست فعل، یَكُوْنُ فعل ناقص ہُوْ ضمیر مستتر اس کا اسم لِرَاٰمَآءَ خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

بِحَمْدِہٖ تَعَالٰی وَتَوَفِیْقِہٖ سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ

کی ترکیب کی کتابت ۲۲ اپریل ۲۰۱۸ء بروز اتوار بوقت صبح ۷:۳۵ پر الیکٹرونک سہولت کراچی کی بالائی منزل پر مکمل ہوئی ہے۔

## ترکیب سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ طَسَمَ ۝ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۝

**آیت نمبر ۱:** طَسَمَ یہ خبر ہے مبتدا محذوف، ہذا کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور تِلْكَ اسم اشارہ مبتدا، اِیْتُ مضاف الیکتبِ الْمُبِیْنِ مرکب توسیعی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۝

**آیت نمبر ۲:** لَعَلَّ حرف ترقی کاں ضمیر منصوب اس کا اسم بَاخِعٌ اسم فاعل اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نَفْسَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، اَنْ حرف مصدری ونصب لایکُوْنُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، مُؤْمِنِیْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر بتاویل مصدر بواسطہ مضاف محذوف خبیفۃ کے مفعول لہ، اسم فاعل با فاعل مفعولین شبہ جملہ ہو کر خبر، حرف ترقی با اسم خبر جملہ انشائیہ توجیہ مستانہ ہے۔

اِنْ نَّشَأْنُزِّلَ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ اٰیَةٌ فَكَلَّمَتْ اَعْمَاقَهُمْ لَهَا خُضِیْعِیْنَ ۝

**آیت نمبر ۳:** اِنْ حرف شرط نَشَأْنَا فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے ہو کر شرط، نَزِّلَ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل عَلَیْهِمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہونے سے مِنَ السَّمَآءِ جار مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم، اٰیَةٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل مفعول بہ، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قَاءَ عاطفہ کَلَّمَتْ فعل ناقص اَعْمَاقَهُمْ مرکب اضافی اسم لہا جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہونے خُضِیْعِیْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ منطلیہ ہے۔

وَمَا یَأْتِیْهِمْ مِنْ ذِکْرِ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحَدَّثٍ اِلَّا کَانُوْا عَنْتُهٗ مُعْرِضِیْنَ ۝

**آیت نمبر ۴:** وَاو عاطفہ مَا یَأْتِیْ یَأْتِیْ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، یمن حرف جار زکر ذِکْرِ موصوف من الرَّحْمٰنِ جار مجرور ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ مُحَدَّثٍ صفت ثانیہ، موصوف با صفتین التقایا خبر و عاطفہ فاعل، فعل با فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جملہ سابقہ کے مضمون پر معطوف ہے، اِلَّا حرف استثناء کَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، عَنْتُهٗ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہونے، مُعْرِضِیْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ یَأْتِیْهِمْ کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے۔

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسٰی اَتِیْهِمْ اَنْبِیَآءُ مَا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۵:** قَاءَ تعلیلہ قَدْ علامت فعل كَذَّبُوْا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منطلیہ ہے قَاءَ ضمیر اور شرط محذوف ہے اِنْ یَكْفُرُوْا سِیْنِ علامت فعل، یَأْتِیْ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اَنْبِیَآءُ مضاف ما اسم موصول کَانُوْا فعل ناقص واو

ضمیر اس کا اسم پہ جہ باجر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے یَسْتَهْرُونَ فعل واو ضمیر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی ثانی کا قائل ہے، فعل ناقص و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ اول۔

**أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝**

**آیت نمبر ۷:** ھمزہ حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے یَنْظُرُونَ آیتہ علی مَا یَدَّ عَيْنُهُ مُحَمَّدٌ لَمْ يَرَوْا فعل واو ضمیر قائل الی حرف جہ الاَرْضِ مبدل منہ کَمْ خبریہ مَعْلَا منصوب مفعول بہ مقدم اَنْبَتْنَا فعل نا ضمیر قائل فیہا جہ باجر و متعلق اول ہوئے من حرف جہ کُلِّ مضاف زَوْجٍ کَرِيمٍ مرکب تو صغی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جہ باجر و متعلق ثانی ہوئے، فعل ناقص و مفعول بہ مقدم و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ بدل اشتمال، مبدل منہ ببدل مجرور، جہ باجر و لَمْ يَرَوْا کے متعلق ہوئے، فعل ناقص و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ متنازعہ ہوں۔

**إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝**

**آیت نمبر ۸:** اِنَّ حرف تحقیق فی ذَلِكَ جہ باجر و طرف مستقر کَائِدَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لَمْ يَرَوْا حلقہ آیتہ مَعْلَا مَوْجِبًا اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو امر متنازعہ مآشایہ "بہ لیسےں کان زلزلہ (ظہری) اَكْثَرُهُمْ مرکب اضافی مآجذایہ کا اسم مؤمنین مینہ اسم قائل هُمْ ضمیر مستقر قائل و دونوں مل کر خبر مَعْلَا ہا سم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

**وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝**

**آیت نمبر ۹:** واو عاطفہ اِنَّ حرف تحقیق رَبَّكَ مرکب اضافی اس کا اسم لَمْ يَرَوْا حلقہ هُوَ ضمیر مبتدا الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ دو خبر، مبتدا باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ خبر بیان ہا سم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متنازعہ ہوں۔

**وَ اِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى اَنْ اَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ۝ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۙ اَلَا يَتَّقُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۰:** واو استینا فیرا ذ طرف زمان مضاف نَادَى فعل رَبُّكَ مرکب اضافی قائل مُوسَى منصوب تقدیر مفعول بہ یتقون مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اُذ كُوْا مفعول فیہ ہے، اَنْ حرف مصدریہ اَنْتَ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستقر قائل الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ مرکب اضافی مبدل منہ، قَوْمَ فِرْعَوْنَ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ ببدل مفعول بہ، فعل ناقص و مفعول بہ بتاویل مصدر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر مجرور، کیونکہ اصل میں بیان ہے، جہ باجر و نَادَى کے متعلق ہوئے، ھمزہ حرف استفہام اَلَا يَتَّقُونَ فعل واو ضمیر قائل، فعل ناقص جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

**قَالَ رَبِّ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُكَلِّمُنِيْ ۙ وَ يَضِيْقُ صَدْرِيْ ۙ وَ لَا يَنْظِلُّنِيْ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلَيَّ هُرُوْدًا ۝**

**آیت نمبر ۱۲، ۱۳:** قَالَ لَوْلَا هُوَ خَمِيرٌ مَسْتَقَرٌّ قَائِلٌ، دووں مل کر قول، رکت یہ اصل میں یا کہی ہے اور یہ نماہ ہے، ہاں حرف تحقیق یا کہ خمیر منسوب اس کا اسم آخاف فعل انکا خمیر مستقر قائل، آن حرف مصدری و نصب یُكْتَبُ بِوَاقِلٌ واو خمیر قائل نون برائے وقایہ یا کہ مخدوف مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر آخاف کا مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُصَيِّقُ فعل صَدْرِيْ مرکب اضافی مرفوع تقدیر قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول و او عاطفہ لَا يَطْلُقُ فعل لِسَانِيْ مرکب اضافی مرفوع تقدیر قائل، دووں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبریان، بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نماہ کا جواب، نماہ با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فقہاء نصیر اور شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْاَكْمَرُ كَذَلِكَ (فقیر) اِيَّانَ اَصْبَحَ رَسُوْلًا، اَزِيْسَلْ فعل امر آت خمیر مستقر قائل اِلَى هُوَ وَنَجِدُ جاد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل امر باقائل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط مخدوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَاخَافَ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۴:** واو عاطفہ لَهُمْ جاد باجر و طرف، مستقر کالوں کے متعلق ہوئے علی جاد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے کالوں کا اسم قائل ہے لَوْلَا هُوَ خَمِيرٌ قَائِلٌ و متعلقین سے مل کر خبر مقدم مَذْبُوعٌ مبتدا باجر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فقہاء نصیر اور شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْاَكْمَرُ كَذَلِكَ يَا اِنْ ذَهَبْتَ اِلَيْهِمْ، آخَافُ فعل انکا خمیر مستقر قائل، آن حرف مصدری و نصب يَقْتُلُوْا فعل واو خمیر قائل نون برائے وقایہ یا کہ مخدوف مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبتدا مخدوف آکا کی خبر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

قَالَ كَلَّا، فَاذْهَبَا يَا بَيْتَنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** قَالَ لَوْلَا هُوَ خَمِيرٌ مَسْتَقَرٌّ قَائِلٌ، دووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، كَلَّا حرف رد و غیر عامل فقہاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے اَزِيْسَلْ غَايَا مَوْسَى عَنْ كَوْفِهِ قَتِيْلًا، اِذْهَبَا فعل امر الف خمیر قائل یا کہ حرف جاد اِيْتَنَا مرکب اضافی مجرور، جاد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، دووں مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اِيَّانَ حرف تحقیق یا کہ خمیر اس کا اسم مَعَكُمْ مرکب اضافی مفعول فی مقدم، مُسْتَمِعُوْنَ اسم قائل نَحْنُ خمیر قائل، اسم قائل باقائل و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبریان، بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منطوق ہوا۔

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۶:** فقہاء عاطفہ اْتِيَا فعل امر الف خمیر قائل فِرْعَوْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فقہاء عاطفہ فَوَلَا فعل امر الف خمیر قائل، دووں مل کر جملہ انشائیہ قول، ہاں حرف تحقیق یا کہ خمیر اس کا اسم رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ مرکب اضافی خبریان، بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِذْهَبَا معطوف ہے

اَنْ اَرْسِلَ مَعَنَا بَنِيَّ اِسْرَءٰئِيْلَ ۝



**آیت نمبر ۱۷:** اَنْ حَرَف تَسْمِيْرٍ اَوْ سَمٍ لِفِعْلِ اِمْرَاَتِكَ مُسَمِّرٌ مُسْتَقْرًا عَلٰی مَعْنَاكَ مَرْكَبٌ اِسْنَانِيٌّ فَيَقِيْ اِسْنُوْ اَيُّوْنَ لِمَرْكَبِ اِسْنَانِيٍّ  
مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ انتہائیہ و رسول و رَبِّ الْعَالَمِيْنَ کی تفسیر ہے۔

**قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فَيٰنَا وَلِيْدًا وَّ كَيْبَتًا فَيٰنَا مِنْ عُمْرِكَ سَيِّئِيْنَ ﴿۱۷﴾ وَ فَعَلْتَ فَعَلْتَكَ**  
**الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾**

**آیت نمبر ۱۸:** ۱۹:۱۸: قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسَمِّرٌ مُسْتَقْرًا عَلٰی، دُولوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزہ ح حرف استہمام لَمْ نُرَبِّ لِفِعْلِ تَحْنِ مُسَمِّرٌ مُسْتَقْرًا عَلٰی کَانَ مُسَمِّرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ فَيٰنَا جَد بَاجِرٌ وَّرَ تَرْفٌ لِّتَوْعَلُّقٍ هُوَ وَّ لِيْدًا مُسَمِّرٌ مَنصُوْبٌ سَعَالٍ ہِے، فِعْلٌ ہَا قَالٌ و مفعول بہ و متعلق جملہ انتہائیہ معطوف علیہ، وَاو عاطفہ کَيْبَتًا فِعْلٌ تَاءٌ مُتَعَدٍ مُسَمِّرًا عَلٰی فَيٰنَا جَد بَاجِرٌ وَّرَ تَرْفٌ لِّتَوْعَلُّقٍ ہُوَ یَمِيْن حَرَفٌ جَد عُمُرًا لِمَرْكَبِ اِسْنَانِيٍّ جَرٌّ وَّرَ جَد بَاجِرٌ وَّرَ تَرْفٌ مُسْتَقْرًا کَاثِمًا کے متعلق ہو کر حال مقدم سَيِّئِيْنَ ذوالحال مؤخرہ ذوالحال باحال مفعول بہ، فِعْلٌ ہَا قَالٌ و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّلٌ وَاو عاطفہ فَعَلْتَ فِعْلٌ تَاءٌ مُتَعَدٍ مُسَمِّرًا عَلٰی فَعَلْتَكَ مَرْكَبٌ اِسْنَانِيٌّ موصوف الیوم موصول فَعَلْتَ فِعْلٌ تَاءٌ مُتَعَدٍ مُسَمِّرًا ذوالحال وَاو عاطفہ اَنْتَ مُسَمِّرٌ مَبْتَدَاً یَمِيْنُ الْکٰفِرِيْنَ جَد بَاجِرٌ وَّرَ تَرْفٌ مُسْتَقْرًا کَاثِمًا کے متعلق ہو کر خبر، مَبْتَدَاً بَاجِرٌ جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال قائل، فِعْلٌ ہَا قَالٌ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ صفت، موصوف ہا صفت مفعول مطلق، فِعْلٌ ہَا قَالٌ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ انتہائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**قَالَ فَعَلْتَهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ ﴿۱۹﴾**

**آیت نمبر ۲۰:** قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسَمِّرٌ مُسْتَقْرًا عَلٰی، فِعْلٌ ہَا قَالٌ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، فَعَلْتَ فِعْلٌ تَاءٌ مضمومہ مُسَمِّرًا عَلٰی ہَا مُسَمِّرٌ مَنصُوْبٌ ہِے، اِذَا تَرْفٌ مَطْرُوْحٌ عَنِ الْاِضَافَةِ مَفْعُوْلٌ فِیہ، فِعْلٌ ہَا قَالٌ و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ وَاو عاطفہ اَنَا مُسَمِّرٌ مَنفَصَلٌ مَبْتَدَاً یَمِيْنُ الضَّالِّيْنَ جَد بَاجِرٌ وَّرَ تَرْفٌ مُسْتَقْرًا کَاثِمًا کے متعلق ہو کر خبر، مَبْتَدَاً بَاجِرٌ جملہ اسمیہ خبریہ فَعَلْتَ کی تفسیر قائل سے حال ہے۔

**فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَنَا خِيْفَتَكُمْ فَوَهَبْ لِي رَبِّي حُكْمًا وَّ جَعَلْتَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۱﴾**

**آیت نمبر ۲۱:** ۲۱: قَاءٌ عَاطِفَةٌ فَفَرَزْتُ فِعْلٌ تَاءٌ مضمومہ مُسَمِّرًا عَلٰی مِنْكُمْ جَد بَاجِرٌ وَّرَ تَرْفٌ لِّتَوْعَلُّقٍ ہُوَ، لَمَّا تَرْفٌ مَنصَافٌ خِيْفَتُكَ فِعْلٌ تَاءٌ مضمومہ مُسَمِّرًا عَلٰی كُمْ مُسَمِّرٌ مَنصُوْبٌ مَفْعُوْلٌ ہِے، فِعْلٌ ہَا قَالٌ و مفعول بہ مَنصَافٌ اَلِیہ، بَاجِرٌ مَرْكَبٌ اِسْنَانِيٌّ فَوَزُوْتُ كَامَفْعُوْلٍ فِیہ، فِعْلٌ ہَا قَالٌ و متعلق و مفعول فِیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قَاءٌ عَاطِفَةٌ وَهَبْ لِي لِی جَد بَاجِرٌ وَّرَ تَرْفٌ ہُوَ، رَبِّيْ مَرْكَبٌ اِسْنَانِيٌّ مَرْفُوْعٌ تَقْدِيْرًا عَلٰی حُكْمًا مَفْعُوْلٌ ہِے، جَد وَّرَ ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّلٌ وَاو عاطفہ جَعَلْتَ فِعْلٌ هُوَ مُسَمِّرٌ مُسْتَقْرًا عَلٰی نُونِ بَرَاءے وَاو عاطفہ مُسَمِّرٌ مَنصُوْبٌ مَفْعُوْلٌ ہِے اَوَّلٌ یَمِيْنُ الْمُرْسَلِيْنَ جَد بَاجِرٌ وَّرَ تَرْفٌ مُسْتَقْرًا کَاثِمًا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فِعْلٌ ہَا قَالٌ و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ معطوفہ ہو۔

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ كَتَمْتُمُهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲:** او عطف تِلْكَ اسم اشارہ مبتدا، نِعْمَةٌ موصوف تَمَّنُّ فعل اَنْتَ ضمیر مستتر قائل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، عَلٰی حرف جار پر جو ظرف لغو متعلق ہوئے، جہاں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف ہفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اَنْ حرف مصدری عَبَّدتَّ فعل تام مفتوزہ ضمیر قائل بَنِي إِسْرَائِيلَ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر محکم شروع مبتدا محذوف ہے کی خبر ہے یا نِعْمَةٌ سے بدل ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۳:** قَالَ فعل فِرْعَوْنُ قائل دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، او عطف اور مفعول علیہ محذوف ہے اَنْتَ الرَّسُوْلُ، مَا استفہامیہ مبتدا، رَبُّ الْعَالَمِيْنَ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ اشاریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ خبریہ ہوا۔

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَاَمَّا يَلِيْنَهُمَا اِنَّا كُنْتُمْ مُّوَقِنِيْنَ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۴:** قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ معطوف علیہ، او عطف اَلْاَرْضِ معطوف اُولٰٓئِ، او عطف مَا اسم موصول يَلِيْنَهُمَا مرکب اضافی فعل محذوف حَبِيْتٌ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین رَبُّ كَمَا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا محذوف رَبُّ الْعَالَمِيْنَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنَّا حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص كُنْتُمْ ضمیر اس کا اسم موقنین قائل مستتر قائل، دو دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم با خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جہاز محذوف ہے فَاسْتَقْبَلُوْا بِهَا عٰلَمِيْنَ خَالِقِيْهَا (منظری) شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

قَالَ لِمَنْ حَوٰلَةَ اَلَا تَنْتَبِهُوْنَ ﴿۲۵﴾

**آیت نمبر ۲۵:** قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل لام حرف جار مَنْ اسم موصول حَوٰلَةُ مرکب اضافی فعل محذوف حَبِيْتٌ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، حَمُوْرَةٌ حرف استفہام اَلَا تَنْتَبِهُوْنَ فعل با واو ضمیر قائل، دو دونوں مل کر جملہ اشاریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

قَالَ رَبُّكُمْ وَاَبَاكُمْ اَلْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۶﴾

**آیت نمبر ۲۶:** قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل دو دونوں مل کر قول، رَبُّكُمْ وَاَبَاكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، او عطف رَبُّ مضاف اَبَاكُمْ مرکب اضافی موصوف اَلْاَوَّلِيْنَ اسم تفضیل هُمْ ضمیر مستتر قائل دو دونوں مل کر صفت، موصوف ہفت مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا محذوف ہو کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمْ الَّذِيْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۲۷﴾

**آیت نمبر ۲۷:** قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل دو دونوں مل کر قول، اِنَّ حرف تحقیق رَسُوْلَكُمْ مرکب اضافی موصوف الَّذِيْ اسم

موصول اُزِيسَلْ لُجْلُجْ مَجْجُولُ هُوَ مُضْمِرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ اَلْيَكُمُ جَدَّ بَاجِرٌ دَرُ طَرَفٌ لَوْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ مَجْجُولٌ بِأَنْثَبٍ قَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ مُفْتٍ، مَوْصُوفٌ بِمُفْتٍ اِنْ كَامٌ لَمْ يَدْعُ مَعْلُوقٌ بِرَأْسِهِ تَاكِيدٌ مَجْجُولٌ خَبْرٌ اِنْ بَا سَمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اَسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاِقْوَالِ جَمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ

**قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَبْيُنُهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾**

**آیت نمبر ۲۸:** قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ سَلْ كَرَقَوْلِ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَبْيُنُهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ كِي تَرْكِبِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا يَبْيُنُهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ كِي طَرَحٌ هِيَ جَوَابٌ كِي كَرِي هِيَ

**قَالَ لَيْنِ اتَّخَذَتْ اِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿٢٩﴾**

**آیت نمبر ۲۹:** قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُضْمِرٌ مُسْتَرْتَابٌ دَوْدُوْنَ لُ كَرَقَوْلِ اَلَا هُوَ لَقَمٌ اِسْمٌ قَسْمٌ مَحْذُوفٌ هِيَ اِنْ حَرْفٌ شَرْطٌ اِتَّخَذَتْ فِعْلٌ تَاءٌ مَفْتُوحٌ مُضْمِرٌ قَاعِلٌ اِلَهاً مَفْعُولٌ بِه اَوَّلٌ غَيْرِي مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ مَفْعُولٌ بِه ثَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقْوَالِ وَ مَفْعُولِيْنَ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ كَرَشَرْطٌ اَلَا هُوَ جَوَابٌ اِتَّخَذَتْ فِعْلٌ اِنَّا مُضْمِرٌ مُسْتَرْتَابٌ كَانِ مُضْمِرٌ مَوْصُوفٌ مَفْعُولٌ بِه اَوَّلٌ، وَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ جَدَّ بَاجِرٌ دَرُ طَرَفٌ مُسْتَرْتَابٌ كَانِ اَلْكَائِكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر مَفْعُولٌ بِه ثَانِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقْوَالِ وَ مَفْعُولِيْنَ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَسْمٌ مَحْذُوفٌ كَا جَوَابٌ هِيَ، قَسْمٌ مَحْذُوفٌ بِاِجَابٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِاِقْوَالِ جَمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ اَوْرُ شَرْطٌ كِي جَزَاءٌ مَحْذُوفٌ هِيَ اِتَّخَذَتْكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هِيَ

**قَالَ اَوْ لَوْ جَعَلْتِكَ يَسُوْعًا مُّبِيْنًا ﴿٣٠﴾**

**آیت نمبر ۳۰:** قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ دَوْدُوْنَ لُ كَرَقَوْلِ اَلَمْ يَدْعُ حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءٌ اَوْ اَعْلَاءِ لَوْ حَرْفٌ شَرْطٌ جَعَلْتِكَ فِعْلٌ تَاءٌ مَضْمُومَةٌ مُضْمِرٌ قَاعِلٌ كَانِ مُضْمِرٌ مَوْصُوفٌ مَفْعُولٌ بِه يَسُوْعًا حَرْفٌ جَدَّ هُوَ مُّبِيْنٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ جَزَاءٌ بَاجِرٌ دَرُ طَرَفٌ لَوْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقْوَالِ وَ مَفْعُولٌ بِه وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ، جَزَاءٌ مَحْذُوفٌ هِيَ تَجْعَلْنِي مِنَ الْمَسْجُورِينَ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هِيَ اَوْ كَرِحَالٌ هِيَ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ تَفْعَلُ ذَلِكْ يَأِي مُضْمِرٌ قَاعِلٌ هِيَ

**قَالَ قَاتِبٌ بِه اِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾**

**آیت نمبر ۳۱:** قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُضْمِرٌ مُسْتَرْتَابٌ دَوْدُوْنَ لُ كَرَجَمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ اَوْ كَرَقَوْلِ قَاءٌ جَزَائِيَّةٌ اَبْتٌ فِعْلٌ اِمْرَاةٌ مُضْمِرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ بِه جَدَّ بَاجِرٌ دَرُ طَرَفٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقْوَالِ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ جَزَاءٌ مَقْدَمٌ (رُوحُ الْعَلَانِي اِنْ حَرْفٌ شَرْطٌ كُنْتُ فِعْلٌ نَاقِصٌ تَاءٌ مَفْتُوحٌ مُضْمِرٌ اِسْمٌ كَامٌ مِنَ الصَّادِقِينَ جَدَّ بَاجِرٌ دَرُ طَرَفٌ مُسْتَرْتَابٌ كَانِ اَلْكَائِكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر خَبْرٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاَسْمٍ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ اَوْ كَر شَرْطٌ مَوْخَفٌ شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هِيَ اَوْ كَرَقَوْلِ جَمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ

**قَالَ قِي عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُّبِيْنًا ﴿٣٢﴾ وَ نَرَعُ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظَرِ اِلَيْهِ ﴿٣٣﴾**

**آیت نمبر ۳۲، ۳۳:** قَاءٌ عَاطِفٌ (مُطَهَّرِي) اَوْرِيَّةٌ قَالَ بِه مَعْطُوفٌ هِيَ اَلْقِي فِعْلٌ هُوَ مُضْمِرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ عَصَاهُ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ مَفْعُولٌ بِه، تَبِيْنٌ لُ كَر جَمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، قَاءٌ عَاطِفٌ اِذَا اِنْفَاجِيَّةٌ مُّبِيْنَةٌ كَا مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ هِيَ بِه مُضْمِرٌ مَبْتَدَأٌ، تُعْبَانُ مُّبِيْنٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بَاجِرٌ جَمْلَةٌ اَسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، مَعْطُوفٌ بِمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، اَوْ اَوْ اَلْمَطْفُ نَرَعُ فِعْلٌ هُوَ مُضْمِرٌ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ يَدَهُ مَرْكَبٌ

اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بقاء عاطفہ اذا ما جاتیہ لظہرین کا مفعول فیہ مقدم، یعنی ضمیر مبتدہ بِنَصْبِہٖ موصوف للظہرین جہد باجر و طرف مستقر کا لفظ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف معطوف علیہ اول کا معطوف ہے۔

﴿ ۳ ﴾ رکوع نمبر ۳

قَالَ لِلْمَلَاحِظَةِ إِنَّ هَذَا السَّحْرَ عَلَيَّ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

بِسِحْرِہٖ ۖ قَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴿۳۵﴾

**آیت نمبر ۳۵، ۳۴:** قَالَ لَعَلَّ هُوَ مُسْتَرْ قَاعِلٌ، لام حرف جہد الملاحظہ والجال حُوْلَةُ مرکب اضافی مُسْتَقْوِرِينَ کا مفعول فیہ ہو کر حال بذوالحال باحال مجرور، جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، بان حرف تحقیق هَذَا اسم مبتدہ عَلَا منصوب اس کا اسم لامر ذمہ ملحقہ بسحر موصوف عَلَيَّہُ صیغہ صفت هُوَ مستقر قاعِل دووںوں مل کر صفت، موصوف با صفت خبر اول، بِیُؤَيِّدُ فعل هُوَ ضمیر مستقر قاعِل اَنْ حرف مصدری و نصب يُخْرِجُ فعل هُوَ مستقر قاعِل كُمْ ضمیر مفعول بہ، مبنی حرف جہد اَرْضِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جہد باجر و متعلق اول ہوئے، بِنَاء حرف جہد سِحْر ہا مرکب اضافی مجرور، جہد باجر و متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدری یُرِيدُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر دوم، بان ہا اسم و خبر مبنی جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا قاء فیصیہ اور شرط محذوف ہے اذا كَانَ الْاَكْمُرُ كَذَلِك، مَا ذَا اَعْلَا مُنْصُوب مفعول بہ مقدم تَأْمُرُونَ فعل اول ضمیر قاعِل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ انشائیہ استغنیہ جہد، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاہَ وَاَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۳۶﴾

**آیت نمبر ۳۶:** قَالُوا اَعْلُ وَاوْ ضمیر قاعِل دووںوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَرْجِهْ فعل امریہ اصل میں اَرْجِیْ ہے، اَنْتَ ضمیر مستقر قاعِل و ضمیر منصوب مفعول بہ ہوا و اَمْثَلُ مَعَّ "اَخَاہَ مرکب اضافی مفعول معہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبْعَثْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستقر قاعِل فی الْمَدَائِنِ جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، حَاشِرِينَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلَيَّہِ ﴿۳۷﴾

**آیت نمبر ۳۷:** يَأْتُوكَ فعل اول ضمیر قاعِل كاف ضمیر منصوب مفعول بہ، بِنَاء حرف جہد كُلِّ مضاف سَحَّارٍ عَلَيَّہِ مرکب تو صیغی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جہد ہے شرط محذوف اِنْ بَعَثْتَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ کی، اس لئے کہ یَأْتُوكَ اجواب ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

فَجَمَعَ السَّحْرَةَ لِمَيِّقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿۳۸﴾

**آیت نمبر ۳۸:** قاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے بَعَثْتَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ فَذَهَبُوا، جَمَعَ فعل مجهول السَّحْرَةَ نائب قاعِل، لامر حرف جہد مَيِّقَاتِ مضاف یَوْمٍ مَعْلُومٍ مرکب تو صیغی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل

بجول ہائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ محذوف بہ معطوف جملہ مستانہ ہوں

**وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُجْتَبِعُونَ ﴿۳۹﴾**

**آیت نمبر ۳۹:** وَاو ماعطف قیل لصل نہیول ہو ضمیر مستزایاب قائل للناس جلد ہاجمور عرف لغو متعلق ہوئے، فعل بجول ہائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، مکن حرف استہما الكف ضمیر منضمل مبتدا مَجْتَبِعُونَ اسم قائل الكف ضمیر مستزایاب قائل بدولوں مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ الظاہیہ مقول، قول بہ مقول جملہ فعلیہ خبریہ جملہ اولہ معطوف ہے۔

**لَعَلَّنَا تَتَّبِعُ الشُّعْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۰﴾**

**آیت نمبر ۴۰:** لَعَلَّ حرف ترقی تا ضمیر اس کا اسم تَتَّبِعُ فعل فصح ضمیر مستزایاب قائل الشُّعْرَةَ مقبول ہے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر لَعَلَّ ہا اسم و خبر جملہ الظاہیہ تہیہ جملہ مقدم، یدال بر جزم ہے، اِن حرف شرط کَانُوا فعل ناقص وَاو ضمیر اس کا اسم حُظ ضمیر برائے لصل الْغَالِبِينَ اسم قائل حُظ ضمیر قائل بدولوں مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہا جزم جملہ شرطیہ ہوں

**فَلَمَّا جَاءَ الشُّعْرَةَ قَالُوا لِمَ لَفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَاحِزُونَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۱﴾**

**آیت نمبر ۴۱:** قَاء استیازہ کنٹاشریہ مقبول ہے مقدم جَاءَ فعل الشُّعْرَةَ قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط کَالُوا فعل وَاو ضمیر قائل لِمَ لَفِرْعَوْنَ جلد ہاجمور عرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، حَمْزہ حرف استہما اِن حرف محقق لَمَّا جلد ہاجمور عرف مستزکان کے متعلق ہو کر خبر مقدم لآہر مذملطہ اَیْضاً اسم مؤخر ہا اِن اسم و خبر جملہ اسمیہ الظاہیہ جزمہ مقدم، یدال بر جزم ہے، اِن حرف شرط کُنَّا فعل ناقص تا ضمیر اس کا اسم نَحْنُ ضمیر لصل الْغَالِبِينَ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط ہا جزم مقول، قول بہ مقول جزم، شرط ہا جزم جملہ شرطیہ ہوں

**قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَئِنِ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۴۲﴾**

**آیت نمبر ۴۲:** قَالَ لصل ہو ضمیر مستزایاب لَعَمْ لَمَّا مشوب مقبول ہے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں وَاو ماعطف اور معطوف علیہ محذوف ہے، اِن لَعَمْ اَیْضاً اِن حرف محقق کُم ضمیر اس کا اسم إِذًا حرف جواب و جزم مہمل لآہر مذملطہ مِیْنِ الْمُقَرَّبِينَ جلد ہاجمور عرف مستزکان کے متعلق ہو کر خبر ہا اِن اسم و خبر جملہ اسمیہ الظاہیہ خبریہ معطوف بدولوں مل کر جملہ مستانہ ہوں

**قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَأَنتُمْ مُلْكُونَ ﴿۴۳﴾**

**آیت نمبر ۴۳:** قَالَ لصل لَعَمْ جلد ہاجمور عرف لغو متعلق ہوئے مُوسَى علی ہے مفعول متذکر، فعل ہا قائل، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول الْقَوْمَا فعل امر وَاو ضمیر قائل ہا اسم و موصول لَعَمْ ضمیر منضمل مبتدا مَلْكُونَ اسم مَلْكُ مَشْتَقَا ل، بدولوں مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ الظاہیہ مقول، فعل ہا قائل، مفعول بہ جملہ الظاہیہ ہا مقول، قول بہ مقول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

**فَالْقَوْمَا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِدَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۴﴾**



ل کر مبتدا محذوف اَنْتُمْ کی خبر ہے مبتدا خبر جزاء ہے، لاکر موطرہ اللقم اور قسم محذوف ہے اَنْتُمْ لعل انا مستتر قائل اَکْبِدْ لَکُمْ مَرْکَبِ اِضَانِی مَعْطُوفِ عَلَیْہِ بِمَعْطُوفِ مَفْعُولِہِ، یعنی خِلاَفِ جَدِ بِاَجْرٍ مَعْطُوفِ ہُوئے، یا کَافِیْنِیْنَ کے متعلق ہو کر اَکْبِدْ لَکُمْ وَاَزْجَلْکُمْ سے حال ہے، فعل ہاقابل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم ہا جواب مَعْطُوفِ عَلَیْہِ، وَاوِ عَاطِفٌ لَکُمْ مَوطَرٌ لَلْقَمِ اور قسم محذوف ہے اَصْلَکُمْ لعل انا ضمیر مستتر قائل کُمْ ضمیر منسوب مَوْکَدًا اَجْمَعِیْنِ تاکید، مَوْکَدِ ہا تاکید مفعول بہ، فعل ہاقابل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، دونوں ل کر مَعْطُوفِ، مَعْطُوفِ عَلَیْہِ بِمَعْطُوفِ جملہ متنازعہ ہوں۔

### قَالُوا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۵۰﴾

آیت نمبر ۵۰: قَالُوا لعل داؤ ضمیر قائل دو دونوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، بلا لئی جنس ضَيْرٌ اس کا اسم اور خبر محذوف ہے عَلَیْکُمْ، لاپنے اسم و خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم الی حرف جار ہا مبتدا مَرْکَبِ اِضَانِی بَجْرٍ و، جَدِ بِاَجْرٍ مَعْطُوفِ مَقْدَمِ ہُوئے مُنْقَلِبُونَ اسم قائل نَحْنُ مستتر قائل، اسم قائل ہاقابل و متعلق مقدم خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَطْلَعِ ہوں۔

### اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَظِيْنَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم نَطْمَعُ لعل نَحْنُ ضمیر مستتر قائل اَنْ حرف مصدری و نصب يَغْفِرُ لعل لَنَا جَدِ بِاَجْرٍ مَعْطُوفِ ہُوئے رَبُّنَا مَرْکَبِ اِضَانِی قائل حَظِيْنَا مَرْکَبِ اِضَانِی مَفْعُولِہِ بِاَنْ حرف مصدری كُنَّا لعل نَا قس نا ضمیر اس کا اسم اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَرْکَبِ اِضَانِی خبر، فعل ناقس ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بنا ویل مصدر بجز، کیونکہ یہ اصل میں اِنْ كُنَّا ہے، جَدِ بِاَجْرٍ و يَغْفِرُ کے متعلق ثانی ہُوئے، فعل ہاقابل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ بنا ویل مصدر نَطْمَعُ کا مفعول بہ، فعل ہاقابل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَطْلَعِ ہوا یا سابقہ جملہ مَطْلَعِ سے بدل ہوں۔

﴿۵۱﴾ رُكُوْعُ نَمْرِ ۳ ﴿۵۰﴾

### وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي اِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: وَاوْحَيْنَا لعل اَوْحَيْنَا لعل اِلَى مُوسَى جَدِ بِاَجْرٍ و عَاطِفٌ لَعُو مَعْطُوفِ ہُوئے اَنْ مصدری اَسْرِ لعل امر اَنْتَ مستتر قائل بَاءَ حرف جارِ عِبَادِي مَرْکَبِ اِضَانِی بَجْرٍ و، جَدِ بِاَجْرٍ و عَاطِفٌ لَعُو مَعْطُوفِ ہُوئے، فعل ہاقابل و متعلق بتاویل مصدر بَاءَ محذوف کا بجز، جَدِ بِاَجْرٍ و مَعْطُوفِ ثانی ہُوئے، فعل ہاقابل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متنازعہ ہوں اِنْ حرف تحقیق کُمْ ضمیر اس کا اسم مُتَّبِعُونَ اسم مفعول اَنْتُمْ مستتر نائب قائل، دونوں ل کر خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَطْلَعِ ہوں۔

### فَاَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِيْنَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: فَاَرْسَلْنَا عَاطِفٌ اور مَعْطُوفِ عَلَیْہِ محذوف ہے اَسْرَى مُوسَى قَوْمَهُ فَبَلَغَ الْخَبْرُ فِرْعَوْنَ وَاَزَادَا كَانَتْ يَتَّبِعُهُمْ، اَرْسَلْنَا لعل فِرْعَوْنَ قائل فِي الْمَدَائِنِ جَدِ بِاَجْرٍ و مَعْطُوفِ ہُوئے حَاشِرِيْنَ مَفْعُولِہِ بِاَنْ حرف متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ

معطوف، معطوف علیہ مخذوف یا معطوف بملہ مستانفہ ہوں۔

**إِنَّ هُوَ لَأَعْلَمُ خَبْرَ إِسْمِهِ خَبْرِيَةً مَعطوف علیہ، واو عاظف ان حرف تحقیق هُوَ لَأَعْلَمُ مفعول، اس کا اسم لامر مذکر حلقہ شہادۃ موصوف قَلْبِيُون مفعول، مفت، موصوف**

بہفت خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاظف ان حرف تحقیق هُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم لکن جاہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، لامر مذکر حلقہ عَاقِبُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل اور متعلق مقدم سے ل کر خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اذل، واو عاظف ان حرف تحقیق کَا ضمیر اس کا اسم لامر مذکر حلقہ جَمِيعٌ موصوف خَلِدُونَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل، دونوں مل کر صفت، موصوف بہفت خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین، قَالُوا مخذوف کا مقولہ ہو کر اَوْسَل کے فاعل فِزِعُونَ سے حال ہے۔

**فَاخْرَجَهُمْ مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ ۝ وَكُنُوْا وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝ كَذٰلِكَ ۙ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيَّ**

**اِسْرَآئِيْلَ ۝**

**آیت نمبر ۵۸، ۵۹، ۵۸، ۵۹:** فَاخْرَجَهُمْ اور معطوف علیہ مخذوف ہے اِجْتَمَعُوا وَاَتَّفَقُوا اَعْلَى الرَّيْبِ اِجْتِمَاعٌ اَخْرَجْنَا فعل تام ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، یون حرف جار جَنَّتٍ معطوف علیہ، واو عاظف عَيْوُنٍ معطوف اذل، واو عاظف كُنُوْا معطوف ثانی، واو عاظف مَقَامٍ كَرِيْمٍ موصوف بہفت معطوف ثالث، معطوف علیہ یا معطوفات ثلاثہ بجر و، جار باجر و طرف لغو اَخْرَجْنَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق ہلہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، کَذٰلِكَ جار باجر و طرف مستتر کَلْبَانِ کے متعلق ہو کر مبتدا مخذوف اَلَا مَوْكِبٍ خَبْر، مبتدا جار جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاظف اَوْرَثْنَا فعل تام ضمیر فاعل کَا ضمیر منصوب مفعول بہ اذل، بَنِيَّ اِسْرَآئِيْلَ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معترضہ ہوں۔

**فَاكْتَبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۶۰:** فَاخْرَجَهُمْ اَكْتَبَعُوا فعل تام ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مُّشْرِقِيْنَ یہ فاعل یا مفعول سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، اور معطوف علیہ مخذوف ہے اِجْتَمَعُوا دونوں مل کر جملہ مستانفہ ہوں۔

**فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعِ مَن قَالَ اَصْحٰبُ مُوسٰى اِنَّا لَمُدْرِكُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۶۱:** فَاخْرَجَهُم اِسْتِنَائِيَةً لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم تَرَآءَ فعل اور یہ اصل میں تَرَآءَ ہی ہے، الْجَمْعِ مَن قَالَ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، قَالَ فعل اَصْحٰبِ مُوسٰى مرکب اضافی فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ان حرف تحقیق کَا ضمیر اس کا اسم لامر مذکر حلقہ مُدْرِكُوْنَ اسم مفعول نَحْنُ مستتر نائب فاعل، دونوں مل کر خبر، ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جزاہ، شرط یا جزاہ جملہ شرطیہ ہوں۔

**قَالَ كَلٰٓءَ اِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنَ ۝**



**آیت نمبر ۶۲:** قَالَ لَوْلِي هُوَ مُزِيْرٌ مَسْتَقِرٌّ قَاعٌ يَدُوْدُونَ لَمْ كَرِهْلِهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ قَوْلٌ مَّا حَرَفَ رُوْعٌ غَيْرَ عَامِلٍ اِنَّ حَرْفَ تَحْقِيْقِ مَبْرُكٍ مَرْكَبٍ اِضَافِيٌّ كَاثِرِيْنَ كَا مَفْعُولٍ فِيَهْ هُوَ كَرْبٌ مَقْدَمٌ اَوْ فِي مَرْكَبٍ اِضَافِيٍّ مُنْصَوْبٍ تَقْدِيْرًا مِثْلَ مَوْزِعِيْنَ اِيَّاهُمْ وَخَبْرِيَهْ اِسْمِيَهْ خَبْرِيَهْ مَقْوَلٌ، قَوْلٌ بِاِقْوَلِ هَجْلِهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ هُوَلِيَسِيْنٌ عَلَامَتُ فَعْلٍ، يَفْعَلِيٌّ فَعْلٌ نُونٌ بَرَاءَةٌ وَفَايَهْ يَاءٌ مُزِيْرٌ مَحْذُوْفٌ مَفْعُولٌ بِهٖ اَوَّلٌ، اَوْرَ مَفْعُولٌ بِهٖ ثَانِيٌّ مَحْذُوْفٌ هُوَ كَلَرِيْقِ النَّجَاةِ فَعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَمَفْعُولِيْنَ هَجْلِهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ اِنَّ كِيْ خَبْرٌ دُوْمٌ هُوَلِيْ.

**فَاَوْ حَيْنًا اِلَى مُوْسَى اِنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ**

**الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾**

**آیت نمبر ۶۳:** فَآءٌ فَسِيْرٌ اَوْرَاسُ كِيْ شَرْطٌ مَحْذُوْفٌ هُوَ اِذَا قَالَ اَضْحَابُ مُوْسَى اِنَّآ اَكْبَرُ كُنُوْنَ (فقیر) اَوْ حَيْنًا فَعْلٌ نَا مُزِيْرٌ قَاعٌ اِلَى مُوْسَى جَدُّ بَاخْرٌ وَتَحْلِقُ اَوْنٌ هُوَلِيْ اَنْ حَرْفٌ مَعْدُوْرِيٌّ وَنَسْبٌ اَضْرِبْ فَعْلٌ اِمْرَاةٌ مُزِيْرٌ قَاعٌ بَاءٌ حَرْفٌ جَدُّ عَصَاكَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ جَرُّوْرٌ، جَدُّ بَاخْرٌ وَتَحْلِقُ هُوَلِيْ الْبَحْرُ مَفْعُولٌ بِهٖ، فَعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَتَحْلِقُ مَفْعُولٌ بِهٖ، جَمْلَةٌ اِنْفَاسِيَهْ هُوَ كَرَبْتَا وَوَلِيْ مَعْدُوْرِيَّاهُ مَحْذُوْفٌ كَا بَاخْرٌ، جَدُّ بَاخْرٌ وَاَوْ حَيْنًا كَيْ تَحْلِقُ اَتَانِي هُوَلِيْ، فَعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَتَحْلِقُ اَتَانِي جَمْلَهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ هُوَ كَرَبْتَا وَوَلِيْ مَعْدُوْرِيَّاهُ مَحْذُوْفٌ كَا بَاخْرٌ، جَدُّ بَاخْرٌ وَاَوْ حَيْنًا كَيْ تَحْلِقُ اَتَانِي هُوَلِيْ، فَعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَتَحْلِقُ اَتَانِي جَمْلَهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ هُوَلِيْ اَسْ كِيْ شَرْطٌ مَحْذُوْفٌ هُوَ اِذَا كَرَبَتْ مُوْسَى بِعَصَاةِ الْبَحْرِ (فقیر) اِنْفَلَقَ فَعْلٌ هُوَ مُزِيْرٌ مَسْتَقِرٌّ قَاعٌ يَدُوْدُونَ لَمْ كَرِهْلِهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، فَآءٌ عَاظِفٌ كَانِ فَعْلٌ نَا قَسْمٌ كُلُّ فِرْقِيٍّ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ اِسْ كَا مَرْكَبٌ حَرْفٌ جَدُّ الطَّوْدِ وَالْعَظِيْمِ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ جَرُّوْرٌ، جَدُّ بَاخْرٌ وَوَلِيْ مَعْدُوْرِيَّاهُ مَحْذُوْفٌ كَا بَاخْرٌ، جَدُّ بَاخْرٌ وَاَوْ حَيْنًا كَيْ تَحْلِقُ اَتَانِي هُوَلِيْ، فَعْلٌ نَا قَسْمٌ بِاِسْمِ خَبْرٍ جَمْلَهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِقْوَالٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ جَزَاءٌ جَمْلَهْ شَرْطِيَهْ هُوَلِيْ.

**وَاَزَلَفْنَا لَمَّ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٦٤﴾**

**آیت نمبر ۶۴:** وَاَوْ عَاظِفٌ اَزَلَفْنَا فَعْلٌ نَا مُزِيْرٌ قَاعٌ لَمَّ تَرْفٌ مَكَانٌ مَفْعُولٌ فِيَهٗ الْاٰخِرِيْنَ مَفْعُولٌ بِهٖ، فَعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَمَفْعُولِيْنَ هَجْلِهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ اَوْ حَيْنًا كَيْ مَعْطُوْفٌ هُوَ.

**وَاَنْجَبْنَا مُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْبَعِيْنَ ﴿٦٥﴾**

**آیت نمبر ۶۵:** وَاَوْ عَاظِفٌ اَنْجَبْنَا فَعْلٌ نَا مُزِيْرٌ قَاعٌ مُوْسَى مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاظِفٌ مَنَامٌ مَوْصُوْلٌ مَعَهُ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ فَعْلٌ مَحْذُوْفٌ كَيْتٌ كَا مَفْعُولٌ فِيَهٗ هُوَ كَرَصَلَهٗ، مَوْصُوْلٌ بِاصْلِهٖ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِقْوَالٍ مَوْكَلًا اَجْبَعِيْنَ تَاكِيدٌ، مَوْكَلٌ بِتَاكِيدِ مَفْعُولٌ بِهٖ، فَعْلٌ بِاِقْوَالٍ وَمَفْعُولِيْنَ هَجْلِهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ اَزَلَفْنَا كَيْ مَعْطُوْفٌ هُوَ.

**لَمَّ اَعْرَفْنَا الْاٰخِرِيْنَ ﴿٦٦﴾**

**آیت نمبر ۶۶:** لَمَّ عَاظِفٌ اَعْرَفْنَا فَعْلٌ نَا مُزِيْرٌ قَاعٌ الْاٰخِرِيْنَ مَفْعُولٌ بِهٖ، تَمِيْزٌ لَمْ كَرِهْلِهْ فَعَلِيَهْ خَبْرِيَهْ اَجْبَعِيْنَ كَيْ مَعْطُوْفٌ هُوَ.

**آیت نمبر ۶۷:** اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ وَاَوْ مَا كَانَ اَسْتَرْهُمُ مَوْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾

**آیت نمبر ۶۸:** وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٨﴾

ان آیت کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کے آخر میں گزر چکی ہے۔

﴿ ۱۶ ﴾ رُكُوعٌ نَهْرَةٌ ﴿ ۱۷ ﴾

وَ اٰثَلٌ عَلَيْهِمْ نَبَاٌ اٰبُرْهِمُهُ ﴿ ۱۸ ﴾

**آیت نمبر ۱۶:** واؤ عاطفہ اثل فعل امر اکت ضمیر مستتر فاعل علیہم جہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے نَبَاٌ اٰبُرْهِمُهُ مرکب اضافی مفعول یہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول یہ جملہ انتہائی معطوف ہے اذ نَادَى رَبُّكَ ہر اس لئے کہ اذ نَادَى فعل محذوف اذ کُرِّ کا مفعول یہ ہے۔

اِذْ قَالَ لِاٰيِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿ ۱۹ ﴾

**آیت نمبر ۱۹:** اذ طرف زمان مضاف قال فعل ہو مستتر فاعل لہا حرف جہ اٰیہ و عاطفہ علیہ، واؤ عاطفہ قَوْمِهِ مرکب اضافی معطوف، دونوں مل کر مجرور، جہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ماضی استہمامیہ بمعنی اَتَى شَيْءٌ مَفْعُولٌ یہ مقدم تَعْبُدُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل و مفعول یہ مقدم سے مل کر جملہ انتہائی مقولہ، قول یا مقولہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اذ کُرِّ کا مفعول یہ ہے، پھر اذ کُرِّ اٰثَلٌ عَلَيْهِمْ کا بدل ہے۔

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا مَّا فَتَنَّا لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿ ۲۰ ﴾

**آیت نمبر ۲۰:** قالوا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، تَعْبُدُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل اَصْنَامًا مَّا مفعول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ نَكَلْنَا بمعنی لَدُوْمُ فعل نَحْنُ مستتر ذوالحال کہا جا رہا ہے مجرور طرف لغو متعلق مقدم، عَلِيْقِيْنَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿ ۲۱ ﴾ اَوْ يَنْفَعُوْكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿ ۲۲ ﴾

**آیت نمبر ۲۱، ۲۲:** قال فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر قول، هل حرف استہمامیہ يَسْمَعُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول یہ، اذ ظرف زمان مضاف تَدْعُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی يَسْمَعُوْنَ کا مفعول یہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انتہائی معطوف علیہ، او عاطفہ يَنْفَعُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، او حرف عطف يَضُرُّوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ انتہائی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿ ۲۳ ﴾

**آیت نمبر ۲۳:** قالوا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، بل حرف عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے لَا يَسْمَعُوْنَ وَلَا يَنْفَعُوْنَ وَلَا يَضُرُّوْنَ، وَجَدْنَا فعل واؤ ضمیر فاعل اٰبَاءُ ناکر مرکب اضافی مفعول یہ، اثل، کذٰلِكَ جہ باجر و طرف مستتر کذٰلِكَ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف فِعْلًا کے مفعول مطلق مقدم يَفْعَلُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل بافاعل و مفعول مطلق

مقدم مفعلاً منصوب مفعول بہ ہائی، فعل ہاقابل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول ہاقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ أَفَرءَ يَتْمَمُ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۷۵﴾ أَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ الْاٰقْدَمُونَ ﴿۷۶﴾

آیت نمبر ۷۵، ۷۶: قَالَ لعل ہو مستتر قائل، دونوں ل کر قول، ہمہذا حرف استفہام قاء عاقلہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تَامَلْتُمْ ہوے تیکم فعل ثم ضمیر فاعل ماسم موصول کُنْتُمْ فعل ناقص ثم ضمیر اس کا اسم تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر مؤکد، اَنْتُمْ ضمیر فصل تاکید، مؤکد ہا تاکید معطوف علیہ، واو عاقلہ اَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی موصوف اَلْاٰقْدَمُونَ اسم تفضیل هُمْ ضمیر مستتر قائل دونوں ل کر مفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَعْبُدُونَ کا قائل، فعل ہاقابل جملہ فعلیہ خبریہ، فعل ناقص ہا ضمیر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ ہوے تیکم کا مفعول بہ، فعل ہاقابل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ محذوف با معطوف مقولہ، قول ہاقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ الْاَرَءَبِ الْعٰلِيْنَ ﴿۷۷﴾

آیت نمبر ۷۷: قاء تعلیل ان حرف تحتیں هُمْ ضمیر اس کا اسم، عَدُوٌّ و موصوف لی جہد باجر و طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت خبر بان ہا ضم خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں اور جملہ مطلقہ محذوف ہے اِنِّیْ لَآ اَعْبُدُ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ الْاٰقْدَمُونَ، الْاَرَءَبِ الْعٰلِيْنَ زخمی وغیرہ کے نزدیک یہ مرکب اضافی مستثنیٰ منقطع ہے اور اصل عبارت یہ ہوگی لٰكِنْ رَبِّ الْعٰلِيْنَ و لٰقِنِ اور دوسرے صحرا کے نزدیک الْاَرَءَبِ الْعٰلِيْنَ هُمْ ضمیر منصوب سے مستثنیٰ متصل ہے، کیونکہ تو ہم ابراہیم اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی اور بتوں کی عبادت بھی کرتی تھی مان کے معبودوں میں رب العالمین شامل تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے معبود ہیں سب میرے دشمن ہیں البتہ جو رب العالمین ہے وہ میرا دوست ہے۔

الَّذِي خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِيْ ﴿۷۸﴾ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِيْ ﴿۷۹﴾ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِيْ ﴿۸۰﴾ وَالَّذِيْ يُمَيِّتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِيْ ﴿۸۱﴾ وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿۸۲﴾

الَّذِيْنَ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳: الَّذِيْ نام موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر قائل نون و قایہ کا نیاہ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل ہاقابل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قاء عاقلہ هُوَ ضمیر مبتدا يَهْدِيْنِيْ فعل ہو مستتر قائل نون برائے و قایہ نیاہ ضمیر مفعول بہ، فعل ہاقابل و مفعول بہ خبر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہا صلہ معطوف علیہ، واو عاقلہ الَّذِيْ نام موصول هُوَ ضمیر مبتدا يُطْعِمُ فعل ہو مستتر قائل نون برائے و قایہ نیاہ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاقلہ يَسْقِيْ فعل ہو مستتر قائل نون برائے و قایہ نیاہ ضمیر معذوف منصوب مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاقلہ اِذَا شرطیہ مفعول بہ مقدم مَرِضْتُ فعل ناقہ مضمومہ ضمیر فاعل، فعل ہاقابل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ قاء جزائیہ هُوَ

ضمیر مبتداء یُشْفِقُونَ کی ترکیب یَسْقِیْنِ کی طرح ہے اور یہ جملہ خبریہ، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ہو کر خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف اول، واو عاطفہ الّذِیْنِ اسم موصول یُؤْمِنُ فِعْلُ هُوَ ضمیر قائل نون برائے وقایہ یتاء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ بن کر معطوف علیہ، فَعْلُهُ عاطفہ یُحْیِیْ فِعْلُ هُوَ ضمیر قائل نون برائے وقایہ یتاء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، واو عاطفہ الّذِیْنِ اسم موصول اَطْلَعُ فِعْلُ اَنَا مستتر قائل اَنْ حرف مصدری و نصب یَغْفِرُ فِعْلُ هُوَ ضمیر قائل بی جاہ باجرور متعلق ہوئے حَظِیْقَتِیْ مرکب اضافی مفعول بہ یَوْمَ الّذِیْنِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل باقاعل و مفعولین بنا ویل مصدر اَطْلَعُ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کی صفت ہے

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقِّيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاَجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِيْنَ ۝ وَاَجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝ وَاغْفِرْ لِاِيْتِيْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضّٰلِّيْنَ ۝ وَاَلَا تُحْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷:** رَبِّ یہ اصل میں یا کرتی ہے اور یہ علامہ ہے، هَبْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر قائل بی جاہ باجرور ظرف نون متعلق ہوئے حُكْمًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلْحَقِّيْ فِعْلُ امر اَنْتَ ضمیر مستتر قائل نون برائے وقایہ یتاء ضمیر مفعول بہ، بِالصّٰلِحِيْنَ جاہ باجرور ظرف نون متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اَجْعَلْ فِعْلُ امر اَنْتَ ضمیر مستتر قائل بی جاہ باجرور ظرف مستقر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم و لِسَانَ صِدْقٍ مرکب اضافی موصوف فی الْاٰخِرِيْنَ جاہ باجرور ظرف مستقر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اَجْعَلْ فِعْلُ امر اَنْتَ ضمیر مستتر قائل نون برائے وقایہ یتاء ضمیر منصوب مفعول بہ اول، میں حرف جاہ و وَرَثَةِ مضاف جَنَّةِ النَّعِيْمِ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جاہ باجرور ظرف مستقر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ثالث، واو عاطفہ اَغْفِرْ فِعْلُ امر اَنْتَ مستتر قائل لامہ حرف جاہ بی مرکب اضافی مجرور، جاہ باجرور ظرف نون متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ انشائیہ منطل، اِنْ حرف تحقیق اَنْ ضمیر اس کا کام کان فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا کام میں الضّٰلِّيْنَ جاہ باجرور ظرف مستقر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیل، منطل با تعلیل معطوف رابع، واو عاطفہ لَا تُحْزِنِيْ فِعْلُ نَمِیْ اَنْتَ ضمیر مستتر قائل نون برائے وقایہ یتاء ضمیر منصوب مفعول بہ، یَوْمَ مضاف یُبْعَثُوْنَ فِعْلُ مجہول داؤ ضمیر نائب قائل دونوں مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل باقاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ معطوف خامس، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ علامہ کا جواب، ہمہ با جواب جملہ انشائیہ علامہ ہوں

یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ ۝ اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ يَقْلِبْ سَلِيْمًا ۝

**آیت نمبر ۸۸، ۸۹:** یَوْمَ مضاف لَا يَنْفَعُ مَالٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَنْفَعُ بَنُوْنَ معطوف، دونوں مل کر قائل بِالْاَلَا حرف استثناء من اسم موصول اَتَى فِعْلُ هُوَ مستتر قائل اللّٰهَ اسم الجبار مفعول بہ، بناء حرف جاہ قَلْبٍ سَلِيْمًا مرکب توصیفی مجرور، جاہ باجرور ظرف

لفظ متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق صلہ، موصول ہا صلہ مستثنیٰ مفرغاً ماضی منصوب مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ منافیہ، پھر مرکب اضافی یَوْمَ یُنْعَمُونَ کا بدل ہے۔

### وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِيں ۝

**آیت نمبر ۹۱، ۹۰:** واو عطفہ، اَزَلَّتِ فعل مجہول الْجَنَّةُ نائب فاعل لِلْمُتَّقِينَ جار مجرور ظرف لفظ متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے بائیں قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطفہ بُرْزَتِ فعل مجہول الْجَحِيمُ نائب فاعل لِلْغَوِيں جار مجرور ظرف لفظ متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے بائیں قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف لَا یَنْفَعُ ہر معطوف ہے۔

### وَقِيلَ لَهُمْ أَإِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ۝

**آیت نمبر ۹۲، ۹۳:** واو عطفہ قِيلَ فعل مجہول هُوَ ضمیر مستتر نائب فاعل لَهُمْ جار مجرور ظرف لفظ متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ایں ظرف مکان کاؤن کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، مآس موصول کُنْتُمْ فعل ناقص هُمْ ضمیر اس کا اسم تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر قائل ہا ضمیر منصوب محذوف ذوالحال، مِنْ حرف جار دُونَ اللہ مرکب اضافی جار مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَانْتُمْ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا موصول صلہ، موصول ہا صلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ جار جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ بُرْزَتِ الْجَحِيمُ ہر معطوف ہے۔ کَلَّ حرف استہمام یَنْصُرُونَ فعل واو ضمیر قائل کہ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عطفہ یَنْصُرُونَ فعل واو ضمیر قائل ہا موصول مل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف قول کے مقولہ میں داخل ہے۔

### فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُنَ ۝ وَالْجُنُودِ الْإِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝

**آیت نمبر ۹۴، ۹۵:** فاء استینا فیہ کُبْكِبُوا فعل مجہول واو ضمیر مؤکد هُمْ ضمیر منفصل تاکید، مؤکد ہائے بائیں معطوف علیہ واو عطفہ الْغَاوُنَ معطوف اول، واو عطفہ جُنُودِ الْإِبْلِيسَ مرکب اضافی مؤکد أَجْمَعُونَ تاکید، مؤکد ہائے بائیں معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین نائب قائل فِيهَا جار مجرور ظرف لفظ متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے بائیں قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متساوی ہوں۔

### قَالُوا وَهَمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

**آیت نمبر ۹۶، ۹۷:** قَالُوا فعل واو ضمیر ذوالحال، واو عالی هُمْ ضمیر مبتدأ فِيهَا جار مجرور ظرف لفظ متعلق مقدم ہوئے یَخْتَصِمُونَ فعل واو ضمیر قائل، فعل ہا قائل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ جار جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، تَاللَّهِ جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوئے فعل محذوف أَقْسِمُ کے، أَقْسِمُ فعل ناقص اَنَا ضمیر قائل، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ قسم، اِن محذوف من اللہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم، كُنَّا فعل ناقص اَنَا ضمیر اس کا اسم لآء فارق فی حرف جار ضَلَالٍ مُّبِينٍ مرکب توسعی جار مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَانْتُمْ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا موصول صلہ، موصول جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ اِن محذوف ہا موصول خبریہ قسم کا جواب، قسم ہا جواب جملہ انشائیہ قسمیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔



**سوال:** قَوْمٌ نُوحٍ فاعل اسم ظاہر مذکر ہے لہذا اس کا فاعل مذکر ہونا چاہیے تھا کذب؟

**جواب نمبر ۱:** القوم مؤنث معنوی ہے اسی لیے اس کی تعمیر جو کتبہ آئی ہے (مطہری)

**جواب نمبر ۲:** قَوْمِ اسم جنس ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کیلئے آپس (روح المعانی)

**إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۰۶﴾**

**آیت نمبر ۱۰۶:** إِذْ ظرف زمان مضاف قال فعل لہم جہد باجہر و طرف لغو متعلق ہوئے أَخُوهُمْ مرکب اضافی بین نُوحٍ

معلق بیان، مبین باعطف بیان فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول ہمزہ حرف استفہام لَا تَتَّقُونَ فعل واو ضمیر قائل دونوں

مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول باقول جملہ فعلیہ خبریہ إِذْ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی کَذَّبَتْ کا مفعول فیہ ہے۔

**إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۰۷﴾**

**آیت نمبر ۱۰۷:** إِنّ حرف تحقیق تاکہ ضمیر اس کا اسم لکھ جہد باجہر و طرف مستقر کاذب کے متعلق ہو کر حال مقدم ہو رسول

أَمِينٌ مرکب توصیفی بذوالحال مؤخر بذوالحال ہا حال خبر بیان ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

**فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۰۸﴾**

**آیت نمبر ۱۰۸:** فَادّ ضمیر اور شرط محذوف ہے إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، يَا إِنْ صَدَقْتُمْ نُونِي، اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر قائل

اللہ اسم الجلال مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَطِيعُوا فعل امر واو ضمیر قائل نون برائے وقایہ یاد محذوف ضمیر

منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ باعطف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۹﴾**

**آیت نمبر ۱۰۹:** واو عاطفہ مَا تَأْتِيهِ أَسْأَلُ فعل آنا مستتر ضمیر قائل لکھ ضمیر منصوب مفعول بہ عَلَيَّ جہد باجہر و طرف لغو متعلق

ہوئے، مِنْ حرف جہد لکھ أَجْرِي عَلَّای منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ إِنّ حرف نفی أَجْرِي مرکب اضافی

مرفوع تقدیر بہ متبدلہ، إِلَّا حرف استفہام علی حرف جہد رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب اضافی جہد، جہد باجہر و مستثنیٰ مفرغ طرف مستقر کاذب کے

متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

**فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۱۰﴾**

**آیت نمبر ۱۱۰:** فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اس کی ترکیب ابھی ادرہ گزری ہے اور یہ آیت اس کی ایک آیت کہتا ہے۔

**قَالُوا أَنْتُمْ مِنْكُمْ وَابْتَعْتَكُمْ الْآرِدَّةَ ﴿۱۱۱﴾**

**آیت نمبر ۱۱۱:** قَالُوا فعل واو ضمیر قائل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہمزہ حرف استفہام أَنْتُمْ مِّنْكُمْ فعل مستتر

فاعل لام حرف جر کا ضمیر ذوالحال، واو حالیہ ابْتَعْتُمْ فعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ الْآرِدَّةَ نون فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ

خبریہ حال، اور ابْتَعْتُمْ سے پہلے حرف قَدْ محذوف ہے بذوالحال ہا حال جہد، جہد باجہر و طرف لغو نون مِّنْكُمْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق

جملہ انشائیہ استنہامیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**قَالَ وَمَا عَلِيٌّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۲﴾**

**آیت نمبر ۱۱۲:** قَالَ فَهُوَ ضمیر مستتر قائل، دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہوا، و زائد، مآثر فیہ علیہ مرکب اضافی مبتدأ، تاکہ حرف جر مآثم موصول کا کوا، فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، يَعْمَلُونَ فعل با داؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہاں با مجرور ظرف مستقر کتابت کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾**

**آیت نمبر ۱۱۳:** اِنْ حرف لئی حِسَابُهُمْ مرکب اضافی مبتدأ، اِلَّا حرف استثناء علی حرف جر ربیٰ مرکب اضافی مجرور، جہاں با مجرور ظرف مستقر کتابت کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، لَوْ حرف شرط تَشْعُرُوْنَ فعل ناقص واو ضمیر قائل، دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ماور جزاء محذوف ہے لَعَلَّكُمْ ذٰلِكَ (روح المعانی) شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۴﴾**

**آیت نمبر ۱۱۴:** واو عاطفہ مآثر فیہ جارید اَنَا ضمیر مبتدأ، تاکہ حرف جزاء طَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ مرکب اضافی لفظا مجرور معلق منصوب خبر، مآثر جارید ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنْ حِسَابُهُمْ محذوف ہے۔

**اِنْ اَنَا اِلَّا كَذِبٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۵﴾**

**آیت نمبر ۱۱۵:** اِنْ حرف لئی اَنَا ضمیر منفصل مبتدأ، اِلَّا حرف استثناء كَذِبٌ مُّبِينٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

**قَالُوْا اَلَيْسَ لَمْ تَنْتَهِيْنِيْۤنَّ عَنْ لَتِكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿۱۱۶﴾**

**آیت نمبر ۱۱۶:** قَالُوْا فعل با داؤ ضمیر قائل، دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَمْ لآء موطئ القسم اور قسم محذوف ہے، يٰۤاَيُّهَا حرف عامہ اَذْعُوْا کے قائم مقام، اَذْعُوْا فعل ناقص اَنَا ضمیر مستتر قائل نُوْحٌ منادى مفرد معرفہ معلق منصوب مفعول بہ، فعل با ناقص و مفعول بہ جملہ انشائیہ عامہ، اِنْ حرف شرط لَمْ تَنْتَهِيْنِيْۤنَّ فعل ناقص مستتر قائل، دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لآء جوابیہ تَنْتَهِيْنِيْۤنَّ فعل ناقص اَنْتَ ضمیر مستتر اس کا اسم وَ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ جہاں با مجرور ظرف مستقر کتابت کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، اور شرط کی جزاء محذوف ہے، پھر قسم با جواب قسم عامہ کا جواب مقدم، عامہ با جواب عامہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**قَالَ رَبِّ اِنْ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنَ ﴿۱۱۷﴾**

**آیت نمبر ۱۱۷:** قَالَ فعل ناقص هُوَ ضمیر مستتر قائل، دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یٰۤاَيُّ رَبِّيْ ہے اور یہ عامہ ہے، اِنْ حرف تحقیق قَوْمِيْ مرکب اضافی منصوب تقدیر اس کا اسم كَذَّبُوْا فعل ناقص واو ضمیر قائل، دونوں برائے و قادیہ یٰۤاَيُّ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با ناقص



ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، ان با ام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ غلامہ کا جواب، غلامہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾**

**آیت نمبر ۱۱۸:** فآء نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اذاکان الامور كذلك، یا ان اردت اعانتي، افتح فعل امر انت مستتر قائل بینی مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ بینہم مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ، معطوف مفعول فیہ، فتحتا مقول مطلق، فعل ہا قائل ومفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تیج فعل امر انت ضمیر مستتر قائل فون برائے وقایہ یاد ضمیر منصوب مفعول بہ، واو بمعنی مع "من" موصول مبعی مرکب اضافی فعل مخدوف تبتت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، من المؤمنین جملہ باجور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہما ل تیج کا مفعول معہ، فعل ہا قائل ومفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ، ہا معطوف جزاء، شرط مخدوف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَقِيَّةِ ﴿۱۲۰﴾**

**آیت نمبر ۱۱۹، ۱۲۰:** فآء نصیر اور شرط مخدوف ہے اذاکد عائش بنجارتہ ونجاة المؤمنین، انجینا فعل نا ضمیر قائل کا ضمیر منصوب مفعول بہ، واو بمعنی مع "من" موصول معہ مرکب اضافی فعل مخدوف تبتت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال فی حرف جرا الفلک موصوف المشحون اسم مفعول ہو ضمیر مستتر نائب قائل اسم مفعول ہائب قائل شہ جملہ ہو کر صفت، موصوف ہ صفت مجرور، جملہ باجور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہما ل مفعول معہ، فعل ہا قائل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وضمیر حرف عطف اغرقنا فعل نا ضمیر قائل بعد ظرف زمان ماضی منصوب مفعول فیہ، بالبقیۃ مفعول بہ، فعل ہا قائل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ، ہا معطوف جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**آیت نمبر ۱۲۱:** **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّذَوِّ الْمَعَالِمِ ﴿۱۲۱﴾**

**آیت نمبر ۱۲۲:** **وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾**

ان آیات کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کے آخر میں گزر چکی ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۷ ﴾

**آیت نمبر ۱۲۳:** **كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾**

**آیت نمبر ۱۲۴:** **إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾**

**آیت نمبر ۱۲۵:** **إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۲۵﴾**

**آیت نمبر ۱۲۶:** **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿۱۲۶﴾**

**آیت نمبر ۱۲۷:** **وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۷﴾**

ان آیات کی ترکیب اس رکوع سے پہلے والے رکوع کے شروع والی آیات کی ترکیب کی مثل ہے۔

اَكْبَنُونَ بِكُلِّ رِيْحٍ اَيَّةٌ تَعْبُونَ ۝ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝ وَاِذَا

بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰:** ہمزہ حرف استفہام تَبْنُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال تَعْبُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال بذوالحال باحال فاعل بآہ حرف جر کُلِّ رِيْحٍ مرکب اضافی مجرور، جہد باجہر و طرف مستقر کاؤتہا کے متعلق ہو کر حال مقدم، اَيَّةٌ ذوالحال مؤخر بذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تَتَّخِذُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال، لَعَلَّ حرف ترقی کُتْمُ ضمیر اس کا اسم تَخْلُدُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف ترقی ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیہ ہو کر واسطی الخُلُوْدِ کُتْمِ وکیل میں ہو کر حال بذوالحال باحال فاعل مَصَانِعٍ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف اول، واؤ عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم بَطَشْتُمْ فعل کُتْمُ ضمیر فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط بَطَشْتُمْ فعل کُتْمُ ضمیر ذوالحال، جَبَّارِيْنَ مینہ ہالذہ اَلْکُتْمُ ضمیر مستقر فاعل، دونوں مل کر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جہاد، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف انشائیہ استفہامیہ ہول

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۳۱:** قَام تفسیر یہ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ کی ترکیب اس رکوع سے پہلے رکوع میں گزرا ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِيْ اَمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝ اَمَدَكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ ۝ وَجَنَّتْ وَّ عِيُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴:** واؤ عاطفہ اتَّقُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الَّذِيْ اسم موصول اَمَدَ فعل کُتْمُ ضمیر منصوب مفعول بہ، بآہ حرف جار ما اسم موصول تَعْلَمُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل اَنْعَامٍ ضمیر مخدوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہد باجہر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مبدل منہ، اَمَدَ فعل کُتْمُ ضمیر مستقر فاعل کُتْمُ ضمیر منصوب مفعول بہ، بآہ حرف جَر اَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ وَّ جَنَّتْ وَّ عِيُوْنَ یہ معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مجرور، جہد باجہر و طرف لغو اَمَدَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بدل، مبدل منہ با بدل صلہ، موصول باصلہ اتَّقُوا کَام مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہول

اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

**آیت نمبر ۱۳۵:** اِنِّىْ حرف تحقیق يَوْمٍ ضمیر منصوب مَعْلَا اس کا اسم اَخَافُ فعل اَنَا ضمیر مستقر فاعل عَلَيْكُمْ جار باجہر و طرف لغو

متعلق ہوئے عَذَابِ مضاف يَوْمٍ عَظِيْمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ

خبریہ خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مغلّیہ ہول (مظہری)

قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوْ عَظَمْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۳۶:** قَالُوا نَحْنُ ذَاؤْمِرٌ قَاعِلٌ مِدْوُونٌ لِمَ كَرِهْتَ فَعَلِيَةَ خَبْرِيَةَ قَوْلِ سَوَادٍ مَعْدَرٍ بِسْمِيَّ اِسْمِ قَاعِلٍ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرَقٌّ قَاعِلٌ عَلَيَاتِنَا جَدَّ بَجْرٍ وَرُطْرَفٍ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اِسْمٌ قَاعِلٌ بِقَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ شَبِيهٌ جَمَلَةٌ هُوَ كَرِخْرٌ مَقْدَمٌ هَمْزُهُ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ بَرَأَ تَسْوِيَةً وَتَعَطَّلَتْ فَعْلٌ تَاءٌ مَعْدَرٌ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ مِدْوُونٌ لِمَ كَرِهْتَ فَعَلِيَةَ اَبْنَةَ عَائِشَةَ لَمْ تَكُنْ فَعْلٌ نَاقِصٌ اَنْتَ ضَمِيرٌ مُسْتَرَقٌّ مِمَّنِ الْوَاعِظِيْنَ طَرَفٌ مُسْتَرَقٌّ كَايَاتِنَا كَيْ مَعْلُوقٌ هُوَ كَرِخْرٌ فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ مَعْدَرٌ مَعْدَرٌ بِتَاوِيلِ مَعْدَرٍ مَبْتَدَاؤُهُ خَبْرٌ مَبْتَدَاؤُهُ خَبْرٌ مَقْدَمٌ هُوَ خَبْرٌ مَقْدَمٌ جَمَلَةٌ فَعَلِيَةَ خَبْرِيَةَ هِيَ

**اِنَّ هَذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَمَا نَحْنُ بِمَعْدَدٍ بَيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۳۷:** اِنَّ نَازِيَةً هَذَا اِسْمٌ اَشْهَدُ مَبْتَدَاؤُهُ اِلَّا حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مُسْتَقْبَلٌ مَفْرُوعٌ خَبْرٌ مَبْتَدَاؤُهُ خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْدَرٌ عَلِيَةَ هِيَ وَاُوَاؤُهَا عَائِشَةُ مَا تَجَاوَزَتْ لَمْ تَكُنْ ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ مَبْتَدَاؤُهُ اَبَاءٌ حَرْفٌ جَزَلَةٌ مَعْدَدٍ بَيْنَ اِسْمٍ مَعْدُولٌ لَمْ تَكُنْ ضَمِيرٌ مُسْتَرَقٌّ نَاقِصٌ قَاعِلٌ اِسْمٌ مَعْدُولٌ بِاَنْتَ فَعْلٌ مُلَا مَنُوبٌ خَبْرٌ مَعَا جَمَلَةٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْدَرٌ مَعْدَرٌ عَلِيَةَ هِيَ مَعْدَرٌ سَوَادٌ عَلَيَاتِنَا كَيْ تَطْلِيلٌ هِيَ (روح المعاني)

**فَكَذَّبُوهُ فَاهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ اَكْتَرٰهُمْ مَّؤْمِنِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۳۹:** قَامَ عَائِشَةُ كَذَّبُوا فَعْلٌ وَاُوَاؤُهُ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ اِسْمٌ مَعْدُولٌ مَفْعُولٌ بِهٖ تَمِيْنٌ لِمَ كَرِهْتَ فَعَلِيَةَ خَبْرِيَةَ مَعْدَرٌ عَلِيَةَ هِيَ قَامَ عَائِشَةُ اَهْلَكْنَاهُمْ فَعْلٌ تَامٌ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مُنْصَبٌ مَفْعُولٌ بِهٖ تَمِيْنٌ لِمَ كَرِهْتَ فَعَلِيَةَ خَبْرِيَةَ مَعْدَرٌ مَعْدَرٌ عَلِيَةَ هِيَ مَعْدَرٌ قَالُوْا لِهٖ مَعْدَرٌ هِيَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْتَرٰهُهُمْ مَّؤْمِنِيْنَ اِسْمٌ اَيْتِ كِي تَرْكِيْبُ اِسْمِي سُوْرَتِ كَيْ پِيْلَرُ كُوْعِ كِي اٰخِرِيْ اٰيَاتِ مِيْنَ كَرِيْمِيْ هِيَ

**آیت نمبر ۱۴۰:** وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ان آیت کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں گزر چکی ہے۔

● رکوع نمبر ۸ ●

**آیت نمبر ۱۴۱:** كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۴۲:** اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۴۳:** اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۴۴:** فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۴۵:** وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنِ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ان آیت کی ترکیب گزشتہ رکوع سے ہی سورت کے پہلے رکوع میں گزر چکی ہے۔

**اَكْتَرٰ كُوْنٌ فِيْ مَا هُمْنَا اٰمِنِيْنَ ۝ فِيْ جَنَّتٍ وَ عِيُوْنٌ ۝ وَ زُرُوْعٌ وَ نَحْلٌ طَلَعَهَا هَضِيْمٌ ۝**

**آیت نمبر ۱۳۶** ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۹: ھمزہ حرف استہمام تُنْزِئُوْنَ فعل مجہول واؤ ضمیر ذوالحال اُمِّیْنِیْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل، دونوں مل کر حال ذوالحال باحال نائب فاعل فی حرف جر مآسم موصول ھُنَّ ظرف مکان فعل محذوف تَبَّتَ کامفعول فی ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور مبدل مند فی حرف جر جَعَلْتِ مَعطوف علیہ، واؤ عاطفہ عَیُّوْنَ مَعطوف اول، واؤ عاطفہ زُرُوْع مَعطوف ثانی، واؤ عاطفہ لَحْلُ موصول کلمہ ہا مرکب انسانی مبتدأ مضمیضہ مینہ صفت ھُوْ مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مَعطوف ثالث، مَعطوف علیہ با مَعطوفات ثانیہ مجرور، جار مجرور بدل، مبدل مند با بدل ظرف لغو تَنْزِئُوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے نائب فاعل و متعلق جملہ انشائیہ استہمامیہ ہوں۔

**وَتَنْجِئُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بَیُّوتًا فَرِیْہِیْنَ ﴿۱۳۷﴾**

**آیت نمبر ۱۳۷** ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۳۹: واؤ عاطفہ یا حالیہ تَنْجِئُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل مِنَ الْجِبَالِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، بَیُّوتًا مفعول بہ فَرِیْہِیْنَ "تَنْجِئُوْنَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ یا تَوَ اُمِّیْنِیْنَ پر مَعطوف ہے کیونکہ اُمِّیْنِیْنَ تَأْمَنُوْا کے معنی کو مستغنی ہے یا اُمِّیْنِیْنَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

**فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ﴿۱۵۰﴾**

**آیت نمبر ۱۵۰** ۱۴۹، ۱۵۱: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ اس کی ترکیب اوپر گزر چکی ہے اور یہ مَعطوف علیہ ہے۔

**وَلَا تُطِیْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿۱۵۱﴾ الَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ ﴿۱۵۲﴾**

**آیت نمبر ۱۵۱، ۱۵۲** ۱۵۱، ۱۵۲: واؤ ضمیر فاعل اَمْرَ مضاف الْمُسْرِفِیْنَ موصول الَّذِیْنَ اسم موصول یُفْسِدُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل فی الْاَرْضِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا یُصْلِحُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مَعطوف، مَعطوف علیہ با مَعطوف صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت اَمْرَ کا مضاف علیہ، پھر مرکب انسانی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ اتَّقُوا پر مَعطوف ہے۔

**قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِیْنَ ﴿۱۵۳﴾**

**آیت نمبر ۱۵۳** ۱۵۳: قَالُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر قول اِنَّ حرف تحقیق کھوف، مآ کا ذہ انت ضمیر منضعل مبتدأ، مِنَ الْمُسْحَرِیْنَ جار مجرور ظرف مسترک کثیر کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقول قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا سِے قَاتٍ بِاٰیۃٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۱۵۴﴾**

**آیت نمبر ۱۵۴** ۱۵۳، ۱۵۴: مآنا فیہ اَنْتَ ضمیر منضعل مبتدأ، اِلَّا حرف استہمام بَشَرٌ موصوف مِثْلُنَا مرکب انسانی صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوا۔ قَاتٍ ہوائے اِنْتِ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل بِاٰیۃٍ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ جہاد مقدم اِنَّ حرف شرط کُنْتَ فعل ناقص تاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم، مِنَ الصّٰدِقِیْنَ جار مجرور ظرف مسترک کثیر کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿۱۵۵﴾

**آیت نمبر ۱۵۵:** قَالَ هُوَ خَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ، فعل بافاعل قول، هَذِهِ اسم اشارة مبتدأ، نَاقَةٌ موصوف لَهَا جملہ باجرور ظرف مستقر کائیں کے متعلق ہوئے، مَکَلْنِمْ اسم قائل ہُوَ مستتر زوالحال، ہُوَ اوا حالیہ لَکُمْ جملہ باجرور ظرف مستقر کائیں کے متعلق ہو کر خبر مقدم، شِرْبٌ مضاف یَوْمَ مَعْلُومٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسیہ خبریہ حال بذوالحال باحال کائیں کا قائل، کائیں اسم قائل اپنے قائل و متعلق سے مل کر خبر مقدم، شِرْبٌ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر نَاقَةٌ کی صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ خبر جملہ اسیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيْمٍ ﴿۱۵۶﴾

**آیت نمبر ۱۵۶:** وَاِذَا عَاطَفَ لَا تَمْسُوْا اَلْفَعْلَ وَ اَوْ خَمِيرٌ قائل هَا خَمِيرٌ منصوب مفعول بہ بِسَوْءٍ جملہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انتہائیہ هَذِهِ نَاقَةٌ پر معطوف ہے (مظہری) قَاءَ عَاطَفَ يَأْخُذْ اَلْفَعْلَ كُمْ خَمِيرٌ منصوب مفعول بہ عَذَابٌ مضاف یَوْمَ عَظِيْمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی قائل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر (کیونکہ قاء کے بعد اَن مقدر ہے) معطوف ہے جملہ اول سے حاصل ہونے والے مصدر کیونکہ لَا تَمْسُوْا هَا بِسَوْءٍ لَا يَكُنْ مَشْتَهَا بِسَوْءٍ کی تاویل میں ہے۔

فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِحُوْا اِنْدِمِيْنَ ﴿۱۵۷﴾

**آیت نمبر ۱۵۷:** قَاءَ عَاطَفَ عَقَرُوْا اَلْفَعْلَ وَ اَوْ خَمِيرٌ قائل هَا خَمِيرٌ منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قَاءَ عَاطَفَ اَصْبِحُوْا اَلْفَعْلَ ناقص وَاَوْ خَمِيرٌ اس کا اسم لَدِمِيْنَ اسم قائل هُمُ مستتر قائل، دووں مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قائل پر معطوف ہے۔

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّاُولِيْ اَلْبَاصِ ﴿۱۵۸﴾

**آیت نمبر ۱۵۸:** قَاءَ عَاطَفَ اَخَذَ اَلْفَعْلَ هُمُ خَمِيرٌ منصوب مفعول بہ الْعَذَابُ قائل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَصْبِحُوْا پر معطوف ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً وَّ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اس آیت کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں گزر چکی ہے۔

آیت نمبر ۱۵۹: وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۵۹﴾

ان آیت کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں گزر چکی ہے۔

﴿ رُكُوْعٌ ۹ ﴾

آیت نمبر ۱۶۰: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۶۰﴾

آیت نمبر ۱۶۱: اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ لُوطُ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۶۱﴾

آیت نمبر ۱۲۲: **إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۲۲﴾**

آیت نمبر ۱۲۳: **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿۱۲۳﴾**

آیت نمبر ۱۲۴: **وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۴﴾**

ان آیات کی ترکیب الہیہ گزر چکی ہے۔

**أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۵﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ ط**

**بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۲۶﴾**

آیت نمبر ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷: ہمدردی کا حرف استفہام تَأْتُونَ فعل واؤ ضمیر قائل الذُّكْرَانَ ذوالحال مِنَ الْعَالَمِينَ ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر حال، دونوں لں کر مفعول بہ، فعل ہاتھ لیا، مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ انتہائی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تَذَرُونَ فعل واؤ ضمیر قائل ماہم موصول خَلَقَ فعل لکم جہ باجور طرف لغو متعلق ہوئے رَبُّكُمْ مرکب اضافی قائل، فعل ہاتھ لیا، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ملکہ موصول باسلا ذوالحال مِنَ حَرْفِ جَمَاؤُ وَاِجْمَعُ مرکب اضافی خبر، جہ باجور طرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہاتھ لیا، مفعول بہ، فعل ہاتھ لیا، مفعول بہ جملہ فعلیہ انتہائی معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اَلْآتِكُمْ كَابِلٌ ہے (مظہری) بَلْ حرف عطف برائے اضرب اَلَّذِينَ ضمیر منقطع مبتدأ، قَوْمٌ موصوف عَدُونَ اسم قائل ہمد ضمیر مستقر قائل، دونوں لں کر صفت، موصوف ہا صفت خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**قَالُوا إِنْ لَمْ تَنْتَهُ يُلُوظْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۲۷﴾**

آیت نمبر ۱۲۷: **قَالُوا إِنْ لَمْ تَنْتَهُ يُلُوظْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ** کی ترکیب قَالُوا إِنْ لَمْ تَنْتَهُ يُلُوظْ

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ کی طرح ہے جو دو رکوع پہلے گزر چکی ہے۔

**قَالَ إِنِّي لَعَمْرِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۲۸﴾**

آیت نمبر ۱۲۸: **قَالَ إِنِّي لَعَمْرِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ** قائل ہمد ضمیر مستقر قائل، دونوں لں کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ حرف تحقیق يَأْتِ ضمیر منصوب اس کا اسم،

لاحہ حرف جر عَمْرِكُمْ مرکب اضافی خبر، جہ باجور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے مِنَ حَرْفِ جَمَاؤُ وَاِجْمَعُ اسم قائل ہمد ضمیر مستقر قائل،

اسم قائل ہاتھ لیا، و متعلق مقدم شدہ جملہ خبر، جہ باجور طرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر خبر، اِنْ بلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول

ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**رَبِّ نَجِينِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۹﴾**

آیت نمبر ۱۲۹: **رَبِّ نَجِينِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ** ربّی فعل امر اَنْتَ مستقر قائل نون برائے و قایہ یاء ضمیر منصوب

مفعول بہ، واؤ بمعنی مَعَ اَهْلِي مرکب اضافی مفعول مدہ، مِنَ حَرْفِ جَمَاؤُ وَاِجْمَعُ اسم قائل ہمد ضمیر قائل، دونوں لں کر بتاواں

ممدرد مجرور، جاد باجور و طرف لغو تکیج کے متعلق ہوئے، فعل امر باقاعل و متعلق و مفعولین جملہ انشائیہ جملہ کا جواب ہے، مدعاہ باجواب جملہ انشائیہ مدائیہ ہو کر قال محذوف کا مقولہ ہے، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**فَتَجَبَّيْنُهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷۰﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿۱۷۱﴾**

**آیت نمبر ۱۷۰:** ۱۷۱، ۱۷۰: فَأَعَاظُكَ تَجَبَّيْنًا فَفعل نا ضمیر قاعل ۶ ضمیر منصوب مفعول بہ، ہوا و معنی مع "أَهْلَهُ مَرَكِبِ امْنَانِي مَوَكَّدِ أَجْمَعِينَ تَأَكِيدُ، مَوَكَّدِ بِتَأَكِيدُ مَسْتَشِي مِنْهُ، الْآحْرَفِ اسْتَهْنَهُ عَجُوزًا مَوْصُوفِي الْغَيْرِيْنَ جاد باجور و طرف مستقر كَابِتَّةٌ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَر مَفْت، مَوْصُوفٌ بِمَصْفَتِ مَسْتَشِي، بِمَجْر مَسْتَشِي مِنْهُ بِمَسْتَشِي تَجَبَّيْنًا كَامَفْعُولٍ مَعَهُ، فَفعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قال محذوف پر معطوف ہے۔ (مظہری)

**ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِيْنَ ﴿۱۷۲﴾**

**آیت نمبر ۱۷۲:** ۱۷۲: ثُمَّ حَرْفِ عَطْفٍ دَمَرْنَا فَفعل نا ضمیر قاعل الْأَخْرِيْنَ مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تَجَبَّيْنًا پر معطوف ہے۔ (روح البانی)

**وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿۱۷۳﴾**

**آیت نمبر ۱۷۳:** ۱۷۳: وَاِوَاظُفُكَ أَمْطَرْنَا فَفعل نا ضمیر قاعل عَلَيْهِمْ جاد باجور و طرف لغو متعلق ہوئے مَطَرٌ مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ دَمَرْنَا پر معطوف ہے، فَأَسَاءَ فِیْمَا أَسَاءَ كِي شَرْطِ مَحْذُوفٍ هُوَ إِذَا أَهْلَكْنَا هُمْ وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، سَاءَ فَفعل ذَمٍّ مَطَرٌ الْمُنْذَرِيْنَ مَرَكِبِ امْنَانِي قَاعِلٌ، فَفعل باقاعل جملہ فعلیہ انشائیہ خبریہ اور مخصوص بالذم مبتدا محذوف مَطَرٌ هُمْ، مبتدا باجور جملہ اسیہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**آیت نمبر ۱۷۴:** ۱۷۴: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّذَوِّ مَأْكَانٍ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۵﴾

**آیت نمبر ۱۷۵:** ۱۷۵: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۷۶﴾  
ان آیات کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیات میں گزر چکی ہے۔

﴿رکوع نمبر ۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۷۶:** ۱۷۶: كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۷۷﴾

**آیت نمبر ۱۷۷:** ۱۷۷: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۷۸﴾

**آیت نمبر ۱۷۸:** ۱۷۸: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ ﴿۱۷۹﴾

**آیت نمبر ۱۷۹:** ۱۷۹: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوْنَ ﴿۱۸۰﴾

**آیت نمبر ۱۸۰:** ۱۸۰: وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۱۸۱﴾

ان آیات کی ترکیب اسی سورت کے رکوع نمبر ۶ کے شروع کی آیات کی مثل ہے۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۸۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبِيبَةَ الْأُولَىٰ ﴿۱۸۴﴾

**آیت نمبر ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴:** اَوْفُوا الْكَيْلَ فعل امر واؤ ضمیر فاعل الْكَيْلُ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا تَكُونُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم، مِنَ الْمُخْسِرِينَ جارِ مجرور ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف ازل، واؤ عاطفہ زِنُوا فعل امر اور یہ اصل میں اَوْزِنُوا ہے واؤ ضمیر متصل فاعل بناہ حرف جر الْقِسْطِ موصوف الْمُسْتَقِيمِ صیغہ صفت، هُوَ مستقر فاعل، و دونوں مل کر صفت، موصوف ہفت جر، جارِ مجرور ظرف لغوی زِنُوا کے متعلق ہوئے، فعل ناقص و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف ثانی، واؤ عاطفہ لَا تَبْخَسُوا فعل واؤ ضمیر فاعل النَّاسِ مفعول بہ ازل، أَشْيَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل ناقص و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ثالث، واؤ عاطفہ لَا تَعْتُوا فعل نسی واؤ ضمیر فاعل فِي الْأَرْضِ جارِ مجرور ظرف لغوی متعلق ہوئے مُفْسِدِينَ لَا تَعْتُوا کی ضمیر فاعل تہ حال ہے، فعل نسی ناقص و متعلق جملہ انشائیہ معطوف رابع، واؤ عاطفہ اتَّقُوا فعل امر واؤ ضمیر ظاہر فاعل الَّذِي ناس موصول خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ، واؤ بمعنی صغ "الْحَبِيبَةَ الْأُولَىٰ" مرکب توصیف مفعول مد، فعل ناقص و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اتَّقُوا کا مفعول بہ، فعل ناقص و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف خاص، معطوف علیہ با موقوفات خمسہ اتَّقُوا اللہ کا عطف بیان ہے۔ (مظہری)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿۱۸۵﴾

**آیت نمبر ۱۸۵:** قَالُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول بان حرف تحقیق کفو، مآکانہ آنت ضمیر مرفوع متصل مبتدأ، مِنَ الْمُسْحَرِينَ جارِ مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے، کائین اسم فاعل آنت ضمیر مستقر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَنَا وَإِنْ نَقُظُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿۱۸۶﴾

**آیت نمبر ۱۸۶:** واؤ عالیہ یا عاطفہ مآ تاہ آنت ضمیر مرفوع متصل مبتدأ، إِلَّا حرف استثناء بَنَشْرٌ مشتق مفرغ خبر ازل، مِثْلَنَا مرکب اضافی خبر ثانی اور یہ دہ دونوں موصوف صفت ہے، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ان محذوف من اللہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم نَقُظُّكَ فعل نَحْنُ ضمیر مستقر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ ازل، لآہر فادہ مِنَ الْكٰذِبِينَ جارِ مجرور ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل ناقص بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ان محذوف خبر بان محذوف با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف۔ إِنَّمَا أَنْتَ ہ معطوف ہے یا کائین کی آنت ضمیر سے حال ہے۔

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿۱۸۷﴾

**آیت نمبر ۱۸۷:** فَأَءَ جزیئہ اسْقِطْ فعل امر آنت ضمیر مستقر فاعل عَلَيْنَا جارِ مجرور متعلق ازل ہوئے کِسْفًا مفعول بہ، مِنَ الصّٰدِقِينَ



السَّمَاءُ جاد باجر ور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ انشائیہ جزاء مقدم بان کُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ شرط ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**قَالَ رَبِّيَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸۸﴾**

**آیت نمبر ۱۸۸:** قَالَ لَعَلَّ هُوَ مُسْتَرْقَاةٌ، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ربی مرکب اضافی مرفوع تقدیر مبتدأ اَعْلَمُ اسم تفضیل هُوَ ضمیر مسترقا ل بآء حرف جرماً مصدریہ تَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر بتاول مصدر مجرور، جاد باجر ور طرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق خبر، مبتدأ باجزاء اسمیہ خبریہ مقولہ، قول باقول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**كَذَّبُوهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۸۹﴾**

**آیت نمبر ۱۸۹:** فَاَخَذَ عَاطِفٌ كَذَّبُوْهُ اَعْلَمُ واو ضمیر فاعل ہ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاَخَذَ عَاطِفٌ اَعْلَمُ ضمیر منصوب مفعول بہ، عَذَابٌ مضاف يَوْمِ الظُّلَّةِ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَالَ ہ معطوف ہے۔ اِنَّ حرف تحقیق ہ ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم عَذَابٌ مضاف يَوْمِ عَظِيْمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**آیت نمبر ۱۹۰: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹۰﴾**

**آیت نمبر ۱۹۱: وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۹۱﴾**

ان آیات کی ترکیب اسی سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیات میں گزر چکی ہے۔

﴿﴾ رکوع نمبر ۱۱ ﴿﴾

**وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلٌ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۹۲﴾**

**آیت نمبر ۱۹۲:** وَاِذَا اسْتَاْنِيْرَانَ حرف تحقیق ہ ضمیر اس کا اسم لآء نہ طلق تَنْزِيْلٌ مضاف رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

**تَنْزِيْلٌ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿۱۹۳﴾ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنذِرِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿۱۹۵﴾**

**آیت نمبر ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵:** تَنْزِيْلٌ بِهٖ جاد باجر ور طرف لغو متعلق ہوئے، الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ مرکب اضافی فاعل، عَلٰى حرف جاد قَلْبِكَ مرکب اضافی مجرور، جاد باجر ور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، لآء حرف جاد برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ ہے تَكُوْنَ فعل ناقص اَنْتَ ضمیر مستتر اسم مِنَ الْمُنذِرِيْنَ جاد باجر ور طرف مستقر کا ئنثا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جاد باجر ور طرف لغو متعلق ثالث ہوئے، بآء حرف جر لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مرکب توصیفی ہو کر پھر موصوف مُبِيْنِيْنَ صفت، موصوف ہ صفت مجرور، جاد باجر ور طرف لغو متعلق رابع ہوئے، فعل بافاعل و متعلقات اربعہ جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں یا بتقدیر قد

تَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے حال ہے (ظہری)

وَإِنَّ لَفِي زُجُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۹۶﴾

**آیت نمبر ۱۹۶:** واو عاظفہ اِن حرف تحقیق ضمیر منصوب اس کلام لہر نہ ملنے کی طرف جزو زُجُرِ الْأَوَّلِينَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر بیان ہا سم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ وَاِنَّ لَفِي زُجُرِ الْأَوَّلِينَ پر معطوف ہے۔

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَحْكُمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۹۷﴾

**آیت نمبر ۱۹۷:** ہمزہ حرف استفہام واو عاظفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ يَحْكُمَهُ فَوَازِئُهُمْ لَهُمْ يَكُنْ فعل ناقص لَمْ يَحْكُمَهُ جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم آيَةٌ ذوالحال موخر، ذوالحال باحال خبر مقدم، اَنْ حرف مصدری و نصب یَحْكُمَهُ فعل ضمیر منصوب مفعول بہ، عَلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مرکب اضافی قائل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاولی مصدر اسم موخر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ انتہائی معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ معطوفہ انتہائی ہول۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَبِينَ ﴿۱۹۸﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۹﴾

**آیت نمبر ۱۹۸، ۱۹۹:** واو عاظفہ لَوْ حرف شرط لَوْ نَزَّلْنَاهُ فعل ضمیر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ عَلٰی بَعْضِ الْأَعْجَبِينَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قَاءَهُ عاظفہ قَرَأَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ عَلَیْهِمْ جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، مَا تَانِيَةً كَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یہ جار مجرور ظرف مستقر مقدم ہوئے، مؤْمِنِينَ اسم قائل ہُوْهُمْ مستقر فاعل، اسم قائل بافاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص ہا سم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہول۔

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۰۰﴾

**آیت نمبر ۲۰۰:** كَذَلِكَ جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف سَلَكْنَاهُ کے مفعول مطلق فعل مخدوف سَلَكْنَاهُ کا، سَلَكْنَاهُ فعل ضمیر فاعل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، سَلَكْنَاهُ فعل ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ فی حرف جار قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۲۰۱﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۰۲﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۲۰۳﴾

**آیت نمبر ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳:** لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل یہ جار مجرور ظرف مستقر اول ہوئے، حَتَّىٰ حرف غایت و جزاء اس کے بعد اَنْ مقدم ہے، يَرَوُا فعل واو ضمیر فاعل الْعَذَابِ الْأَلِيمِ مرکب تو صیغی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قَاءَهُ عاظفہ اِن حرف تحقیق ضمیر مستقر فاعل بَغْتَةً مفعول بہ هُمْ ضمیر ذوالحال، واو احوالی هُمْ ضمیر مبتدأ، لَا يَشْعُرُونَ فعل واو ضمیر

فَاعِلٌ بِدَوْنِ لٍ كَرَبْرٍ، مَبْتَدَأُ بِخَبْرٍ بِجَلْمِ اسْمِيهٍ خَبْرِيهٍ حَالٌ بِذَوَالْحَالِ بِحَالِ مَفْعُولِ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنِ جَلْمِ فَعْلِيهٍ خَبْرِيهٍ مَعْفُوفٍ اَوَّلِ، فَاءٌ عَاطِفَةٌ يَتَقَوُّوْنَ فَعْلٌ وَادْوَمِيْرٌ فَاعِلٌ بِدَوْنِ لٍ كَرَبْرٍ فَعْلِيهٍ خَبْرِيهٍ قَوْلٌ، هَلْكَانَ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ تَحْنُ مَضِيْرٌ مُنْفَصِلٌ مَبْتَدَأُ، مَعْنَى تَقَوُّوْنَ اِسْمٌ مَفْعُولٌ تَحْنُ مَضِيْرٌ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ بِدَوْنِ لٍ كَرَبْرٍ، مَبْتَدَأُ بِخَبْرٍ جَلْمِ اسْمِيهٍ انْشَائِيهٍ مَقْوَلٌ، قَوْلٌ بِمَقْوَلِهِ جَلْمِ فَعْلِيهٍ خَبْرِيهٍ مَعْفُوفٌ ثَانِيٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِاِ مَعْفُوفِيْنِ بِتَاوِيلِ مَعْدَرٍ، جَمْرٌ وَبِجَمْرٍ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ كَيْ مَتَعَلِقٌ ثَانِيٌ هُوَ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقِيْنِ جَلْمِ فَعْلِيهٍ خَبْرِيهٍ مَسْتَأْنَفٌ هُوَلٌ (رُوحُ الْعَالِي)

اَفْبَعْدًا يَنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ⑤

آیت نمبر ۲۰۳: هَمْزٌ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ فَاءٌ عَاطِفَةٌ اَوْرُ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ مَعْدُوفٌ بِدَوْعِيْدٍ نَا لَا يَسْتَسِيْقُوْنَ، بِنَاءٌ حَرْفٌ جَاءَ عَدَا يَنَا مَرْكَبٌ اَضَائِيٌّ جَمْرٌ وَجَاءَ بِجَمْرٍ وَظَرْفٌ لِنُوْ مُتَعَلِقٌ مُقَدَّمٌ هُوَ يَسْتَعْجِلُوْنَ فَعْلٌ وَادْوَمِيْرٌ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقٌ مُقَدَّمٌ جَلْمِ انْشَائِيهٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ مَعْدُوفٌ بِمَعْفُوفٍ جَلْمِ مَعْفُوفٍ انْشَائِيهٍ هُوَلٌ

اَفْرَعِيْتِ اِنْ مَتَّعْتَهُمْ سِنِيْنَ ⑥ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوْا يُوعَدُوْنَ ⑦ مَا اَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَمْتَعُوْنَ ⑧

آیت نمبر ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷: هَمْزٌ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ فَاءٌ عَاطِفَةٌ اَوْرُ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ مَعْدُوفٌ بِدَوْعِيْدٍ نَا لَا يَسْتَسِيْقُوْنَ، بِنَاءٌ حَرْفٌ جَاءَ عَدَا يَنَا مَرْكَبٌ اَضَائِيٌّ جَمْرٌ وَجَاءَ بِجَمْرٍ وَظَرْفٌ لِنُوْ مُتَعَلِقٌ مُقَدَّمٌ هُوَ يَسْتَعْجِلُوْنَ فَعْلٌ وَادْوَمِيْرٌ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقٌ مُقَدَّمٌ جَلْمِ انْشَائِيهٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ مَعْدُوفٌ بِمَعْفُوفٍ جَلْمِ مَعْفُوفٍ انْشَائِيهٍ هُوَلٌ

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ⑨

آیت نمبر ۲۰۸: وَاوَاثِيْنَا فِيْ (فَعِيْرٌ) مَا نَا فِيْ اَهْلَكْنَا فَعْلٌ تَا مَضِيْرٌ فَاعِلٌ مِنْ حَرْفِ جَاءَ قَرْيَةٍ ذَوَالْحَالِ اِلَّا حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ لَهَا جَمْرٌ بِجَمْرٍ وَظَرْفٌ مُسْتَرْتَابٌ كَانُوْنَ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَلٌ كَرَبْرٍ مُقَدَّمٌ، مَعْنَى تَقَوُّوْنَ مَبْتَدَأُ، مَوْخَرٌ، مَبْتَدَأُ بِخَبْرٍ جَلْمِ اسْمِيهٍ خَبْرِيهٍ هُوَلٌ كَرَبْرٌ مَعْفُوفٌ حَالٌ ذَوَالْحَالِ بِحَالِ جَمْرٍ وَجَاءَ بِجَمْرٍ وَظَرْفٌ لِنُوْ مُتَعَلِقٌ هُوَلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقِيْنِ جَلْمِ فَعْلِيهٍ خَبْرِيهٍ مَسْتَأْنَفٌ هُوَلٌ

ذِكْرِي قَدَّوْ مَا كُنَّا ظَلِيْمِيْنَ ⑩

آیت نمبر ۲۰۹: ذِكْرِيْ مُنْذِرُوْنَ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَلٌ كَرَبْرٍ مُقَدَّمٌ، مَعْنَى تَقَوُّوْنَ مَبْتَدَأُ، مَوْخَرٌ، مَبْتَدَأُ بِخَبْرٍ جَلْمِ اسْمِيهٍ خَبْرِيهٍ هُوَلٌ كَرَبْرٌ مَعْفُوفٌ حَالٌ ذَوَالْحَالِ بِحَالِ جَمْرٍ وَجَاءَ بِجَمْرٍ وَظَرْفٌ لِنُوْ مُتَعَلِقٌ هُوَلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقِيْنِ جَلْمِ فَعْلِيهٍ خَبْرِيهٍ مَسْتَأْنَفٌ هُوَلٌ

وَمَا تَزَكَّتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿۲۱۰﴾ وَ مَا يَكْتَبِي لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۲۱۱﴾

**آیت نمبر ۲۱۰، ۲۱۱:** واؤ عطف مانا فی تَزَكَّتْ فعل بہ جہد باجرور متعلق ہوئے الشَّيْطَانُ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطف مانا فی یَكْتَبِي فعل ہو ضمیر فاعل لہُم جہد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عطف مانا فی یَسْتَطِيعُونَ فعل، واؤ ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اس کا عطف ہے کہ لَ بِه الرُّوحَ الْاَرِيْبِيْنَ۔

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُوْلُوْنَ ﴿۲۱۲﴾

**آیت نمبر ۲۱۲:** اِنَّ حرف تحقیق ہُم ضمیر اس کا اسم عن حرف جہد السَّمْعِ جرور، جہد باجرور متعلق مقدم ہوئے، لآہر مذمتیہ مَعَزُوْلُوْنَ اسم مفعول ہُم ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول بانائب فاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منظر ہوں۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اٰلَهَا اٰخَرَ فَتَكُوْنُ مِنَ الْمُعَدِّبِيْنَ ﴿۲۱۳﴾

**آیت نمبر ۲۱۳:** فقاء ضمیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، لا تَدْعُ فعل نمی آتے ضمیر مستتر فاعل مَعَ اللّٰهِ مرکب اضافی کا کائنا کا مفعول فیہ ہو کر مفعول بہ، ثانی مقدم، اِلٰهَا اٰخَرَ مرکب توصیفی مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ ہو کر جہاد، شرط با جہاد جملہ شرطیہ ہوا۔ فقاء سبب اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ ہے تَكُوْنُ فعل ناقص آتے ضمیر مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُعَدِّبِيْنَ جہد باجرور ظرف مستقر کا کائنا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر جملہ اولی سے مستنبط مصدر بہ معطوف ہے اس لئے کہ جملہ اولی لا یَکُوْنُ مَعَ اللّٰهِ... الخ کی دلیل میں ہے۔

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿۲۱۴﴾

**آیت نمبر ۲۱۴:** واؤ عطف اَنْذِرْ فعل امر آتے مستتر فاعل عَشِيْرَتَكَ مرکب اضافی موصوف الاَقْرَبِيْنَ اسم تفضیل ہُم ضمیر فاعل، اسم تفضیل بافاعل شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ لا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ ہے۔

وَ اٰخِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۱۵﴾

**آیت نمبر ۲۱۵:** واؤ عطف اٰخِضْ فعل امر آتے مستتر فاعل جَنَاحَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، لآہر جارہ صَنِ اسم موصول اتَّبِعْ فعل واؤ ضمیر ذوالحال مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جہد باجرور کا کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ جرور، جہد باجرور متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر لا تَدْعُ بہ معطوف ہے۔

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۱۶﴾ وَ تَوَكَّلْ عَلٰى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿۲۱۷﴾ الَّذِيْ يَرْزُقُكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿۲۱۸﴾ وَ تَقَلَّبَكَ فِى السُّجُودِ ﴿۲۱۹﴾

**آیت نمبر ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹:** فَآهَ اسْتِیْنَا فِی رَانَ حَرْفِ شَرْطِ عَصَا فَعْلٌ وَآؤُ ضَمِیرُ فَاعِلٍ كَانِ ضَمِیرُ مَنْصُوبٍ مَفْعُولٍ بِهِ، تَبِیْنُ لَمْ كَر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَآهَ جزائیہ فَعْلٌ فعل امر اَنْتَ ضَمِیرُ مَسْتَرٍ فَاعِلٍ، دُونوں لَمْ كَر جملہ انشائیہ ہو کر قول بیانِ حَرْفِ تَحْقِیقِ یَاءِ ضَمِیرِ اس کا اسمِ بَدِیْعِیہ۔ مِیْنَه مَفْعُولٌ اَنَا ضَمِیرُ مَسْتَرٍ فَاعِلٍ مِنْ حَرْفِ جَدَمًا مَصْدَرٌ یَبْتَعَمَلُوْنَ فَعْلٌ بِاَوَّلِ ضَمِیرِ فَاعِلٍ جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مَصْدَرٌ بِجَرِّ و، جَدَمًا بِجَرِّ و ظَرْفِ الْفَوْبِ یَبِیْعُ كَيْفَ مَعْتَلِقٌ ہُوئے، مِیْنَه مَفْعُولٌ بِاَوَّلِ و مَعْتَلِقٌ خَبْرٌ یَانَ بِاِسْمِ و خَبْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ مَقُولہ، قَوْلٌ بِمَقُولہ مَعْفُوفٌ عَلَیْہِ، وَاُوَ عَاطِفٌ تَوَكَّلْ فَعْلٌ اَمْرٌ اَنْتَ ضَمِیرُ مَسْتَرٍ فَاعِلٍ عَلَی حَرْفِ جَدِ الْعَزِیْزِ مَوْصُوفٌ الرَّحِیْمِ مِیْنَه مَفْعُولٌ ہُوَ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ سَعَلَ لَمْ كَر مَفْعُولٌ اُولٰٓئِیْنِ اِسْمٌ مَوْصُولٌ یُوْیُّ فَعْلٌ ہُوَ ضَمِیرُ مَسْتَرٍ فَاعِلٍ كَانِ ضَمِیرُ مَنْصُوبٍ مَعْفُوفٌ عَلَیْہِ، وَاُوَ عَاطِفٌ تَقَلَّبَ مَصْدَرٌ مَضَافٌ كَانِ ضَمِیرُ مَضَافٍ اِلَیْہِ مَعْنٰی فَاعِلٍ فِی الشُّجْدٰیۡنِ جَدَمًا بِجَرِّ و ظَرْفٌ لَمْ مَصْدَرٌ كَر مَعْتَلِقٌ ہُوئے، مَصْدَرٌ مَضَافٌ اِلَیْہِ مَعْنٰی فَاعِلٍ و مَعْتَلِقٌ سَعَلَ لَمْ كَر مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْفُوفٍ یُوْیُّ كَامَعْفُوفٍ بِہِ جَمِیْنَ مَضَافٌ تَقْوٰوْا فَعْلٌ اَنْتَ ضَمِیرُ مَسْتَرٍ فَاعِلٍ، دُونوں لَمْ كَر جملہ خبریہ مَضَافٍ اِلَیْہِ، بِجَرِّ و مَرْكَبِ اَضَافِیِّ یَزِیْلُكَ كَامَعْفُوفٍ فِیہِ، فَعْلٌ بِاَوَّلِ و مَفْعُولِیْنِ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، مَوْصُولٌ بِاصْلِ الْعَزِیْزِ كِی مَفْعُولٌ ثَمَّ، مَوْصُوفٌ بِاَضْمِیْنِ بِجَرِّ و، جَدَمًا بِجَرِّ و ظَرْفِ لَمْ تَوَكَّلْ كَر مَعْتَلِقٌ ہُوئے، فَعْلٌ بِاَوَّلِ و مَعْتَلِقٌ جملہ انشائیہ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْفُوفٍ جَزَاءِ، شَرْطٌ بِجَزَاءِ جملہ شرطیہ ہوں۔

### اِنَّہُ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۲۰:** اِنْ حَرْفِ تَحْقِیْقِ اَنَا ضَمِیرُ اس کا اسم ہُوَ ضَمِیرُ مَبْدَا السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ و دو خبر، مَبْدَا بِخَبْرِ اِنْ كِی خَبْرٌ یَانَ بِاِسْمِ و خَبْرٌ جملہ اسمیہ خبریہ مُظَلَّہ ہوں۔

### هَلْ اَنْتُمْ كُمْ عَلٰی مَنْ تَنْزَلُ الشَّیْطٰنُ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲۱:** هَلْ حَرْفِ اسْتِفْہَامِ اَنْتُمْ فَعْلٌ اَنَا ضَمِیرُ مَسْتَرٍ فَاعِلٌ كُنْ ضَمِیرُ مَفْعُولٍ بِہِ، عَلٰی حَرْفِ جَدَمًا مِنْ اسْتِفْہَامِ بِجَرِّ و، جَدَمًا بِجَرِّ و ظَرْفِ لَمْ مَعْتَلِقٌ مَقْدَمٌ ہُوئے تَنْزَلُ فَعْلٌ الشَّیْطٰنُ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِاَوَّلِ و مَعْتَلِقٌ مَقْدَمٌ جملہ انشائیہ اَنْتُمْ كُمْ كَامَعْفُوفٍ بِہِ ثَمَّ، فَعْلٌ بِاَوَّلِ و مَفْعُولِیْنِ جملہ انشائیہ اسْتِفْہَامِ ہوں۔

### تَنْزَلُ عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اٰثِیْمٍ ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۲۲:** تَنْزَلُ فَعْلٌ اَوْرِیْہِ اَصْلٌ مِّنْ تَنْزَلُ ہِے، وَہِی ضَمِیرُ مَسْتَرٍ فَاعِلٌ عَلٰی حَرْفِ جَدَمًا مَضَافٌ اَفَّاكٍ اٰثِیْمِ مَرْكَبِ تَوْصِیْفِ بِجَرِّ و، جَدَمًا بِجَرِّ و ظَرْفِ لَمْ مَعْتَلِقٌ ہُوئے، فَعْلٌ بِاَوَّلِ و مَعْتَلِقٌ جملہ اسْتِفْہَامِ جملہ اولیٰ سے بدل ہوں۔

### یُلْقَوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُھُمْ كَذِبُوْنَ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۲۳:** یُلْقَوْنَ فَعْلٌ وَآؤُ ضَمِیرُ فَاعِلِ السَّمْعِ مَفْعُولٌ بِہِ، فَعْلٌ بِاَوَّلِ و مَفْعُولٌ بِہِ جملہ فعلیہ خبریہ اٰثِیْمِہِ كِی مَفْعُولٌ ہِے، یَا جملہ متنافیہ ہوں، وَاُوَ حَالِیہ اَكْثَرُھُمْ مَرْكَبِ اَضَافِیِّ مَبْدَا، كَذِبُوْنَ اِسْمٌ فَاعِلٌ كُنْ ضَمِیرُ فَاعِلٍ، اِسْمٌ فَاعِلٌ بِاَوَّلِ خَبْرٌ، مَبْدَا بِخَبْرِ جملہ اسمیہ خبریہ یُلْقَوْنَ كِی ضَمِیرُ فَاعِلٍ سَعَلَ ہوں۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۳۲﴾

آیت نمبر ۲۳۲: او استیثانہ الشُّعْرَاءُ مبتدأ، يَتَّبِعُ فعل مضارع منصوب مفعول به، الْغَاوُونَ فاعل، فعل باقاعل ومفعول به جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنف ہوں (مظہری)

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿۲۳۱﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۳۲﴾

آیت نمبر ۲۳۱، ۲۳۲: ۲۳۱: مضمیر متصرف فاعل أَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم فی حرف جر كَلِّ وادٍ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے يَهِيمُونَ فعل، واو ضمیر فاعل، فعل باقاعل ومتعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم يَقُولُونَ فعل، واو ضمیر فاعل مَا اسم موصول لَا يَفْعَلُونَ فعل، واو ضمیر فاعل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لہ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقاعل ومفعولین جملہ انتظامیہ استنبہ اسمیہ مُظَلَّہ ہوں

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا

كَلَبُوا ط وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَلَبُوا أَلَمْ يَنْقَلِبْ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۳۳﴾

آیت نمبر ۲۳۳: اِلَّا حرف استثناء الَّذِينَ كَلَبُوا اسم موصول اَمَّنُوا فعل، واو ضمیر فاعل، دو دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل، واو ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف محذوف اَلْأَعْمَالِ کے مفعول بہ، فعل باقاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذل، واو عاطفہ ذَكَرُوا فعل، واو ضمیر فاعل اَللَّهِ اس کا جملہ مفعول بہ، كَثِيرًا بواسطہ موصوف محذوف ذَكَرُوا کے مفعول مطلق، فعل باقاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اَنْتَصَرُوا فعل، واو ضمیر فاعل مِنْ حرف جار بَعْدِ مضاف ما مصدریہ كَلَبُوا فعل مجہول، واو ضمیر نائب فاعل دو دونوں مل کر بتا ویل مصدر مضاف، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور ظرف لغو اَنْتَصَرُوا کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل ومتعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ سے مستثنیٰ ہے، واو عاطفہ سَيَعْلَمُ فعل يَنْقَلِبُ فعل، واو ضمیر فاعل اَلَّذِينَ كَلَبُوا اسم موصول كَلَبُوا فعل، دو دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ فاعل اَلَمْ يَنْقَلِبْ مفعول متعلق مقدم يَنْقَلِبُونَ فعل، واو ضمیر فاعل، فعل باقاعل ومفعول مطلق مقدم جملہ انتظامیہ استنبہ اسمیہ يَعْلَمُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کے معطوف ہے۔

بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ سُوْرَةُ الشُّعْرَاءِ

کی ترکیب الملکہ ہوٹل کراچی کے مہمان خانہ میں ۱۳۳۴ھ میں ۲۰۱۸ء بروز منگل بعد نماز عصر ۶:۱۰ بجے مکمل ہوئی ہے

## ترکیب سُوْرَةِ التَّمِيمِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ طَسَّسْتَ تَدْتَلِكْ اَيْتُ الْقُرْآنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝

**آیت نمبر ۱:** طَسَّسْتَ اس کی ترکیب سورت بقرہ کے شروع میں دیکھیں۔ و تَدْتَلِكْ اسم اشدہ مبتدا، اَيْتُ مضاف الْقُرْآنِ معطوف علیہ، و او عطف کِتَابٍ مُّبِيْنٍ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

هُدًى وَ بُشْرٰى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۲:** هُدًى وَ بُشْرٰى یا تو معسوب تقدیر الْقُرْآنِ سے حال ہے یا مجرور تقدیر الْقُرْآنِ سے بدل ہے یا مرفوع تقدیر تَلِكْ کی دوسری خبر ہے، لام حرف جرائد الْمُؤْمِنِيْنَ موصوف الَّذِيْنَ اسم موصول يُقِيْمُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل الصَّلٰوةَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عطف هُمْ ضمیر مبتدا، بِالْآخِرَةِ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے هُمْ ضمیر یہ بکلی ہُمْ ضمیر کی تاکید ہے يُؤْتُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول با صلہ الْمُؤْمِنِيْنَ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور علی سبیل التنازع هُدًى و بُشْرٰى کے متعلق ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْبَهُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳:** اِنَّ حرف تنقیح الَّذِيْنَ اسم موصول لَا يُؤْمِنُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل بِالْآخِرَةِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ اِنَّ کلام زَيَّنَّا فعل تا ضمیر فاعل لَهُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَعْمَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَعَاء عطف هُمْ ضمیر مبتدا، يَعْبَهُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، و دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر اِنَّ کلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستافہ ہو۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْعُ الْعَذَابِ وَ هُمْ فِيْ الْآخِرَةِ هُمْ الْاٰخَسَرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۵:** اُولٰٓئِكَ اسم اشدہ مبتدا، الَّذِيْنَ اسم موصول لَهُمْ جار مجرور ظرف مستقر كٰذِبِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم سُوْعُ الْعَذَابِ مرکب اضافی مبتدا با خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عطف هُمْ ضمیر مبتدا، فِيْ الْآخِرَةِ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، هُمْ ضمیر مبتدا، الْاٰخَسَرُوْنَ اسم تفضیل هُمْ تفضیل هُمْ مستتر فاعل اسم تفضیل

باقاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متصرف ہوں (مظہری)

### وَإِنَّكَ لَلتَّلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝

**آیت نمبر ۷۶:** واوستنا فیہ (روح المعانی) إِنَّ حرف تحقیق کان ضمیر اس کا اسم لامہ مذ حلقہ تَلَقَى فعل مجہول آتت ضمیر مستتر نائب فاعل الْقُرْآنَ مفعول بہ، ومن حرف جر لَدُنِّ مضاف حَكِيمٍ عَلِيمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی جر و، جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے نائب فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبریان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متصرف ہوں یا آیت الْقُرْآنِ بہ معطوف ہے۔ (مظہری)

### إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۚ سَائِيكُمُ مِنْهَا يُخْبِرُ ۚ أَوْ أَنبِيكُمُ بِشَهَابٍ مِّنْ قَبَسٍ

### لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

**آیت نمبر ۷۷:** إذ ظرف زمان مضاف، قَالَ فعل مضارع مرفوع تقدیراً فاعل لامہ حرف جہد اھلہ مرکب اضافی جر و، جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، إِنَّ حرف تحقیق بئاء ضمیر اس کا اسم آنَسْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر متصل فاعل تاء و مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبریان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ اذ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف اذ کو کا مفعول فیہ، اذ کو فعل امر اپنے آتت ضمیر مستتر فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ اضافیہ امریہ ہوں۔ یہیں علامت فعل، ائی فعل انکا ضمیر مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، میںہا جار باجر و طرف مستقر کانتھا کے متعلق ہو کر حال مقدم، بئاء حرف جر تہذیب و الحال مؤخرہ و الحال باحال بئاء کا بجر و، جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف ائی فعل انکا ضمیر مستتر فاعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ بئاء حرف جر شہاب مبدل منہ قبس مبدل، مبدل منہ باجر و، جار باجر و ائی کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف فعل محذوف اذ کو کا تعلق ہے۔ لَعَلَّ حرف ترقی کُم ضمیر اس کا اسم تَصْطَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَعَلَّ باسم و خبر جملہ اضافیہ منیلہ ہوں۔

### فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

**آیت نمبر ۷۸:** فاء تفصیل لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَاءَهَا فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ہَا ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، نُودِيَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل اَنْ حرف مصدری بُورِكَ فعل مجہول من اسم موصول فی النَّارِ جار باجر و طرف مستقر فعل محذوف تَبَّت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ من اسم موصول حَوْلَهَا مرکب اضافی فعل محذوف تَبَّت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بُورِكَ کا نائب فاعل، فعل مجہول ہائے نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بنا و مل مصدر بجر و، جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے نُودِيَ کے، فعل مجہول ہائے نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ



خبر یہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو سواؤ عاقلہ سُبْحَانَ مضاف اللہ اسم الجلالہ موصوف رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب اضافی مفت، موصوف ہفت مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل مخذوف نُسَبِّحْ کا مفعول مطلق، پھر نُسَبِّحْ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر قائل مخذوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ نُؤَدِيْہِہ معطوف ہے (روح المعانی)

### يُمُوْسِيْ اِنَّهٗ اَنَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

**آیت نمبر ۹:** بیاہ حرف ندا اَدْعُوْكَ کے قائم مقام، اَدْعُوْكَ فعل انا ضمیر فاعل مَوْسٰی متلائی مفرد معروض منصوب عملاً مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ عداہ اِنَّہ حرف تحقیق ضمیر شان اس کا اسم انا ضمیر منقطع مبتدا اِنَّہ موصوف الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ دو مفت، موصوف ہا مستحقین خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ عداہ با جواب جملہ انشائیہ عداہیہ ہوں

وَالْقِي عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلِي مُدْبِرًا ۚ وَلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يٰمُوسٰى لَا

### تَخَفْ نَدَانِيْ لَا يَخَافُ لَدَيْ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۰:** اَوْ عاقلہ اَلْقِيْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل عَصَاكَ مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ بُؤْرِكَہ معطوف بہ با جواب عداہ ہر معطوف ہے۔

**سوال:** اَلْقِي عَصَاكَ انشاء ہے اور بُؤْرِكَہ خبر ہے اور یہ انشاء کا خبر عطف ہو رہا ہے جو کہ عند انشاء درست نہیں ہے؟  
**جواب:** یہ عطف انشاء علی الخبر کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ عطف المفرد علی المفرد کے قبیل سے ہے اس لئے کہ اصل عادت اس طرح ہے نُؤَدِيْ اَلْحَدِّ الْقَوْلُ بُؤْرِكَہ مَنْ فِي النَّارِ وَهَذَا الْمَقْوَلُ اَلْقِي عَصَاكَ، فلا اشكال (مظہری)

فادہ استینافیہ یا ضمیر اور شرط مخذوف ہے اِذَا اَلْقَاهَا لَمَّا تُرْطِيْہ مفعول فیہ مقدم رای فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر منصوب ذوالحال، تَهْتَزُّ فعل ہی مستتر ذوالحال، كَأَنَّ حرف تشبیہ ہا ضمیر اس کا اسم جَانٌّ خبر، كَأَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال تَهْتَزُّ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال رای کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، و تَوَلَّى فعل ہو مستتر ذوالحال، مُدْبِرًا اسم فاعل ہو مستتر فاعل، و دونوں مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عاقلہ لَمْ يُعَقِّبْ فعل ہو مستتر فاعل، و دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کہ شرط مخذوف کی جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ یٰمُوسٰى اس کی ترکیب اوپر گزر چکا ہے اور یہ عداہ ہے، وَلَا تَخَفْ فعل نمی اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل و دونوں مل کر عداہ با جواب جملہ انشائیہ قُلْنَا مخذوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، اِنَّہ حرف تحقیق بیاہ ضمیر اس کا اسم اَلْيَخَافُ فعل لَدَيْہ مرکب اضافی مفعول فی الْمُرْسَلِيْنَ فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ تَخَفْ کی تفسیل ہے۔

### اِلَّا مَنْ كَلَّمَكُم مَّا بَدَلْ حُسْنًا بِعَدَّ سُوْءٍ فَاِنِّيْ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ۝

**آیت نمبر ۱۱:** اِلَّا حرف استثناء، بمعنی لیکن اور یہ استثناء منقطع ہے من اسم موصول کَلَّمَکُمْ فعل ہو مستتر فاعل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ

خبر یہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ بِذَلِكَ فَاعِلٌ هُوَ مُشْتَرِكٌ فاعِلٌ حُسْنًا مفعول بہ یَعْدُوْا مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مقسّمین معنی شرط مبتدأ اور خبر محذوف ہے قَاتِلًا اَغْفِرُوْا لَهُ وَاَزْحَمُوْهُ، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، فاعل تلمیذی اِنَّ حرف تحقیق یا ضمیر اس کلام غَفُوْرٌ وَّزَحِيْمٌ دو خبر اِنْ باہم و خبر اِنْ جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

وَاَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ يَبِيضًا مِنْ غَيْرِ سُوْعٍ نَدْفِي تَسْعَ اَيِّتٍ اِلَى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوْا فَسِقِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۲:** وَاَوْعَاطِفٌ اَدْخَلَ يَدَكَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ فِي حَرْفِ جَرِّ جَيْبِكَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدُّ بِاَجْرٍ وَّ طَرْفٌ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ بُوْنِ، فَاعِلٌ بِاَفَاعِلٍ وَّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ وَّ مُتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ اِضَافِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ اَلَّتِي بِهٖ مَعْطُوْفٌ بِهٖ تَخْرُجُ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيْرٌ مُشْتَرِكٌ وَاَفَاعِلٌ يَبِيضًا مَوْصُوْفٌ مِنْ حَرْفِ جَرِّ غَيْرِ سُوْعٍ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدُّ بِاَجْرٍ وَّ طَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاكْتِنَةِ كَيْ مَعْطُوْفٌ هُوَ كَمَفْعُوْفٌ، بِهٖ اَمْتٌ حَالٌ وَّوَاَحَالٌ بِاِحَالٍ تَخْرُجُ كَاَفَاعِلٍ، فَاعِلٌ بِاَفَاعِلٍ جَمَلَةٌ فَاعِلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، اَوْ شَرْطٌ مَحْذُوْفٌ بِهٖ اِنَّ تَدْخُلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اِسْ لَمْ كَرْتُمْ مَخْرُجٌ جَوَابٌ اِمْرِيٌّ وَاَتَى بِهٖ فِي حَرْفِ جَرِّ تَسْعَ اَيِّتٍ مَبْرُورٌ بِاَجْرٍ وَّ جَدُّ بِاَجْرٍ وَّ طَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِاِيٍّ اِلَى حَرْفِ جَرِّ فِرْعَوْنَ مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ، وَاَوْعَاطِفٌ مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ بِاَمْتٍ مَجْرُورٌ، جَدُّ بِاَجْرٍ وَّ طَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِاِيٍّ هُوَ اِذْهَبَ فَاعِلٌ مَحْذُوْفٌ اِذْهَبَ كَيْ، فَاعِلٌ تَحْقِيْقِيٌّ هُمُ ضَمِيْرٌ مَوْصُوْبٌ اِسْ كَاكْتِنَةِ اَوْ اِسْمٌ نَاقِصٌ وَاَوْعَاطِفٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ خَبْرٌ، فَاعِلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَّخَبْرٌ جَمَلَةٌ فَاعِلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ اِنْ بِاِسْمٍ وَّخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ هُوَل

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۳، ۱۴:** قَاءَ اِسْتِيْنَايَةً لِّمَا مَقْسُوْمٌ عَلٰى مَفْعُوْلٍ حَالٌ وَّوَاَحَالٌ بِاِحَالٍ فاعِل، فَاعِلٌ بِاَفَاعِلٍ وَّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ وَّ مَفْعُوْلٌ فِيْ جَمَلَةٍ فَاعِلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ، قَالُوْا فاعِلٌ بِاَوَاذِ ضَمِيْرٍ فاعِلٌ جَمَلَةٌ فَاعِلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قول، هٰذَا اِسْمٌ اَشْرَهٌ مَبْتَدَأٌ بِسِحْرٍ مُّبِيْنٍ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِاَخْبَرِ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقْوَلَةٌ، قول، بِمَقْوَلٍ جَمَلَةٌ فَاعِلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفٌ جَحَدُوْا فَاعِلٌ وَاَوْعَاطِفٌ وَاَحَالٌ وَاَوْعَاطِفٌ اِسْتَيْقَنَتْ فَاعِلٌ هَا ضَمِيْرٌ مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ، اَنْفُسُهُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ فاعِل، فَاعِلٌ بِاَفَاعِلٍ وَّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ فَاعِلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ حَالٌ وَّوَاَحَالٌ بِاِحَالٍ فاعِلٌ يَبِيضًا حَرْفٌ جَدُّ بِاَجْرٍ وَّ جَدُّ بِاَجْرٍ وَّ طَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بُوْنِ، فَاعِلٌ بِاَفَاعِلٍ وَّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ بِاَمْتٍ مَجْرُورٌ، جَدُّ بِاَجْرٍ وَّ طَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِاِيٍّ اِلَى حَرْفِ جَرِّ فِرْعَوْنَ مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ، وَاَوْعَاطِفٌ مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ بِاَمْتٍ مَجْرُورٌ، جَدُّ بِاَجْرٍ وَّ طَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِاِيٍّ هُوَ اِذْهَبَ فَاعِلٌ مَحْذُوْفٌ اِذْهَبَ كَيْ، فَاعِلٌ تَحْقِيْقِيٌّ هُمُ ضَمِيْرٌ مَوْصُوْبٌ اِسْ كَاكْتِنَةِ اَوْ اِسْمٌ نَاقِصٌ وَاَوْعَاطِفٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ خَبْرٌ، فَاعِلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَّخَبْرٌ جَمَلَةٌ فَاعِلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ اِنْ بِاِسْمٍ وَّخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ هُوَل

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَ الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ

عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾

**آیت نمبر ۱۵:** واؤاؤیتینا فی لاکر موطر القسم اور قسم مخدوف ہے قذ عطاست فعل، آتینا فعل نا ضمیر قائل داؤد و سولیمان معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ازل علما مفعول بہ علی، فعل بانا فعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ مستانہ ہوں واؤا عطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے فعیلا علی ما حسب ما علیما و عو فاکحق النعمۃ، قالا فعل الف ضمیر قائل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، الحمد مبتدا، لاکر حرف جہد اللہ اسم الکمالہ موصوف الذی ہما اسم موصول فضل فعل ہو ضمیر قائل نا ضمیر مفعول بہ، علی حرف جہد کثیر موصوف من حرف جہد عبادہ مرکب اضافی موصوف المؤمنین صفت، موصوف ہفت مجرور، جہد با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر کثیر کی صفت، موصوف ہفت مجرور، جہد با مجرور فضل کے متعلق ہوئے، فعل بانا فعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہفت مجرور، جہد با مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر الحمد کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ مستانہ ہوں

وَدَرِكْ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ۖ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عِزًّا ۗ إِنَّ هَذَا الْقَفْضَ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾

**آیت نمبر ۱۶:** واؤا عطف ورتک فعل سولیمان قائل داؤد مفعول بہ، فعل بانا فعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤا عطف قال فعل ہو ضمیر قائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، بیاہ حرف نداء اذعو کے قائم مقام، اذعو فعل انا ضمیر قائل ائی موصوف ہا برائے حمیہ الناس صفت، موصوف ہفت ملامت موصوب مفعول بہ، فعل بانا فعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر نداء، عَلِمْنَا فعل مجہول نا ضمیر نائب قائل مَنطِقَ الطَّيْرِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل مجہول ہا نائب قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب نداء، بیاہ جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قالا م معطوف ہے۔ واؤا عطف اوتینا فعل مجہول نا ضمیر نائب قائل من حرف جہد کل شیء ہو مرکب اضافی مفعول بہ، فعل مجہول ہا نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ م معطوف ہے۔ ان حرف تحقیق ہذا اسم اشارہ اس کا اسم لاکر مذطلق ہو ضمیر مبتدا، الْقَفْضَ الْمُبِينُ مرکب توسیعی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ان کی خبر بان نام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں

وَحِشْرٍ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهَمْ يُؤَزَّعُونَ ﴿۱۷﴾

**آیت نمبر ۱۷:** واؤا عطف حشیر فعل مجہول لیسولیمان جہد با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے جُنُودَهُ مرکب اضافی ذوالان من حرف جہد الجن والانس والطائر معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جہد با مجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالان من، تب، قائل، فعل مجہول ہا نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قاء عطف هُم ضمیر مبتدا، يُؤَزَّعُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب قائل،

دووں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، دووں مل کر قالاہ معطوف ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّعْلِ ۖ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ۖ لَا

يَخْطِبُكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ ۗ لَوْ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵﴾

**آیت نمبر ۱۸:** حَتَّىٰ بِاتِيهَا إِذَا مُضارع مفعول فیہ مقدم، اتوا فعل واؤ ضمیر قائل علی حرف جر واد النمل مرکب اضافی مجرور، جد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قائل فعل نملۃ قائل، دووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، بیاہ حرف نداء اذخو کے قائم مقام، ادخو فعل انا ضمیر مستتر قائل ائی موصوف ہا برائے تعبیر النمل صفت، موصوف ہفت ملأ منصب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، ادخلوا فعل امر واؤ ضمیر قائل مسکنکم مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء باجواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں لا یخبطن فعل کھ ضمیر منصوب مفعول بہ سُلَیْمٰنُ معطوف علیہ، واو عاطفہ جُنُودُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال واو حالیہ ہُمُ ضمیر مبتدا لا یَشْعُرُونَ فعل واؤ ضمیر قائل، دووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال قائل، فعل نمی بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ متانہ ہوں (مظہری)

فَتَبَسَّصَ صَاحِبًا مِّنْ قَوْمِهَا ۖ وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ

عَلَىٰ وَالِدَيَّ ۚ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۗ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ﴿۵﴾

**آیت نمبر ۱۹:** فَتَبَسَّصَ عاطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے فَسَمِعَ سُلَیْمٰنُ مَقَالَهَا فَادْرَاك مَعْنَاهَا، تَبَسَّصَ فعل ہو مستتر ذوالحال صَاحِبًا مِّنْ قَوْمِهَا فعل ہو مستتر قائل، دووں مل کر حال، ذوالحال باحال قائل میں حرف جار قولہا مرکب اضافی مجرور، جد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ قَالَتْ فعل ہو ضمیر مستتر قائل، دووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، و سبب یہ اصل میں بیاہنی ہے اور یہ نداء ہے، اَوْزِعْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر قائل نون برائے وقایہ بیاہ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اَنْ حرف مصدری و نصب اَشْكُرْ فعل انا مستتر قائل نِعْمَتِكَ مرکب اضافی موصوف الَّتِي تَام موصول اَنْعَمْتَ فعل نداء مخدوف قائل علی جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ عَلَيَّ حرف جہد والِدَيَّ مرکب اضافی مجرور، جد باجر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف طرف لغو اَنْعَمْتَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف ہفت اَشْكُرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف مصدری و نصب اَعْمَلَ فعل انا ضمیر مستتر قائل صَالِحًا عَعْمَلًا موصوف مخدوف کی صفت اولیٰ، اَوْزِعْ فعل اَنْتَ مستتر قائل ضمیر منصوب مفعول بہ تینوں مل کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین اَعْمَلَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَوْزِعْ کا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَدْخِلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر قائل نون برائے وقایہ بیاہ ضمیر منصوب مفعول بہ بیاہ حرف جر رَحْمَتِكَ مرکب اضافی مجرور، جد باجر و طرف لغو متعلق اول ہوئے، فی حرف جار عِبَادِكَ مرکب اضافی موصوف الصَّالِحِيْنَ صفت، موصوف ہفت

مجرور، جار باجرور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ یکسہ سہرہ معطوف ہے، معطوف علیہ مخدوف با معطوفین جملہ معطوف ہو۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى هَدَىٰ أَمْرًا كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۲۰:** واو عاطفہ تَفَقَّدَ فعل ہو مستقر فاعل الطَّيْرُ مفعول بہ، بنیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ قَالَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَا استفہامیہ مبتداء، لا حرف جار یا ء ضمیر ذوالحال لا اَرَى فعل اَنَا ضمیر مستقر فاعل الْهُدًى هَدَىٰ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَمْرٌ متعلقہ بمعنی یَقُلُّ "كَانَ" فعل ناقص ہو ضمیر مستقر اس کا اسم من والگائین جار باجرور طرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر فقار جملہ انشائیہ حقیقہ جملہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال مجرور، جار باجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مَا استفہامیہ مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مفعول تَفَقَّدَ معطوف ہے، تَفَقَّدَ معطوف علیہ با معطوف یہ معطوف علیہ مخدوف ہے، معطوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے: جُئِدُوا لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ فَذَكَرَ مَنْزِلَ لَقَدْ مَجِدَ الْمَاءِ فَطَلَبَ الْهُدًى وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔

لَا عَذِيبَةَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَدْبَحْتَهُ أَوْ لِيَأْتِيَنَّيْ بِسُلْطٰنٍ مّبِينٍ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** لا حرف موطئہ القسم اور قسم مخدوف ہے اَعْدَابَنَ فعل اَنَا ضمیر مستقر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، عَذَابًا شَدِيدًا مرکب تو صیغی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف لا حرف موطئہ القسم اور قسم مخدوف ہے اَدْبَحَنَّ فعل اَنَا مستقر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، بنیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم معطوف اول، اَوْ عاطفہ لا حرف موطئہ القسم اور قسم مخدوف ہے یَأْتِيَنَّيْ فعل ہو مستقر فاعل نون مخدوفہ برائے وقایہ، یَاء ضمیر مفعول بہ یَاء حرف جر سُلْطٰنٍ مّبِينٍ مرکب تو صیغی مجرور، جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستانو ہو۔

فَمَكَتْ عَائِرٌ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲:** فقاء عاطفہ مَكَتْ فعل ہو مستقر فاعل عَائِرٌ بَعِيدٍ مرکب انشائی ہواصلہ موصوفہ مخدوفہ زَمَانًا کے مفعول فیہ، (روح المعانی) فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے اَنَیْ، قَالَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول با أَحَطَّتْ فعل ثناء مضمومہ ضمیر ذم بیاء حرف جر مَا موصول لَمْ حِطُّ فعل اَنْتَ ضمیر مستقر فاعل پہلہ جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ سہرہ موصول باصلہ مجرور، جار باجرور أَحَطَّتْ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با متونہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف مَكَتْ ہے۔ واو عاطفہ جِئْتُكَ فعل ثناء مضمومہ فاعل كاف ضمیر منصوب مفعول بہ من سَبَإٍ جار باجرور طرف لغو متعلق اول ہوئے، یَاء حرف جار لِيَأْتِيَنَّيْ مرکب تو صیغی مجرور، جار باجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ أَحَطَّتْ ہے۔

اِنِّیْ وَجَدْتُ اَمْرًا تَبَلَّكُهُمْ وَ اُوْتِيتُ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ وَ لَهَا عَرَشٌ عَظِیْمٌ ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۳:** اِنِّیْ وَجَدْتُ اَمْرًا تَبَلَّكُهُمْ وَ اُوْتِيتُ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ وَ لَهَا عَرَشٌ عَظِیْمٌ ﴿۲۳﴾  
 قائل، ہفتہ نمبر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف بہ صفت وَجَدْتُ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبریاتی اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانف ہوں۔ (روح المعانی) واو حالیہ اُوْتِيتُ فعل مجہول ہے مستتر نائب قائل من حرف جار کُنْ فعی ہو مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول بہ نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ تَبَلَّكُ کی ہے ضمیر کا حال اولیٰ ہے، واو حالیہ لَهَا جار باجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، عَرَشٌ عَظِیْمٌ مرکب توصیفی مبتدا معترض، مبتدا باجرور جملہ اسمیہ خبریہ تَبَلَّكُ کی ہے ضمیر کا حال ثانیہ ہے۔

وَ جَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا یَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَیِّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالَہُمْ

فَصَدَّہُمْ عَنِ السَّبِیْلِ فَہُمْ لَا یَهْتَدُوْنَ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۴:** وَ جَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا یَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَیِّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالَہُمْ  
 مدیہ یَسْجُدُوْنَ فعل واو ضمیر قائل لِلشَّمْسِ جار باجرور متعلق ہوئے، من حرف جار دُوْنِ اللّٰہِ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور طرف نحو متعلق ثانی ہوئے (روح المعانی) یا مَعْتَبَرًا زَیِّنَ کے متعلق ہو کر یَسْجُدُوْنَ کی ضمیر قائل سے حال ہے (روح المعانی) یَسْجُدُوْنَ فعل باقاعل و متعلق وَجَدْتُ کا مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مقابیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوں۔ واو حالیہ زَیِّنَ فعل لَهَا جار باجرور ظرف نحو متعلق ہوئے الشَّیْطٰنُ قائل اَعْمَالَہُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوف علیہ، قَاءَ عاطفہ صَدَّ فعل ہو ضمیر مستتر قائل ہفتہ نمبر منصوب مفعول بہ، عَنِ السَّبِیْلِ جار باجرور ظرف نحو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوف، مَعْطُوف علیہ یا مَعْطُوف یَسْجُدُوْنَ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔ قَاءَ عاطفہ ہفتہ نمبر مبتدا، اَلَا یَهْتَدُوْنَ فعل واو ضمیر قائل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا باجرور جملہ اسمیہ خبریہ یَسْجُدُوْنَ کے مفعول ہے۔

اَلَا یَسْجُدُوْا لِلّٰہِ الَّذِیْ یُخْرِجُ الحَبَّ عَٰ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ یَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ

مَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۲۵﴾

**آیت نمبر ۲۵:** اَلَا یَسْجُدُوْا لِلّٰہِ الَّذِیْ یُخْرِجُ الحَبَّ عَٰ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ یَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۲۵﴾  
 موصول یُخْرِجُ فعل ہو مستتر قائل الحَبَّ مصدر فی حرف الجمالیات وَ الْاَرْضِ مَعْطُوف علیہ یا مَعْطُوف مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، مصدر یا متعلق یُخْرِجُ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَعْطُوف علیہ، واو عاطفہ یَعْلَمُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل مَا اسم موصول تَخْفُوْنَ فعل واو ضمیر قائل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مَعْطُوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول تُعْلِنُوْنَ فعل واو ضمیر قائل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مَعْطُوف، مَعْطُوف علیہ یا مَعْطُوف یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ یُخْرِجُ پر مَعْطُوف ہے، مَعْطُوف علیہ یا مَعْطُوف صلہ، موصول باصلہ اللّٰہ کی صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جار باجرور ظرف نحو یَسْجُدُوْا کے

متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر لاکتھتدوون کا مفعول یہ ہے۔ (مقہری)

### اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

**آیت نمبر ۲۶:** اللہ: مبتدأ، لا نفي جمل الله اس کا اسم الا حرف استثناء هو ضمير مبتدأ، رب متعلق جملہ العرش العظيم مرکب توصیفی مضاف الیه، بجز مرکب اضافی هو کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ لا کی خبر ممدوف مؤجود کی کو ضمیر سے بدل ہے، لا کے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ اسم الجلالہ کی خبر ہے، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مؤخر کی تعلیل ہے۔

### قَالَ سَتَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۲۷:** قَالَ فعل هو مستتر قاعل، و دونوں مل کر قول سیدین علامت فعل، نَنْظُرُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر قاعل، ههذه حرف استفہام صَدَقْتَ فعل ناقص مفتوح ضمیر قاعل، و دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، أَمْ عاطفہ کُنْتَ فعل ناقص قائم مفتوح ضمیر اس کا اسم مِنَ الْكٰذِبِيْنَ جملہ باجبر و طرف مستتر کُنْتَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف نَنْظُرُ کا مفعول ہے، فعل باقاعل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

### إِذْ هَبْ بِكِتَابِيْ هَذَا فَاَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝

**آیت نمبر ۲۸:** إِذْ هَبْ فعل امر آتت ضمیر مستتر قاعل، بآء حرف جر کتآبی مرکب اضافی موصوف ہذا اسم اثناء مفت، موصوف ہا مفت مجرور، جملہ باجبر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فآء عاطفہ اَلْقَى فعل امر آتت ضمیر مستتر قاعل، ضمیر منصوب مفعول یہ، إِلَيْهِمْ جملہ باجبر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول یہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ تَوَلَّى فعل آتت ضمیر مستتر قاعل، جملہ باجبر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثانی، فآء عاطفہ اَنْظُرْ فعل امر آتت ضمیر مستتر قاعل، مَاذَا کلمہ استفہامی مَعْلَا منصوب مفعول یہ مقدم (روح المعانی) يَرْجِعُونَ فعل واو ضمیر قاعل، فعل باقاعل و مفعول یہ جملہ انشائیہ استفہامیہ مَعْلَا منصوب اَنْظُرْ کا مفعول ہے، فعل باقاعل و مفعول یہ جملہ انشائیہ معطوف ثالث، إِذْ هَبْ معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ مستوف ہو۔ (روح المعانی)

### قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اِئْتِيْ اِلَيْ كِتٰبِ كَرِيْمٍ ۝

**آیت نمبر ۲۹:** قَالَتْ فعل حجی ضمیر مستتر قاعل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اس کی ترکیب لِأَيُّهَا التَّمَلُّكُ کی مثل ہے، اور یہ علامہ ہے، اِنَّ حرف تحقین، يَا ضمیر اس کا اسم اَلْقَى فعل مجہول الی جملہ باجبر و طرف لغو متعلق ہوئے کِتٰبِ كَرِيْمٍ مرکب توصیفی نائب قاعل، فعل مجہول ہا نائب قاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ علامہ کا جواب، جملہ انشائیہ علامتی مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

### إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

**آیت نمبر ۳۰:** اِنَّ حرف تحقین، ضمیر اس کا اسم مِنْ سُلَيْمٰنَ جملہ باجبر و طرف مستتر کَالِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر بیان با اسم و خبر

جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ، حرف تحقیق، ضمیر اس کا اسم بنسبہ اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہو کر مکتوبِ فیه کا نائبِ فاعل ہو کر ان کی خبر (تفسیر ان) ہے اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متناظر ہوں۔

**الَّا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَاَنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۱:** اَنْ حرف مصدریہ لَا تَعْلَمُوْا فعلِ واو ضمیرِ فاعلِ عَلٰی جارِ باجرور ظرفِ نحو متعلق ہوئے، فعلِ بافاعلِ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْتُمْ اَنْتُمْ فعلِ امرِ واو ضمیرِ ذوالحالِ مُسْلِمِيْنَ حالِ بذوالحالِ باحالِ فاعلِ نونِ برائے وقایہ بیاہ ضمیر منصوبِ مفعولِ بلِ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف بتاولِ مصدرِ کِثْبٌ کو یہ کابل ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

**قَالَتْ يَآٰيَهٗا الْمَلُوْا اَفْتَوْنِيْ فِيْ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۲:** قَالَتْ فعلِ ہیِ مستترِ فاعلِ بدولوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، يَآٰيَهٗا الْمَلُوْا اس کی ترکیب يَآٰيَهٗا التَّنْبِيْلِ کی مثل ہے، اور یہ نداء ہے، اَفْتَوْنِيْ فعلِ امرِ واو ضمیرِ فاعلِ نونِ برائے وقایہ، يٰٓاھ ضمیرِ منصوبِ مفعولِ بہ فی حرفِ جارِ اَمْرِيْ مرکبِ اضافیِ مجرور، جارِ باجرور ظرفِ نحو متعلق ہوئے، فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ و متعلق جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء باجواب جملہ انشائیہ مقولہ، قولِ با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ پہلے قَالَتْ سے بدل ہے (ظہیری) مَا تَاْمِيْرٌ كُنْتُ فعلِ ناقصِ تاءِ مضمومہ اس کا اسم قاطعۃ نام فاعلِ اَنْتَا مستترِ فاعلِ اَمْرًا مفعولِ بہ، اسمِ فاعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ شبہ جملہ خبر، حَسْبِيَ حرفِ نغیثہ و جر اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ بِتَشْهَدُوْا فعلِ واو ضمیرِ فاعلِ نونِ برائے وقایہ يٰٓاھ ضمیرِ منصوبِ مفعولِ بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاولِ مصدرِ مجرور، جارِ باجرور قاطعۃ کے متعلق ہوئے، فعلِ ناقصِ با اسمِ و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں (تفسیر)۔

**قَالُوْا اَنْحٰنْ اَوْ لَوْا اَقْوٰةٌ وَّاَوْلُوْا اَبٰسٌ شَدِيْدٌ ۙ لَّا وَاَلَا مَرِيْكَ فَاَنْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۳:** قَالُوْا فعلِ واو ضمیرِ فاعلِ بدولوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَنْحٰنْ ضمیرِ مبتدأ، اَوْلُوْا اَقْوٰةٌ مرکبِ اضافیِ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَوْلُوْا اَصْفٰبٌ اَبٰسٌ شَدِيْدٌ مرکبِ توصیفیِ مضاف الیہ، بھر مرکبِ اضافیِ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلَا مَرِيْكَ جملہ خبریہ متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مقولہ، قولِ با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متناظر ہوں۔ فَاھ ضمیرِ اور اس کی شرطِ محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، یا اِنْ عَزَمْتَ عَلٰی اَمْرٍ اَنْظُرِيْ فعلِ امرِ يٰٓاھ ضمیرِ مرفوعِ متصلِ فاعلِ مَاذَا كَلِمَ اسْتِفْہَامِ مفعولِ بہ مقدمِ تَأْمُرِيْنَ فعلِ یٰٓاھ ضمیرِ مرفوعِ متصلِ فاعلِ، فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ جملہ انشائیہ مَعْلَاً منصوبِ اَنْظُرِيْ کا مفعولِ بہ، فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرطِ محذوفِ باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**قَالَتْ اِنَّ الْمَلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْا اَعْرَآةَ اَهْلِهَا اَدِلَّةً ۚ وَ كَذٰلِكَ**

**يَفْعَلُوْنَ ۝**





## صغُرُونَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: ارجع فعل امر آت مستقر قائل الیہم جاد باجور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ اسرہ ہوں فائدہ نصیر اور شرط مخدوف ہے ان لَمْ یَأْتُوْا فِیْ مُسْلِمِیْنَ، لاکر موطن اللقم اور قسم مخدوف ہے تَأْتِیْنَ فعل تَحْن ضمیر مستقر قائل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ، بآء حرف جاد جُود موصوف لانی جنس قبیل اس کا اسم اُھم جاد باجور طرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے، کائین اسم قائل ہو ضمیر قائل یہاں جاد باجور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، اسم قائل با قائل و متعلقین خبر لانی جنس با اسم و خبر جملہ اسرہ خبریہ صفت، موصوف ہفت مجرور، جاد باجور طرف لغو تَأْتِیْنَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لاکر موطن اللقم اور قسم مخدوف ہے نُحْرٍ جَنَّ فعل تَحْن مستقر قائل ہُم ضمیر منصوب ذوالحال اذَلَّة صیغہ صفت ہُم ضمیر مستقر قائل، دونوں مل کر حال اولیٰ، واو حالیہ ہُم ضمیر منفصل مبتدا، صغُرُونَ اسم قائل ہُم مستقر قائل، دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسرہ خبریہ حال ثانیہ ذوالحال باحالیٰ نُحْرٍ جَنَّ فعل تَحْن مستقر قائل، لغو ہو کر متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم مخدوف باجواب قسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف کلاً مجرور، جزاء، شرط مخدوف باجزاء جملہ شرطیہ مستقر ہوں

## قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَدُوِّكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: قَالَ فعل ہو مستقر قائل، دونوں مل کر قول، يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اس کی ترکیب يَا أَيُّهَا التَّمَلُّکُ کی طرح ہے، اور یہ ندا ہے، ائیکم مرکب اضافی مبتدا، ائی فعل ہو ضمیر مستقر قائل، نون برائے وقایہ، بآء حرف جاد جَعَز شہا مرکب اضافی مجرور، جاد باجور طرف لغو متعلق ہوئے، قَبْلَ مضاف ان حرف مصدری و نصب یَأْتُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال مُسْلِمِیْنَ حال ذوالحال باحال قائل نون برائے وقایہ، بآء ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی یَأْتِیْ کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ائیکم کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسرہ انشائیہ ندا کا جواب، ندا باجواب جملہ انشائیہ ندا یہ معقول، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

## قَالَ عِفْرِیْتُ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۚ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ

## أَمِينٌ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: قَالَ فعل عِفْرِیْتُ ذوالحال مِنَ الْجِنِّ جاد باجور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَنَا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ائی فعل اَنَا مستقر قائل کا ضمیر منصوب مفعول بہ یہ جاد باجور طرف لغو متعلق ہوئے، قَبْلَ مضاف ان حرف مصدری و نصب تَقُومَ فعل اَتَتْ مستقر قائل، نون حرف جاد مَقَامِكَ مرکب اضافی مجرور، جاد باجور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ پھر مرکب اضافی ائی کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسرہ خبریہ معقول، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عالیہ ان حرف تحقیق بآء ضمیر اس کا اسم

حکایت یہ کہ باجمرد در طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، لاکر نہ ملحقہ قویٰ آمین مرکب تو سنی خبر، یا قویٰ خبر اول آمین خبر دوم ہے، ان ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ای کی ضمیر قائل ہے حال ہے (ظہری)

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ آتَيْتَكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَكُنَّا

رَأَاهُ مُسْتَقْرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۚ أَشْكُرُ ۚ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَ مَنْ

شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَفِيءٌ كَرِيمٌ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۳۰:** قَالَ لِي الَّذِي اسْم موصول عِنْدَهُ مرکب انسانی کا کائن کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم عِلْمٌ موصوف من الْكِتَابِ جاہ باجمرد در طرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر مفت، موصوف باصفت مبتدا، موخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، انا ضمیر منفصل مبتدا ای فعل انا مستقر قائل کا فن ضمیر منصوب مفعول بہ، یہ جاہ باجمرد در طرف لغو متعلق ہوئے قَبْلَ طرف زمان مضاف اُن حرف مصدری و نصب یَرْتَدُّ لِي بِالْيَاكُفُّ جہ باجمرد در طرف لغو متعلق ہوئے طَرْفُكَ مرکب انسانی قائل، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب انسانی ای کی مفعول فیہ، فعل ہا قائل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول باقول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فاعل عاقلہ اور مفعول علیہ محذوف ہے فَاَمْرًا سَلِيمًا اَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَاتِ، لِنَتَّشُرْ طبع مفعول فیہ مقدم ہوا فی فعل ہو مستقر قائل ؕ ضمیر ذوالحال مُسْتَقْرًّا اس مائل ہو ضمیر قائل عِنْدَهُ مرکب انسانی مفعول فیہ، ہام قائل ہا قائل و مفعول فیہ حال بذوالحال ہا قائل و مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ لِي هُوَ مُسْتَقْرٌّ قائل و دو لوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، هَذَا اس اشدہ مبتدا، مِنْ حرف جاہ فَضْلِ مضاف رُبِّي مرکب انسانی مضاف الیہ، پھر مرکب انسانی مجرور، جاہ باجمرد در طرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول باقول جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مفعول، مفعول علیہ محذوف با مفعول جملہ مستقر ہوا۔

لاہر حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد اُن مقدّم ہے یَبْلُوَنِي فعل ہو مستقر قائل لَوْنِ برائے وقایہ یاہ ضمیر منصوب مبدل منہ، ہمزہ حرف استفہام اَشْكُرُ فعل انا مستقر قائل و دو لوں مل کر مفعول علیہ، اَمْ عاقلہ اَشْكُرُ فعل انا مستقر قائل و دو لوں مل کر مفعول، مفعول علیہ با مفعول علیہ منصوب بدل، مبدل منہ بدل یَبْلُوَنِي کا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جاہ باجمرد در طرف لغو فَضْلِ مصدر کے متعلق ہوئے، ہوا و استیناف منہ اس شرط مبتدا، شَكَرُ فعل ہو مستقر قائل و دو لوں مل کر شرط عاقلہ جزائیہ اِنْ حرف تحقیق کونہ صَا کا ذی شُكْرُ فعل ہو ضمیر مستقر قائل لاہر حرف جاہ لِنَفْسِهِ مرکب انسانی مجرور، جاہ باجمرد در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق ہوئے جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول علیہ ہوا و عاقلہ من اس شرط مبتدا، اَشْكُرُ فعل ہو ضمیر مستقر قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاَمْرًا جزائیہ اِنْ حرف تحقیق رُبِّي مرکب انسانی اس کا اسم شَقِيءٌ کَرِيْمٌ دو خبریان، ہام و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول، مفعول علیہ با مفعول جملہ مستقر ہوا۔

قَالَ تَكْرُوْا لَهَا عَزَّ شَهَا نَنْظُرُ اَتْهَدِيْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۱:** قَالَ لَعَلَّ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ، دووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، تَكْرُوْا لَهَا فعل، واو ضمیر قائل لَهَا جاد باجرور طرف نحو متعلق ہوئے عَزَّ شَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل امر باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں تَنْظُرُ فعل تَنْحَنِ مُسْتَرْتَابٌ ہمزہ حرف استفہام تَهْتَدِيْ فعل ہیج مُسْتَرْتَابٌ، دووں مل کر معطوف علیہ، اَمْ عاطفہ تَكُوْنُ فعل ناقص ہیج مُسْتَرْتَابٌ کلام میں حرف جاد الَّذِيْنَ اسم موصول لَیْه تَهْتَدُوْنَ فعل واو ضمیر قائل دووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجرور طرف مُسْتَرْتَابٌ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مَعْلَا مُسْتَرْتَابٌ تَنْظُرُ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ شرط مخدوف اِنْ تَكْرُوْا لَهَا عَزَّ شَهَا کی جڑ ہے اسلئے کہ تَنْظُرُ جواب امر ہے، شرط مخدوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَلَمَّا جَاءَتْ قَيْلٌ اَهْكَدًا عَزَّ شَهْكَ ۝ قَالَتْ كَاَنَّهُ هُوَ ۝ وَاُوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا

**مُسْلِيْمِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۲:** قَاءَ عَاطِفٌ اور اس کا معنی فَلَمَّا جَاءَتْ مُسْلِيْمِيْنَ قَالَ اَتْهَدُوْنَ، یہاں ہے، لکن شرطیہ مفعول فی مقدم جَاءَتْ فعل ہیج ضمیر مُسْتَرْتَابٌ قائل، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط قَيْلٌ فعل مجہول فعل مجہول نائب قائل، فعل مجہول ہائیب قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ہمزہ حرف استفہام ہَا بَرَاءے تعبیر گڈا جاد باجرور طرف مُسْتَرْتَابٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَزَّ شَهْكَ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جڑ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے، قَالَتْ فعل ہیج ضمیر قائل، دووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، بگاڑ حرف مشبہ بالفعل، ضمیر اس کلام ہو ضمیر خبر بگاڑ چنے نام و خبر سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اُوْتَيْنَا فعل مجہول نَا ضمیر نائب قائل الْعِلْمَ مفعول بہ میں حرف جار قَبْلِهَا مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائیب قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو عاطفہ كُنَّا فعل ناقص نَا ضمیر اس کلام مُسْلِيْمِيْنَ اسم قائل تَنْحَنِ ضمیر قائل، اسم قائل یا قائل شہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تُعْبِدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۝ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۳:** واو استینافہ صَدَّ فعل ہَا ضمیر منصوب مفعول بہ، مَا اسم موصول کَانَتْ فعل ناقص ہیج مُسْتَرْتَابٌ کلام تَعْبُدُ فعل ہَا ضمیر منصوب مخدوف ذوالحال، مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ جاد باجرور طرف مُسْتَرْتَابٌ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قائل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ مستاف ہوں اِنْ حرف تحقیق ہَا ضمیر اس کا اسم کَانَتْ فعل ناقص ہیج ضمیر مُسْتَرْتَابٌ کا اسم میں حرف جاد قَوْمٍ موصول کَفِرِيْنَ اسم قائل هُمْ ضمیر مُسْتَرْتَابٌ دووں مل کر صفت، موصوف ہفت مجرور، جاد باجرور طرف مُسْتَرْتَابٌ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنْ ہَا ضمیر جملہ اسمیہ خبریہ مُظَلَّہ ہوں

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّوْحَ ۖ فَكَلِمًا رَأَتْهُ حَسِبْتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ  
صَوْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاسْلُمْتُ مَعَ سُلَيْمِينَ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿۷۷﴾

**آیت نمبر ۳۳:** قیل فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل کہا جا رہا ہے اور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اذخلی فعل امر یا ضمیر فاعل الصَّوْحَ ظرف مکان مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں (روح المعانی) فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے قَدْ خَلَّتَهُ، لَمَّا شَرَطِيه مفعول فیہ مقدم رَأَتْ فعل ہی مستتر فاعل ضمیر منسوب مفعول بہ، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطاً، حَسِبْتَهُ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل ضمیر منسوب مفعول بہ، اَوَّلَ لُجَّةً مفعول بہ یعنی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ كَشَفَتْ فعل ہی ضمیر مستتر فاعل عن حرف جار ساقیہا مرکب انشائیہ مجرور، اور یہ اسل میں ساقیٰ تین تھا جا رہا ہے اور طرف لغو متعلق ہوئے فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔ قَالَ فعل ہی مستتر فاعل بدووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم صَوْحٌ موصوف مُمَرَّدٌ اسم مفعول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل یوں قَوَارِيرَ جملہ با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، اسم مفعول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفت خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ قَالَتْ فعل ہی مستتر فاعل بدووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یوں یہ اور یہ عامہ ہے اِنَّ حرف تحقیق قائم ضمیر اس کا اسم ظَلَمْتُ فعل تام مضمومہ ضمیر فاعل نَفْسِي مرکب انشائی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ و او عاطفہ اسْلَمْتُ فعل تام مضمومہ ذوالحال مَعَ سُلَيْمِينَ مرکب انشائیہ مَصَاحِبَةً کا مفعول فیہ ہو کر حال (حاشیہ جلالین) ذوالحال با حال فاعل لآمر حرف جار اَللّٰهُ اسم الجلال موصوف رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب انشائی صفت، موصوف ہفت مجرور، جملہ با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ عامہ کا جواب، عامہ با جواب جملہ انشائیہ عامیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

﴿۷۷﴾ رکوع نمبر ۳

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿۷۸﴾

**آیت نمبر ۳۵:** او ایسا نیا یہ یا عاطفہ لآمر موصوف اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل، او اسْلَمْتُ فعل تام ضمیر فاعل اِلَىٰ كَثُودَ جار با مجرور طرف لغو متعلق اَوَّلَ ہونے آخاھم مرکب انشائیہ بدل منہ، صلیحاً بدل، بدل منہ بدل مفعول بہ، اَنْ حرف مصدری و نصب اَعْبُدُوا فعل امر او ضمیر فاعل اَللّٰهُ اسم الجلال مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ بتاولیل مصدر مجرور، جملہ با مجرور او اسْلَمْتُ کے متعلق ثانی ہونے، فعل با قائل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ اِذَا مفاہیجیہ مفعول فیہ مقدم مَهْمُہ ضمیر مبتدأ، فَرِيقَانِ موصوف یَخْتَصِمُونَ فعل او ضمیر فاعل بدووں مل کر صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف،

معطوف علیہ با معطوف جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ لَقَدْ اَنْزَلْنَاكَ اَوْ ذُو... الخ، معطوف ہے (مظہر میں) یا جملہ مستافہ ہے۔

قَالَ يَقُوْر لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسِّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اَللّٰهُ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُوْنَ ﴿۳۶﴾

**آیت نمبر ۳۶:** قَالَ لَعَلَّ هُوَ ضمیر مستقر تفاعل و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یا قُوْر یہ اصل میں یا قُوْر ہی ہے اور یہ عام ہے، لام حرف جار ما استفہامیہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے تَسْتَعْجِلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بالسِّيْئَةِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے قَبْلَ الْحَسَنَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با تفاعل و مفعول فیہ و متعلقین جملہ انشائیہ استفہامیہ عامہ کا جواب، عامہ با جواب جملہ انشائیہ مفعول، قول، یا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لَوْ لَا حرف تخصیص غیر ما ل تَسْتَغْفِرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَللّٰهُ اسم الجلالہ مفعول فیہ، فعل با تفاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لَعَلَّ حرف ترتیبی کُم ضمیر اس کا اسم تُرْحَمُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لَعَلَّ کی خبر لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیحی ہو کر راجع الی الضمیر کی تادل میں ہو کر تَسْتَغْفِرُوْنَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

قَالُوا اَظْيِرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ؕ قَالَ لَظِيْرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُوْنَ ﴿۳۷﴾

**آیت نمبر ۳۷:** قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اَظْيِرْنَا تاء اصل میں تَكْفِيْرًا تاء اظہار تاء افعال کا ضمیر فاعل تاء حرف جار مکاتب ضمیر مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ تاء حرف جار من اسم موصول مَعَكَ مرکب اضافی فعل محذوف کیفیت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با تفاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول، قول، یا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا قَالَ فعل هو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لَظِيْرُكُمْ مرکب اضافی مبتدأ عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی کائِن کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول، قول، یا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بَلْ برائے انضراب اَللّٰهُ ضمیر مبتدأ قَوْمٌ موصوف تَفْتَنُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةً رَهْطًا يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾

**آیت نمبر ۳۸:** واو استینافیہ کان فعل ناقص فی الْمَدِيْنَةِ جار با مجرور ظرف مستقر كَانَتْ کے متعلق ہو کر حال مقدم تِسْعَةً رَهْطًا مرکب اضافی یا میز با میز ذوالکمال موخر ذوالکمال یا حال اسم يُفْسِدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل فی الْاَرْضِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يُصْلِحُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستافہ ہوا۔

قَالُوا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَكُنْبَيْتَنَّهُ وَاهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لَو لِيْهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنَّا

لَصٰدِقُوْنَ ﴿۳۹﴾



مفت، موصوف ہفت بحر، چارہا بحر و طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کہ اسم مؤخر بان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

### وَ اَنْجَبِنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا یَتَّقُوْنَ ﴿۵۳﴾

**آیت نمبر ۵۳:** واؤ عطف اذیبتنا فعل نا ضمیر فاعل الذین اسم موصول اعمنا فعل واؤ ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ عطف کاؤا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم یتقون فعل واؤ ضمیر فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف ملہ، موصول ہمسلا اذیبتنا کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معکروا ہ بمعطوف ہے۔

### وَ لَوْ كَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ذُو الْاٰلِ اَمْ اَنْتُمْ تَبْصِرُوْنَ ﴿۵۴﴾

**آیت نمبر ۵۴:** واؤ عطف لو کا مفعول بہ ہے فعل مخدوف ارسلتنا کا، ارسلتنا فعل نا ضمیر فاعل اذ طرف زمان مضاف قال فعل ہو مستتر فاعل کلام حرف جار قومہ مرکب اضافی بحر و طرف ہا بحر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزہ حرف استفہام تاآتون فعل واؤ ضمیر فاعل الفاحشہ ذوالال، واؤ حالیہ ائتھ ضمیر مبتدأ تبصرون فعل واؤ ضمیر فاعل ہا ضمیر منسوب مخدوف مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالال ہا حال تاآتون کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ اذ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی ارسلتنا کا مفعول بہ، ارسلتنا فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ارسلتنا کا مفعول بہ۔

### اٰیْنِكُمْ لَتَاْتُوْنَ الزَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ۗ اٰیْلَ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۵۵﴾

**آیت نمبر ۵۵:** ہمزہ حرف استفہام ان حرف تحقیق کڈ ضمیر اس کا اسم لامہ مد حلقہ تاآتون فعل واؤ ضمیر فاعل من دون النساء جار ہا بحر و متعلق ہوئے شہوۃ مفعول بہ (روح المعانی) الزجال مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر بان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو بل حرف عطف ائتھ ضمیر مبتدأ قوم موصوف تَجْهَلُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

### فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ اِلَّا اَنْ قَالُوْۤا اٰخْرُجُوْۤا اِلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيٰتِكُمْ ؕ اِنَّهُمْ اِنَاسٌ

### يَتَّبِعُوْنَ ﴿۵۶﴾

**آیت نمبر ۵۶:** قاء تیسریہ مآنایہ کان فعل ناقص جواب قومہ مرکب اضافی خبر مقدم اذ حرف استفہام قالوا فعل ہاواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول اخرجوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل ان لو ط مرکب اضافی مفعول بہ، من حرف جار قریبتکم مرکب اضافی بحر و جملہ ہا بحر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل امر ہا فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ تاویل مصدر مستثنی مفرغ ہو کہ کان کا اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو ان حرف تحقیق ہڈ ضمیر اس کا اسم اناس موصوف يتتبعون فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف ہفت خبر بان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطیہ ہوں (مظہری)



فَأَجْبِنُهُ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ وَقَدْ زَنَها مِنَ الْغَيْبِ ۝۷۰

آیت نمبر ۵۷: قائم اور شرط محذوف ہے اذ قالوا انجو جونا انا جبننا فعل نا ضمیر قائل یا ضمیر منصوب مفعول بہ ہوا و بمعنی مع اهلک مرکب اضافی مستثنیٰ منہ، الا حرف استثنا امراؤکم مرکب اضافی مستثنیٰ منہ ہا مستثنیٰ مفعول معہ، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہول قد زنا فعل نا ضمیر قائل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، ومن الغیبین جار ہا مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہول (ضمیر)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝۷۱

آیت نمبر ۵۸: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ اس کی ترکیب سورۃ الشعراء کے رکوع نمبر ۱

میں گز رہی ہے۔

●●● رکوع نمبر ۱ ●●●

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ ۝

آیت نمبر ۵۹: قُلِ فعل امر اذ انت مستتر قائل ہوں توں مل کر جملہ انشائیہ امریہ قول، الْحَمْدُ مفعول فاعل مبتدا، لِلَّهِ جار ہا مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفُ سَلَامٌ مبتدا اس لئے کہ یہ سَلَامٌ عَظِيمَةٌ کی تائید میں ہو کر نکرہ مضموم ہے (ضمیر) علی حرف جار عبادہ مرکب اضافی موصوف الذین نام موصول اصطقی فعل ہو مستتر قائل ہذا ضمیر منصوب محذوف مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول ہا صلہ عبادہ کی صفت، موصوف ہ صفت مجرور، جار ہا مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مقول، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہول ہذا حرف استفہام اللہ نام الجلالہ، مبتدا، خَيْرٌ مِمَّا تفضیل ہو مستتر قائل، نام تفضیل ہا قائل شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْ عَاطِفُ مِمَّا موصول یُشْرِكُونَ فعل واو ضمیر قائل ہا ضمیر منصوب محذوف مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ صلہ، موصول ہا صلہ مبتدا، خبر محذوف ہے خَيْرٌ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متناہ ہول

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ۝

آیت نمبر ۶۰: اَمْ مَن مِّن مَّن موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر قائل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ معطوف علیہ ہا معطوف مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفُ اَنْزَلَ فعل ہو مستتر قائل مِنَ السَّمَاءِ جار ہا مجرور متعلق ہوئے لَكُمْ كَاثِرَاتُ کے متعلق ہو کر حال مقدم مَاءً ذوالحال مؤخر ذوالحال ہا حال مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذ قائم عَاطِفُ اَنْبَتْنَا فعل نا ضمیر قائل پہ جار ہا مجرور متعلق ہوئے حَدَائِقَ موصوف ذَاتَ بَهْجَةٍ مرکب اضافی صفت، موصوف ہ صفت مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، یعنی معطوف علیہ ہا معطوفین صلہ، موصول ہا صلہ مبتدا اور خبر محذوف ہے خَيْرٌ، مبتدا با خبر جملہ

اسیہ انطاسیہ معطوف علیہ، اعرافہ مَا یَشْرِی کُوْنُ موصول ہاسلہ مبتدأ اور خبر محذوف ہے خَبْرُہُ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انطاسیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متانفہ ہولہ صافیہ کان ناقصہ لکم طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَنْ ناصبہ یُشْرِیْ فاعل واو ضمیر قائل ہے حَجْرٌ ہا مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر تاویل مصدر اسم مؤخر کا کان با اسم و خبر حکا اَنْو کی صفت ثانیہ یامال ہے، ہمدانہ استنہامیر الہ مبتدأ مع اللہ مرکب اضافی کا کون کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ انطاسیہ استنہامیہ ہولہ بکل حرف اضربا ہُف ضمیر مبتدأ مفعول موصوف یُعْدِلُوْنَ فعل ہاداؤ ضمیر قائل صفت، موصوف ہصفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہولہ

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلْقَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۷: اعرافہ مستقطع من اسم موصول جَعَلَ فعل ہو مستقر قائل الْأَرْضَ مفعول بہ ازل، قَرَارًا مفعول بہ یعنی، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو اعرافہ جَعَلَ فعل ہو مستقر قائل خِلَافًا لَهَا مرکب اضافی مفعول فیہ، اَنْهَرًا مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ازل، واو اعرافہ جَعَلَ فعل ہو مستقر قائل لَهَا متعلق رَوَاسِيَ مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف یعنی، واو اعرافہ جَعَلَ فعل ہو مستقر قائل بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ مرکب اضافی مفعول فیہ حَاجِزًا مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ ہا معطوفات ثلاث صلہ، موصول ہاسلہ مبتدأ اور خبر محذوف ہے خَبْرُہُ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انطاسیہ معطوف علیہ، اعرافہ مَا یَشْرِی کُوْنُ موصول ہا صلہ مبتدأ اور خبر محذوف ہے خَبْرُہُ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انطاسیہ معطوف جملہ متانفہ ہولہ بکل حرف اضربا اَمْ یَشْرِیْ ہا مرکب اضافی مبتدأ لَا یَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہولہ

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ اللَّهِ ذَلِيلًا ۖ مَا كَذَّبَكُمُونَ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: اعرافہ مستقطع من اسم موصول يُجِيبُ فعل ہو مستقر قائل الْمُضْطَرَّ مفعول بہ اذکا مضاف دخلی فعل ہو مستقر قائل ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مرکب اضافی يُجِيبُ کا مفعول فیہ، سب ل کر معطوف علیہ، واو اعرافہ یُكْشِفُ فعل ہو مستقر قائل السُّوءَ مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ازل، واو اعرافہ یُجْعَلُ فعل ہو مستقر قائل کُمْ ضمیر مفعول بہ ازل، خُلَفَاءَ الْأَرْضِ مرکب اضافی مفعول بہ یعنی سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف یعنی، معطوف علیہ ہا معطوفین صلہ، موصول ہاسلہ مبتدأ خبر محذوف ہے کہن لَا یُجِيبُ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انطاسیہ ہولہ ہمدانہ استنہامیر الہ مبتدأ مع اللہ کا کون کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ انطاسیہ استنہامیہ ہولہ ذَلِيلًا ہواسلہ موصوف محذوف کَذَّبَكُمُ ا کے مفعول مطلق مقدم، صا لہ کَذَّبَكُمُ فعل ہاداؤ ضمیر قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہولہ

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَنْ يُرْسِلْ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ

## عَرَالَةٌ مَعَ اللَّهِ تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشِيرُ كُونَ ﴿٧٣﴾

**آیت نمبر ۷۳:** امر منقطع من اسم موصول یقید فی فعل هو مستتر قائل مُشیر مفعول بہ یعنی جہد و کلمات مضاف الیکبر والبخیر معطوف علیہ باعطوف مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ مجرور، جہد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ من موصول یزید فی فعل هو مستتر قائل اذ یرایح ذوالحال یُشیر ما یسعی مُبیشوات اسم قائل ہی مستتر قائل یبین یدکی وخصمہ مرکب انسانی مفعول فیہ سے مل کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ صلہ، موصول ہاسلہ معطوف، معطوف علیہ باعطوف مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے کمن لا یقید ہی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہولہ عرالۃ مَعَ اللہ اس کی ترکیب ابھی گزری ہے۔ کمال فعل اللہ قائل عن جہد مائیشیر کون موصول ہاسلہ مجرور، جہد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومتعلق جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہو۔

## أَمَّنْ يَبْدُو وَالْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَزُوقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ عَرَالَةٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٤﴾

**آیت نمبر ۷۴:** امر منقطع من اسم موصول یبیدو فعل هو مستتر قائل الْخَلْقُ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ یُعیدُ فعل هو مستتر قائل مُشیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ باعطوف صلہ، موصول ہاسلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ من اسم موصول یزوقُکُم فعل هو مستتر قائل مُشیر مفعول بہ من جہد السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ معطوف، معطوف علیہ باعطوف مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے کمن لا یبیدو... الخ، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہولہ عرالۃ مَعَ اللہ اس کی ترکیب گزر چکی ہے۔ قُلْ فعل امر آت مستتر قائل سے مل کر قول، ہاتوا اسم فعل بسیط امر اولیٰ ضمیر قائل یُؤہانکم مرکب انسانی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ دال برجزاہ دال برشرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کلام صادقین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، شرط دال برجزاہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

## قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٧٥﴾

**آیت نمبر ۷۵:** قُلْ فعل امر آت مستتر قائل قول، لَا يَعْلَمُ فعل من موصول فی جہد السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ معطوف علیہ باعطوف مجرور، جہد باجرور فعل محذوف یبیت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ قائل الْغَيْبُ مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا، إِلَّا حرف استثناء یسحق لیکن "اللہ" مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے یَعْلَمُ امریہ مستثنیٰ منقطع ہے، واو عاطفہ مانا فی یَشْعُرُونَ فعل اولیٰ ضمیر قائل أَيَّان استنہایہ ملامت مفعول فیہ مقدم یُبْعَثُونَ فعل مجہول دالہ ضمیر نائب فاعل ومفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ ملامت مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ معطوف ہو۔

بَلِ ادْرَاكِ عَلَيْهِمْ فِي الْأَخْرَاقِ - بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا - بَلِ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٧٦﴾





مرکب اضافی مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوئے، تاکثر مضاف الٰہی، اسم موصول ہمد ضمیر مبتدایہ، یختلِفون فعل واو ضمیر قائل فیہ، متعلق مقدم سے ل کر صلہ، موصول ہامل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یقض کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَ اِنَّهٗ لَهٰدٰی وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

آیت نمبر ۷۷: واو عاطفہ، حرف تحقیق، ضمیر اس کا اسم لامر ملحق ہمدی مرفوع تقدیر معطوف علیہ، واو عاطفہ، مفعول موصول لیل المؤمنین کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر بیان، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

آیت نمبر ۷۸: اِنَّ حرف تحقیق، رَبَّكَ مرکب اضافی اِنَّ کا اسم، يَقْضِيْ فعل ہو متعلق قائل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، بِحُكْمِهٖ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو عاطفہ، مفعول ہمدی، ضمیر مبتدایہ، الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ دو خبر، مبتدایہ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف یا ممالیہ ہوں

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۝

آیت نمبر ۷۹: فاء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اَنْ عَرَفْتَ هٰذِهِ الصِّفَاتِ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَ اَمْسَتْ تَوَكَّلْ فعل امر اَنْتَ متعلق قائل عَلَى اللّٰهِ متعلق سے ل کر جملہ، شرط با جملہ شرطیہ، ہوں اِنَّ حرف تحقیق کان ضمیر اسم علی جملہ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ مرکب توسیلی مجرور، جملہ با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر بیان، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی وَ لَا تَسْمَعُ الدُّعَاۗءَ اِذَا وَاوَا مُدْبِرِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۰: اِنَّ حرف تحقیق کان ضمیر اسم لَا تَسْمَعُ فعل اَنْتَ متعلق قائل الْمَوْتٰی مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ واو عاطفہ لَا تَسْمَعُ فعل اَنْتَ متعلق قائل الْكُفْرَ مفعول بہ اَوَّلَ الدُّعَاۗءِ مفعول بہ ثانی، اِذَا مضاف وَاوَا فعل واو ضمیر ذوالحال مُدْبِرِيْنَ حال ذوالحال ہمال قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ لَا تَسْمَعُ کا مفعول فیہ، فعل با قائل و مقابلی ثلاث جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر بیان، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ تلیل ثانی ہے

وَ مَا اَنْتَ بِهٰدِي الْعٰلَمِيْنَ ۗ اِنَّكَ تَسْمَعُ اِلَّا مَن يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهَم مَّسْلُوْنَ ۝

آیت نمبر ۸۱: واو عاطفہ، ما تاجریہ اَنْتَ ضمیر اس کا اسم بناء زائد مہادی اسم فاعل مضاف الْعٰلَمِيْنَ مضاف الیہ معنی مفعول بہ، عَنْ صَلَاتِهِمْ جملہ با مجرور متعلق، اسم فاعل مضاف با مضاف الیہ و متعلق مضافاً، خبر، مضافاً اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں اِنَّ نَايِرَ تَسْمَعُ فعل اَنْتَ متعلق قائل اِلَّا حرف استثناء، مَن اسم موصول يُّؤْمِنُ فعل ہو متعلق قائل بِاٰيٰتِنَا متعلق سے ل کر صلہ، موصول ہامل تَسْمَعُ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہوں فاء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا يُّؤْمِنُونَ بِاٰيٰتِنَا،

ہذا ضمیر مبتدأ مفسل یؤن خبر، مبتدأ باخبر جزاء، شرط باجزاء ملہ شرطیہ ہوں۔ یہ جملہ اولیٰ کی تعلیل ہے

وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۲﴾

**آیت نمبر ۸۲:** واذا استنایہ اگر شرطیہ مفعول فیہ مقدم وقع فعل القول نازل علیہم متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اخرجنا فعل ناصیر قائل لہم جدا بجزو متعلق ہوئے دابۃ موصوفہ من الارض جدا بجزو متعلق ہوئے تکلم فعل ہی متعلق قائل ہذا ضمیر مفعول بہ ان حرف تحقیق للناس اس کا اسم کاؤنا فعل ناقص واو ضمیر اسم لا یوقنون فعل واو ضمیر قائل یا آیاتنا متعلق سے ل کر خبر بان اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاول مفرد منصوب بنزع الخافض دراصل یہ ان ہے جدا بجزو تکلم کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ دابۃ کی مفت، موصوف ہفت اخرجنا کا مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء ملہ شرطیہ ہوں

﴿ کوع نمبر ۷ ﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۳﴾

**آیت نمبر ۸۳:** واو استنایہ یوم مضاف نحشرو فعل نحن مستتر قائل من کل امة جدا بجزو رکبتنا کے متعلق ہو کر حال مقدم فوجا موصوفہ من حرف جر من اسم موصول یكذب فعل هو مستتر قائل یا آیاتنا متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہاسلہ بجزو جدا بجزو رکبتنا کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت ذوالحال مؤخر بذوالحال باحال نحشرو کا مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کذا کافاء عطفہ ہذا ضمیر مبتدأ یوزعون فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل سے ل کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَقَالَ اكْذِبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَا إِذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

**آیت نمبر ۸۴:** حتیٰ ہذا استنایہ اگر شرطیہ مفعول فیہ مقدم جاء وواض وواض واو ضمیر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قال فعل هو مستتر قائل سے ل کر قول ہذا موصوفہ کذبتم استفہامیہ کذبتم فعل ضمیر قائل تاکہ جدا بائیاتی مرکب اضافی ذوالحال واو حال لہم تحیطوا فعل واو ضمیر قائل یہا متعلق علمائے تیز سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال باحال مجرور، جدا بجزو کذبتم کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انظاہیہ استفہامیہ مقولہ، قول باقولہ جزاء، شرط باجزاء ملہ شرطیہ ہوں آخر متعلقہ صا کا اسم استفہام عملا منصوب تکلمون کا مفعول بہ مقدم کذبتم فعل ناقص انہ ضمیر اس کا اسم تکلمون فعل واو ضمیر قائل و مفعول بہ مقدم سے ل کر خبر، فعل ناقص ہاسم و خبر جملہ انظاہیہ استفہامیہ مستانفہ ہوں

وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۸۵﴾

**آیت نمبر ۸۵:** واو استنایہ وقع فعل القول نازل علیہم جدا بجزو متعلق اول، بیاء جدا بعام صدریہ کلکوا فعل باوا ضمیر

فاعل بتداول مصدر مجرور، جار باجرور متعلق مبنی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ ہُجْرَ خَمِیرِ مبتدأ لا ینقطعون فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانف ہوں۔

اَلَمْ یَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الْاَیْلَ لَیْسُکُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ

یُوْمِنُوْنَ ﴿۸۱﴾

**آیت نمبر ۸۱:** ہمزہ استفہامیہ لَمْ یَرَوْا فعل واؤ ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل الْاَیْلَ مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی محذوف ہے، مُبْصِرًا خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَلْهَارَ مُبْصِرًا دونوں پر معطوف ہیں، لآمر جار ہاں کے بعد اَنْ مقدر ہے لَیْسُکُنُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل فِیْہِ متعلق سے مل کر بتداول مصدر مجرور، جار باجرور جَعَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ یَرَوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں اِنْ حرف تحقیق فِیْ ذٰلِکَ کا ابتداء کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لآمر تاکیدیہ آیت موصوف لآمر جار ماقوم موصوف یُوْمِنُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر صفت، موصوف ہفت مجرور، جار باجرور کا ابتداء کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت اسم مؤنث اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ؕ وَ

کُلَّ اَنْوٰةٍ دٰخِرِیْنَ ﴿۸۲﴾

**آیت نمبر ۸۲:** واواؤ استثنائیہ یَوْمَ مضافہ یُنْفَخُ فعل مجہول ہو مستتر بآب فاعل فِی الصُّوْرِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ فَزِعَ فعل من موصول فِی السَّمٰوٰتِ ظرف مستقر فعل محذوف تَبَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ موصول ہا صلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَنْ اِسْم موصول فِی الْاَرْضِ ظرف مستقر تَبَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ موصول ہا صلہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مستثنیٰ منہ، الْاَرْضِ استثناء من اسم موصول شَاءَ فعل اللّٰہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستثنیٰ ہوںوں مل کر فَزِعَ کا فاعل، فعل بافاعل معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف یَوْمَ کا مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ فعل محذوف اَذْکُرُ کا مفعول فیہ ہے۔ واواؤ عالیہ کُلَّ مبتدأ، اَنْوٰةٍ فاعل واؤ ضمیر ذوالحال داخِرِیْنَ اسم فاعل ہُجْرَ مستقر فاعل سے مل کر حال ذوالحال ہا حال فاعل نا ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ من فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ سے حال ہوں۔

وَ تَرٰی الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَ هِیَ تَمُرٌ مَّرَّ السَّحَابِ ؕ صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَتَقَنَ کُلَّ شَیْءٍ ؕ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۸۳﴾

**آیت نمبر ۸۳:** واواؤ عاطفہ تَرٰی فعل اَنْتَ مستقر فاعل الْجِبَالَ ذوالحال تَحْسَبُ فعل اَنْتَ مستقر فاعل ہا ضمیر ذوالحال واواؤ عالیہ ہجْ ضمیر مبتدأ، تَمُرٌ فعل ہی مستقر فاعل مَرَّ السَّحَابِ مرکب اضافی مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ حال، ذوالحال ہا حال تَحْسَبُ کا مفعول بہ اول، جَامِدًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال ہا حال تَرٰی کا مفعول بہ، فعل



ہا تاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے یَوْمَ يُنْفَخُ بِمَا يُؤْمَرُ نَحْشُهُمْ صُنْعَ الْمَصْنُوعِ مضاف اللہ موصوف الذی اسم موصول اتقن فعل ہو مستتر تاعل کلّی ہو مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر صلہ موصول ہاسلہ صفت موصوف ہاسفت مضاف الیہ مضاف ہاسفت الیہ مفعول مطلق ہوا فعل مخدوف صَنَعَ اللہ کا فعل ہا تاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہولین حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم حَیْزُہ صیغہ صفت ہو مستتر تاعل بآء جارہ مَا تَفْعَلُونَ موصول ہاسلہ مجرد ہا مجرد و متعلق ہوتے صیغہ صفت ہا تاعل و متعلق ہے جملہ ہو کر ان کی خبر بیان ہاسم و خبر جملہ اسمیہ ہوں

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِمَّنْهَا ۚ وَهُمْ مِنْ قَرَعِ يَوْمَئِذٍ مُّؤْمِنُونَ ﴿۸۹﴾

آیت نمبر ۸۹: من شرطیہ مبتدأ، جاء فعل ہو مستتر تاعل بالحسنۃ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط جارہ کذا کے متعلق ہو کر خبر مقدم حیر اسم تفضیل مینہا جارہ مجرد و متعلق اسم تفضیل ہا ہو مستتر تاعل و متعلق خبر مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ ہم ضمیر مبتدأ، من جارہ قرا ع موصوف یومئذ کانن کا مفعول فیہ ہو کر صفت موصوف ہاسفت مجرد ہا جارہ مجرد متعلق مقدم اسم فاعل ہم مستتر تاعل و متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستاف ہوں

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ طَاهِلٌ تُجْرُونَ ۚ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾

آیت نمبر ۹۰: واو عاطفہ من شرطیہ مبتدأ، جاء فعل ہو مستتر تاعل بالسئیۃ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ کیت فعل مجہول و جُوهُهُمْ مرکب اضافی نائب فاعل فی النار متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہم مبتدأ مخدوف کی خبر، مبتدأ خبر جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہولکل حرف استفہام تُجْرُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل لا حرف استفہام اسم موصول کنتم فعل ناقص ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُونَ فعل باواو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہاسلہ مفعول بہ، فعل مجہول ہاناب فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ ہوا قول مخدوف یقول لہم حَزَنٌ لَّيْجَهْتُمْ کا (مظہری) قول ہا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ و جُوهُهُمْ کی ہم ضمیر سے حال ہوں

اِنَّمَا اُْمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَمَهَا وَ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۚ وَ اُْمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۱﴾ وَ اَنْ اَتْلُوْا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ

وَمَنْ صَلَّى فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿۹۲﴾

آیت نمبر ۹۱، ۹۲: ان حرف تحقیق ما کا اسم اُْمِرْتُ فعل مجہول تاء مضمومہ ضمیر نائب فاعل ان سے ہا اَعْبُدُ فعل اتا مستتر تاعل رب مضاف ہذیۃ البلدۃ موصوف ہاسفت مضاف الیہ مضاف ہاسفت الیہ موصوف اَلَّذِی اسم موصول حَرَمَ فعل ہو مستتر ذوالحال واو حالیہ کہ کا کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم کلّی ہو مرکب اضافی مبتدأ و خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال ہا حال حَرَمَ کا فاعل ہما ضمیر مفعول بہ، فعل ہا تاعل و مفعول بہ صلہ موصول ہاسلہ رب کی صفت موصوف ہاسفت اَعْبُدُ کا مفعول بہ، فعل

ہاں فاعل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ منصوب بزعم الفاعل اصل میں پائے جہاں باجر و راہیڑٹ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ اُھیڑٹ فعل مجہول تاء مضمومہ نائب فاعل اَنْ ہاں سبب اَكُوْن فعل ناقص اَنَا مستتر اس کا اسم صیغۃ المُستَیْبِیْن ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف علیہ واو عاطفہ اَنْ ہاں سبب اَكُوْن فعل ناقص اَنَا مستتر فاعل اَلْقُرْآن مفعول یہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف منصوب بزعم الفاعل اُھیڑٹ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستانہ ہوں۔

فَاءِ اسْتِیْنَانِیہ مَنْ شرطیہ مبتدئہ اِهْتَدَى فعل ہو مستتر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فقاء جزائیر اَنْ حرف تحقیق مَا کَانَ یَقْتَدِیْ فعل ہو مستتر فاعل لِتَقْسِیْمِہ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء مَنْ کی خبر، مبتدئہ باجزاء جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَنْ شرطیہ مبتدئہ صَمَلْ فعل ہا ہو مستتر فاعل شرط فقاء جزاء یَقْنُ فعل امر ہا اَنْتَ مستتر فاعل قول، اِنْ اَنْ حرف تحقیق مَا کَانَ اَنْ اَضْمِرِہ مبتدئہ، مِنَ الْمُنْظُرِیْنِ جار باجر و راہیڑٹ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدئہ باجزاء جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر، مبتدئہ باجزاء جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستانہ ہوں۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَبِّحْهُمُ اَلَيْتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ط وَاَمَّا رَبُّكَ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: واو عاطفہ قُلْ فعل امر ہا اَنْتَ فاعل قول، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدئہ باجزاء جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہولسببیں علامت فعل یُرِیْ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ اول آیاتہ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ تَعْرِفُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل ہَا ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستانہ ہوں واو استیانیہ مَا جازبِ رَبُّكَ مرکب اضافی مَا کَامِ اَسْمَاءِ اَللّٰہِ عَاقِلِ اَسْم فاعل، عَنْ جارہ مَا موصول تَعْمَلُوْنَ فعل ہا واو ضمیر فاعل صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جار باجر و راہیڑٹ متعلق ہوئے، اَسْم فاعل ہا فاعل و متعلق عَمَّا منصوب خبر، مَا ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔



## ترکیب سُورَةِ الْقَصَصِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ طَسَمَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

**آیت نمبر ۱:** طَسَمَ خبر ہے مبتدا مخدوف ہو کر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں تِلْكَ اسم اشارہ مبتدا، آیات مضاف الیکتاب المبین مرکب توسیلی مضاف الیہ، مضاف ماضی الخیر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

تَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ الْقُرْآنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

**آیت نمبر ۳:** تَنَزَّلْنَا اصل نَحْنُ مستتر وال حال بِالْحَقِّ مُتَلَبِّسِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہمالیہ قائل عَلَيْنَا جملہ باخبر در متعلق ازل، ومن جملہ لیکر مضاف مُوسَى وَفِرْعَوْنَ معطوف علیہ ماضی ماضی الخیر، مضاف ماضی الخیر، مجرور، جملہ باخبر در متعلق ثانی، لام جملہ قَوْمٍ موصوف یُؤْمِنُونَ فعل بالاضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف ہفت نزور، جملہ باخبر در متعلق ثالث، فعل باقائل ومتعلقات ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ مستغرقہ تِلْكَ کی خبر ہوں۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ يُدْبِحُ  
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَعْبِي نِسَاءَهُمْ إِنََّّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝

**آیت نمبر ۳:** إِنَّ حرف تحقیق فِرْعَوْنَ اس کا اسم عَلَا فعل ہو مستتر قائل فی الْأَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر قائل أَهْلَهَا مرکب اضافی مفعول بہ اذل شیعاً موصوف یَسْتَضِعُّ فعل ہو مستتر قائل طَائِفَةٍ موصوف مِنْهُمْ کائنات کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل باقائل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبدل منہ یُدْبِحُ فعل ہو مستتر قائل أَبْنَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یَسْتَعْبِي فعل ہو مستتر قائل نِسَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ماضی ماضی الخیر، موصوف ہفت مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقائل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ماضی ماضی الخیر، موصوف ہفت مبدل منہ جَعَلَ کامفعول بہ ثانی، فعل باقائل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ماضی ماضی الخیر، موصوف ہفت مبدل منہ جَعَلَ کامفعول بہ اولیٰ، حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم من الْمُفْسِدِينَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر بیان ہاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔

وَلُرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعْفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَتَجْعَلَهُمُ  
الْوَارِثِينَ ۝ وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝

**آیت نمبر ۶۵:** واو عاطفہ لُرِيدُ فعل نَحْنُ مستتر قائل أَنْ تَمَنَّ فعل نَحْنُ مستتر قائل علی جملہ الَّذِينَ اسم موصول

أَسْتَضْفِعُوا لِقَوْلِ بَجُولِ وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ قَاعِلٍ فِي الْأَرْضِ مُتَعَلِّقٌ سَلِّ كَرْمَلَهُ مَوْصُولٌ بِاسْمِهِ مَجْرُورٌ جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لِقَوْلِ  
بِقَاعِلٍ وَتَعَلِّقٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ لِقَوْلِ نَحْنُ مُسْتَرْتَفِعٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَعْطُوفٌ بِهِ، أَوَّلُ الْكَيْفَةِ مَعْطُوفٌ بِهِ، ثَانِيٌّ سَلِّ كَرْمَلَهُ لِقَوْلِهِ  
خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ أَوَّلُ، وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ لِقَوْلِ نَحْنُ مُسْتَرْتَفِعٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَعْطُوفٌ بِهِ، أَوَّلُ الْكَيْفَةِ مَعْطُوفٌ بِهِ، ثَانِيٌّ سَلِّ كَرْمَلَهُ لِقَوْلِهِ خَبْرِيَّةٌ  
مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ لِقَوْلِ نَحْنُ مُسْتَرْتَفِعٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَعْطُوفٌ بِهِ، أَوَّلُ الْكَيْفَةِ مَعْطُوفٌ بِهِ، ثَانِيٌّ سَلِّ كَرْمَلَهُ لِقَوْلِهِ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ،  
وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ لِقَوْلِ نَحْنُ مُسْتَرْتَفِعٌ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ مَعْطُوفٌ بِهِ، أَوَّلُ مَعْنَاهُمْ جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ  
مَقْدَمٌ هُوَ يَخْتَدِرُونَ كَمَا مَأْسَمٌ مَوْصُولٌ كَمَا لِقَوْلِ نَحْنُ نَا قَسِ وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ كَمَا سَلِّ يَخْتَدِرُونَ لِقَوْلِ بَدَأُوا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ وَتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ خَبْرِيَّةٌ، لِقَوْلِ  
نَا قَسِ بِأَسْمٍ وَخَبْرِيَّةٌ لِقَوْلِهِ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، مَوْلَى مَوْصُولٌ بِاسْمِهِ مَعْطُوفٌ بِهِ، ثَانِيٌّ بِنَا قَاعِلٍ وَبِمَعْطُوفِيْنَ جَمْلَةً لِقَوْلِهِ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ رَابِعٌ مَعْطُوفٌ  
عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَاتٍ أَرْبَعٍ بِتَأْوِيلِ مَصْدَرٍ يُرِيدُ كَمَا مَعْطُوفٌ بِهِ، لِقَوْلِ بِنَا قَاعِلٍ وَبِمَعْطُوفٍ بِهِ، جَمْلَةً لِقَوْلِهِ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَلِ لِقَوْلِهِ كَمَا مَعْطُوفَاتٍ  
فِرْعَوْنَ... الخ ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ ۖ وَلَا تَخَافِي ۚ وَ  
لَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ۖ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

**آیت نمبر ۷:** وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ قَاعِلٍ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٍ إِلَىٰ جَدِيدٌ مُوسَىٰ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ مَجْرُورٌ جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، وَأَنْ نَا ضَمِيرٌ  
أَوْصِيْرَ نَابِجٍ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ بِضَمِيرِ مَعْطُوفٍ بِهِ سَلِّ كَرْمَلَهُ مَوْصُولٌ بِاسْمِهِ مَعْطُوفٌ بِهِ، نَزَعَ الْفِعْلُ جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ثَانِيٌّ، لِقَوْلِ بِنَا قَاعِلٍ وَتَعَلِّقِيْنَ  
جَمْلَةً لِقَوْلِهِ فِرْعَوْنَ... الخ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، قَاعِلٌ قَصِيْدَةٌ إِذَا شَرَطِيَّةٌ مَعْطُوفٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ خِفْتِ فِعْلٌ تَاءٌ كَسْرٌ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ عَلَيْهِ جَدِيدٌ  
بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لِقَوْلِ بِنَا قَاعِلٍ وَتَعَلِّقٌ مَعْطُوفٌ فِيْهِ جَمْلَةً لِقَوْلِهِ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلَهُ قَاعِلٌ جَزَائِيَّةٌ لِقَوْلِهِ نَابِجٍ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ بِضَمِيرِ  
مَعْطُوفٍ فِيْهِ الْيَمِّ مُتَعَلِّقٌ سَلِّ كَرْمَلَهُ مَوْصُولٌ عَلَيْهِ، وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ قَاعِلٍ نَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ فِيْهِ جَمْلَةً اِسْمَانِيَّةٌ نَسِيَةٌ مَعْطُوفٌ أَوَّلُ،  
وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ لِقَوْلِهِ نَحْنُ نَا قَاعِلٌ جَمْلَةً اِسْمَانِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ بَرَاءَةٍ، شَرَطٌ بِرَاءَةٍ جَمْلَةً شَرَطِيَّةٌ هُوَلِ اِسْمَانِيَّةٌ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ نَا  
ضَمِيرٌ اِسْمَانِيٌّ كَمَا سَلِّ يَخْتَدِرُونَ اِسْمٌ قَاعِلٌ مَضَافٌ ضَمِيرٌ مَضَافٌ إِلَيْهِ مَعْطُوفٌ بِهِ اِلَيْكِ مُتَعَلِّقٌ سَلِّ كَرْمَلَهُ هُوَ كَرْمَلَهُ مَوْصُولٌ عَلَيْهِ، وَأَوْ  
عَاعِلٌ جَاعِلُوهُ مَضَافٌ مَضَافٌ إِلَيْهِ مَعْطُوفٌ بِهِ، مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ مُتَعَلِّقٌ سَلِّ كَرْمَلَهُ جَمْلَةً مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ  
إِنَّ كَيْ خَبْرِيَّةٌ بِأَسْمٍ وَخَبْرِيَّةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلِ

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا  
كَانُوا خَاطِبِينَ ۝

**آیت نمبر ۸:** قَاعِلٌ مَعْطُوفٌ اِلْتِقَاطٌ لِقَوْلِهِ ضَمِيرٌ مَعْطُوفٌ بِهِ اِلْفِرْعَوْنَ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ قَاعِلٌ لِأَمْرٍ جَدِيدٌ يَكُونُ لِقَوْلِ نَا قَسِ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ  
قَاعِلٌ لَهُمْ كَانَتْ اِسْمَانِيَّةٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْمَلَهُ مَقْدَمٌ عَدُوًّا وَحَزَنًا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ ذَوَالِ اِسْمٍ مَوْصُولٌ بِاسْمِهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، لِقَوْلِ نَا قَسِ بِأَسْمٍ  
وَخَبْرِيَّةٌ مَوْصُولٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، لِقَوْلِ بِنَا قَاعِلٍ وَتَعَلِّقِيْنَ مَعْطُوفٌ فِيْهِ جَمْلَةً لِقَوْلِهِ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَلِ اِسْمَانِيَّةٌ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ فِرْعَوْنَ  
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ اِسْمَانِيَّةٌ كَمَا سَلِّ يَخْتَدِرُونَ اِسْمٌ قَاعِلٌ نَا قَسِ وَأَوْصِيْرَ نَابِجٍ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِأَسْمٍ

اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ  
وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾

آیت نمبر ۹: واو عطفہ کا لفظ فعل امر انا فیرعون مرکب اضافی قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، قوت قاعین مرکب اضافی موصوفی جادہ باجر و معطوف علیہ، واو عطفہ لکہ جادہ باجر و معطوف، معطوف علیہ بمعطوف طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت خبریہ مبتدأ محذوف ہو کہ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں لا نکثتوا فعل واو ضمیر قائل نا ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ انشائیہ نہیہ ہوں عسی فعل تام ان ہا مہر ینفع فعل ہو مستقر قائل نا ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطفہ لتتخذ فعل تہن مستقر قائل نا ضمیر مفعول بہ ازل، ولکہ مفعول بہ ثانی سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر عسی کا قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ انشائیہ مطلق ہوں واو عالیہ ہم ضمیر مبتدأ لا یشعرون فعل ہاوا ضمیر قائل خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان فیرعون کا حال ہے۔ فعل محذوف اکتاغوا امرؤا فیرعون فعل مقدر کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

وَاصْبِحْ فُؤَادُ امْرِئٍ مَّوْءِي فَرِحًا وَإِنَّكَ كَادَتْ لِتَكْبِدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَّبَّنَا عَلٰى قَلْبِهَا  
لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واو استینافیہ اصبح فعل ناقص فؤاد امیر موی مرکب اضافی اس کا اسم قاری غا خبر، فعل ناقص ہا تم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں ان محذوف من اللہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم کادت ل متدبجی ضمیر اس کا اسم لاکہ فاد ت کبیدی فعل ہی مستقر قائل پہ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ کادت با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں لولا انتاعین ان ہا مہر ینظنا فعل نا ضمیر قائل علی قلبہا جادہ باجر و متعلق ازل ہوئے، لاکہ جادہ اس کے بعد ان مقدر سے نکون فعل ناقص ہی مستقر م من المؤمنین کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا تم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جادہ باجر و متعلق دوم، فعل ہا قائل و متعلقین بتاویل مصدر مبتدأ اور اس کی خبر محذوف ہے معوجو، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے لاکبت قولہا، شرط با خبر جملہ شرطیہ ہوں

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ قَبَضَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واو عطفہ کا لفظ فعل ہی مستقر قائل لأختہ جادہ باجر و متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ققصی فعل امر ناقص ضمیر قائل نا ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں عطفہ عطفہ قبضت فعل ہی مستقر ذوالحال عن جنب کائنۃ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہا حال قائل پہ جادہ باجر و متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں اور اس کا معطوف علیہ محذوف ہے قبضت قبضت پہ، واو عالیہ ہم ضمیر مبتدأ لا یشعرون فعل واو ضمیر قائل سے

ل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بصورتِ کِ ضمیرِ فاعل سے حال ہے۔

**وَحَزَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَآلَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ**

**وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ ﴿۱۳﴾**

**آیت نمبر ۱۳:** او او استثنائیہ حَزَمْنَا فاعل نا ضمیرِ فاعل عَلَيْهِ جارِ مجرور متعلق ہوئے الْمَرَاضِعُ مفعول بہ مِنْ قَبْلُ جارِ مجرور متعلق ثانی، فعلِ بافعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ فَآلَتْ نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے لَمَّا رَأَتْ أَخْتًا مَوْلًى ذَٰلِكَ قَالَتْ فعلِ با جی ضمیرِ فاعل قول، هَلْ حرفِ استفہامِ اَدُلُّ فعلِ اَنَّا مستترِ فاعل كُمْ ضمیرِ مفعول بہ عَلَى جارِ اَهْلِ بَيْتِي مرکب انسانی موصوفِ يَكْفُلُونُ فعلِ وَاو ضمیرِ ذوالحال وَاوِ حالِیہ هُمْ ضمیرِ مبتدا، نَا صِحْوَنُ اسمِ فاعل هُمْ ضمیرِ فاعل لَهُ متعلق سے ل کر خبر جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ حالِ ذوالحالِ باحَالِ يَكْفُلُونُ کا فاعل نا ضمیرِ مفعول بہ لَكُمْ جارِ مجرور متعلق ہوئے، فعلِ بافعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوفِ با صفت مجرور، جارِ مجرور اَدُلُّ کے متعلق ہوئے، فعلِ بافعل و مفعول بہ و متعلق مقولہ، قولِ با مقولہ جزاء، شرطِ با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ**

**أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾**

**آیت، نمبر ۱۴:** فَآلَتْ عاطفہٴ رَدَدْنَا فاعل نا ضمیرِ فاعل نا ضمیرِ مفعول بہ، اِلَىٰ اُمِّهِ جارِ مجرور متعلق ہوئے، فعلِ بافعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ معطوف ہوئے حرفِ تعلیلِ اس کے بعد اَنّ مقدر ہے تَقَرَّ عَيْنُهَا مرکب انسانی فاعل سے ل کر معطوفِ علیہ، وَاوِ عاطفہٴ لَا تَحْزَنَ فعلِ جی مستترِ فاعل سے ل کر معطوف، معطوفِ علیہ با معطوف جملہ معطوفہ مطلقہ ہو۔ وَاوِ عاطفہٴ لَا تَحْزَنَ جارِ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنّ مقدر ہے تَعْلَمَ فعلِ جی مستترِ فاعل اَنّ حرفِ تحقیق وَعْدَ اللّٰهِ مرکب انسانی اس کا اسمِ حَقٌّ ذوالحالِ وَاوِ حالِیہ لٰكِنَّ حرفِ استدراک اَكْثَرُهُمْ مرکب انسانی اس کا اسمِ لَا يَعْلَمُونَ فعلِ با وَاوِ ضمیرِ فاعل خبر، لٰكِنَّ بِاسْمِ وَخبرِ حالِ باحَالِ اَنَّ كِ خبر، اَنَّ بِاسْمِ وَخبرِ تعلیكہ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعلِ بافعل و مفعولین بتاویل مصدرِ مجرور، جارِ مجرور معطوف ہے لَا تَحْزَنَ بہ۔

**﴿۱۴﴾ رُكُوعِ نَمْبِرٍ ﴿۱۴﴾**

**وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ أَيْدِيَهُ حَكِيمًا وَعَلِيمًا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾**

**آیت نمبر ۱۵:** او او استثنائیہ لَمَّا بَلَغَ مقدم مفعولِ مہمّیہ معنی شرط مفعولِ مہمّیہ مقدم بَلَغَ فعلِ ہو مستترِ فاعل أَشُدَّهُ مرکب انسانی مفعول بہ سے ل کر معطوفِ علیہ، وَاوِ عاطفہٴ اسْتَوَىٰ فعلِ باهُوَ مستترِ فاعل معطوف، معطوفِ علیہ با معطوف شرط، اَيْدِيَهُ فاعلِ نا ضمیرِ فاعل نا ضمیرِ مفعول بہ اِذْ حَكِيمًا وَعَلِيمًا معطوفِ علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعلِ بافعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرطِ با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ وَاوِ استثنائیہ كَذٰلِكَ جارِ مجرور كَذٰلِكَ کے متعلق ہو کر بواسطہٴ جَزَاءً موصوفِ محذوف کے مفعول مطلق مقدم، نَجْزِي فعلِ نا حُنْ مستترِ فاعل الْمُحْسِنِينَ مفعول بہ و مفعول مطلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقررہ ہو۔

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ۝

آیت نمبر ۱۵: او ادا عطف دخل فعل هو مستتر قائل المدینة منقول بہ علی بدمعین مضاف غفلة موصوف من اهلها کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور، ہد باجرور کائنات کے متعلق ہو کر حال ہے دخل کی ضمیر قائل سے، فعل باقائل و منقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عقاب عطف وجد فعل هو مستتر علیہا ہد باجرور متعلق ہوئے رجلین موصوف یقتتلان فعل الف ضمیر قائل سے ل کر صفت اول ہذا مبتدئین شیعته کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ باجر معطوف علیہ او ادا عطف ہذا مبتدأ من عدوہ کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ باجر معطوف علیہ باعطف یقتتلان کی ضمیر قائل سے حال ہے رجلین موصوف ہفت وجد کا منقول بہ، فعل باقائل و متعلق بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبریہ معطوف علیہ عقاب عطف استعانت فعل ضمیر منقول بہ مقدم الذی نام موصول من شیعته عرف مستر و وقع کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ قائل علی ہد الذی نام موصول من عدوہ عرف مستر کائن کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، ہد باجرور متعلق، فعل باقائل و منقول بہ و متعلق جملہ فعلیہ معطوف معطوف علیہ باعطف دخل کے لئے معطوف معطوف علیہ باعطف جملہ معطوف ہوا عقاب عطف وکر ل فعل ضمیر منقول بہ مؤنسی مرفوع تقدیر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عقاب عطف قضی فعل هو مستر قائل علیہ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ معطوف معطوف علیہ باعطف جملہ معطوف ہوا قائل فعل بلو مستر قائل قول، ہذا مبتدأ من عمل الشیطان عرف مستر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ باجر مقولہ قول باقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متاسف ہول ان حرف تخبیر نام ضمیر اس کلام عدو موصوف مضل صفت اولیٰ مبین صفت ۵۱، موصوف با صفتین خبریان ہام و خبر جملہ اسیہ خبریہ مطلق ہوا

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

آیت نمبر ۱۶: قال فعل بلو مستر قائل قول رب اعلیٰ میں یا کرتی ہے اور یہ علامہ ہے ان حرف تخبیر نام ضمیر اس کلام کلکتہ فعل تاء مضمومہ قائل نفسی مرفوع مرکب اضافی منصوب تقدیر مفعول بہ سے ل کر جواب، علامہ باجواب علامہ جملہ علامیہ ہو کر مقولہ، قول باقولہ معطوف علیہ عقاب عطف غفر فعل هو مستر قائل لہ متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ باعطف جملہ متاسف ہول قاء نصیر اور اس کی شرط معذوف ہے ان کثرت مذنباً یہذا باغفر فعل امر آت مستر قائل علی متعلق سے ل کر جملہ انظریہ امریہ جزاء، شرط معذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہول ان حرف تخبیر نام ضمیر اس کلام هو ضمیر فعل الغفور الرحیم ان کی دو خبر ہے ان باام و خبرین جملہ اسیہ خبریہ مطلق ہوا

قَالَ رَبِّ بِمَا أَعْمَتُ عَلَىٰ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِمُنْجِرٍ مِينٌ ۝

**آیت نمبر ۱۷:** قَالَ لَنْ يَأْتِيَنَّكَ نَاصِرٌ مِّنَّا يُلِيهِ الْعِلْمَ وَبِحُكْمٍ يُقَرَّبُ سِدْرُهُ لِيَفْجُرَهُ لِيَذبَ مَا تَمَنَّى فَتُلَاقِيَهُ السُّيُوفُ وَالرَّجْمُ فَتُلَاقِيَهُ حَمِيمٌ ۚ

تاء متحرفہ قائل علیٰ کلمۃ متعلق سے مل کر تاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل محذوف اُقْبِسِمُ کے اُقْبِسِمُ فعل انا متستر قائل و متعلق جملہ فعلیہ اضافیہ ہو کر قسم اور جواب قسم محذوف ہے لَآ تُوْبِنُ لَآ تُوْبِنُ فعل ہا انا متستر قائل معطوف علیہ مقامہ عاقلہ لَنْ اَكُوْنُ فعل ناقص انا متستر اس کا کام لکھو یَا مِیْنِہ صفت انا متستر قائل لِلْمُجْرِمِیْنِ متعلق سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا ام و خبر معطوف معطوف علیہ ہا معطوف جواب قسم، پھر دونوں مل کر جواب عداوہ نادمہ ہا جواب عداوہ جملہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**فَاصْبِحْ فِي الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ ۗ**  
**قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝**

**آیت نمبر ۱۸:** فَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ اصْبِحْ فعل ناقص ہو متستر ذوالحال خَائِفًا اسم فاعل ہا ہو متستر قائل حال اولیٰ یَتَرَقَّبُ فعل ہو متستر قائل سے مل کر حال ثانیہ ذوالحال ہا ملین اسم (مظہری) فی الْمَدِيْنَةِ کلام کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا ام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں مقامہ عاقلہ اذ انا مقامیہ الَّذِي ہا موصول استَنْصَرَ فعل ہو متستر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، بِالْأَمْسِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ مبتدایہ یَسْتَصْرِحُ فعل ہو متستر قائل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ قَالَ فعل لہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مُوسَى فاعل، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ حرف تخمین کاف اس کا کام لہذا معلقہ عَوِيٌّ مُّبِينٌ مرکب توصیفی خبریں اِنْ ہا ام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالذِّبْرِ هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا ۗ قَالَ يُمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۗ وَإِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۝**

**آیت نمبر ۱۹:** فَأَمَّا عاقلہ لَمَّا جار مفعول متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم اَنْ زَلَمَ اَرَادَ فعل ہو متستر قائل اَنْ ناسبہ یَبْطِشُ فعل ہو متستر قائل بآء جار الذی ہا موصول ہو مبتدایہ عَدُوٌّ موصوف لہما کلام کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت خبر، مبتدایہ ہا خبر صلہ، موصول ہاسلہ جار مجرور و یَبْطِشُ کے متعلق، فعل ہا قائل و متعلق بتاویل مصدر اَرَادَ کا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ فعل ہو متستر قائل سے مل کر قول، بآء حرف عداوہ اَدْعُوْكَ کا تم مقام اَدْعُوْكَ فعل انا متستر قائل مُوسَى منصوب تقدیم مفعول بہ سے مل کر عداوہ، ہمزہ اِسْتِثْنَاءِ تُرِيدُ فعل اَنْتَ متستر قائل اَنْ ناسبہ تَقْتُلَنِي فعل اَنْتَ متستر قائل نون و قایہ کا، بآء ضمیر مفعول بہ، کاف جارہ ہا مصدریہ قَتَلْتَ فعل تاء متحرفہ قائل نَفْسًا مفعول بہ، بِالْأَمْسِ جار مجرور متعلق سے مل کر تاویل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کلام کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف قَتَلْتَ کے تَقْتُلَنِي کا مفعول مطلق، فعل ہا قائل



و مضولین جملہ انشائیہ جواب علمہ، علمہ ہا، جواب علمہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوا، ان نافر تکرید فعل آت مستقر قائل لا حرف استہمان ہا، تکرید فعل ناص آت مستتر اسم جبارا موسوفی الاذیض کا، تعلق کے متعلق ہو کر صفت، موسوف ہفت خبر، فعل ناص ہا اسم و خبر بتاول مصدر تکرید کا مضول ہے، فعل ہا قائل و مضول ہے، معطوف علیہ ہوا، ہا عطف متانیہ تکرید فعل آت مستقر قائل ان ہا، تکرید فعل ناص آت مستتر اسم کا، اسم من المضلجین کا، تعلق کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناص ہا اسم و خبر بتاول مصدر مضول ہے، فعل ہا قائل و مضول ہے، جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متانہ ہوں

وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْتَعِيْ قَالَ يٰمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتْلُوْنَ بِكَ لِيُقْتَلُوْكَ  
فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۲۰:** ہا، واو استہانہ جآء فعل مجزول موسوف من اقصى المدینة کا، تعلق کے متعلق ہو کر صفت اور یہ بھی جائز ہے کہ جہا مجرور ظرف لغو جآء کے متعلق ہو، موسوف ہفت ذوالحال یستی فعل ہو مستقر قائل سے ل کر حال ذوالحال ہا، حال قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، قال فعل ہا، مستقر قائل قول، تاکہ حرف ندا اذعو کے قائم مقام، اذعو فعل آنا مستقر قائل مؤمنی مضول ہے سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ علمہ، ان حرف تحقیق الملائک اس کا اسم یا تکرید فعل واو ضمیر قائل یک جہا مجرور متعلق اذل، لام جہہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے، یقتلوا فعل واو ضمیر قائل کان ضمیر مضول ہے سے ل کر بتاول مصدر مجرور، جہا مجرور متعلق مانی، فعل ہا قائل و متعلقین خبر بیان ہا اسم و خبر جواب علمہ، علمہ ہا، جواب علمہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تاکہ نصیہ شرط مقدر بیان سمیعت عطفیہ، یا ان اردت السلامہ اخرج فعل امر آت مستقر قائل سے ل کر مطلق بیان حرف تحقیق تاکہ ضمیر اس کا اسم من جہہ التناصحین اسم قائل ہم مستقر قائل لک متعلق مقدم سے ل کر خبر بیان ہا اسم و خبر مطلق، مطلق ہا مطلق جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** فآء عطف اور معطوف علیہ مخذوف ہے عویل مؤمنی یتحصین بہ، خرج فعل ہو مستقر ذوالحال خائفہ اسم قائل ہا، مستقر قائل حال اولی، یترقب فعل ہا، مستقر قائل حال دوم، ذوالحال ہا، حال قائل و منها جہا مجرور متعلق ہونے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوف ہوا، قال فعل ہو مستقر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول رب ہے، اصل میں آیا ہے اور یہ علمہ ہے تخرج فعل امر آت مستقر قائل نون وقایہ کا، تاکہ ضمیر مضول ہے، میں جہہ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ مرکب توصیفی مجرور، جہا مجرور متعلق ہونے، فعل ہا قائل و مضول ہے و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جواب علمہ، علمہ ہا، جواب علمہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

﴿۲۰﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿۲۱﴾

وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيْ اَنْ يُّهْدِيَ نِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲:** وَإِذَا سْتَرَيْنَا فَسَبَّحْتَ رَبَّنَا بِالْحَمْدِ الَّتِي لَكَ يَا رَبَّنَا اللَّهُ الْأَكْبَرُ  
مفعول فی سے ل کر شرط، قَالَ فعل با هو مستتر فاعل قول، عَلَسَ فعل مقارب یعنی مرکب اضافی اس کا اسم ان من صیغہ تہدی فعل هو مستتر فاعل نون و قایہ کا یاء ضمیر مفعول بہ اول، سَوَّأَ السَّبِيلَ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین بتداول مصدر خبر، عَلَسَ باسم خبر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَنَا وَرَدَ مَاءٌ مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ  
أَمْوَاطِينَ تَذُودُنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْقَائِلَاتُ لَآ تَسْقِينَ حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبْوَاكُ

**شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝**

**آیت نمبر ۲۳:** وَإِذَا عَاطَفْنَا لَبَّاسُنَا فِيهِمْ قَدْ لَبَّأْنَا فِي الْبَرِّ عَالِفِينَ  
وَجَدَ فعل هو مستتر فاعل عَلَيْهِ جملہ با خبر و متعلق ہوئے، أُمَّةٌ موصوفہ مِنَ النَّاسِ كَانَتْكَ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، يَسْقُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانی، موصوفہ با مستحقین وَجَدَ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ معطوف علیہ، وَاو عطف و جَدَ فعل هو مستتر فاعل مِنْ دُونِهِمْ جملہ با خبر و متعلق ہوئے، أَمْوَاطِينَ موصوفہ تَذُودُنِ فعل بالف ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوفہ صفت مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، قَالَ فعل با هو مستتر فاعل قول ہوا، مَا اسْتَفْهَمَ مَبْدَأُ، خَطْبُكُمْ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ اضافیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، قَالَتَا فعل بالف ضمیر فاعل قول، لَآ تَسْقِينَ فعل نَحْنُ و مستتر فاعل، فعل با قائل معطوف علیہ، وَاو عطف اَبْوَاكُ مرکب اضافی مبتدأ، شَيْخٌ كَبِيرٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، حَتَّى جزاء اس کے بعد ان مقدمہ ہے یُسَدِّرُ فعل الرِّعَاءُ فاعل سے ل کر بتداول مصدر خبر و جملہ با خبر و متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝

**آیت نمبر ۲۴:** فَأَادَعَا زَوْجَهُ فَسَقَى لَهُمَا مِنْ مَاءٍ زَاكِيٍّ طَهُرْتُمْ لَهُمَا مِنْهَا لِيَسْكَبُوا وَنَجْوَاهُ مِنَ الظَّلْمِ الَّذِي تَتَّبِعُونَ  
با خبر و متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق معطوف علیہ، ثُمَّ عطف و تَوَلَّى فعل هو مستتر فاعل إِلَى الظِّلِّ متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں، فَأَادَعَا عطف و قَالَ فعل هو مستتر فاعل سے ل کر قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ ندا ہے، إِنَّ حرف تَحْسِبُ یَا ضمیر اس کا اسم فَفَقِيرٌ صیغہ صفت اَنَّا مستتر فاعل لَآءُ جملہ ما اسم موصول اَنْزَلْتَ فعل تاء متفرد، فاعل إِلَى متعلق سے ل کر صلہ، موصول ہاصلہ ذوالحال مِنْ خَيْرٍ کَانَتْكَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جملہ با خبر و متعلق مقدم فَفَقِيرٌ صیغہ صفت با قائل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب، ندا، ندا با جواب ندا، مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَدَذَّبُكَ مِنَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ ۝

آیت نمبر ۲۵: جاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے فَرَجَعْنَا فَأَخْبِرْنَا كَأَنَّهُمَا يَأْتِيَاكَ بِالْأَمْرِ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا أَذْعِبْهُ، جَاءَتْ فعلہ ضمیر مفعول بہ اخذہما مرکب اضافی ذوالحال تَمْشِي فعل ہی مستتر ذوالحال عَلَى اسْتِحْيَاءٍ كَائِنَةً کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہما ل فاعل، فعل ہما ل جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال ہما ل جَاءَتْ کا فاعل، فعل ہما ل جملہ فعلیہ خبریہ ہوئی جَاءَتْ فعل ہی مستتر فاعل سے مل کر قول باری حرف تحقیق آئی مرکب اضافی اس کا اسم بَدَعُوْهُ فعل ہو مستتر فاعل کان ضمیر مفعول بہ، لا احر جادہ اس کے بعد ان مقدم ہے يَجْزِيْ فعل ہو مستتر فاعل کان ضمیر مفعول بہ اذل، اَجْرُ مضاف مآسَم موصول سَقَيْتَ فعل تاء مفتوحہ فاعل لَنَا متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہما ل مضاف الیہ، مضاف ہما ل مفعول بہ ثانی، فعل ہما ل فاعل و مفعولین بتاویل مصدر مجرور، جادہ باجور و يَدْعُوْكَ کے متعلق، فعل ہما ل مفعول بہ و متعلق خبر باری بآسَم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہما ل جملہ فعلیہ خبریہ ہوئی فاء عاطفہ لَمَّا مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ قَصَّ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِ متعلق الْقَصَصِ مفعول بہ (کیونکہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے) سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، قَالَ فعل ہما ل مفعول فاعل قول، لَا تَخَفْ فعل آت مستتر فاعل سے مل کر مقولہ، قول ہما ل جملہ فعلیہ خبریہ شرط کی جزا ہوئی كَيُؤْتِ فعل تاء مفتوحہ فاعل مِنْ جادہ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ مرکب توسیعی مجرور، جادہ باجور و متعلق ہما ل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطبوعہ ہوئی

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوْرِيَّ الْأَمِينِ ۝

آیت نمبر ۲۶: قَالَتْ فعل اخذہما مرکب اضافی فاعل سے مل کر قول بیا بَتِ اصل میں یا آئی ہے اور یہ علامہ ہے اسْتَأْجِرْ فعل امر آت مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جواب علامہ، علامہ باجواب علامہ مقولہ، قول ہما ل جملہ فعلیہ خبریہ ہوئی باری حرف تحقیق يَجْزِيْ مضاف مِّنْ اسم موصول اسْتَأْجِرْتَ فعل ہما ل مفعول صلہ، موصول ہما ل مضاف الیہ، مضاف ہما ل فاعل اسْتَأْجِرْ كَأَسْمَ الْقَوْرِيَّ الْأَمِينِ دو خبر باری بآسَم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مطبوعہ ہوئی

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَّيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ ۝

آیت نمبر ۲۷: قَالَ فعل ہما ل مستتر فاعل قول باری حرف تحقیق تاء ضمیر اسم اُرِيدُ فعل آتا مستتر فاعل ان نكح ناصب انا فعل آتا مستتر ذوالحال علی جادہ ان ناصب تَأْجُرْ فعل آت مستتر فاعل نون و تاء کا بیاء ضمیر مفعول بہ ثانی حِجَجِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل

ہا قائل و مفعولین بتاویل مصدر مجرد، جہد باجر و مستأجر کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال، باحال اُنکح کا قائل کاف ضمیر مفعول بہ اول، اشدی مضاف، اُنکحت مرکب اضافی موصوف ہا اکتین صفت، موصوف ہا صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ثانی، فعل ہا قائل و مفعولین بتاویل مصدر اُرید کا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قاء عاقدان شرطیہ اکتبت فعل ثناء مفتوحہ قائل عطف مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قاء جزائیہ من عندک ظرف مستتر کاتین کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدا عذوف اکتبوا کی، مبتدا با خبر جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ، ہوں واو عاقدہ ما تانیہ اُرید فعل آتا مستتر قائل ان، ہر اشدی فعل آتا مستتر قائل علیک متعلق سے ل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں یہیں علامت فعل، یجد فعل آتا مستتر قائل نون و قایہ کا یاء ضمیر مفعول بہ من الصالحین متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ دال ہر جزاء بان شرطیہ شاء فعل آتا مستتر قائل سے ل کر شرط، دال ہر جزاء سے ل کر جملہ شرطیہ ہوں

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: قَالَ فعل ہوں مستتر قائل قول، ذَلِكَ مبتدا، بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاقدہ بَيْنَتِكَ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف ثانی کا مفعول ہے ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اُنّی اسم شرط مضاف ما تانیہ الْأَجَلِينَ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ مقدم قَضَيْتَ فعل ثناء مضمومہ قائل و مفعول بہ مقدم سے ل کر شرط، قاء جزائیہ لانی جنس عُدْوَانِ اس کلام علی کاتین کے متعلق ہو کر خبر، لا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ، ہوں واو عاقدہ اَللَّهُ مبتدا، و کلیل مینہ صفت ہوں مستتر قائل علی جزاء ما موصولہ نَقُولُ فعل نَحْنُ مستتر قائل سے ل کر صلہ، موصول ہاسلہ مجرد، جہد باجر و متعلق مقدم، مینہ صفت ہا قائل و متعلق مقدم خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ قَضَيْتَ ہر معطوف ہوں

﴿۲۸﴾ رکوع نمبر ۳

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: قاء عاقدہ لَمَّا متعین معنی شرط مفعول ہے مقدم قَضَى فعل مؤنسی قائل الْأَجَلَ مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ، واو عاقدہ سَارَ فعل ہوں مستتر قائل بِأَهْلِهِ متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف شرط، آنَسَ فعل ہوں مستتر قائل من جَانِبِ الطُّورِ جہد باجر و متعلق ہوئے نَارًا مفعول ہے، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں قَالَ فعل ہوں مستتر قائل لِأَهْلِهِ متعلق سے ل کر قول، امْكُثُوا فعل امر واو ضمیر قائل سے ل کر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ

ہولان حرف تحقیق بیاہ ضمیر اس کا اسم اُنْسَتْ لعل قائل تاکا مفعول بہ سے ل کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق  
 ہول لکن حرف ترمی بیاہ ضمیر اس کا اسم ای لعل تاکا مستر قائل کُم ضمیر مفعول بہ و منها کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم بیاہ جملہ  
 حَتَّوْ ذوالحال موخر ذوالحال باحال معطوف علیہ باؤ عاطفہ جَلْوَةٌ موصوفہ مِنَ النَّارِ کاتینا کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت  
 معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جملہ با مجرور ای کے متعلق ہوئے، لعل با قائل و مفعول بہ و متعلق خبر لکن با اسم و خبر جملہ انشائیہ  
 ترجیہ ہو کر اُنْسَتْ کے قائل سے حال ہے، لکن حرف ترمی کُم ضمیر اس کا اسم مَصْطَلُوْنَ لعل باؤ ضمیر قائل خبر، لکن با اسم و خبر جملہ  
 انشائیہ ترجیہ یہ بھی اُنْسَتْ کے قائل سے حال ہے۔

فَلَمَّا آتَتْهَا نُودِيْ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ  
 يُمُوْسَى اِنِّىْ اَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۝ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا حَآءٌ وَّ اَلَى

مُذِبِرًا وَاَلَمْ يُعَقِّبْ ۝ يُمُوْسَى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۝ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِيْنِ ۝

آیت نمبر ۳۱، ۳۰، ۳۱، ۳۰ قاء عاطفہ لتاثر طریہ مفعول فیہ مقدم ای لعل ہو مستر قائل ہا ضمیر مفعول بہ سے ل کر شرط و نودی لعل  
 مجہول ہو مستر نائب قائل جن جملہ شاطیئ الواد مرکب اضافی موصوف الایمن مفت، موصوف ہفت مجرور، جملہ با مجرور مبدل منہ،  
 مِنَ الشَّجَرَةِ جملہ با مجرور مبدل، مبدل منہ ہل متعلق اول فی جملہ الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مرکب توسیلی مجرور، جملہ با مجرور متعلق مبنی  
 (مظہری) لعل مجہول نائب قائل و متعلقین جملہ خبریہ مفسر، اَنْ حرف تفسیر بیاہ حرف عداء اَدْعُوْ کے قائم مقام اَدْعُوْ لعل تاکا مستر  
 قائل مؤملی مفعول بہ سے ل کر عداء بان حرف تحقیق بیاہ ضمیر اس کا اسم اَنَا ضمیر مبتدأ اللہ مبدل منسوب الْعَالَمِيْنَ مرکب اضافی  
 بدل، مبدل منہ ہل خبر، مبتدأ با خبر اَنْ کی خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب عداء، عداء با جناب عداء معطوف علیہ باؤ  
 عاطفہ اَنْ حرف تفسیر اَلْقِ لعل امر اَنْت مستر قائل عَصَا ك مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفسر،  
 مفسر با مفسر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہول قاء عاطفہ لتاثر طریہ مفعول فیہ مقدم ہا لعل ہو مستر قائل ہا ضمیر ذوالحال تَهْتَزُّ لعل ہی  
 مستر ذوالحال کَانَ حرف تشبیہ ہا ضمیر اس کا اسم جَانَ خَرِبْ کَانَ با اسم و خبر حال باحال تَهْتَزُّ کا قائل لعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ  
 حال ذوالحال باحال رای کا مفعول بہ، لعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، و لعل ہو مستر ذوالحال مُذِبِرًا حال ذوالحال  
 باحال قائل، لعل با قائل معطوف علیہ، و او عاطفہ لَمْ يُعَقِّبْ لعل با ہو مستر قائل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ  
 شرطیہ ہول بیاہ حرف عداء، قائم مقام اَدْعُوْ کے اَدْعُوْ لعل تاکا مستر قائل مؤملی مفعول بہ سے ل کر عداء اَقْبِلْ لعل امر اَنْت مستر  
 قائل، لعل با قائل معطوف علیہ، و او عاطفہ لَا تَخَفْ لعل اَنْت مستر قائل سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب عداء، عداء  
 با جواب عداء جملہ انشائیہ عنایہ ہولان حرف تحقیق کان ضمیر اس کا اسم مِنَ الْاٰمِيْنِ کلین کے متعلق ہو کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ  
 خبریہ مطلق ہول

اَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۝ وَاَضْمُمُ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ

الرَّهْبِ قَدْ نَكَبَ بُرْهَانِيْنَ مِنْ رَبِّكَ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَآٓئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْۤا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝۳۲

**آیت نمبر ۳۲:** اُنْكَفَ نَصْل امر اَتَتْ مستتر قائل یَدُكَ مرکب اضافی مفعول بہ فی جَنَبِكَ متعلق سے ل کر جملہ انتہائی امریہ ہوئے۔ مُرْجُوح نَصْل ہی مستتر ذوالحال یَتَخَذُ اپنے متعلق میں غَیْر سُوْدِی سے ل کر حال، ذوالحال باحال قائل، نَصْل باقائل جزاء ہے شرط مقدران تَسْلُفَ یَدُكَ فی جَنَبِكَ کی، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ وَاَوْعَاظُهُمْ نَصْل امر اَتَتْ مستتر قائل اِلَیْكَ متعلق اول جَنَاحُكَ مرکب اضافی مفعول بہ میں الرَّهْبِ متعلق ثانی سے ل کر جملہ انتہائی امریہ ہو۔ اِنْفِیْہِ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا تَاَمَلْتَ بِذٰلِكَ، ذَا لِكَ اسم اشارہ مبتدا بُرْهَانِیْنَ موصوف میں رَبِّكَ کَا یُنَکَبُ کے متعلق ہو کر صفت اِلَیْ جَاہِ فِرْعَوْنَ وَ مَلَآئِہِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہاد مجرور کَا یُنَکَبُ کے متعلق ہوئے، موصوف بہت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ اِنْ حَرْف تحقیق ہُنَّ ضمیر اس کا اسم کَا یُنَکَبُ نَصْل ناقص، وَاَوْعَاظُهُمْ نَصْل ناقص، اِنْ حَرْف توصیفی خبر، نَصْل ناقص با اسم و خبر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ فَعَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ ۝۳۳

**آیت نمبر ۳۳:** قَالَ نَصْل یہو مستتر قائل قول، رَبِّہِا صِل میں یَا رَبِّیْ ہے اور یہ علامہ ہے اِنْ حَرْف تحقیق یَاہِ ضمیر اس کا اسم فَعَلْتُ نَصْل تاکہ مضمومہ فاعل مِنْهُمْ کَا یُنَکَبُ کے متعلق ہو کر حال مقدم نَفْسًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، نَصْل باقائل و مفعول بہ معطوف علیہ، فَاَوْعَاظُهُمْ نَصْل اَنَا مستتر قائل اِنْ نَا صَبْرَ یَقْتُلُوْۤا نَصْل وَاَوْعَاظُهُمْ قائل نون و قایہ کَا یُنَکَبُ ضمیر مفعول بہ سے ل کر تاویل مصدر مفعول بہ، نَصْل باقائل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب علامہ، علامہ با جواب علامہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَ اَنْحٰی هٰرُوْنَ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّیْ لِسَانًا فَاَرْسَلْتُهُ رِدًا یُّصَدِّقُنِیْ ۚ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ

یُکَلِّبُوْنِ ۝۳۴

**آیت نمبر ۳۴:** وَاَوْعَاظُهُمْ نَصْل امر اِنْفِیْہِ مبدل منہ ہَاوُوْنَ مبدل مبدل مبدل ہُوَ ضمیر مبتدا، اَفْصَحُ اسم تفضیل ہُوَ مستتر قائل مِنِّیْ متعلق لِسَانًا تیز سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ فَاہِ ضمیر اور اس کی شرط محذوف ہے۔ اِذَا کَانَ هَاوُوْنَ اَفْصَحُ... اِنْ نَا وَرْسَلْتُ نَصْل امر اَتَتْ مستتر قائل ہُوَ ضمیر ذوالحال رِدًا موصوف یُّصَدِّقُنِیْ نَصْل ہُوَ مستتر قائل نون و قایہ کَا یُنَکَبُ ضمیر مفعول بہ سے ل کر صفت، موصوف بہت خبر، ذوالحال باحال مفعول بہ صحیح مرکب اضافی مفعول بہ، نَصْل باقائل و مفعولین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ اِنْ حَرْف تحقیق یَاہِ ضمیر اس کا اسم اَخَافُ نَصْل اَنَا مستتر قائل اِنْ نَا صَبْرَ یُکَلِّبُوْۤا نَصْل وَاَوْعَاظُهُمْ قائل نون و قایہ کَا یُنَکَبُ ضمیر مفعول بہ سے ل کر تاویل مصدر اَخَافُ کا مفعول بہ، نَصْل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

قَالَ سَنَشُدُّ عَضْبَكَ بِاَخِيْكَ وَ نَجْعَلُ لِّکُمْ سُلْطٰنًا فَلَا یَصِلُوْنَ اِلَیْکُمْ بِالْیَتٰتٰجِ

## اَتُّمُّا وَمَنْ اَتَّبَعَكُمْ بِالْغُلُوبِ ۝

**آیت نمبر ۳۵:** قَالَ نَحْنُ بِمَا هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَوْلِ سَيِّدِينَ عَلَامَاتٍ نَحْنُ نَسْتَشِدُّ فَعَلٌ نَسْتَشِدُّ نَحْنُ مُسْتَرْتَابٌ عَصَدَكَ مَرْكَبِ اِضْطَائِ مَفْعُولٌ بِمَا يَأْتِيكَ مُتَعَلِّقٌ سَعَلٌ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ نَجْعَلُ فَعَلٌ نَحْنُ مُسْتَرْتَابٌ لَكُنْمَا جَدُّ بِمَجْرُورٍ مَفْعُولٌ بِهِ، مِثْلِي سَلْمَطَا نَا مَفْعُولٌ بِهِ اِثْلٌ سَعَلٌ كَرْمَعُوفٌ اِثْلٌ عَاطِفٌ لَآ يَصِلُوْنَ فَعَلٌ وَادُّ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ اَلَيْكُمْ اِتِّخَالٌ اِثْلٌ بِاِيَاتِنَا اِتِّخَالٌ مِثْلِي سَعَلٌ كَرْمَعُوفٌ مِثْلِي، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفِيْنَ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ، جَمَلٌ فَعْلِيَةٌ خَبْرِيَةٌ هُوَلَا اَتُّمُّا ضَمِيرٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ اِتِّخَالٌ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ كُنْمَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَعَلٌ كَرْمَعُوفٌ، مَوْصُولٌ بِاسْمٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ، مَبْتَدَأُ اَلْغَالِبُونَ خَبْرٌ، مَبْتَدَأُ خَبْرٌ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَةٌ مَعْلُومَةٌ هُوَلَا

**فَالْمَا جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْاُولٰٓئِن ۝**

**آیت نمبر ۳۶:** فَآءِ اِسْتِثْنَاءٌ لِّمَا تَرْتَابِيَةٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ جَاءَهُ فَعَلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ مُّوسَىٰ قَاعِلٌ بَاءٌ جَدُّ مَا يَأْتِي اِتِّخَالٌ مَرْكَبِ اِضْطَائِ ذَوَالْحَالِ بَيِّنَاتٍ حَالٌ ذَوَالْحَالِ بِحَالٍ مَجْرُورٌ، جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٍ بِهِ، وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ، قَالُوا فَعَلٌ وَادُّ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ سَعَلٌ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، مَآءَانِي هَذَا مَبْتَدَأُ الْاَحْرَفِ اِسْتِثْنَاءٌ خَبْرٌ مُّفْتَرًى مَرْكَبِ تَوْصِيفِيٌّ خَبْرٌ، مَبْتَدَأُ خَبْرٌ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مَآءَانِي سَمِعْنَا فَعَلٌ قَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ بَاءٌ جَدُّ هَذَا ذَوَالْحَالِ فِي جَدُّ مَا يَأْتِي اِتِّخَالٌ مَرْكَبِ اِضْطَائِ مَوْصُولٌ مِفْعُولٌ بِهِ، مَجْرُورٌ، جَدُّ بِمَجْرُورٍ وَكَانَتْ اِكْتِذَاكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْمَعُوفٌ ذَوَالْحَالِ بِحَالٍ مَجْرُورٌ، جَدُّ بِمَجْرُورٍ سَمِعْنَا كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٍ بِهِ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفِيْنَ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ، شَرْطٌ بِمَجْرُورٍ جَمَلٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَلَا

**وَ قَالَ مُّوسَىٰ رَبِّي اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۷:** وَوَاوُ عَاطِفٌ قَاعِلٌ فَعَلٌ مُّوسَىٰ قَاعِلٌ سَعَلٌ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ اِتِّخَالٌ مَرْكَبِ اِضْطَائِ مَفْعُولٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بَاءٌ جَدُّ مِّنْ مَّوْصُولٍ جَاءَهُ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بَاءٌ جَدُّ مَا يَأْتِي اِتِّخَالٌ هُوَ ذَوَالْحَالِ مِثْلِي عِنْدِهٖ كَرْمَعُوفٌ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ تَكُوْنُ فَعَلٌ نَاقِسٌ لَّهُ كَرْمَعُوفٌ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ نَاقِسٌ لَّهُ، كَرْمَعُوفٌ هُوَ خَبْرٌ مَقْدَمٌ عَاقِبَةُ الدَّارِ مَرْكَبِ اِضْطَائِ اِسْمٌ مَوْخَرٌ، فَعَلٌ نَاقِسٌ لَّهُ اِسْمٌ وَخَبْرٌ مَوْصُولٌ بِاسْمٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفِيْنَ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ، جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلَا اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ اِتِّخَالٌ مَرْكَبِ اِضْطَائِ مَفْعُولٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بَاءٌ جَدُّ مِّنْ مَّوْصُولٍ جَاءَهُ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بَاءٌ جَدُّ مَا يَأْتِي اِتِّخَالٌ هُوَ ذَوَالْحَالِ مِثْلِي عِنْدِهٖ كَرْمَعُوفٌ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ نَاقِسٌ لَّهُ، كَرْمَعُوفٌ هُوَ خَبْرٌ مَقْدَمٌ عَاقِبَةُ الدَّارِ مَرْكَبِ اِضْطَائِ اِسْمٌ مَوْخَرٌ، فَعَلٌ نَاقِسٌ لَّهُ اِسْمٌ وَخَبْرٌ مَوْصُولٌ بِاسْمٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفِيْنَ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ، جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلَا اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ اِتِّخَالٌ مَرْكَبِ اِضْطَائِ مَفْعُولٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بَاءٌ جَدُّ مِّنْ مَّوْصُولٍ جَاءَهُ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بَاءٌ جَدُّ مَا يَأْتِي اِتِّخَالٌ هُوَ ذَوَالْحَالِ مِثْلِي عِنْدِهٖ كَرْمَعُوفٌ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ نَاقِسٌ لَّهُ، كَرْمَعُوفٌ هُوَ خَبْرٌ مَقْدَمٌ عَاقِبَةُ الدَّارِ مَرْكَبِ اِضْطَائِ اِسْمٌ مَوْخَرٌ، فَعَلٌ نَاقِسٌ لَّهُ اِسْمٌ وَخَبْرٌ مَوْصُولٌ بِاسْمٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفِيْنَ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ، جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلَا اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ اِتِّخَالٌ مَرْكَبِ اِضْطَائِ مَفْعُولٌ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بَاءٌ جَدُّ مِّنْ مَّوْصُولٍ جَاءَهُ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بَاءٌ جَدُّ مَا يَأْتِي اِتِّخَالٌ هُوَ ذَوَالْحَالِ مِثْلِي عِنْدِهٖ كَرْمَعُوفٌ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ مِّنْ مَّوْصُولٍ نَاقِسٌ لَّهُ، كَرْمَعُوفٌ هُوَ خَبْرٌ مَقْدَمٌ عَاقِبَةُ الدَّارِ مَرْكَبِ اِضْطَائِ اِسْمٌ مَوْخَرٌ، فَعَلٌ نَاقِسٌ لَّهُ اِسْمٌ وَخَبْرٌ مَوْصُولٌ بِاسْمٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفِيْنَ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولَةٍ، جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلَا

**وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىَ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَا مَنْ عَمَلٰى**

**الظَّالِمِينَ فَاجْعَلْ فِي صَدْحًا لَعَلِّي اَطْلِعُ اِلَى اِلٰهِ مُوسَىٰ ۙ وَاِنِّي لَا ظَنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۸:** واؤ استغنیہ قال فذو عؤن نائل سے ل کر قول بیاہ حرف ندا اذعؤ کے قائم مقام اذعؤ فعل انا مستر نائل آئی موصوف ہا براے حمیہ الکلکلمت، موصوف ہفت محلا منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ ندا، مآثرہ علیت نائل کلام مضمومہ نائل لکھ جہد باجر رو کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم، میں جار۔ نہ والہ موصوف غیوئی مرکب اضافی صفت، موصوف ہفت منصوب محلا ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال علیت کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جواب ندا، ندا ہا جواب ندا مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول فکام فیہ اور شرط محذوف ہے اذکا لکھ لیکن لکھ اللہ غیوئی، اوقد فعل امر انت مستر نائل علی الظالمین متعلق سے ل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فکام عاطفہ اجعل فعل امر انت مستر نائل علی جہد باجر و مفعول ثانی کی جگہ میں ہے، صؤ صؤ مفعول بہ اول، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب ندا مقدم بیا کھاطن ندا مؤخر، ندا ہا جواب ندا جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہول لکھ حرف ترمی بیا ضمیر اس کلام اطلیع فعل انا مستر نائل الی الہ موسی متعلق سے ل کر خبر لکھ با اسم و خبر جملہ ترمیہ مظلہ ہول وا اعترضیہ (معم اعراب الفاظ القرآن الکریم) ان حرف تحقیق بیا ضمیر اسم لاہرہ حلقہ اظن فعل انا مستر نائل ضمیر مفعول بہ اول، میں الکاذبین کائنا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین خبر بیان ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مترسہ ہول

**وَاسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۝**

**آیت نمبر ۳۹:** واؤ عاطفہ استکبر فعل هو ضمیر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ جنودہ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال بغیر الحق متکبرین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائل فی الارض جہد باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ کلنوا فعل واؤ ضمیر نائل ان حرف تحقیق ہم ضمیر اس کلام لا یزجعون فعل مجہول واؤ ضمیر نائب نائل الیننا متعلق مقدم سے ل کر کلنوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہول

**فَاَحْذَلُوْهُ وَجُنُودَهُ فَبَدَّدْ نُهُمْ فِي الْيَمِّ ۙ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۴۰:** فکام عاطفہ اَحذنا نائل نا ضمیر نائل ضمیر مفعول بہ واؤ بمعنی مع "جنودہ" مرکب اضافی مفعول معہ، فعل بافاعل و مفعولین معطوف علیہ، فکام عاطفہ بددنا نائل نا ضمیر نائل فی الیم متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہول فکام فیہ شرط محذوف ہے اذکا کان الامم کذالک، انظر فعل انت مستر نائل کیف کائنتہ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، کان ناقصہ عاقبۃ الظالمین مرکب اضافی کان کلام، فعل ناقص باسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہول

**وَاجْعَلْنَهُمْ اٰيَةً يَذْعَبُونَ اِلَى النَّارِ ۙ وَاَيُّوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ۝**



**آیت نمبر ۳۱:** وَاَوْعَاطِفَ جَعَلْنَا لِقُلِّ تَاْمِيْرٍ قَاْعِلَ هُمْ مُصِيْرٍ مَقْضُوْلٍ بِهٖ اٰوْلَ الْاِيْمَةِ مَوْصُوْفِيْنَ عُوْنُ لُقُلِّ وَاَوْصِيْرٍ قَاْعِلٍ اِلَى النَّاْرِ مُتَلَقِّ سَلِّ كَرْمَتٍ، مَوْصُوْفٍ بِهَفْتٍ مَقْضُوْلٍ بِهٖ عِيْنُ، لُقُلِّ بِاِنَاْعِلٍ وَمَقْضُوْلِيْنَ جَمْلَةً فِعْلِيَةً خَبْرِيَةً مَعْطُوْفَةٌ هُوَلُوْا وَاَوْعَاطِفَ لَا يُتَضَوْنُ لُقُلِّ جِهُوْلٍ وَاَوْصِيْرٍ نَبِّ قَاْعِلٍ يَوْمَ الْقِيَاْمَةِ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ مَقْضُوْلٍ فِيْهِ سَلِّ كَرِيْمٌ عُوْنُ بِمَعْطُوْفٍ هُوَلُوْا

وَ اتَّبَعَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٣١﴾

**آیت نمبر ۳۲:** وَاَوْعَاطِفَ اتَّبَعْنَا لِقُلِّ تَاْمِيْرٍ قَاْعِلَ هُمْ مُصِيْرٍ مَقْضُوْلٍ بِهٖ اٰوْلَ فِيْ جَدِ هَذِهِ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ بَجَرَدٍ، جَدٌ بِاَجْرٍ وَكَاَيْتَةُ كَيْتَةُ سَمْتَلِقٌ هُوَ كَرْمَلٌ مَقْدَمٌ لَعْنَةٌ قَدْ اٰلَا مَوْخِرٌ ذَا اِلٰلٍ اِمَاْعِلٌ مَقْضُوْلٍ بِهٖ عِيْنُ، لُقُلِّ بِاِنَاْعِلٍ وَمَقْضُوْلِيْنَ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ وَاَوْعَاطِفَ هُمْ مُصِيْرٍ مَبْتَدَاً، مِنْ جَدِهَا اتَّبَعُوْا جِيْنَ اِسْمٌ مَقْضُوْلٌ هُمْ مُسْتَرْتَابٌ قَاْعِلٍ يَوْمَ الْقِيَاْمَةِ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ مَقْضُوْلٍ فِيْهِ تَمَدُّمٌ (مظہری) سَلِّ كَرْمَلٌ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفٍ جَمْلَةً مَعْطُوْفَةٌ هُوَلُوْا

﴿ ۳۲ ﴾ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۵ ﴿ ۳۳ ﴾

وَ لَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُولٰٓئِ تَصَاوِيْرٌ لِلنَّاسِ وَ هُدٰى وَ رَحْمَةً لِّعٰلَمِهِمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٣﴾

**آیت نمبر ۳۳:** وَاَوْ اِسْتِيْنَايَةً لَّا هَرْمُوْطَةٌ لِقِسْمٍ اَوْ قِسْمٌ مَمْذُوْمٌ بِهٖ قَدْ اَمْلَا تٌ لُقُلِّ، اَتَيْنَا لُقُلِّ تَاْمِيْرٍ قَاْعِلٍ مُؤَسَّطِيٌّ مَقْضُوْلٍ بِهٖ اٰوْلَ الْكِتٰبِ مَقْضُوْلٍ بِهٖ عِيْنُ، مِنْ جَدِ بَعْدِ مَضَافٍ مَّا مَصْدَرِيَّةٌ اَهْلَكْنَا لُقُلِّ تَاْمِيْرٍ قَاْعِلٍ الْقُرُوْنَ الْاُولٰٓئِ مَوْصُوْفٍ بِهَفْتٍ مَقْضُوْلٍ بِهٖ، لُقُلِّ بِاِنَاْعِلٍ وَمَقْضُوْلٍ بِهٖ جَمْلَةً فِعْلِيَةً خَبْرِيَةً بِاِنَاْعِلٍ مَصْدَرٌ مَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِمَضَافٍ اِلَيْهِ بِجَرَدٍ، جَدٌ بِاَجْرٍ وَاَتَيْنَا كَيْتَةُ كَيْتَةُ سَمْتَلِقٌ هُوَلُوْا وَ بَصًّا اَيُّ مَوْصُوْفٍ لَّا هَرْمُوْطَةٌ لِقِسْمٍ جَرَدٌ، جَدٌ بِاَجْرٍ وَكَاَيْتَةُ كَيْتَةُ سَمْتَلِقٌ هُوَلُوْا مَوْصُوْفٍ بِهَفْتٍ مَقْضُوْلٍ عَلَيْهِ وَاَوْعَاطِفَ هُدٰى مَقْضُوْلٍ اٰوْلَ، وَاَوْعَاطِفَ رَحْمَةً مَعْطُوْفٌ عِيْنُ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفِيْنَ اَتَيْنَا كَا مَقْضُوْلٍ، لُقُلِّ بِاِنَاْعِلٍ وَمُتَلَقِّ وَمُفَاعِلٌ مَلَا حٌ جَوَابٌ قِسْمٍ، قِسْمٌ بِاَجْوَابِ قِسْمٍ جَمْلَةً اِنْشَائِيَّةً قِسْمِيَّةً هُوَلُوْا لِكُلِّ حَرْفٍ تَرْتِيْبِيٌّ هُمْ مُصِيْرٍ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ يَتَذَكَّرُوْنَ لُقُلِّ وَاَوْصِيْرٍ قَاْعِلٍ جَمْلَةً فِعْلِيَةً خَبْرِيَةً هُوَلُوْا خَبْرٌ اَلْعَلِّ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جَمْلَةً اِنْشَائِيَّةً مَطْلَبَةٌ هُوَلُوْا

وَ مَا كُنْتُمْ بِجَانِبِ الْعَرَبِيْنَ اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوسَى الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴿٣٤﴾

**آیت نمبر ۳۴:** وَاَوْ اِسْتِيْنَايَةً مَّا نَا فِيْهِ كُنْتُمْ لُقُلِّ تَاْمِيْرٍ قَاْعِلٍ اِلَى مُوسٰى جَدٌ بِاَجْرٍ وَ جَانِبِ الْعَرَبِيْنَ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ جَرَدٌ، جَدٌ بِاَجْرٍ وَ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاَيْتَةُ كَيْتَةُ سَمْتَلِقٌ هُوَلُوْا اِذْ مَضَافٌ قَضَيْنَا لُقُلِّ تَاْمِيْرٍ قَاْعِلٍ اِلَى مُوسٰى جَدٌ بِاَجْرٍ وَ مَطْلَقٌ هُوَلُوْا اَلْاَمْرَ مَقْضُوْلٍ بِهٖ، لُقُلِّ بِاِنَاْعِلٍ وَمُتَلَقِّ وَمَقْضُوْلٍ بِهٖ جَمْلَةً فِعْلِيَةً خَبْرِيَةً مَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِمَضَافٍ اِلَيْهِ مَقْضُوْلٍ فِيْهِ هُوَا كَاَيْتَا كَاَيْتَا اِسْمٌ قَاْعِلٍ اَلَّذِيْ مُسْتَقَرٌّ قَاْعِلٍ وَمُتَلَقِّ وَمَقْضُوْلٍ فِيْهِ سَلِّ كَرْمَلٌ هُوَلُوْا خَبْرٌ، لُقُلِّ تَاْمِيْرٍ قَاْعِلٍ اِلَى مُوسٰى جَدٌ بِاَجْرٍ وَ جَانِبِ الْعَرَبِيْنَ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ جَرَدٌ، جَدٌ بِاَجْرٍ وَ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاَيْتَةُ كَيْتَةُ سَمْتَلِقٌ هُوَلُوْا خَبْرٌ اَلْعَلِّ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جَمْلَةً اِنْشَائِيَّةً مَطْلَبَةٌ هُوَلُوْا

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو

عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝

**آیت نمبر ۳۵:** واو عطفہ لیکن حرف استدراک نا ضمیر اس کا اسم انشاءنا فعل نا ضمیر قائل قُرُونًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عطفہ تطاول فعل علیہم متعلق العُمرُ قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوف ہول واو عطفہ مانا یہ کُنْتَ فعل ناقص تاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم ثاوییا اسم فاعل اَنْتَ مستتر قائل فی حرف جاد اَهْلِ مَدْيَنَ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور متعلق، اسم فاعل با قائل و متعلق خبر اول، تَتْلُو فعل اَنْتَ مستتر قائل عَلَیْهِمْ متعلق آیاتنا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطفہ لیکن حرف استدراک نا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم مُرْسِلِينَ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر لیکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوف ہول

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْتَنَا وَ لَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أْتَهُمْ  
مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

**آیت نمبر ۳۶:** واو عطفہ مانا یہ کُنْتَ فعل ناقص تاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم بآ حرف جرایب الطُّورِ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور متعلق ہونے کا کُنَّا کے، اذ مضارع نَادَيْتَنَا فعل نا ضمیر قائل سے مل کر مضارع الیہ، مضارع با مضارع الیہ مفعول بہ ہوا کُنَّا کا، کُنَّا اسم فاعل اَنْتَ مستتر قائل و متعلق و مفعول بہ فی شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطفہ لیکن حرف استدراک مہمل رَّحْمَةً موصوف مِّن رَّبِّكَ کا کُنْتَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ فعل مخدوف اَوْسَلْنَا کا لآجر جادہ اور اس کے بعد اَنْتَ مستتر قائل قَوْمًا موصوف مانا فی اَنْیَ فعل اَنْتَ ضمیر مفعول بہ مِّن جادہ زائدہ نَّذِيرٍ موصوف مِّن قَبْلِكَ کا کُنْتَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قَوْمًا کی صفت، موصوف بہ صفت نَّذِيرٍ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جاد باجرور متعلق ہونے اَوْسَلْنَا کے، فعل با قائل و مفعول بہ و مفعول لہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوف ہول لَعَلَّ حرف ترمیمی هُمْ ضمیر اس کا اسم یَتَذَكَّرُونَ فعل باواو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اضافیہ تریہ مطلق ہول

وَلَوْ لَا اَنَّ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا  
رَسُولًا فَتَتَّبِعِ اِلَيْكَ وَ تَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۷:** واو عطفہ لولا لاتا معیہ اَنْ نامہر تُصِيبُ فعل اَنْتَ ضمیر منصوب مفعول بہ مُصِيبَةٌ قائل تاء جادہ ما موصول قَدَّمَتْ فعل اَيْدِيهِمْ مرکب اضافی قائل سے مل کر صلہ موصول مصلہ مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ

و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ معافہ عاطفہ رَفَعُوا فاعل ہاؤ ضمیر فاعل قول و رَبَّنَا اصل میں یا رَبَّنَا ہے اور یہ عامہ ہے لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَكُنْتُمْ مَعًا... الخ کی تقدیر عبارت ہَلَّا كَانَ مِنْكَ اَرْسَالٌ وَرَسُولٌ اِلَيْنَا فَاتَّبَعْنَا مِمَّا آتَاكَ وَكُنْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہے (منظری) ہَلَّا حرف تخصیض کا، فعل ناقص مِنْكَ کا، متعلق ہو کر خبر مقدمہ اَرْسَالٌ مصدر مضارع مؤنول مضاف الیہ معنی مفعول بہ، اِلَيْنَا جملہ باجبر و متعلق ہوئے، مصدر مضاف بمضاف الیہ و متعلق شبہ جملہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ اِتَّبَعْنَا مصدر مینا جملہ باجبر و متعلق آیاتنا کرب اضافی مفعول بہ سے ل کر معطوف اول، و اَوْ عاطفہ کَوْنٌ مصدر ناقص یا ضمیر اس کلام، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کا، کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر، مصدر ناقص یا اسم و خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کا، کلام مؤخر مکان یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جواب علامہ، علامہ باجواب علامہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با مقولہ بتاویل مصدر مبتدأ اور خبر مخدوف ہے مَوْجُودٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط اس کی جہا مخدوف ہے لَمَّا بَعَثْنَاكَ اِلَيْهِمْ رَسُولًا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ اور

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا اَوْتِيْنَا مِثْلَ مَا اَوْتِيَ مُوسٰى ءَاوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اَوْتِيَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ ۗ قَالُوْا سِحْرَانِ تَظْهَرٰۤا قَدْ وَاَقَالُوْا اِنَّا بِيْكُنْ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۸﴾

**آیت نمبر ۳۸:** فَاء عاطفہ لَمَّا جازمہ مفعول فیہ مقدم جَاءَهُمْ فعل ہُم ضمیر مفعول بہ الْحَقُّ فاعل مِنْ عِنْدِنَا متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل سے ل کر قول لَوْلَا حرف تخصیض اَوْتِيَ فعل مجہول مَوْجُودٌ نائب فاعل مِثْلُ مضاف مآ اسم موصول اَوْتِيَ فعل مجہول مَوْسٰى نائب فاعل سے ل کر صلہ، موصول ہاصلہ مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ اَوْتِيَ کا مفعول بہ، فعل مجہول ہائے نائب فاعل و مفعول بہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ لَمَّا جازمہ فاء متعاقبہ و اَوْ عاطفہ معطوف علیہ مخدوف ہے لَمَّا يَكْفُرُوْا مَوْسٰى، لَمَّا يَكْفُرُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل بآء جازمہ موصول اَوْتِيَ فعل مجہول مَوْسٰى نائب فاعل سے ل کر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جملہ باجبر و متعلق اول، مِنْ قَبْلُ جملہ باجبر و متعلق ثانی، فعل ہا فاعل و متعلقین جملہ انتہائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوا۔ قَالُوا فاعل ہاؤ ضمیر فاعل قول سِحْرَانِ موصوف تظاہر افعال ہا ل فاعل ضمیر فاعل صفت، موصوف ہ صفت مبتدأ مخدوف ہما کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، و اَوْ عاطفہ قَالُوا فاعل ہاؤ ضمیر فاعل قول اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کلام کا فَوْوْنَ اسم فاعل ہُم مستتر فاعل یُكْفِرُ متعلق سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنْ ہاؤ ضمیر فاعل قول اِنْ حرف مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاخر ہوا۔

قُلْ قَاتُوا بِكَيْبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۹﴾

**آیت نمبر ۳۹:** قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل سے ل کر قول، فَاء ضمیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ كُنْتُمْ اِنَّهُمَا سِحْرَانِ، اِنَّهُمَا فعل امر واؤ ضمیر فاعل بآء حرف جر کَيْبٍ موصوف مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ کا، متعلق ہو کر صفت اول، ہُوَ ضمیر مبتدأ اَهْدٰى اسم تفصیل ہُوَ مستتر فاعل مِنْهُمَا متعلق سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ثانی، موصوف ہا صفتین مجرور، جملہ باجبر و متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ انتہائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انتہائیہ امریہ ہوا۔ اَتَّبِعْ فعل اَنَا مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے ل کر جزاء ہے شرط مخدوف اِنْ قَاتُوا بِكَيْبٍ ہُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا کی، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ شرطیہ کُنْتُمْ

فَلْأَنْصُرْكُمْ فَمِنْ أَسْمَاءِ صَادِقِينَ خَبْرٌ مَلِكٌ كَرِهُوا لِقَاءَ جَزَاءِ مَعْدُوفٍ فَاتَّوَابُوا بِكَيْبٍ... الخ، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں  
**فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ هُوَ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ**  
**هُوَ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** ﴿۵۰﴾

**آیت نمبر ۵۰:** فاء عاطفہ ان شرطیہ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ متعلق سے مل کر شرط، فاء جزائیہ اعْلَمْ فعل امر  
 آت متصرف فاعل اَنْ حرف تحقیق مآ کا فِ يَسْتَجِيبُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل اَهُوَ آءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر اعْلَمْ کے دو مفعول  
 کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں واؤ استثنائیہ مِنْ استغماہیہ مبتدا، اَضَلُّ اسم تفضیل ہُو متصرف  
 فاعل مِنْ حرف جر، اسم موصول اتَّبَعَ فعل ہُو متصرف فاعل ہُو اَنْ مرکب اضافی ذوالحال ہاء جملہ غیبیہ مضاف ہُدًى موصوفہ مِنْ اللہ  
 کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ مجرور، جملہ باجرور مُتَكَلِّمَاتُكَ کے متعلق ہو کر حال،  
 ذوالحال باحال اتَّبَعَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جملہ باجرور متعلق ہوئے، اسم  
 تفضیل بافاعل و متعلق خبر، مبتدا باجر جملہ انشائیہ استغماہیہ ہوں اِنْ حرف تحقیق اَللّٰهُ اس کا اسم لا یھدی فعل ہُو متصرف فاعل الْقَوْمَ  
 الظَّالِمِينَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿۵۰﴾ رکوع نمبر ۶ ﴿۵۰﴾

**وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** ﴿۵۱﴾

**آیت نمبر ۵۱:** واؤ استثنائیہ لآہر موطنہ للضم اور ضم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل ووصَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَهُمْ متعلق الْقَوْلِ  
 مفعول بہ سے مل کر جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں لَعَلَّ حرف ترقی ہُو ضمیر اس کا اسم یَتَذَكَّرُونَ فعل باؤ ضمیر  
 فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر لَعَلَّ ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ مطلق ہوا یو ووصَلْنَا کے فاعل سے حال ہے۔

**الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ** ﴿۵۲﴾

**آیت نمبر ۵۲:** الَّذِينَ اسم موصول اتَّبَعَتْ فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ الْكِتَابِ ذوالحال مِنْ قَبْلِهِ کا تین کے  
 متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مآلی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ مبتدا اَوَّلَ هُمْ ضمیر مبتدائی  
 یُؤْمِنُونَ فعل باؤ ضمیر فاعل یہ متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا باجر مبتدا اَوَّلَ کی خبر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ خبریہ  
 ہوں

**وَإِذَا يُنصَلُّ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ** ﴿۵۳﴾

**آیت نمبر ۵۳:** واؤ عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فی مقدمہ یُنصَلُّ فعل مجہول ہُو متصرف فاعل عَلَيْهِمْ متعلق سے مل کر شرط، قَالُوا  
 فعل باؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول آمَنَّا فعل نا ضمیر فاعل یہ متعلق سے مل کر مفعول، قول با مفعول جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں  
 اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم الْحَقُّ ذوالحال مِنْ رَبِّنَا کا تین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ

مطلبہ ہو۔ اِن حرف تحقیق کا ضمیر اس کلام گنگا فعل ناقص کا ضمیر اس کلام مِنْ قَبْلِهِ جہا بجز در مُسْلِمِينَ کے متعلق مقدم اور مُسْلِمِينَ اس کی خبر، فعل ناقص ہا م اِن کی خبر اِن ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستوفیہ یا مطلقہ ہو۔

**أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَاتَيْنٍ بِمَا صَبَرُوا وَ يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۳﴾**

**آیت نمبر ۵۳:** اُولَئِكَ ہم اشدہ مبتدا، يُؤْتُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائبِ فاعل اَجْرَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مَرَاتَيْنِ مفعول زیر بہا جہا مآ مصدر یہ صَبَرُوا فعل ہاؤ ضمیر فاعل بتاولی مصدر مجرور، جہا بجز در يُؤْتُونَ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول بہا نائبِ فاعل و مفعولین و متعلق معطوف علیہ، واؤ عاطفہ یَذَرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بِالْحَسَنَةِ جہا بجز در متعلق ہوئے اَلْسَيِّئَةَ مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذل، واؤ عاطفہ مِنْ جہا مآ موصول رَزَقْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جہا بجز در متعلق مقدم يُنْفِقُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین خبر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۴﴾**

**آیت نمبر ۵۴:** واؤ عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم سَمِعُوا فعل واؤ ضمیر فاعل اللَّغْوَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اَعْرَضُوا فعل واؤ ضمیر فاعل عَنْهُ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، لَنَا ظرف مستقر كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَعْمَالُنَا مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَكُمْ ظرف مستقر كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَعْمَالُكُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف متقول، قول ہا بقول معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط ہا جزاء، جملہ شرطیہ ہو۔ سَلِّمْ مبتدا علی جہا کف ضمیر مجرور، جہا بجز در ظرف مستقر كَائِنِينَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ لَا تَبْتَغِي فعل ناقص مستقر فاعل اَلْجَاهِلِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

**إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۵﴾**

**آیت نمبر ۵۵:** اِن حرف تحقیق کان ضمیر اس کلام لَا تَهْدِي اِنَّ لَنْت مستقر فاعل مَنْ اَم موصول أَحْبَبْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول ہا صلہ مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ اِن ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَكِنَّ حرف استدراک اَللَّهِ اس کلام تَهْدِي فعل هُوَ مستقر فاعل مَنْ يَشَاءُ موصول ہا صلہ مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ لَكِنَّ کی خبر لَكِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستانہ ہو۔ واؤ عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، اَعْلَمُ اَم تفضیل هُوَ مستقر فاعل بِالْمُهْتَدِينَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِن ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَفِّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۗ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

**آیت نمبر ۵۷:** ۱۰۱ اور استیفاءیہ قائلوں نے کہا ہوا ضمیر فاعل قول، ان شرطیہ تلتبع لعل نحن مستتر فاعل الہدی ذوالحال معک ظرف مستقر مرکب اضافی کا کئی تاکہ متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، یتخفف لعل مجہول نحن مستتر نائب فاعل من ارضینا متعلق سے ل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں ہمہذا استغنیامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے کہ نہ نسیکینہم بیکہ نہ کمین لعل نحن مستتر فاعل لہم جاد باجرور متعلق ہوئے حرمًا موصوف آمینا صفت اولیٰ، یجیبی لعل مجہول الیہ جاد باجرور متعلق ہوئے ثمرات کل شیء مرکب اضافی نائب فاعل رزقًا موصوف من لدنا کا کئی تاکہ متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول مطلق من غیر لفظ لعل، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق و مفعول مطلق حرمًا کی صفت ثانیہ، موصوف ہا صفتین کہ کمین کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستتر ہو لہو واو عاطفہ لیکن حرف استدراک اکثرہم مرکب اضافی اس کا اسم لا یعلون لعل ہوا ضمیر فاعل خبر لیکن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْجِدُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾

**آیت نمبر ۵۸:** ۱۰۱ اور استیفاءیہ کہ خبریہ میز من جادہ قریۃ موصوف بطرت لعل ہی مستتر فاعل معیشتہا مرکب اضافی بواسطہ مضاف محذوف مدنیہ کے مفعول بہ ہوا، فعل با قائل و مفعول بہ صفت، موصوف ہفت مجرور، جاد باجرور تیز، میز با تیز مفعول بہ، اهلکنا لعل نا ضمیر فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فقاء عاطفہ تلتک مبتدأ متسا کینہم مرکب اضافی ذوالحال کہ تسکن لعل مجہول ہی مستتر نائب فاعل من بعدہم متعلق ہوئے، الا حرف استثناء قلیلاً و ما نا موصوف محذوف کے واسطے سے مفعول بہ، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق و مفعول بہ حال ذوالحال باحال خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ کنا لعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم نحن ضمیر فعل الوارثین خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾

**آیت نمبر ۵۹:** ۱۰۱ اور عاطفہ ما ثانیہ کان لعل ناقص ربک مرکب اضافی اس کا اسم مہلک القرى مرکب اضافی خبر حقی جادہ اور اس کے بعد ان مقدم سے یبعث لعل هو مستتر فاعل فی جادہ افعالہا مرکب اضافی مجرور، جا باجرور متعلق رسولًا موصوف یتلو لعل هو مستتر فاعل علیہم متعلق آیتنا مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر صفت، موصوف ہفت یبعث کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ بتاولیٰ مصدر مجرور، جاد باجرور مہلک کے متعلق ہوئے، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں واو عاطفہ ما

نایہ کننا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم مہلکی صیغہ مفت مضاف الْقُرَى ذوالحال الا حرف استنساہ او حال اھلھا مرکب اضافی مبتدا کا ایون خبر، مبتدا با خبر حال ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، فعل ناقص ہا اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَمَا أَوْتَيْنَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا مَا بَدَا مِنْهَا فَحَسِبُوا أَنَّ أَصْحَابَ الْعَرَاقِ لَكَافِرُونَ ﴿۲۸۱﴾

**آیت نمبر ۲۸۱:** او استیثنا فیہ مآثر طریہ فلا منصوب مفعول بہ مقدم اَوْتَيْنَاكُمْ فعل مجہول ثَمَّ ضمیر نائب فاعل سے مل کر شرط، ومن شئی ہو "ما کامل ہے، فقاء جزائیہ مَتَاعُ مضاف الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، وَاو عاطفہ زَيَّنَّا لَهَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبریہ مبتدا محذوف ہوگی، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ طریہ ہو کر مآ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں وَاو عاطفہ مَا اسم موصول عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی تَبَيَّنَتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مبتدا، حَيٰوةِ الدُّنْيَا اسم تفضیل باہو مستتر فاعل معطوف علیہ، وَاو عاطفہ اَلْبِقَاعُ اسم تفضیل باہو مستتر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں وَهَذَا مَا سَتَقَاهُمْ فقاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے لَا تَتَفَكَّرُونَ، لَا تَعْقِلُونَ فعل باوا ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستتر انشائیہ ہوں

﴿ رُكُوعٌ ۲۸ ﴾

اَقْسَمَ وَعَدَلَهُ وَعَدَا احْسَنًا فَهَوَ لَا قِيَه كَمَنْ مَتَّعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ

الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ﴿۲۸۲﴾

**آیت نمبر ۲۸۲:** هَذِهِ مَا سَتَقَاهُمْ فقاء استیثنا فیہ من موصول وَعَدَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل ثَمَّ ضمیر مفعول بہ، وَعَدَا احْسَنًا موصوف ہفت مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین معطوف علیہ، فقاء عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، اَلْقِيٰمَةِ مرکب اضافی مرفوع تقدیر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدا کاف جادہ من اسم موصول مَتَّعْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل ثَمَّ ضمیر مفعول بہ مَتَاعُ مضاف الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم اَلْمُخْضَرِّينَ کا موصوف اَلْمُخْضَرِّينَ "کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور کائین کے متعلق ہو کر من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَلَيْسَ شَرُّكُمْ اَلَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاعُونَ ﴿۲۸۳﴾

**آیت نمبر ۲۸۳:** وَاو عاطفہ يَوْمَ مضاف، يُنَادِي فعل ہُوَ مستتر فاعل ہذا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فقاء عاطفہ يَقُولُ فعل باہو مستتر فاعل قول اَلَّذِيْنَ كَانَتْ كَا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم شَرُّكُمْ مرکب اضافی موصوف اَلَّذِيْنَ نام موصول كُنْتُمْ فعل ناقص ثَمَّ ضمیر اس کا اسم تَرَاعُونَ فعل باوا ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہا اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفت، موصوف

ہفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یؤمر کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف بہ ہوا فعل محذوف اذکر کا، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا

تَبَّرْنَا اِنَّا اِلَيْكَ مَا كَانُوا اِيَّا نَا يَعْبُدُونَ ﴿۲۸۲﴾

آیت نمبر ۲۸۲: قَالَ لَعَلَّ الَّذِينَ اسْم موصولہ حَقَّ فَعَل عَلَيْهِمْ متعلق الْقَوْلُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ فاعل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول رَبَّنَا صل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ علامہ ہے هَؤُلَاءِ مبتدأ الَّذِينَ اسْم موصولہ اَغْوَيْنَا فاعل تا ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، جملہ فعلیہ خبریہ مبتدأ مؤخر، جملہ با جواب علامہ، علامہ با جواب علامہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا اس کی تقدیر عِدَّتْ اَغْوَيْنَاهُمْ فَعَوَّ وَاغْتَابًا مِثْلًا مَّا غَوَيْنَا ہے، اَغْوَيْنَا فاعل تا ضمیر فاعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فَاء عاطفہ عَوَّ وَاغْتَابًا فاعل واو ضمیر فاعل غَتَابًا مصدر موصوف و مثل مضاف موصولہ عَوَّ فاعل تا ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ صفت، موصوف ہفت مفعول مطلق، فعل با قائل و مفعول مطلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں تَبَّرْنَا اِنَّا فاعل تا ضمیر فاعل اِلَيْكَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں مَآثِرًا نَا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم تَعْبُدُونَ فاعل واو ضمیر فاعل اِيَّا نَا موصول بہ مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہوں وَ قِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ رَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ

كَانُوا اِيَّاهُمْ تَدْعُونَ ﴿۲۸۳﴾

آیت نمبر ۲۸۳: وَاو عاطفہ قِيلَ فاعل مجہول هُو مستتر نائب فاعل سے مل کر قول، ادْعُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل شُرَكَاءَكُمْ مرکب انشائی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فَاء فصیح اور اس کی شرط محذوف ہے اِدْعُوا قِيلَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلُ دَعَا وَاذْعُوا فاعل واو ضمیر فاعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فَاء عاطفہ لَمْ يَسْتَجِيبُوا فاعل واو ضمیر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ رَأَوْا فاعل واو ضمیر فاعل الْعَذَابَ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں لَوْ شرطیہ اَن حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم کانُوا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم تَعْبُدُونَ فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ خبریہ ہو کر بتادل مفرد فاعل ہوا فعل محذوف تَبَّتْ کا، فعل با قائل شرط، جزاء محذوف ہے لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ فِي الْاُخْرَىٰ شرط

...: شرطیہ ہوں

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۸۴﴾

آیت نمبر ۲۸۴: وَاو استثنائیہ یَوْمَ مضاف یُنَادِي فاعل ہُو مستتر فاعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ يَقُولُ فاعل ہُو مستتر فاعل قول، مَاذَا اسم استفہام، بمعنی اِنِّیْ اِجَابَتِیْ کے ہو کر مفعول مطلق مقدم آجَبْتُمُ فاعل تُمْ ضمیر فاعل



أَلَمْ يَسْتَلِمْ مَفْعُولٌ بِهِ سَلَّ كَرِهْلَهُ اِنْتِزَاعِيَةً اسْتِغْنَاءِيَةً مَقُولًا، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ يَكُونُ كَمَعْرَافٍ إِلَيْهِ، مَعْرَافٌ بِمَعْرَافٍ عَلَيْهِ مَفْعُولٌ بِهِ، هُوَ فِعْلٌ مَعْرُوفٌ أَذْكَرُ كَلَامًا.

فَعَبِيَّتٌ عَلَيْهِمُ الْاَلْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۶۶﴾

آیت نمبر ۶۶: قاء عاطفہ عیبیت فعل علیہم متعلق بالآباء قائل یومئذ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر معطوف علیہ، قاء عاطفہ ہُم ضمیر مبتدا، لا یتساءلون فعل ہادؤ ضمیر قائل خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿۶۷﴾

آیت نمبر ۶۷: قاء استثنائیہ انما حرف شرطیہ من اسم موصول تَابَ فعل ہاؤ ضمیر قائل معطوف علیہ، واو عاطفہ آمن فعل ہاؤ متستر قائل معطوف اول، واو عاطفہ عمیل فعل ہو متستر قائل صلیحا مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول ہاصلہ مبتدا متعین معنی شرط، قاء برائے رابطہ عسی فعل رجاء، ان ضمیر یكون فعل ناقص ہو متستر اس کلام میں الْمُفْلِحِينَ ظرف متستر کا تکیا متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر عسی کا قائل، فعل ناقص قائل مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متصرف ہوں۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعْلَىٰ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: واو استثنائیہ رَبُّكَ مرکب اضافی مبتدا، يَخْلُقُ فعل ہو متستر قائل ما اسم موصول يَشَاءُ فعل ہاؤ متستر قائل معطوف علیہ، واو عاطفہ يَخْتَارُ فعل ہاؤ متستر قائل معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ يَخْلُقُ کا مفعول بہ، فعل ناقص اور مفعول بہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متصرف ہوں، ما ثانیہ کان فعل ناقص لہم ظرف متستر کا تکیا کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ الْخِيَرَةُ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، سُبْحَانَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول مطلق ہوا، فعل معترض سُبْحَانَكَ، سُبْحَانَكَ فعل تاء مضمومہ ضمیر مرفوع متصل قائل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، واو عاطفہ تَعَالَىٰ فعل ہو متستر قائل عن جبارہ ما موصول يُشْرِكُونَ فعل ہادؤ ضمیر قائل صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جبارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل ناقص اور متعلق جملہ فعلیہ خبریہ سُبْحَانَكَ پر معطوف ہوں۔

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: واو عاطفہ رَبُّكَ مرکب اضافی مبتدا، يَعْلَمُ فعل ہو متستر قائل ما موصول تُكِنُّ فعل صُدُورُهُم مرکب اضافی قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول يُعْلِنُونَ فعل ہادؤ ضمیر قائل صلہ، موصول ہاصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل ناقص اور مفعول بہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ذُوْلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۴۰﴾

**آیت نمبر ۴۰:** واو عطفہ ہو ضمیر مبتدا اللہ خبر اولیٰ الا اللہ الا هو اس کی ترکیب سورہ نزل میں دیکھنا اور یہ خبر ثانی ہے، مبتدا با خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ ہو لہذا طرف مستقر کا لیں گے متعلق ہو کر خبر مقدمہ الحمد ذوالحال فی جملہ الا اولیٰ والآخرہ معطوف علیہ بمعطوف مجرور، جملہ با خبر در کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو عطفہ لہذا طرف مستقر کا لیں گے متعلق ہو کر خبر مقدمہ الحمد مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف اول، واو عطفہ تکرار جَعُونَ فعل مجہول ہوا ضمیر نائب فاعل الیہ متعلق مقدم سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ بمعطوفین ہو کی خبر ثانی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النِّيلَ سَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ أَفْلا تَسْمَعُونَ ﴿۴۱﴾

**آیت نمبر ۴۱:** قُلْ فعل امر انت متعلق سے مل کر قول، ہمدوز کا استفہامیہ رأیتکم فعل ثم ضمیر فاعل سے مل کر مقولہ، قول بمعقولہ جملہ انتہائی امریہ ہولین شرطیہ جعل فعل اللہ فاعل علیکم جملہ با خبر در متعلق ہوئے، الیل معقول بہ اول، سمدًا موصوفہ الی یوم القیامہ کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ بمعقول بہ ثانی، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے فآخبرونی، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں من استفہامیہ مبتدا اللہ موصوفہ غیر اللہ مرکب اضافی صفت اول، یأتی فعل ہو مستقر فاعل ثم ضمیر مفعول بہ بضمیاء متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ثانیہ، موصوفہ با مستعین خبر، مبتدا با خبر جملہ انتہائی استفہامیہ علما منصوب رأیتکم کا مفعول بہ ہے ہمدوز کا استفہامیہ فاعل عطفہ اور معطوف علیہ مقدر ہے لا تکنذ بؤنون، لا تسمعون فعل با ہو ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ مستانہ ہو

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ أَفْلا تَبْصِرُونَ ﴿۴۲﴾

**آیت نمبر ۴۲:** اس کی ترکیب آیت اولیٰ کی ترکیب سے واضح ہو جاتی ہے۔

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾

**آیت نمبر ۴۳:** اور استثنائیہ من و رحمۃہ طرف مستقر کا لیں گے متعلق ہو کر خبر مقدمہ اور من و رحمۃہ کو طرف لغو جعل کا متعلق مقدم بنا کر پورے جملہ کو جملہ فعلیہ خبریہ بتا بھی جائز ہے، جعل فعل ہو مستقر فاعل لکم جملہ با خبر در جعل کے مفعول ثانی کی جگہ

میں ہے، اَللَّيْلُ وَالنَّهَارُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ازل، لآجر جادہ اس کے بعد اَنّ مقدر ہے تَشْكُرُوا فاعل واو ضمیر فاعل فیہ متعلق سے ل کر بتاویل مصدر مجرور، جادہ با مجرور معطوف علیہ واو عاطفہ لآجر جادہ اس کے بعد اَنّ مقدر ہے تَكْتُمُوا فاعل واو ضمیر فاعل مِن قَضَلِهِ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جادہ با مجرور معطوف ازل، واو عاطفہ لَعَلَّ حرف ترجیح کُفَّ ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُونَ فاعل واو ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با هم و خبر معطوف مبنی، معطوف علیہ با معطوفین جَعَلَ کے متعلق، فاعل ہا فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴۳﴾

**آیت نمبر ۴۳:** وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اس آیت کی ترکیب اسی رکوع کے شروع میں گزری ہے۔

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۵﴾

**آیت نمبر ۴۵:** واو عاطفہ نَزَعْنَا فاعل واو ضمیر فاعل مِن كُلِّ أُمَّةٍ جادہ با مجرور متعلق ہوئے شَهِيدًا مفعول بہ، فاعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ معافہ قُلْنَا فاعل واو ضمیر فاعل سے ل کر قول، ہاتوا اسم فعل بمعنى امر، واو ضمیر فاعل بُرْهَانَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف ازل، معافہ عاطفہ عَلِيمُوا فاعل واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق الْحَقِّ اس کا اسم لِلَّهِ كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عَلِيمُوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فاعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف مبنی، واو عاطفہ صَلَّ فاعل عَلَيْهِمْ جادہ با مجرور متعلق ہوئے مَا اسم موصول کا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم تَفْتَرُونَ فاعل ہا فاعل ناقص کی خبر، فاعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صل، موصول با صل صَلَّ کا فاعل، فاعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوفہ ہوا۔

﴿۴۵﴾ رکوع نمبر ۸ ﴿۴۳﴾

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۴۶﴾

**آیت نمبر ۴۶:** اَنَّ حرف تحقیق قَارُونَ اس کا اسم کان فاعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم مِنْ قَوْمِ مُوسَى کا تینا کے متعلق ہو کر خبر، فاعل ناقص با هم و خبر معطوف علیہ، معافہ عاطفہ بَغَى فاعل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کی خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اور واو عاطفہ أَتَيْنَا فاعل واو ضمیر فاعل هُ ضمیر مفعول بہ ازل مِنَ الْكُنُوزِ ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال مقدم (مظہری) مَا اسم موصول اَنَّ حرف تحقیق مَفَاتِحَهُ مرکب اضافی اس کا اسم لآجر نہ حلقہ تَنُوءُ فاعل ہی مستتر فاعل ہا معافہ بِالْعُصْبَةِ موصول اُولِي الْقُوَّةِ مرکب اضافی صفت، موصوف ہفت جادہ با مجرور متعلق ہوئے اِذْ مضاف اَنَّ

فَلَمَّا مَتَّقَنَّهُ وَقَامُوا مِنْهُ كَرْبًا مِمَّا ضَلَّتْ فِئَاتُهُمْ لِمَن وَكَّفُوا عَلَيْهِ لَمَّا أَتَاهَا ذَاتَ اللَّيْلِ بِمَنَادٍ مِنْ رَبِّهَا فَسَاءَ لَهَا يَوْمَئِذٍ فَتًى وَنُجُومًا كَالْمُجَرَّمِ كَتَبَ عَلَيْهَا كِتَابًا وَأَحْمَقًا وَخَالِدًا قَائِلًا وَمُنَادٍ مِمَّا يَضْحَكُ  
 ذُو الْعَالَمِ مَوْجُودًا وَالْحَالِ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ جَاءَ، فَعَلُ بِقَائِلٍ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةً فَعَلِيَةً خَبْرِيَةً هُوَ بِلِغَانٍ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اَللَّهُ كَامٍ لَا يُجِبُّ فَعَلُ هُوَ مَسْتَرٌ  
 فاعِلُ الْفَرَجِ جَمِينٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَعَلٌ كَرِيبَانٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَعْلِيَةٌ هُوَ

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا  
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

آیت نمبر ۷۷: او عاقلہ ابتغی فعل امر آتت مستتر فاعل فی جاہدہ ما اسم موصول اتی فعل کاف ضمیر مفعول بہ اللہ فاعل سے مل کر صلہ موصول ہاسلہ مجرور، جاہدہ مجرور و ابتغی کے متعلق ہوئے الدار الاخرۃ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، او عاقلہ لا کس فعل آتت مستتر فاعل نصیبک مرکب اضافی ذوالحال میں الدنیا طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال بحال مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ معطوف اول، او عاقلہ احسن فعل امر آتت مستتر فاعل کاف جاہدہ ما مصدریہ احسن فعل اللہ فاعل الیک کے متعلق سے مل کر تبادل مصدر مجرور، جاہدہ مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مجرور و محذوف احسانا کے مفعول مطلق، فعل باقاعل و مفعول مطلق جملہ انتہائی معطوف ثانی، او عاقلہ لا کس فعل نہی آتت مستتر فاعل الفساد مفعول بہ اور فی الارض متعلق سے مل کر جملہ انتہائی نہی ہو کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ انتہائی معطوف ہولیان حرف تحقیق اللہ کاسم لا یجب فعل ہو مستتر فاعل المفسدین مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوبہ ہوں

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَو لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ  
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَسْبَغَ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝

آیت نمبر ۷۸: قَالَ فَعَلُ هُوَ مَسْتَرٌ فاعل سے مل کر قول بان حرف تحقیق ما کا اوتیت فعل مجہول ثناء مضمومہ ذوالحال علی حرف جاہدہ موصوف عندی مرکب توصیفی کائنات کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف ہفت مجرور، جاہدہ مجرور طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال بحال نائب فاعل ضمیر مفعول بہ، فعل مجہول نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقلوبہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں ہذا استفہامیہ او عاقلہ اور معطوف علیہ محذوف ہے عَلِمَ مَا دَعَاكَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلُ هُوَ مَسْتَرٌ فاعل ان حرف تحقیق اللہ اس کاسم قد علامت فعل، اهلک فعل ہو مستتر فاعل من قبیلہ جاہدہ مجرور و متعلق ہوئے، میں القرون کا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، من باسم موصول ہو ضمیر مبتدا اشد اسم تفضیل ہو مستتر فاعل مِنْهُ و متعلق قُوَّةً تیز سے مل کر معطوف علیہ، او عاقلہ اس کس اسم تفضیل ہو مستتر فاعل جہدًا تیز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ موصول ہاسلہ ذوالحال مَوْجُودًا ذوالحال بحال اهلک کا مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ ان کی خبر، ان باسم و خبر لَمْ يَعْلَمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستتر انتہائی ہوں او اعترافیہ

لَا تَسْتَلْ فِعْلٌ مَجْهُولٌ عَنِ ذُنُوبِهِمْ مُتَّعِلٌ الْمَجْرُومُونَ نَابٌ فَاعِلٌ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں  
 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ؕ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْدَتِ لَنَا مِثْلَ مَا  
 أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَكَذُوبٌ عَظِيمٌ ۝

**آیت نمبر ۷۹:** فاء عاطفہ خرج فعل ہو متستر ذوالحال فی زینتہ کا زینتہ کے متعلق ہو حال بذوالحال بحال فاعل علی قومه  
 جہاں مجرور متعلق ہوئے، فعل ہاقابل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ قال فعل الَّذِينَ نام موصول یُرِيدُونَ فعل و المضمیر فاعل  
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تَرْكِبٌ تَوْصِيفِي مَجْهُولٌ یہ سے مل کر صلہ موصول ہاصل قال کا فاعل، فعل ہاقابل قول یہاں حرف ندا نام مقام  
 اَدْعُوْهُ فاعل اَدْعُوْهُ فاعل اَتَاكَ فَاعِلٌ اور متلائی مَجْهُولٌ بہ محذوف ہے قَوْمِي، فعل ہاقابل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کہ نداہ لَیْدَتِ  
 حرف تمہی لکن اطرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِثْلٌ مضاف عام اسم موصول اُوْتِيَ فاعل مَجْهُولٌ قَارُونُ نَابٌ فاعل سے مل  
 کر صلہ موصول ہاصل و مِثْلٌ کا مضاف الیہ، مضاف ہامض الیہ ام مؤخر لَیْدَتِ با اسم و خبر جواب نداہ، نداہ با جواب نداہ مفعول، قول  
 ہاقول جملہ فعلیہ خبریہ ہو لاین حرف تحقیق ضمیر اس کا نام بلام نہ مطلقاً مضاف حَظٌّ عَظِيمٌ مرکب تَوْصِيفِي مضاف الیہ، مضاف  
 ہامض الیہ خبر لاین با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطہر ہوں (مطہری)

وَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ حَيْثُ يَمَنُ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا يَوَلَّ  
 يُكْفِمَهَا إِلَّا الضَّيُّوْنَ ۝

**آیت نمبر ۸۰:** یاء عاطفہ قال فعل الَّذِينَ نام موصول أُوتُوا فعل مَجْهُولٌ ضمیر نَابٌ فاعل أَعْلَمُ مَجْهُولٌ یہ سے مل کر صلہ  
 موصول ہاصل فاعل بہ فعل ہاقابل جملہ فعلیہ خبریہ قول یَوَلَّكُمْ مرکب اضافی مَجْهُولٌ بہ فعل محذوف اَلْوَسْمُكَ اللَّهُ لَهُ فاعل ہاقابل  
 و مضمولین جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہو لَتُوَابِ اللَّهُ مَرْكَبٌ اضافی مبتدا، حَقِّقْ اس کا تفسیل ہو سَتَقَالُ لَآءٍ جَدِّهِمْ اَلْوَسْمُكَ اَلْوَسْمُكَ اَلْوَسْمُكَ  
 فعل یَعُوْ سَتَقَالُ سے مل کر محذوف علیہ ہوا و عاطفہ عَمِلَ فعل سَتَقَالُ صَالِحًا مَجْهُولٌ بہ سے مل کر محذوف مفعول علیہ  
 ہامضی صلا موصول ہاصل عم و جہاں بجز و حَقِّقْ کے متعلق ہو کہ اسم تفسیل ہاقابل و متعلق علیہ جملہ خبریہ معترضہ خبریہ  
 اسمیہ خبریہ قول کا متعلق قول ہاقول جملہ فعلیہ خبریہ جواب اسمیہ خبریہ ہا یلا لا یحظر فعل مَجْهُولٌ ضمیر موصول ہاصل اَلْوَسْمُكَ اَلْوَسْمُكَ اَلْوَسْمُكَ  
 سے مل کر جملہ مستند ہوا یلا لا یحظر خبریہ اسمیہ خبریہ معترضہ (مطہری)

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ ؕ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَوْمَ  
 كَانَ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ ۝

**آیت نمبر ۹۱:** فاء ضمیر ارض کی لے و محذوف سے ان تَبَسَّتْ اَنْ تَقَطَعُ مَا لَمْ يَنْصُرُوْهُ الْعَرَبُ وَاعْتَمِدُوا بِالْحِجْرِ  
 محذوف علیہ ہوا و عاطفہ تَابَهُ جادہ کا رید مرکب اضافی خبریہ، جواب خبریہ مَحْضُوفٌ مَحْضُوفٌ عَلَیْہِہِ مَحْضُوفٌ حرف غیر متعلق ہونے اَرْضُ  
 مَجْهُولٌ بہ فعل ہاقابل و متعلق مَجْهُولٌ بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء شرطیہ ہوا تَابَهُ حَسْبُ مَا كَانَ بَالُكَ اَنْ تَقَطَعُ سَتَقَالُ

کَائِنَةَ کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ میں جارہے ذلکہ، یَقِيْنَةُ موصوفہ یَنْصُرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل واو ضمیر مفعول بہ سے مل کر صفت، موصوفہ ہفت ذوالحال میں ذُوْنَ اللّٰهِ کَائِنَةَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال علامہ نون اسم مؤخر، کان ہلام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔ واو عاطفہ مآ نافیہ کان فعل ناقص ہُوْ مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُتَّقِيْنَ جارہ باجرور کائِنَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہلام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَنْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاءُ وَيَكَانَهُ لَا يَفْعَلُ الْكُفْرُونَ ﴿٨٢﴾

**آیت نمبر ۸۲:** واو عاطفہ أَصْبَحَ فعل ناقص الَّذِينَ اسم موصول تَمَتُّوا فعل واو ضمیر فاعل مکانہ مرکب اضافی مفعول بہ بِالْأَمْسِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول بصلہ اسم يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول ویسئ اسم فعل بمعنی اَكْعَجَبَ، انا مستتر فاعل کاف جارہ اَنْ حرف تَحْتِیْنِ اللّٰهُ اس کا اسم یَنْسِطُ فعل ہُوْ مستتر فاعل الرِّزْقَ مفعول بہ، لاہر جارہ مَن موصولہ یَشَاءُ فعل ہُوْ مستتر فاعل سے مل کر صلہ موصول بصلہ ذوالحال مِنَ عِبَادِهِ کَائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جارہ باجرور یَنْسِطُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ وَيَقْدِرُ فعل ہُوْ مستتر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبریہ اَنْ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مجرور، جارہ باجرور متعلق ہوئے اسم فعل ویسئ کے، اسم فعل بافاعل و متعلق مقولہ، قول با مفعول فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں لَوْلَا حرف امتناع اَنْ ناصب مَن فعل اللّٰهُ فاعل عَلَيْنَا متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مبتدہ، خبر محذوف ہے مَوْجُودٌ، مبتدہ با خبر شرط، لاہر جوابیہ خَسَفَ فعل ہُوْ مستتر فاعل بِنَاءُ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط جارہ جملہ شرطیہ ہوں ویسئ اسم فعل بمعنی فعل مضارع اَكْعَجَبَ کے انا مستتر فاعل کاف جارہ اَنْ حرف تَحْتِیْنِ اَمَّ الْكُفْرُونَ فاعل سے مل کر خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مجرور، جارہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

﴿ ۸۲ ﴾

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

**آیت نمبر ۸۳:** تِلْكَ اسم اشارہ مبدل منہ، الدَّارُ موصوفہ الْآخِرَةُ صفت، موصوفہ ہفت بدل، مبدل منہ بادل مبتدہ نَجْعَلُ فعل لَحْنٌ مستتر فاعل ہَا ضمیر مفعول بہ، لاہر جارہ الَّذِينَ اسم موصول لَا يُرِيدُونَ فعل واو ضمیر فاعل عُلُوًّا موصوفہ فِي الْأَرْضِ کَائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت موصوفہ ہفت معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زِلْزَلَةَ فَسَادًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَا يُرِيدُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ صلہ موصول بصلہ مجرور جارہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا  
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۳﴾

**آیت نمبر ۸۳:** مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۳﴾  
کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم تھی وہ اسم تفضیل ہو مستتر قائل ہونگے جلد باخبر اور متعلق تینوں مل کر مبتدا موخر، مبتدا باخبر جزاء، شرط جزاء، مَنْ کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَنْ اسم شرط مبتدا، جَاءَ فعل ہو مستتر قائل بِالسَّيِّئَةِ متعلق سے مل کر شرط، فاء جزائیہ لایجوزی فعل مجہول الَّذِینَ اسم موصول عمیلو فعل واو ضمیر قائل السَّيِّئَاتِ مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول ہاسلہ نائب قائل الْاَاحِرَفِ استثناء، مَا اسم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْمَلُونَ فعل ہاواو ضمیر قائل خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر صلہ، موصول ہاسلہ مفعول بہ، فعل مجہول ہا نائب قائل و مفعول بہ جزاء، شرط جزاء، مَنْ کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ بمعطوف جملہ متساوی ہو۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَ  
مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۸۵﴾

**آیت نمبر ۸۵:** إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۸۵﴾  
فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ، کاسم، لاکر حرف تعلق رَأْدُ اسم قائل مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، اِلَىٰ مَعَادٍ متعلق سے مل کر خبر، اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، قُلْ فعل ۱، اِنَّ متعلق سے مل کر قول ربی مرکب اضافی مبتدا، اَعْلَمُ اسم تفضیل ہو مستتر قائل مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَنْ اسم موصول ہو ضمیر مبتدا، فی جملہ ضلالٍ مُّبِينٍ مرکب توحیدی مجرور، جلد باخبر دو کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف اَعْلَمُ کا مفعول بہ، اسم تفضیل ہا قائل و مفعول بہ شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوَ أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا  
لِّلْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾

**آیت نمبر ۸۶:** وَاِذَا اسْتِغْنَاهُ مَا نَآءٍ مَّا نَآءٍ كُنْتَ تَلْمِزُ النَّاسَ ۚ قُلْ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ حَقٌّ وَلَا تَكُنْتُمْ لِي كَافِرِينَ ﴿۸۶﴾  
مَجْهُول إِلَيْكَ جلد باخبر و متعلق ہونے، اَلْكِتَابُ نائب قائل الْاَاحِرَفِ استثناء رَحْمَةً مَوْصُولٌ مِنْ رَبِّكَ كَائِنَةً کے متعلق ہو کر صفت، مَوْصُولٌ بِصِفْتِ مَفْعُولٌ لہ، فعل مجہول ہا نائب قائل و متعلق و مفعول بہ بتاویل مصدر تَرْجُوَ كَافِرِينَ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَتِ الْاَمْرُ كَذَلِكَ، لَا تَكُونَنَّ فعل ناقص اَنْتَ مستتر اس کا اسم ظَهِيرًا مَوْصُولٌ بِصِفْتِ مَفْعُولٌ لہ، متعلق سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر

جملہ انشائیہ نہیہ جزاء، شرط یا تزلزلہ جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

**آیت نمبر ۸۷:** واو عطفہ لَا يَصُدُّكَ فعل واو مخذوف فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، عَنْ آيَاتِ اللَّهِ جاد باجرور متعلق ہوئے بَعْدَ مضاف اِذْ مضاف اُنزِلَتْ فعل مجہول ہی مستتر فاعل اِلَيْكَ متعلق سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یَعُدُّ کا مضاف الیہ، مضاف متعلق سے مل کر مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عطفہ اُدْعُ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل اِلَى رَبِّكَ متعلق سے مل کر معطوف اذل، واو عطفہ لَا تَكُونَنَّ فعل ناقص اَنْتَ مستتر اس کا اسم منہ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کائینا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہوں۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ذَلَّةُ الْحُكْمِ وَ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

**آیت نمبر ۸۸:** واو عطفہ لَا تَدْعُ فعل نہی اَنْتَ مستتر فاعل مَعَ اللّٰہِ مرکب اضافی مفعول فیہ اِلٰہِ اٰخَرَ مرکب توسیعی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ ہوں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کی ترکیب سورۃ مزمل میں دیکھیں اور یہ جملہ مترضہ ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ مرکب اضافی مبتدا، هَالِكٌ اسم فاعل هُوَ مستتر مستثنیٰ منہ بِالْاَحْرَفِ استثناء وَجْهَهُ مرکب اضافی مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ فاعل، اسم فاعل با فاعل خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔ لہٰذا جاد باجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْحُكْمُ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطفہ تُرْجَعُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اِلَيْهِ متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہوں۔





## ترکیب سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ

● رُكُوعِ نَمْبِرَا ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اللَّهُ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝

**آیت نمبر ۲۰:** اللّٰہیہ خبریہ مبتدا محذوفِ ہذہ کی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ہمزہ استہماہیہ حسبِ فعلِ النَّاسِ فاعلِ أَنْ ناصبِ یُتْرَكُوا فاعلِ مجہولِ وَ اُو ضمیر ذوالحالِ وَ اُو ضمیر ہذہ ضمیر مبتدا، لَا یُفْتَنُونَ فعلِ مجہولِ بِاُو ضمیر نائبِ فاعلِ خبریہ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حالِ ذوالحالِ باحالِ نائبِ فاعلِ أَنْ ناصبِ یُتْرَكُوا فاعلِ وَ اُو ضمیر فاعلِ سے ل کر قولِ آمَنَّا فعلِ ناصبِ فاعلِ سے ل کر مقولہ، قولِ باحقوقِ بتداولِ مصدرِ منصوبِ بزعمِ الخافضِ یہ اصل میں لائن سے جدا باجورِ متعلق ہوئے، فعلِ مجہولِ ہاتبِ فاعلِ و متعلقِ جملہ فعلیہ خبریہ بتداولِ مصدرِ حسبِ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعلِ بافاعلِ و مفعولینِ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۝

**آیت نمبر ۳:** وَ اُو عاطفہ لآہر موطنہ للقسَمِ قَدْ علامتِ فعلِ، فَتَنَّا فعلِ ناصبِ فاعلِ الَّذِينَ اسمِ موصولِ مِنْ قَبْلِهِمْ ظرفِ مستقرِ تَبَيَّنُوا کے متعلق ہو کر صلہ، موصولِ باصلِ مفعولِ یہ، فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ جوابِ قسم، قسمِ باجوابِ قسمِ جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں فقہاء عاطفہ لآہر موطنہ للقسَمِ یَعْلَمَنَّ فعلِ اللّٰہیہ فاعلِ الَّذِينَ صَدَقُوا موصولِ باصلِ مفعولِ بہ، فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ جوابِ قسم، قسمِ باجوابِ قسمِ معطوفِ علیہ، وَ اُو عاطفہ لآہر موطنہ للقسَمِ اور قسمِ محذوفِ ہے یَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ فعلِ بافاعلِ و مفعولِ بہ جوابِ قسم، قسمِ باجوابِ قسمِ معطوفِ، معطوفِ علیہ با معطوفِ جملہ معطوفہ ہوں۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

**آیت نمبر ۳:** أَمْ متعلقہ حسبِ فعلِ الَّذِينَ اسمِ موصولِ یَعْمَلُونَ فعلِ وَ اُو ضمیر فاعلِ السَّيِّئَاتِ مفعولِ بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولِ باصلِ فاعلِ أَنْ ناصبِ یَسْبِقُونَا فعلِ وَ اُو ضمیر فاعلِ ناصبِ مفعولِ بہ سے ل کر بتداولِ مصدرِ حسبِ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعلِ بافاعلِ و مفعولینِ جملہ انشائیہ ہوں سَاءَ فعلِ ذمِ هُوَ ضمیر مستتر میزما موصولِ یَحْكُمُونَ فعلِ بااُو ضمیر فاعلِ صفتِ موصوفِ ہا صفتِ محلاً منصوبِ تیز، میز با تیز سَاءَ کا فاعل، فعلِ بافاعلِ خبریہ اور مخصوصِ بالذمِ مبتدا محذوفِ ہے حُكْمُهُمْ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۚ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

**آیت نمبر ۵:** مَنْ نامِ شرطِ مبتدا، كَانَ فعلِ ناقصِ هُوَ مستترِ اس کا اسمِ یَرْجُو فعلِ هُوَ مستترِ فاعلِ لِقَاءَ اللّٰہیہ مرکبِ اسانیِ مفعولِ بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبرِ مکانِ بِاِسمِ ذمِ خبرِ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطِ فقہاء جزائیہ ان حرفِ تحقیقِ أَجَلَ اللّٰہیہ

مرکب اضافی اس کا اسم لاکھ مذقہ طاعتِ خیران با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء مِنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اور استثنائیہ ہو ضمیر مبتدا، اَلْکَسْبِیْنِ الْعَلَمِیْنَ اس کی دو خبر، مبتدا با خبر ن جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

آیت نمبر ۶: او عاقلہ مِنْ اسم شرط مبتدا، جَاهَدَ: فعل باہو مستتر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائیہ اِنْ حرف تحقیق مَا کا ذی جہاد، فعل ہو مستتر فاعل لِنَفْسِهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مِنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اِنْ حرف تحقیق اَللَّاسِ کا اسم لاکھ مذقہ غنی صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عَنِ الْعَالَمِينَ متعلق سے مل کر خبر جملہ ہو کر خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۷: او عاقلہ اَلَّذِينَ اسم موصول اَمَّنُوا فعل با ضمیر فاعل ہوں و نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاقلہ عَمِلُوا فعل با ضمیر فاعل اَلصَّالِحَاتِ منصوب بالکسر معقول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدا، لاکھ موطنہ للشم اور قسم مخدوف ہے لَنُكَفِّرَنَّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل عَنْهُمْ جاہ باجر و متعلق ہوئے سَيِّئَاتِهِمْ مرکب اضافی معقول بہ، فعل با فاعل و متعلق و معقول بہ جواب قسم، قسم با جواب قسم معطوف علیہ، او عاقلہ لاکھ موطنہ للشم اور قسم مخدوف ہے نَجْزِيَنَّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب معقول بہ، اَحْسَنَ اسم تفضیل اَلَّذِي اسم موصول کا نون فعل ناقص او ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُونَ فعل با نون ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معقول بہ ہیں، فعل با فاعل و معقولین جواب قسم، قسم با جواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاَنْتُمْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۸: او استثنائیہ و وصَّيْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل الْاِنْسَانَ معقول بہ، و اَلَّذِي جاہ باجر و متعلق ہوئے حُسْنًا باصلہ موصوف مخدوف کو وصیۃ کے معقول مطلق ہوں فعل با فاعل و متعلق و معقولین جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں او عاقلہ اِنْ شرطیہ جَاهَدَكَ فعل الف ضمیر فاعل کان ضمیر معقول بہ، لاکھ جاہ اسکے بعد ان مقدم ہے لِتُشْرِكَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل اِنْ جاہ باجر و متعلق ہوئے مَا اسم موصول لَيْسَ فعل ناقص لَكَ جاہ باجر و کا نون کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عِلْمٌ مصدر بہ جاہ باجر و متعلق مقدم، مصدر با متعلق مقدم اسم مؤخر لَيْسَ با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ لِتُشْرِكَ کا معقول بہ، فعل با فاعل و متعلق و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائیہ لَا تُطِعْ فعل نَحْنُ اَنْتَ مستتر فاعل هُمَا ضمیر معقول بہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اِلَىٰ جاہ باجر و کا نون کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَرْجِعِكُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف

علیہ فَاَعْلَفَ اَنْبِیُّوْهُ لَعْل اَنَا مستتر فاعل کفر ضمیر مفعول بہ بآء جملہ ما موصول کُنْتُمْ لَعْل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُوْنَ لَعْل باواؤ ضمیر فاعل خبر، لَعْل ناقص با اسم و خبر صلہ موصول باصلہ مجرور، جملہ با مجرور اَنْبِیُّوْہ کے متعلق ہوئے، لَعْل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوفہ جملہ معطوفہ ہوں۔

### وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصّٰلِحِیْنَ ۝۹

آیت نمبر ۹: ۱۰ واؤ استنیائیہ اَلَّذِیْنَ اٰم موصول اٰمَنُوْا لَعْل باواؤ ضمیر فاعل معطوف علیہ واؤ عاطفہ عَمِلُوْا لَعْل باواؤ ضمیر فاعل الصّٰلِحٰتِ مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ موصول باصلہ مبتدأ لاہر موطنہ القسم اور قسم مخدوف ہے نُدْخِلْنٰ لَعْل لَعْل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ فی الصّٰلِحِیْنَ جملہ با مجرور متعلق ہوئے، لَعْل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جواب قسم، قسم با جواب قسم خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوْدِیْ فِی اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ کَعَدَابِ اللّٰهِ ؕ وَ لَیِّنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّکَ لَیَقُوْلُنَّ اِنَّا کُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوْ لَیْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِیْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۰

آیت نمبر ۱۰: ۱۰ واؤ استنیائیہ مِن حرف جر اَلنَّاسِ مجرور، جملہ با مجرور کٰلِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِّن موصول یَقُوْلُنَّ لَعْل باواؤ ضمیر فاعل قول، اٰمَنَّا بِاللّٰهِ متعلق سے ل کر مقلوبہ، قول با مقلوبہ صلہ موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فَاَعْلَفَ اٰمَنَّا اِذَا شرطیہ مفعول بہ مقدم، اُوْدِیْ لَعْل مجہول ہو مستتر نائب فاعل فی اللّٰهِ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جَعَلَ لَعْل ہو مستتر فاعل فِتْنَةً لِلنَّاسِ مرکب اضافی مفعول بہ اِذْل تکاف جملہ عَدَابِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جملہ با مجرور مفعول بہ جانی کی جگہ میں ہے، لَعْل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واؤ عاطفہ لاہر موطنہ القسم اور قسم مخدوف ہے اِنْ شرطیہ جَاءَ لَعْل نَصْرٌ موصول مِّنْ رَبِّکَ کٰلِیْنَ کے متعلق ہو کر مفت، موصوف با صفت فاعل، لَعْل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لَیَقُوْلُنَّ لَعْل باواؤ ضمیر فاعل سے ل کر قول، اِنْ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُوْنَ لَعْل ناقص نَا ضمیر اس کا اسم مَعَكُمْ ظرف مستقر کٰلِیْنَ کا مفعول بہ ہو کر خبر، لَعْل ناقص با اسم و خبر لَیِّنْ با خبر اِنْ با اسم و خبر مقلوبہ، قول با مقلوبہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ قسمیہ ہوں اور شرط کی جزاء مخدوف ہے جس کا جواب قسم اِن ہے۔ ہمزہ کا استفہامیہ واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے نَا قَفُوْا اَوْ لَا یَخْفٰی ذٰلِکَ عَلٰی اللّٰهِ (منظری) لَیْسَ لَعْل ناقص اَللّٰہُ اس کا اسم بآء زلذلا طَاعَلَمَ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل بآء جملہ ما موصول فی صُدُوْرِ الْعٰلَمِیْنَ ظرف مستقر قَبِیَّتِ کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر مقلوبہ خبر، لَیْسَ با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوفہ جملہ متاخر ہوں۔

وَ لَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِیْنَ ۝۱۱

**آیت نمبر ۱۱:** وَاَوْعَافِظْ لَا مَرْمُوطٌ لِّقَسْمٍ اَوْ رَسْمٍ مَخْرُوفٌ يَّعْلَمَنَّ فِعْلُ الْكَلِمَاتِ الْاَلِيْنَ اَمْتُوْا مَوْصُوْلًا بِاسْمٍ مَفْعُوْلٍ بِهِ، فِعْلُ الْبَاقِلِ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ جَوَابٌ قَسْمٍ، قَسْمٌ بِجَوَابٍ قَسْمٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَافِظْ لَا مَرْمُوطٌ لِّقَسْمٍ اَوْ رَسْمٍ مَخْرُوفٌ يَّعْلَمَنَّ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقْرَفًا قَاعِلُ الْاِمْتَاَقِيْقِيْنَ مَفْعُوْلٌ بِهِ، لَعَلَّ كَرَجَابٍ قَسْمٍ، قَسْمٌ بِجَوَابٍ قَسْمٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، مَعْفُوْفٌ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، بِمَعْفُوْفٍ جَمَلٌ مَعْفُوْفٌ هُوَ۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَ لَنَحْمِلَ خَطِيْئَكُمْ وَاَوْ مَا هُمْ بِخٰبِرِيْنَ مِنْ خَطِيْئِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝۱۱

**آیت نمبر ۱۲:** وَاَوْ اِسْتِيْنٰفِيْهِ قَالَ فِعْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَوْصُوْلًا بِاسْمٍ فَاعِلٌ لَّا مَرْجُوْهُ الَّذِيْنَ اَمْتُوْا مَوْصُوْلًا بِاسْمٍ مَجْرُوْرٌ، جَدُّ بِمَجْرُوْرٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلُ الْبَاقِلِ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ، قَوْلٌ: اَتَّبِعُوْا فِعْلٌ اِسْمٌ وَ اِخْبَارِيٌّ فَاعِلٌ سَبِيْلَتَا مَرْكَبِ اِضَاتِيٍّ مَفْعُوْلٍ بِهِ، فِعْلُ الْبَاقِلِ وَ مَفْعُوْلٌ بِهِ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَافِظْ لَنَحْمِلَ فِعْلٌ نَحْنُ مُسْتَقْرَفًا خَطِيْئَتُكُمْ مَرْكَبِ اِضَاتِيٍّ مَفْعُوْلٍ بِهِ، تِيْسُوْلٌ لَعَلَّ كَرَجَابٍ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، بِمَعْفُوْفٍ مَقُوْلٍ، قَوْلٌ بِمَقُوْلٍ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ، وَاَوْعَافِظْ مَا جَزَايَهُ هُمْ خَبْرٌ مَعْلُوْمٌ فِعْلٌ اِسْمٌ كَا مَرْكَبٍ بِجَدِّهِ زَلَّةٌ خَبْرِيَّةٌ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُمْ خَبْرٌ فَاعِلٌ مِنْ جَدِّهِ خَطِيْئَتُهُمْ مَرْكَبِ اِضَاتِيٍّ مَجْرُوْرٌ، جَدُّ بِمَجْرُوْرٍ كَا كَيْفَاكُ مَعْلُوْمٌ، مَعْلُوْمٌ هُوَ كَرَجَابٍ مَقْدَمٌ مِنْ زَلَّةٍ شَيْءٌ هُوَ مَعْلُوْمٌ مَقْدَمٌ مَوْصُوْلًا بِاسْمٍ مَعْلُوْمٌ، اِسْمٌ فَاعِلٌ مَعْلُوْمٌ بِهِ، اِسْمٌ فَاعِلٌ الْبَاقِلِ وَ مَفْعُوْلٌ بِهِ مَعْلُوْمٌ مَقْدَمٌ، اِسْمٌ خَبْرٌ، مَا بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُعْتَرِضَةٌ هُوَ۔

اِنَّ حَرْفَ تَحْقِيْقٍ هُمْ خَبْرٌ اِسْمٌ كَا مَرْكَبٍ لَّا مَرْجُوْهُ كَذِبُوْنَ اِسْمٌ فَاعِلٌ بِاَهُمْ خَبْرٌ فَاعِلٌ خَبْرٌ اِسْمٌ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلُوْمٌ هُوَ۔  
وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَعَ اَثْقَالِهِمْ ۚ وَ لَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْعُرُوْنَ ۝۱۲

**آیت نمبر ۱۳:** وَاَوْعَافِظْ لَا مَرْمُوطٌ لِّقَسْمٍ اَوْ رَسْمٍ مَخْرُوفٌ يَّعْلَمَنَّ فِعْلٌ وَاَوْعَافِظْ لَا مَرْمُوطٌ لِّقَسْمٍ اَوْ رَسْمٍ مَخْرُوفٌ يَّعْلَمَنَّ فِعْلٌ اِسْمٌ فَاعِلٌ اَثْقَالَهُمْ مَرْكَبِ اِضَاتِيٍّ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَافِظْ لَا مَوْصُوْفٌ مَعَ اَثْقَالِهِمْ مَرْكَبِ اِضَاتِيٍّ كَاثِبَةٌ كَا مَفْعُوْلٍ فِيْهِ هُوَ كَرَجَابٍ، مَوْصُوْفٌ بِهَفْتٍ مَعْفُوْفٌ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، بِمَعْفُوْفٍ يَّحْمِلُنَّ كَا مَفْعُوْلٍ بِهِ، فِعْلُ الْبَاقِلِ وَ مَفْعُوْلٌ بِهِ جَوَابٌ قَسْمٍ، قَسْمٌ بِجَوَابٍ قَسْمٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَافِظْ لَا مَرْمُوطٌ لِّقَسْمٍ اَوْ رَسْمٍ مَخْرُوفٌ يَّعْلَمَنَّ فِعْلٌ مَجْبُوْلٌ وَاَوْعَافِظْ لَا مَرْمُوطٌ لِّقَسْمٍ اَوْ رَسْمٍ مَخْرُوفٌ يَّعْلَمَنَّ فِعْلٌ اِسْمٌ فَاعِلٌ اَثْقَالَهُمْ مَرْكَبِ اِضَاتِيٍّ مَفْعُوْلٍ فِيْهِ، عَنِ جَدِّهِ مَوْصُوْلًا كَاثِبَةٌ اِسْمٌ نَاقِصٌ وَاَوْعَافِظْ لَا مَرْمُوطٌ لِّقَسْمٍ اَوْ رَسْمٍ مَخْرُوفٌ يَّعْلَمَنَّ فِعْلٌ اِسْمٌ فَاعِلٌ اَثْقَالَهُمْ مَرْكَبِ اِضَاتِيٍّ مَفْعُوْلٍ فِيْهِ، عَنِ جَدِّهِ مَجْرُوْرٌ، جَدُّ بِمَجْرُوْرٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ مَجْبُوْلٌ بِاَثْقَالٍ فَاعِلٌ وَ مَفْعُوْلٍ فِيْهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ، قَسْمٌ بِجَوَابٍ قَسْمٍ، قَسْمٌ بِجَوَابٍ قَسْمٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، بِمَعْفُوْفٍ جَمَلٌ مَعْفُوْفٌ هُوَ۔

﴿ رُكُوْعٌ ثَمِيْنٌ ﴾

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَاٰتٰىهُمْ اٰلَافَ سَنَةٍ اِلَّا حَسِبُوْنَ اِلَّا خٰسِرِيْنَ عَامًا ۙ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفٰنُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝۱۳

**آیت نمبر ۱۴:** وَاَوْ اِسْتِيْنٰفِيْهِ لَّا مَرْمُوطٌ لِّقَسْمٍ اَوْ رَسْمٍ مَخْرُوفٌ يَّعْلَمَنَّ فِعْلٌ اَرْسَلْنَا فِعْلٌ نَاظِرٌ فَاعِلٌ نُوحًا مَفْعُوْلٌ بِرِاٰلِ قَوْمِهِ مُتَعَلِّقٌ سَعَلُ كَرَجَابٍ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، فَعَاءٌ عَاطِفَةٌ لَيْتٌ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقْرَفًا فِعْلُهُ جَدُّ بِمَجْرُوْرٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، اَلْفَ سَنَةً

مرکب اضافی مستثنیٰ منہ بالآخر استثناء خصیصۃ عامہ کما یرتابہر مستثنیٰ مستثنیٰ منہ ہا مستثنیٰ مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ازل فقاء عاطفہ اَخَذَ فعل هُمْ ضمیر ذوالحال واو حال ہُمْ ضمیر مبتدأ تکالیفون خبر مبتدأ با خبر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ التَّقْوَانُ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

### فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** فقاء عاطفہ اَنْجَيْنَاهُ فعل تا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، واو بمعنی مع "أَصْحَبَ السَّفِينَةَ" مرکب اضافی مفعول مدہ، فعل بافاعل و مفعولین معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلْنَاهُ فعل تا ضمیر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ ازل آيَةً موصوف لِلْعَالَمِينَ جہد باجرور کائتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہو کر صفت مفعول بہ علی، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

### وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَٰلِكُمْ خَيْرًا لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۲:** واو استثنائیہ اِبْرَاهِيمَ مبدل منراذ وصف قال فعل هو مستتر فاعل لِقَوْمِهِ متعلق سے ل کر قول، اُعْبُدُوا فعل واو ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اتَّقُوا فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ اِذْ کاسنای الیہ، مضای با مضای الیہ بدل مبدل منہ مبدل مفعول بہ ہوا فعل محذوف اَذْکُرُ کاذالکُم اسم اشدہ مبتدأ، اَخْبَرْتَهُمْ تفضیل باهو مستتر فاعل لَكُم متعلق سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اِن شرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کاسم تَعْلَمُونَ فعل باواو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم واو خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے فاعلیں وَاللَّهِ وَاتَّقُوا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

### تُرْجَعُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۷:** اِن حرف تحقیق ما کاذ تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنْ دُونِ اللَّهِ کائتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم، اَوْثَانًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَخْلُقُونَ فعل واو ضمیر فاعل اِفْکًا بواسطہ موصوف محذوف خَلَقَا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں اِن حرف تحقیق اَلَّذِينَ تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے ل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ دُونِ اللَّهِ کائتہ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال اِن کاسم، لا یملکون فعل واو ضمیر فاعل لکم متعلق رِزْقًا بمعنی مَرْزُوقًا کے ہو کر مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ خبر اِن با اسم واو خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فقاء فصیح اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا لَمْ يَنْبَلِكُوا لَكُمْ رِزْقًا، بیان اختیجْتُمْ

إِلَىٰ شَيْءٍ مَّا يَنْتَعُونَ اِفْعَل امر واؤ ضمیر فاعل عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول فیہ الْكَرْبُ ق مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَعْبُدُوا فعل واؤ ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے ل کر معطوف اول، واو عاطفہ اَشْكُرُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل لَهْ جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اِلَيْهِ جادہ باجرور متعلق مقدم تُوْجَعُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں

وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّهُم مِّن قَبْلِكُمْ ذُو مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۲۹﴾

**آیت نمبر ۲۸:** واو عاطفہ ان شرطیہ تَكْذِبُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء مخدوف ہے فَلَا يَصْطُرِي تَكْذِبِيْنَكُمْ، فاء تعلیلیہ قد علامت فعل، كَذَّبَ فعل اُمَمٌ موصوف من قَبْلِكُمْ ظرف مستقر تَبَيَّنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت فاعل، فعل بافاعل جملہ مطلقہ ہوں واو استیفاء مَآثِرِہِ عَلَي الرَّسُولِ ظرف مستقر تَكْذِبِیْن کے متعلق ہو کر خبر مقدم بالآ حرف استثناء اَلْبَلْغُ الْمُبِينُ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۲۹:** هَمْزہ استنہاسیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ يَنْظُرُوا لَمْ يَرَوْا مَعْنَى لَمْ يَحْكُمُوا فعل واؤ ضمیر فاعل كَيْفًا كَايْتَا کا مفعول فیہ ہو کر بواسطہ اَبْدَاء مصدر کے مفعول مطلق مقدم، يُبْدِئُ فعل اللّٰهُ فاعل الْخَلْقِ مفعول بہ سے ل کر لَمْ يَرَوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ يُعِيدُ فعل باهُوَ متعلق اَعْمَارِ مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متساوی ہوں اِلَآ حرف تحقیق ذَالِكَا اسم اشارہ اس کا اسمِ سَبِيْرٌ صیغہ صفت ہُوْ متعلق فاعل عَلَي اللّٰهِ متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر برانہ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں

فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۳۰:** قُلْ فعل امر اَنْتَ متعلق فاعل سے ل کر قول سِيرُوا فعل امر باواؤ ضمیر فاعل فِي الْأَرْضِ متعلق سے ل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَنْظُرُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل كَيْفًا كَايْتَا کا مفعول فیہ ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف بَدَأ کے مفعول مطلق مقدم، بَدَأ فعل هُوْ متعلق فاعل الْخَلْقِ مفعول بہ و مفعول مطلق مقدم سے ل کر اَنْظُرُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں ثُمَّ عاطفہ اللّٰهُ مبتدأ يُنشِئُ فعل هُوْ متعلق فاعل النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ مرکب توصیفی مفعول مطلق سے ل کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں اِلَآ حرف تحقیق اللّٰهُ اس کا اسم علی جادہ کَلِّ شَيْءٍ م مرکب اضافی مجرور، جادہ باجرور متعلق مقدم قَدِيرٌ صیغہ صفت ہُوْ متعلق فاعل و متعلق مقدم سے ل کر خبر، اِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** يَعْزِبُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرَقِعٌ مِّنْ يَشَاءُ مَوْصُولٌ بِاسْمٍ مَّفْعُولٍ بِهِ، فِعْلٌ بِاقْتِصَالٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ نَعْيِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفَةٌ عَلَيْهِ، وَوَاطِئَةٌ زَوْجَتْ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرَقِعٌ مِّنْ نَّاسٍ مَوْصُولٌ بِشَاءَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرَقِعٌ، فِعْلٌ بِاقْتِصَالٍ مَلَمَةٌ مَوْصُولٌ بِاسْمٍ زَوْجَتْ كَا مَفْعُولٍ بِهِ، فِعْلٌ بِاقْتِصَالٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ نَعْيِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفَةٌ اِثْنَانٌ، وَوَاطِئَةٌ اِثْنَانٌ تَفْخِيضٌ فِعْلٌ بِمَجْمُوعٍ بِاتِّبَاعِ قَائِلٍ وَمُتَّحِقٌ مُقَدِّمٌ جَمْلَةٌ نَعْيِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفَةٌ اِثْنَانٌ، مَعْفُوفَةٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفِيْنِ جَمْلَةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ هِيَ اِيْنَ اَنْ كِيْ خَبْرُ اِثْنَانٍ هِيَ اِيْقَانِيَّةٌ وَكِيْ مَصِيْرٌ قَائِلٌ سَعَالٌ هُوَ

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ

لَا نَصِيرٍ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۲:** وَآؤِ اسْتِثْنَائِيَّةٌ مَا جَزَاءُ اِسْمِ كَلَامٍ بَاءٌ جَدَةٌ زَلَّةٌ مُعْجِزِينَ اِسْمٌ قَائِلٌ اَنْتُمْ مَصِيْرٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ فِي الْاَرْضِ جَاءَ بِالْجُرُورِ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاطِئَةٌ لَا زَلَّةَ فِي السَّمَاءِ جَاءَ بِالْجُرُورِ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ كَاثِرِينَ كَيْ تَمْتَلِقُ هُوَ كَمَا اِلْحَالِ بِاقْتِصَالِ قَائِلِ، اِسْمٌ قَائِلٌ بِاقْتِصَالِ شَبِيْهِ جَمْلَةٌ هُوَ كَمَا مَضْبُوبٌ خَبْرٌ، مَا بَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاطِئَةٌ مَآثِرِيَّةٌ لِكُلِّ كَاثِرِيْنَ كَيْ تَمْتَلِقُ هُوَ كَمَا خَبْرٌ مُقَدِّمٌ مِّنْ حَرْفِ جَدَّةٍ اِثْنَانٌ اللّٰهُ مَرْكَبٌ اِضْنَانٌ اِسْمٌ جُرُورٌ، جَاءَ بِالْجُرُورِ كَاثِرِينَ كَيْ تَمْتَلِقُ هُوَ كَمَا مُقَدِّمٌ مِّنْ جَدَّةٍ زَلَّةٌ وَكِيْ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاطِئَةٌ لَا زَلَّةَ فَصِيْرٌ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ كَمَا مَرْفُوعٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ مَوْخَرٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ بِاقْتِصَالِ مَبْتَدَا مَوْخَرٍ، مَبْتَدَا بِالْخَبْرِ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَمْلَةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ هِيَ

﴿ ۲۲ ﴾ رُكُوْعٌ ۳ ﴿ ۲۲ ﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْفُرُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۳:** وَوَاطِئَةٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ كَفَرُوا فِعْلٌ وَاوْ مَصِيْرٌ قَائِلٌ بَاءٌ حَرْفٌ جَرَّ اِيَاتٍ اللّٰهُ مَرْكَبٌ اِضْنَانٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاطِئَةٌ لِقَائِهِ مَرْكَبٌ اِضْنَانٌ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جُرُورٌ، جَاءَ بِالْجُرُورِ كَفَرُوا كَيْ تَمْتَلِقُ هُوَ، فِعْلٌ بِاقْتِصَالِ وَ مَعْفُوفٌ جَمْلَةٌ نَعْيِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَمَا مَلَمَةٌ مَوْصُولٌ بِاسْمٍ مَبْتَدَا اُولَئِكَ اِسْمٌ اِشْرَاهُ مَبْتَدَا يَكْفُرُوا فِعْلٌ وَاوْ مَصِيْرٌ قَائِلٌ مِّنْ رَحْمَتِي مُتَّحِقٌ سَعَالٌ كَرَجَلَةٌ نَعْيِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَمَا خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِالْخَبْرِ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاطِئَةٌ اُولَئِكَ اِسْمٌ اِشْرَاهُ مَبْتَدَا لِكُلِّ كَاثِرِيْنَ كَيْ تَمْتَلِقُ هُوَ كَمَا خَبْرٌ مُقَدِّمٌ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَبْتَدَا مَوْخَرٌ، مَبْتَدَا بِالْخَبْرِ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَمَا مَبْتَدَا اِثْنَانٌ كِيْ خَبْرٌ، مَبْتَدَا اِثْنَانٌ كِيْ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِالْخَبْرِ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُمْنُونَ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۴:** قَاءَ مَاطِفِيَّةٌ اِيْتِثْنَائِيَّةٌ مَآثِرِيَّةٌ كَانِ فِعْلٌ نَاقِصٌ جَوَابٌ قَوْمِهِ مَرْكَبٌ اِضْنَانٌ خَبْرٌ مُقَدِّمٌ، اِلَّا حَرْفٌ اسْتِثْنَاءٌ اَنْ نَاصِرٌ قَالُوا فِعْلٌ وَاوْ مَصِيْرٌ قَائِلٌ سَعَالٌ، اِقْتُلُوهُ فِعْلٌ وَاوْ مَصِيْرٌ قَائِلٌ، وَحَرِّقُوهُ فِعْلٌ وَاوْ مَصِيْرٌ قَائِلٌ سَعَالٌ، وَوَاطِئَةٌ حَرِّقُوهُ فِعْلٌ وَاوْ

ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مقولہ، قول یا مقولہ بتداول مصدر کان کاسم مؤخر، کان کاسم  
 و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ فاء جملہ نصیب اور اس کی شرط محذوف ہے۔ اِذَا قَدْ قُوْنَا فِي النَّارِ بَعْدَ اِتِّفَاقِهِمْ عَلٰی تَحْرِيقِهِ، اَتَّجٰی لَمَلٌ اَضْمِر  
 مفعول بہ اِنَّهُ فاعل مِنَ النَّارِ متعلق سے ل کر جر، شرط ہا، جر، جملہ شرطیہ ہو۔ اِنْ حَرَفِ تَحْقِيقِ فِي ذٰلِكَ كَايْتَةٌ كَمُتَّلِقِ هُوَ كَر  
 خبر مقدم، لام تاکیدیہ آیات موصوفہ لامر جملہ مقولہ موصوفہ يُؤْمِنُوْنَ فعل باء ضمیر فاعل مفت، موصوفہ ہفت بحر، جملہ باجر و  
 کایتہ کے متعلق ہو کر مفت، موصوفہ ہفت اسم مؤخر، اِنْ بِاسْمِ وَخَبْرُ اِسْمِ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ  
 الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّ مَا لَكُمْ  
 مِّنْ نَّصِيْرِيْنَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: اِوَاوَا تینا فیہ قَالَ فعل ہا ضمیر فاعل قول، اِنْ حَرَفِ تَحْقِيقِ مَا كَانَتْ اِتَّخَذْتُمْ فعل ضمیر فاعل مِّنْ دُونِ  
 اِنَّہُ جملہ باجر و مفعول ثانی کی جگہ اَوْثَانًا مفعول بہ اِنَّ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ مرکب اضافی مفعول لہ، فی حرف جملہ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مرکب  
 توصیفی بحر، جملہ باجر و اِتَّخَذْتُمْ یا مَوَدَّةَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔  
 ثُمَّ عاطفہ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم یَكْفُرُوْا فعل بَعْضُكُمْ مرکب اضافی فاعل بَعْضٍ جملہ باجر و متعلق ہوئے، فعل  
 بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ یَلْعَنُوْنَ فعل بَعْضُكُمْ مرکب اضافی فاعل بَعْضًا مفعول بہ سے ل کر  
 معطوف، معطوف علیہ بمعطوف اِنَّمَا اِتَّخَذْتُمْ معطوف ہے وَاوَا عاطفہ مَا لَكُمْ مرکب اضافی مبتدا، اِنَّ حَرَفِ سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ  
 معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ مَا تَانِیَ لَكُمْ کَايْتُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، جملہ زائدہ فَاصِرِيْنَ لَقَطًا بحر و علاء مرفوع مبتدا مؤخر، مبتدا  
 باجر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوفہ ہو۔

فَاَمِّنْ لَهُ لَوْ ظَمَرْنَا اِلَيْ رَبِّيْ ط اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: فاء عاطفہ اَمِّنْ فعل لہ جملہ باجر و متعلق ہوئے لَوْ ظَمَرْنَا فاعل، فعل بافاعل و متعلق معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ قَالَ  
 فعل ہا ضمیر فاعل قول، اِنْ حَرَفِ تَحْقِيقِ يٰۤاَيُّهَا ضَمِيرٌ اِسْمِ فاعل اَنَا ضمیر فاعل اِلَى رَبِّيْ متعلق سے ل کر خبر اِنْ بِاسْمِ  
 و خبر مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف قَالَ پر معطوف ہے۔ اِنْ حَرَفِ تَحْقِيقِ ضَمِيرٌ اِسْمِ فاعل اِسْمِ هُوَ ضمیر فاعل  
 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ دو خبر اِنْ بِاسْمِ وَخَبْرٌ اِسْمِ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَّجَعَلْنٰا فِيْ ذُرِّيَّتِهٖ النُّبُوَّةَ وَاَلِكِتٰبَ وَاَتَيْنٰهُ اَجْرًا فِي  
 الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۷: وَاوَا عاطفہ وَهَبْنَا فاعل لہ جملہ باجر و متعلق ہوئے اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ معطوف علیہ بمعطوف  
 مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَا عاطفہ جَعَلْنٰا فاعل اَنَا ضمیر فاعل فِي ذُرِّيَّتِهٖ جملہ باجر و مفعول



جہی کی جگہ میں ہے الذنوبۃ والکتاب معطوف علیہ بمعطوف منقول بہ قول فعل بقرع ومعنی من معنی من سوا ما یحضر شیئ فعل  
فانصیرۃ علیہ ضمیر منقول بہ قول ما یجوزہ مرکب انسانی ذوالفارق الذنوبۃ کلینا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال جہاں منقول بہ معنی فعل  
جہاں فعل ومعنی منقول جہاں معطوف علیہ بمعطوفین جملہ معطوفہ ہوں اور او معترضہ حرف تحقیق ضمیر اس کا معنی لآخر جہ  
باجزاء متعلق مقدم اور معترضہ معترضہ کلینا کے متعلق ہو کر ان کی ضمیر اسم کامل ہے لآخر متعلق میں جہاں معنی جہاں معنی جہاں  
مستزاد علی: متعلق مقدم خبر بیان باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اکتینا اکتینا جہاں پر معطوف ہے۔

وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالْ لِقَوْمِهِ إِنْ كُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: اور اے لوگو! تمہارا بدل مراد منصف قال فعل ہو مستزاد علی بقومہ حقیق سے من کر توں باقی حرف تحقیق  
کے ضمیر اس کا سلامہ متعلق تأتون فعل اور ضمیر علی الفاجشۃ وہاں مآثریہ سبق فعل کے ضمیر منقول ہے یہاں جہاں خبر جہ  
مستزادین کے متعلق ہو کر کے ضمیر کامل ہو میں جہاں زلفہ احد موصوف میں الفاجشۃ کلینا کے متعلق ہو کر مست موصوف  
ہمعت مٹا مرفوع علی فعل جہاں فعل و متعلق یہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال جہاں تأتون کا معنی یہ فعل بقرع ہے  
ان کی خبر بیان باسم و خبر متولہ قول بہ قولہ اذ کا منصف علی منصف علیہ جہاں معنی من جہاں معنی من جہاں معنی من جہاں  
اذ کہ

إِن كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: ہمہ استہمایہ ان حرف تحقیق کے ضمیر اس کا سلامہ متعلق تأتون فعل اور ضمیر علی نادیکم  
منقول ہے سے مل کر معطوف علیہ اور اے لوگو! تمہارا بدل مراد منصف قال فعل ہو مستزاد علی بقومہ حقیق سے من کر توں باقی حرف تحقیق  
فعل اور ضمیر علی نادیکم متعلق المنکر منقول ہے سے مل کر معطوف جہاں معطوف علیہ بمعطوفین جہاں کی خبر بیان باسم و خبر جہ  
انصیرۃ استہمایہ ہوں فہاں استہمایہ مآثریہ کان فعل ناقص جواب قومیہ مرکب انسانی خبر مقدمہ بالآخر استہمایہ ہوں فہاں  
ہوں اور ضمیر علی قولہ الرِّجَالَ فعل امر آت متعلق تأتون فعل ناقص ضمیر منقول بہ بعد اب اللہ متعلق سے مل کر متولہ قول بہ قولہ بتوں مصدر اسم  
مؤخرہ فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستزاد ہوں ان شرطیہ کلینا کے متعلق ہوں فہاں معنی جہاں معنی جہاں معنی جہاں  
کے متعلق ہو کر خبر فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور اس کی جہاں معنی جہاں معنی جہاں معنی جہاں  
جملہ شرطیہ ہوں

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: قال فعل ہو مستزاد علی قول ہو یہ اصل میں تارقی ہے اور یہ نہ ہے انصو فعل امر آت متعلق علون

وقایہ کا بیاد ضمیر مفعول بہ علی جملہ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ مرکب اضافی مجرد، جملہ مجرد متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ و متعلق جواب مدہ، مدہ باجواب مدہ مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۳ ●

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى قَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۱: واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے قائمہ تجاب اللہ دَعَا لُوْطٍ وَاَرْسَلَ مَلَائِكَةً وَاَمْرُهُمْ اَنْ يَّبْشُرُوْا اِبْرٰهِيْمَ يَا وَاو استینافیہ ہے لکن ظنریہ معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَاءَتْ فعل و رُسُلُنَا مرکب اضافی فاعل اِبْرٰهِيْمَ مفعول بہ بِالْبَشْرٰى متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوْا فعل باو ضمیر فاعل قول اِنَّ حرف تحقیق قائمیرا اسم کا اسم، مُهْلِكُوْا اسم فاعل مضاف اَهِلْ مضاف الیہ مضاف لِهٰذِهِ الْقَرْيَةِ مرکب توصیفی مضاف الیہ اَهِلْ مضاف الیہ اَهْلُ مضاف با مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول، قول با مفعول جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق اَهْلَهَا مرکب اضافی اس کا اسم کَالُوْا فعل ناقص وَاو ضمیر اسم کَالِیْمِیْنَ خبر سے مل کر اِنَّ کی خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْكَاءٌ قَالُوْا لَنْحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنْنَجِّيْتَهُ وَاَهْلَكَ اِلَّا اَمْرًا تَكْتُمُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغٰیْبِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۲: قَالَ فعل باهو مستتر فاعل سے مل کر قول اِنَّ حرف تحقیق فیہا کَالِیْمِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لُوْكَاءٌ اسم مؤخر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قَالُوْا فعل باو ضمیر فاعل قول، لَنْحْنُ ضمیر مبتدہ اَعْلَمُ اسم تفضیل لَنْحْنُ مستتر فاعل بناو جملہ من اسم موصول فیہا نظرف مستقر بقیۃ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرد، جملہ مجرد و متعلق ہوئے اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں لاہر موطنہ لِقَمِّ اور قسم مخدوف ہے لَنْنَجِّيْتَهُ فعل لَنْحْنُ مستتر فاعل وَاو ضمیر مفعول بہ وَاو بمعنی مع "اَهْلَكَ" مرکب اضافی مستثنیٰ منہ بِالْاَحْرَفِ استثناء اَمْرًا تَكْتُمُ مرکب اضافی مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ مفعول مدہ، فعل بافاعل و مفعولین جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انطاییہ قسمیہ ہوں۔ کَانَتْ فعل ناقص ہی ضمیر مستتر اس کا اسم مِنَ الْغٰیْبِيْنَ جملہ با مجرد کَانَتْ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں۔

وَلَمَّا كَانَ لُوْكَاءٌ سِیْءٌ بِهٖمْ وَصَاقَ بِهٖمْ ذَّرْعًاوَقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۙ اِنَّا مُنْجُوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا اَمْرًا تَكْتُمُ مِنَ الْغٰیْبِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۳: واو استینافیہ لَمَّا مفعول فیہ مقدم اَنْ زَلَّہُ جَاءَتْ فعل و رُسُلُنَا مرکب اضافی فاعل لُوْكَاءٌ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، ہی ضمیر فعل مجہول ہو مستتر فاعل بِهٖمْ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ صَاقَ فعل ہو مستتر فاعل بِهٖمْ

متعلق دَوَّخًا تميز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو اور واو عاطفہ قَالُوا اَنْفُلْ ہا واو ضمیر قائل قول ہا کَتَفَّ اَنْفُلْ نمی ہا اَنْتَ مستتر قائل معطوف علیہ واو عاطفہ لَا تَحْزُنْ اَنْفُلْ نمی اَنْتَ مستتر قائل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مقولہ، قول ہا مَقُولٌ جملہ فعلیہ خبریہ ہو اور اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مہموز جُوک مرکب اضافی خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسید خبریہ مطلق ہو اور واو عاطفہ اَهْلَكَ مرکب اضافی مستثنیٰ منہ اَلْاَحْرَفِ اسْتَمْتَا اَهْلَكَ مرکب اضافی مستثنیٰ مستثنیٰ منہ ہا مستثنیٰ مفعول بہ ہو اَنْفُلْ معذوف تَنْتِجِ کا۔ (مظہری) کا اَنْتَ مِنْ الْعَابِرِیْنَ کی ترکیب آیت سابقہ میں ابھی گذری ہے۔

**اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۴:** اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مہموز اَنْفُلُوْنَ اسم قائل اَنْفُلْ مستتر قائل علی جہدہ اَهْلِ مضاف ہٰذِهِ الْقَرْيَةِ مرکب توسیعی مابدل منہ ہا اهل مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ مجرور، جہدہ ہا مجرور متعلق ہوئے رَجْزًا موصوف منہ السَّمَآءِ کا اِنَّا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مفعول بہ، بناء جہدہ مآ اسم موصول کا اَنْفُلُوْنَ اَنْفُلْ نا قس واو ضمیر اس کا اسم یفسقون اَنْفُلْ ہا واو ضمیر قائل خبر، فعل نا قس ہا اسم و خبر صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جہدہ ہا مجرور متعلق یعنی، اسم قائل ہا قائل ہا قائل و مفعول بہ و متعلقین شبہ جملہ ہو کر ان کی خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسید خبریہ ہو۔

**وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِّنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۵:** واو عاطفہ لآہر موطنہ لقسوم اور قسم معذوف ہے قَدْ حرف تحقیق تَرَكْنَا اَنْفُلْ نا ضمیر قائل مِّنْهَا جہدہ ہا مجرور متعلق ہوئے آيَةً موصوف بَيِّنَةً صفت اولیٰ لآہر جہدہ قَوْمٍ موصوف يَعْقِلُوْنَ اَنْفُلْ ہا واو ضمیر قائل صفت، موصوف ہا صفت مجرور، جہدہ ہا مجرور کا اَيَّةً کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف ہا صفتین مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جواب قسم، قسم ہا جواب قسم جملہ انطائیہ قسمیہ ہو۔

**وَ اِلٰی مَدِيْنٍ اٰخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اَرْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ لَا**

**تَعْتَوٰی اِلٰی الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۶:** واو عاطفہ اِلٰی جہدہ مَدِيْنٍ مجرور، جہدہ ہا مجرور بواسطہ عطف کے متعلق ہوئے فعل معذوف اَرْسَلْنَا كے، اٰخَاهُمْ مرکب اضافی مبدل منہ شُعَيْبًا مبدل، مبدل منہ ہا اهل مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ معطوف علیہ، فقاه عاطفہ قَالَ فعل ہا هُوَ مستتر قائل قول ہا يٰقَوْمِ یہ اصل میں یٰقَوْمِ ہے اور یہ ندا ہے اَعْبُدُوا اَنْفُلْ امر واو ضمیر قائل اللّٰه مفعول بہ سے مل کر جملہ انطائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَرْجُوا اَنْفُلْ واو ضمیر قائل الْيَوْمَ الْاٰخِرَ مرکب توسیعی مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا تَعْتَوٰی اَنْفُلْ واو ضمیر ذوالحال مُفْسِدِيْنَ حال، ذوالحال ہا حال قائل فی الْاَرْضِ جہدہ ہا مجرور متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق معطوف یعنی، معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ معطوف ہو۔

**فَكَذَّبُوْهُ فَآخَذَتْهُمْ الرّٰجِفَةُ فَاصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۷:** فَاَعْرَافًا عَلَّمُوا نَصِيْرًا قَالُوْا نَصِيْرًا مَّفْعُوْلٌ بِهٖ سَعَلٌ كَرْمَطُوْفٌ عَلَيْهِ، فَاَعْرَافًا عَلَّمَتْ نَصَلٌ هُمْ نَصِيْرٌ مَّفْعُوْلٌ بِهٖ اَلْوَجِيْهَةُ قَالٌ سَعَلٌ كَرْمَطُوْفٌ اَوَّلٌ، فَاَعْرَافًا اَصْبَحُوْا نَصَلٌ نَاقِصٌ وَاَوْ نَصِيْرًا سَاكِنٌ فِيْ دَارِهِمْ جَادٌ بِجُرُودٍ مَّتَّعِلٌ مَّقْدَمٌ جِيْهِيْنَ اِمٌّ نَاقِلٌ هُمْ مَسْتَرْتَابٌ وَّمُتَّعِلٌ مَّقْدَمٌ سَعَلٌ كَرْمَطُوْفٌ ثَمَلِيٌّ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفِيْنَ جَمَلٌ مَعْفُوْفٌ هُوَ۔

وَعَادًا وَاَوْ كَبُوْدًا وَاَوْ قَدَّ تَبِيْنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِيْنِهِمْ وَذَوِّ زَيْنٍ لَهُمْ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالُهُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَاَكٰنُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۸:** وَاَوٰسِيٰنِيَةً عَادًا وَاَوْ كَبُوْدًا مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفٍ مَّفْعُوْلٌ بِهٖ فِعْلٌ مَحْذُوْفٌ اَهْلَكْنَا كَا، فِعْلٌ بِاِقَاعٌ وَّمَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلٌ فَعَلِيٌّ خَبْرِيٌّ هُوَ اَوٰسِيٰنِيَةٌ قَدْ عَلِمَتْ نَصَلٌ تَبِيْنَ فِعْلٌ هُوَ مَسْتَرْتَابٌ بِسَوْءِ اِهْلَاكِ نَاقِلٌ لِّكَلْمٍ جَادٌ بِجُرُودٍ مَّتَّعِلٌ اَوَّلٌ مِّنْ مَّسَاكِيْنِهِمْ جَادٌ بِجُرُودٍ مَّتَّعِلٌ ثَمَلِيٌّ، فِعْلٌ بِاِقَاعٌ وَّمُتَّعِلِيْنَ جَمَلٌ فَعَلِيٌّ خَبْرِيٌّ مَعْرُضٌ هُوَ اَوٰسِيٰنِيَةٌ زَيْنٌ فِعْلٌ لَهُمْ جَادٌ بِجُرُودٍ مَّتَّعِلٌ هُوَ اَلشَّيْطٰنُ نَاقِلٌ اَعْمَالُهُمْ مَرْكَبٌ اَضَائِيٌّ مَّفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعٌ وَّمُتَّعِلٌ وَّمَفْعُوْلٌ بِهٖ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، فَاَعْرَافًا عَلَّمَتْ نَصَلٌ هُوَ مَسْتَرْتَابٌ نَاقِلٌ نَصِيْرٌ مَّفْعُوْلٌ بِهٖ عَنِ السَّبِيْلِ مَّتَّعِلٌ سَعَلٌ كَرْمَطُوْفٌ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفٍ جَمَلٌ مَسْتَرْتَابٌ هُوَ اَوْ اَحَالِيَةٌ كَانُوْا فِعْلٌ نَاقِصٌ وَاَوْ نَصِيْرًا سَاكِنٌ مَسْتَبْصِرِيْنَ خَبْرٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِهٖ مَوْجِبٌ جَمَلٌ فَعَلِيٌّ خَبْرِيٌّ حَالٌ هُوَ اَصْدَقُ كَرْمَطُوْفٌ بِهٖ سَعَلٌ۔

وَقَارُوْنَ وَاَوْ فِرْعَوْنَ وَاَوْ هَامَانَ وَاَوْ لَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوَسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاَسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ وَاَوْ مَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۹:** وَاَوٰعْرَافًا قَارُوْنَ وَاَوْ فِرْعَوْنَ وَاَوْ هَامَانَ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفِيْنَ مَّفْعُوْلٌ بِهٖ فِعْلٌ مَحْذُوْفٌ اَهْلَكْنَا كَا، فِعْلٌ بِاِقَاعٌ وَّمَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلٌ فَعَلِيٌّ خَبْرِيٌّ مَعْفُوْفٌ هُوَ اَوْ اَسْتَبْرَافِيَةٌ لَّا هَرْمُ لِقِسْمٍ اَوْ قِسْمٍ مَحْذُوْفٌ بِهٖ قَدْ عَلِمَتْ فِعْلٌ جَاءَهُمْ نَصِيْرٌ مَّفْعُوْلٌ بِهٖ مُّوَسٰى نَاقِلٌ بِاَلْبَيِّنٰتِ جَادٌ بِجُرُودٍ مَّتَّعِلٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعٌ وَّمَفْعُوْلٌ بِهٖ وَّمُتَّعِلٌ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، فَاَعْرَافًا عَلَّمَتْ نَصَلٌ وَاَوْ نَصِيْرًا قَالُوْا فِي الْاَرْضِ جَادٌ بِجُرُودٍ مَّتَّعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعٌ وَّمُتَّعِلٌ مَعْفُوْفٌ اَوَّلٌ، وَاَوٰعْرَافًا مَانِيَةٌ كَانُوْا فِعْلٌ نَاقِصٌ وَاَوْ نَصِيْرًا سَاكِنٌ مَسْتَبْصِرِيْنَ خَبْرٌ سَعَلٌ كَرْمَطُوْفٌ ثَمَلِيٌّ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفِيْنَ جَوَابٌ قِسْمٌ جَوَابٌ قِسْمٌ جَمَلٌ اِنشَائِيٌّ تَسْبِيْءٌ هُوَ۔

فَكَلَّا اَخَذْنَا بِذُنْبِهِۦ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حٰصِبًا ۙ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۙ وَ مِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهٖ الْاَرْضَ ۙ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۙ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَّلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۴۰:** فَاَعْرَافًا نَصِيْرٌ اَوَّلٌ اِسْمٌ كِي شَرْطٌ مَحْذُوْفٌ بِهٖ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَعْرِفَ مَا لَهُمْ، مَعْفُوْلٌ بِهٖ مَقْدَمٌ اَخَذْنَا فِعْلٌ نَاقِلٌ نَصِيْرٌ قَالٌ بِذُنْبِهِۦ مَّتَّعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعٌ وَّمَفْعُوْلٌ بِهٖ وَّمُتَّعِلٌ سَعَلٌ كَرْمَطُوْفٌ جَمَلٌ فَعَلِيٌّ خَبْرِيٌّ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، فَاَعْرَافًا عَلَّمَتْ نَصَلٌ مَسْتَرْتَابٌ اَوَّلٌ مِّنْ مَّتَّعِلِيْنَ هُوَ كَرْمَطُوْفٌ مَقْدَمٌ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ اَرْسَلْنَا فِعْلٌ نَاقِلٌ نَصِيْرٌ قَالٌ عَلَيْهِ مَّتَّعِلٌ حٰصِبًا مَعْفُوْلٌ بِهٖ سَعَلٌ كَرْمَطُوْفٌ جَمَلٌ فَعَلِيٌّ خَبْرِيٌّ سَلَمٌ، مَوْصُوْلٌ بِصَلَمٌ مَبْتَدَاٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَاٌ خَبْرٌ جَمَلٌ اِسْمِيٌّ خَبْرِيٌّ مَعْفُوْفٌ اَوَّلٌ، وَاَوٰعْرَافًا عَلَّمَتْ نَصَلٌ مَسْتَرْتَابٌ اَوَّلٌ مِّنْ مَّتَّعِلِيْنَ هُوَ كَرْمَطُوْفٌ مَقْدَمٌ اِسْمٌ

موصول اَتْخَذَتْ فعل نا ضمیر مفعول بہ الصَّيْحَةُ قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باسلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر مفعول ہئی، واو عاطفہ وَهِنَّہُمْ کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، من اسم موصول حَسَفْنَا فعل نا ضمیر قائل پہ متعلق بِالْأَرْضِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باسلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر مفعول ہائت، واو عاطفہ وَهِنَّہُمْ کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، من اسم موصول اَتَّوَقَفْنَا فعل نا ضمیر قائل سے مل کر صلہ موصول باسلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر مفعول رابع، مفعول علیہ با معطوفات اربعہ جزاء، شرط مخدوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو عاطفہ مَا نَانِیہ کائن فعل ناقص اللُّمَّاسُ کاس لاکر جمع یہ اس کے بعد ان مقدر ہے یظلمہ فعل ہو مستتر قائل ہُمہ ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر مجرور، جار مجرور مَرَّیْدَا کے متعلق خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ، واو عاطفہ لٰکِن حرف استراک مہملہ کائُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کاس یظلمون فعل بلاوا ضمیر قائل اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر مفعول، مفعول علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

**مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِذْ اتَّخَذَتْ بِئْتًا طَوَّانٍ  
أَوْ هُنَّ الْبُيُوتُ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝**

**آیت نمبر ۳۱:** مَثَلُ مضاف الذِّیْنَ نام موصول اِذْخَذُوا فعل واو ضمیر قائل مِنْ دُونِ اللّٰهِ کائِنَہُ کے متعلق ہو کر حال مقدم اَوْلِيَاءَ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باسلہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مبتدأ مکاف جادہ مَثَلِ مضاف الْعَنْكَبُوتِ ذوالحال اِتَّخَذَتْ فعل ہی متعلق مَثَلِ بئیتا ذوالحال واو الیہ اِن حرف تحقیق اَوْ هُنَّ الْبُيُوتِ مرکب اضافی اس کاس لاکر مذہ طہ بئیت الْعَنْكَبُوتِ مرکب اضافی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال اِتَّخَذَتْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں نہ شرطیہ کائُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کاس یظلمون فعل بلاوا ضمیر قائل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء مخدوف ہے لَمَّا عَبَدُوا وَهَّا شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ طَوْهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝**

**آیت نمبر ۳۲:** اِن حرف تحقیق اِنَّ اللّٰهَ اس کاس یظلمہ فعل ہو مستتر قائل مَا موصول يَدْعُونَ فعل واو ضمیر قائل مِنْ دُونِهِ کائِنَہُ کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِنْ جادہ لَدَيْهِ شَيْءٍ مَّا مفعول ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ موصول باسلہ یظلمہ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ اِن کی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ دو خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُوهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝**

**آیت نمبر ۳۳:** واو عاطفہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ موصوفہ ہفت یا سہل من باہل مبتدأ مفعول بہ فعل نَحْنُ مستتر قائل ہَا ضمیر مفعول بہ لِلنَّاسِ جار مجرور متعلق، چاروں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا نَانِیہ یعقل فعل نا ضمیر مفعول بہ، اِلَّا حرف استثناء الْعَالِمُونَ

مستثنیٰ مفرغ فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف بصلہ معطوفہ ہوں

خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۴:** خَلَقَ فعل اللہ ذوالحال بالحق طرف مستقر متکسبا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ بمعطوف مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہولان حرف تحقیق فی ذلک کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم لامر مذہلۃ آیتہ موصوفہ لِمُؤْمِنِينَ کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ بصفت اسم مؤخر بان باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۵ ﴾

أَتَىٰ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ

الْمُنْكَرِ ۗ وَكَذٰلِكَ يُرِيهِ اللهُ أَكْبَرُ ۗ وَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾

**آیت نمبر ۳۵:** أَتَىٰ فعل امر آتت مستتر فاعل ما اسم موصول اُوْحِيَ فعل مجهول هو مستتر نائب فاعل إِلَيْكَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول بصلہ ذوالحال مِنَ الْكِتَابِ طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَقِمِ فعل امر آتت مستقر فاعل الصَّلَاةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوفہ، معطوف علیہ بمعطوف جملہ مستتر ہولان حرف تحقیق الصَّلَاةَ اس کلام تکھی فعل ہی مستقر فاعل عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ معطوف علیہ بمعطوف مجرور، جملہ باجبر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق ان خبریہ بان باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں واو عاطفہ لامر ابتدائیہ ذِکْرُ اللّٰهِ مرکب اضافی مبتدأ اس کے تفضیل هو مستقر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَللّٰهُ مبتدأ، يَعْلَمُ فعل هو مستقر فاعل ما اسم موصول تَصْنَعُونَ فعل باواسم ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول بصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ خبر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ تظہیر معطوفہ ہوں

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قَوْلُوا

أَمَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا ۗ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ۗ وَالِهٰنَا ۗ وَالِهٰكُمْ ۗ وَاحِدٌ ۗ وَ نَحْنُ لَهُ

مُسْلِمُونَ ﴿۳۶﴾

**آیت نمبر ۳۶:** اَوَاوِستیانہ لَاتُجَادِلُوا فعل نمی واو ضمیر فاعل اَهْلَ الْكِتَابِ مرکب اضافی مفعول بہ بِالَّذِي حرف استثناء بتاء جملہ البقیہ اسم موصول ہی ضمیر مبتدأ احسن اسم تفضیل ہی مستقر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ موصول بصلہ مستثنیٰ منہ ذوالحال الَّذِينَ اسم موصول کلکوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ موصول بصلہ ذوالحال مِنْهُمْ کائنۃ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ باجبر و مستثنیٰ مجرور، جملہ باجبر و مستثنیٰ مفرغ لَاتُجَادِلُوا کے متعلق ہوئے، فعل نمی بافاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ ہوں واو عاطفہ قَوْلُوا فعل امر داو ضمیر فاعل سے مل کر قول، امّا فعل تاضمیر فاعل بتاء جملہ الذی باسم

موصول أنزل فعل مجہول ہو متستر نائب فاعل الذین متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أنزل فعل مجہول ہو متستر نائب فاعل الذین متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے امتاک، فعل ہا فاعل متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ الھنثار کرب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ الھنثار کرب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ، واجد خبر، مبتدأ، با خبر معطوف ازل، واو عاطفہ نحن ضمیر مبتدأ، المؤمنون اسم فاعل نحن متستر فاعل لہ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ اضافیہ ہوں۔  
 وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۗ وَالَّذِينَ أُنْتِهِمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هُوَ لَأَعْرَفُونَ

آیت نمبر ۳۷: ۱. واو استثنائیہ گڈ ایٹک جار مجرور، کاؤتاکا کے متعلق ہو کر واسطہ انزا الا موصوف مذروف کے مفعول مطلق

مقدم أنزلنا فعل ناقص فاعل الیك جار مجرور متعلق ہوئے الکتب مفعول بہ، فعل ہا فاعل متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔  
 فاء عاطفہ الذین اسم موصول انیننا فعل ناقص فاعل ہم ضمیر مفعول بہ ازل الکتب مفعول بہ ثانی سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، یؤمنون فعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق سے مل کر جملہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو عاطفہ من ہو لاء طرف متستقر کاؤتاکا کے متعلق ہو کر خبر مقدم من اسم موصول یؤمنون فعل ہو متستر فاعل بہ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال واو حالہ مانائیہ یجحد فعل یا یا ابتداء جار مجرور متعلق ہوئے، الا حرف استثناء، الکافرون مستثنیٰ مفرغ فاعل، فعل ہا فاعل متعلق حال، ذوالحال باحال مبتدأ، اوخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَزْتَابِ الْمُبْطُلُونَ ۝

آیت نمبر ۳۸: ۱. واو عاطفہ ما تاہ کہنت فعل ناقص تاہ مفتوحہ ضمیر اس کا اسم تثلون فعل اکت متستر فاعل من قبیلہ طرف متستقر کاؤتاکا کے متعلق ہو کر حال مقدم من جارہ زلذہ کتاب ملامت منصب ذوالحال موخر ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا تخط لا تخط فعل اکت متستر فاعل ناقص مفعول بہ تاہ جارہ یبینک مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و مفعول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف کہنت کی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔ اذ اشرطیہ مہمل لاء جوابیہ اذ کتاب فعل المبطلون فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝

آیت نمبر ۳۹: ۱. بکن برائے اضراب ہو ضمیر مبتدأ، آیات موصوف بیتیات صفت اولیٰ فی حرف جرح صدور مضاف الذین اسم موصول اوتوا فعل مجہول واو ضمیر ذوالحال واو حالہ ما تاہ مانیہ یجحد فعل یا یا ابتداء متعلق ہوئے الا حرف استثناء، الظالمون فاعل، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال نائب فاعل العلمہ مفعول بہ، فعل ہا نائب فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ صدور کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور کاؤتاکا کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ

مُبِيْنٌ ﴿۵۰﴾

آیت نمبر ۵۰: واوستانیہ قائلوں کا اٹھنا اور ضمیر قائل قول، لولا حرف تفضیل اُنزِلَ فعل مجہول عَلَیْهِ جہد باجبر و متعلق ہوئے آیات موصوفہ مِن رَّبِّہ طرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت نائب فاعل، فعل مجہول ہائے فاعل، متعلق مقول، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل سے مل کر قول اَنْتَ حرف تحقیق مآ کا ذہ آیات مبتدأ عند اللہ کا کثرت کا مفعول فی ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق مآ کا ذہ ضمیر مبتدأ، اُنزِلَ مَبْنِيْنٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

اَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: کہہ دیا کہ تم پر ایمان لانا اور معطوف علیہ مخدوف ہے تقدیر عبارت ہے اَقْتَصَرْتُمْ مَّحَمَّدًا لَمْ يَكْفِ لَمْ يَكْفِ لَمْ يَكْفِ فعل مجہول ضمیر مفعول ہے اَنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَیْكَ جہد باجبر و متعلق ہوئے الْكِتٰبُ ذوالحال یعنی فعل مجہول ہو مستقر نائب فاعل عَلَیْهِمْ جہد باجبر و متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے فاعل، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال ہمال اَنْزَلْنَا کا مفعول ہے، فعل ہائے فاعل و متعلق و مفعول ہے اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد لَمْ یُكْفِ کا فاعل، فعل ہائے فاعل و مفعول ہے لَقَدْ جملہ انشائیہ اور معنی جملہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متناہہ ہولیا حرف تحقیق فی ذلک طرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لَمْ يَكْفِ مَعَطُوفٌ عَلَیْہِ، واو عاطفہ ذِکْرًا موصوف کلام چارہ قویہ موصوف یُؤْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف ہفت مجرور، جہد باجبر و کثرت کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ بمعطوف اسم مؤخر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿۵۲﴾ رکوع نمبر ۶ ﴿۵۲﴾

قُلْ كَفٰی بِاللّٰهِ بَیِّنٰتٍ وَّ بَیِّنٰتُكُمْ شَہِیْدًا یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل سے مل کر قول، کفی فعل بآء جارہ زائدہ اَللّٰہُ ماعرف فاعل یُنْفِیْ مرکب انسانی معطوف علیہ، واو عاطفہ یُنْفِیْکُمْ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مفعول فیہ مقدم شَہِیْدًا صیغہ صفت باهو مستقر فاعل و مفعول فیہ موصوف (ظہری) یَعْلَمُ فعل ہو مستقر فاعل مَا اسم موصول فی جارہ اَلسَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ معطوف علیہ بمعطوف مجرور، جہد باجبر و طرف مستقر فعل مخدوف بَیِّنٰتِ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاصلہ یَعْلَمُ کا مفعول ہے، فعل ہائے فاعل و مفعول ہے صفت، موصوف ہفت کفی کی تیسرے، فعل ہائے فاعل و تیسرے جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ واو عاطفہ یا۔



استیانیہ الذین اسم موصول آمنوا فعل بالباطل متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کفر و النصل واو ضمیر فاعل باللہ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باسملہ مبتدأ اول، واو نکتہ مبتدائی، ہذا ضمیر فصل الخاصیون خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ معطوف باجملہ متانفہ ہوں

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَ لَوْ لَا أَجَلَ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَئِيَّا تَيْنَهُمْ  
بَغْتَةٌ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: ۱۵۱ استیانیہ یسْتَعْجِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ بِالْعَذَابِ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں، واو عاطفہ لَوْ لَا اتعاضہ عَجَلٌ مُسَمًّى مرکب توصیفی مبتدأ اور اس کی خبر مخدوف ہے هُوَ جُودٌ، مبتدأ خبر شرط لاکر جوابیہ جَاءَ فعل ہُم ضمیر مفعول بہ الْعَذَابِ فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوں، واو عاطفہ لاکر موصولہ لغزم اور قسم مخدوف ہے یَا تَيْنَ فعل ہُوَ مستزاد الحال بَغْتَةٌ حال، ذوالحال باحال فاعل ہُم ضمیر ذوالحال واو حالیہ ہُم ضمیر مبتدأ، لَا يَشْعُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے ل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿۵۴﴾ يَوْمَ يَخْشَهُمُ  
الْعَذَابُ مِنْ قُوَّتِهِمْ ۗ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ دُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۴، ۵۵: ۱۵۱ استیانیہ یسْتَعْجِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ، یاء حرف جر الْعَذَابِ خبرور، جار باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، واو استیانیہ اِنَّ حرف تحقیق جَهَنَّمَ اس کلام لاکر مدح لفظہ مُحِيْطَةٌ اسم فاعل ہی مستتر فاعل بِالْكَافِرِيْنَ جار باجر و متعلق ہوئے، یَوْمَ مضاف يَخْشَى فعل ہُم ضمیر مفعول بہ الْعَذَابِ ذوالحال مِنْ قُوَّتِهِمْ جار باجر و معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ جار باجر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف کانتھا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَقُوْلُ فعل ہُوَ مستزاد فاعل سے ل کر قول، دُوْقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل مَا اسم موصول کُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کلام تَعْمَلُونَ فعل ہاواو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باسملہ دُوْقُوا فاعل موصول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول باقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَوْمَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، اسم فاعل بافاعل و متعلق ومفعول فیہ جملہ ہو کر خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: یاء حرف نداء قائم مقام اَدْعُوْكَ کے اَدْعُوْ فعل انا ضمیر مستزاد فاعل عِبَادِيَ مرکب اضافی موصوف الذین اسم موصول آمنوا فعل ہاواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باسملہ صفت، موصوف بہفت مفعول بہ، ہوا اَدْعُوْ کا، اَدْعُوْ فعل بافاعل ومفعول بہ

جملہ فعلیہ انشائیہ، ملامہ بان حرف تحقیق از فعی مرکب اضافی منصوب تقدیر ان کا اسم، وایعنتہ خبر بیان با اسم و خبر ہم، اسمیہ خبریہ، مرکب جواب ملامہ، ملامہ باجراب ملامہ جملہ انشائیہ عنانیہ ہوں فایاتی اس کی اصل عبارت ہے فاعلہ وایاتی، فاعلہ اسمیہ اور اس کی شرط حذف ہے ان صافقت علیکم، اذکم، اعبدوا فعل امر واد ضمیر فاعل ایاتی مفعول بہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ مفسر، فاعلہ واد فاعلہ واد مفعول بہ، فعل امر واد ضمیر فاعل نون و قایہ کا، یاہ ضمیر محذوف مفعول بہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ مفسر، مفسر ہفتہ جملہ انشائیہ اسمیہ خبریہ، شرط محذوف باجراب جملہ شرطیہ ہوں

كُلُّ نَفْسٍ ذَا آيَةٍ الْمَوْتِ قَدْ تَمَّ إِلَيْنَا نُزْجَعُونَ ﴿٥٤﴾

**آیت نمبر ۵۴:** کُلُّ نَفْسٍ ذَا آيَةٍ الْمَوْتِ قَدْ تَمَّ إِلَيْنَا نُزْجَعُونَ۔ اضافی مبتدأ، ذَا آيَةٍ الْمَوْتِ مرکب اضافی مبتدأ با خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔ مطلقہ نُزْجَعُونَ فعل مجہول واد ضمیر نائب فاعل إِلَيْنَا متعلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٦﴾

**آیت نمبر ۵۵، ۵۶، ۵۷:** وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٦﴾۔ اسم موصول الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ موصول بافعال، واد ضمیر فاعل معطوف علیہ، واد مطلقہ عَلِمُوا فعل واد ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف غنیہ با لطف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، لآخر موطن القسم اور قسم محذوف ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فعل تَخُنْ مستتر فاعلہ ضمیر ذوالحال خَالِدِينَ اسم فاعل تَخُنْ مستتر فاعل فیہا متعلق سے ل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، و من الْجَنَّةِ ظرف مستقر کا، تَجْرِي مطلق ہو کر حال مقدم غرضاً موصوف تَجْرِي فعل من تَحْتِهَا جار باجر و متعلق ہوں آلتہا فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفتہ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال تَجْرِي مفعول بہ، مانی، فعل بافاعل و مفعولین جواب قسم، قسم باجراب قسم خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں نِعْمَ فعل مدح أَجْرُ مضاف الْعَمِلِينَ موصول الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ موصول علیہ، واد مطلقہ عَلِمُوا فعل واد ضمیر فاعل تَوَكَّلُونَ فعل بافعال و مفعول بہ، متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با موصول صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہفتہ أَجْرُ مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ نِعْمَ کا فاعل، فعل بافاعل خبر، مخصوص بالمدح مبتدأ محذوف ہے أَجْرُكُمْ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں

وَكَانَ مِنْ ذَا آيَةٍ لَا تَحْوِيلَ رُدُّهَا وَاللَّهُ يَزُوقُهَا وَإِيَّاكُمْ مِلَّةً وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٧﴾

**آیت نمبر ۵۷:** وَكَانَ مِنْ ذَا آيَةٍ لَا تَحْوِيلَ رُدُّهَا وَاللَّهُ يَزُوقُهَا وَإِيَّاكُمْ مِلَّةً وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٧﴾۔ اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفتہ مجرور، جار باجر و تیز مبتدأ ازل، اللہ مبتدأ ثانی، يَزُوقُ فعل مفعول بہ، واد ضمیر فاعل ہا ضمیر معطوف علیہ، واد مطلقہ وَإِيَّاكُمْ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ ازل کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واد استثنائیہ ہو ضمیر مبتدأ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دو خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ  
**فَاَنۢىۤ يُوْفٰوْنَ ۝۱۰**

**آیت نمبر ۱۰:** واؤا عطف لآہر موطن القم اور قسم محذوف ہے ان شرطیہ سآلت فعل تآء مفتوح ضمیر فاعل هُم ضمیر مفعول بہ اول من استفہامیہ مبتدآء خَلَقَ فعل هُوَ مستتر قائل السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤا عطف سَخَّرَ فعل هُوَ مستتر قائل الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدآء خبر جملہ انشائیہ مآ منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ لآہر جوابیہ یَقُوْلُنَّ فعل واؤ ضمیر فاعل سے ل کر قول اللّٰهُ فاعل ہے، فعل محذوف خَلَقَ، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جواب قسم ہے اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا فآء فیسمہ شرط محذوف ہے اذآ کَانَ الَاْمُرُ كَذٰلِكَ، بیان صَوَّرَ فَهَمْ الهُوَ اَنۢى استفہامیہ مفعول فی مقدم یُوْفٰوْنَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب قائل و مفعول بہ مقدم سے ل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنۢ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۱

**آیت نمبر ۱۱:** اللّٰهُ مبتدآء، يَبْسُطُ فعل هُوَ مستتر قائل الرِّزْقَ مفعول بہ، لآہر جادہ من موصوایہ يَشَآءُ فعل با هُوَ مستتر قائل صلہ، موصول ہاصلہ ذوالحال من عِبَادِهٖ کآئنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جادہ با مجرور يَبْسُطُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤا عطف يَقْدِرُ فعل هُوَ مستتر قائل لہٗ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدآء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اِن حرف تحقیق اللّٰهُ کاسم پہا جادہ کَلِّ شَيْءٍ مرکب انشائی مجرور، جادہ با مجرور متعلق مقدم عَلِيْمٌ صیغہ صفت هُوَ مستتر قائل و متعلق مقدم خبر، اِن باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَزَوَّلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ مَآءٌ فَاَحْيَاۤ بِهٖ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا  
**لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلۡ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝۱۲**

**آیت نمبر ۱۲:** واؤا عطف لآہر موطن القم اور قسم محذوف ہے ان شرطیہ سآلت فعل تآء مفتوح ضمیر فاعل هُم ضمیر مفعول بہ اول من استفہامیہ مبتدآء، تَزَوَّلَ فعل هُوَ مستتر قائل مِنَ السَّمٰوٰتِ کآئنا کے متعلق ہو کر حال مقدم مَآءٌ ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال تَزَوَّلَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، فآء عطف اَحْيَاۤ فعل هُوَ مستتر قائل پہا جادہ با مجرور متعلق اول الْاَرْضَ مفعول بہ من بَعْدِ مَوْتِهَا جادہ با مجرور متعلق ہیں، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدآء خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ لآہر جوابیہ یَقُوْلُنَّ اللّٰهُ کی ترکیب ابھی گزری ہے، پھر یہ قول با مقولہ جواب قسم ہے اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا، قُل فعل امر با کت مستتر قائل قول، الْحَمْدُ مبتدآء، اللّٰهُ ظرف مستقر کآئنا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدآء خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا، بَلۡ براے اضرب

اَلَّذِي هُمْ مَرْكَبُ اسْمِ اِسْتِهْلَاكِ الْفِعْلِ بِاَوَّلِ ضَمِيرِ فَاعِلِ خَبْرٍ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَفْهِمَةٌ هُوَل

﴿ رُكُوْعِ نَهْرِيَّةٍ ﴾

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ ۗ لَوْ كَانُوْا

يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٣﴾

**آیت نمبر ۶۳:** وَاُوْاسْتِيْنَانِيَّةٌ مَا نَافِيَةٌ هَذِيْهِ اِسْمٌ اِشْرَافٌ مَوْصُوفِ الْاَلْحِيْوَةِ الدُّنْيَا مَرْكَبُ تَوْصِيْفِيٍّ مَفْعُوْلٍ، مَوْصُوفٍ بِمَفْعُوْتٍ مَبْتَدَاً اَلْاَحْرَفُ اسْتِهْلَاكِ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ خَبْرٍ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل وَاُوْاسْتِيْنَانِيَّةٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقِيٌّ اَلدَّارُ الْاٰخِرَةَ مَرْكَبُ تَوْصِيْفِيٍّ اِسْمٌ كَامِلٌ اَمْرٌ مَفْعُوْلٌ هُوَل مَبْتَدَاً اَلْحَيٰوةُ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل اِنْ كُنْ خَبْرًا اِنَّ بِاِسْمٍ وَخَبْرًا جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل لَوْ شَرْطِيَّةٌ كَانَتْ اَوْ اَنْصَافٌ وَاَوْضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَامِلٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ خَبْرٍ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل شَرْطِيَّةٌ اِنْ كُنْ جَزَاءٌ مَعْدُوفٌ بِهٖ كَمَا اُتَتْ وَاَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا، شَرْطٌ بِاجْزَاءِ جَمَلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَل

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ فَلَمَّا نَجَّيْتُمْهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ

يُشْكِرُوْنَ ﴿٦٤﴾

**آیت نمبر ۶۴:** فَاِذَا اسْتِيْنَانِيَّةٌ اِذَا شَرْطِيَّةٌ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ رُكْبُوْا فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ فِي الْفُلِكِ مَحْتَلِقٌ سَعَلٌ مَرْكَبَةٌ لَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل شَرْطٌ، دَعَوُا فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ زَوَالٌ مُخْلِصِيْنَ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُمْ مُسْتَرَفَعٌ فَاِلَى اَللّٰهِ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ مَحْتَلِقٌ اَلدِّيْنَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ سَعَلٌ مَرْكَبَةٌ هُوَل مَرْكَبٌ اِجْمَالِيٌّ اِجْمَالٌ فَاعِلٌ اَللّٰهُ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمَلَةٌ لَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاجْزَاءِ جَمَلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَل فَاِذَا عَاطِفَةٌ لَمَّا جَاءَتْهُمُ شَرْطِيَّةٌ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ اَنْتَهَى فِعْلٌ هُوَل مُسْتَرَفَعٌ فَاِلَى اَلْبَرِّ مَحْتَلِقٌ سَعَلٌ مَرْكَبَةٌ لَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ اِذَا اِنْفَاجَاتِيَّةٌ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ هُمْ ضَمِيْرٌ مَبْتَدَاً بِشَرْطِيَّةٌ رُكْبُوْنَ فِعْلٌ بِاَوَّلِ ضَمِيْرِ فَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَل

يَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنَهُمْ ۗ وَ لِيَلْتَمَتَّعُوْا فَاَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٥﴾

**آیت نمبر ۶۵:** لَامٌ ﴿ ۶۵ ﴾ كَيْ جَارَةٌ وَيَكْفُرُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ بِمَا جَارَةٌ مَعَا سَمٌ مَوْصُولٌ اَيْتَيْنَا فِعْلٌ تَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ هُمْ ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ سَعَلٌ مَرْكَبَةٌ مَوْصُولٌ، مَوْصُولٌ بِسَلْمَةٍ جَرُورٌ، جَدِ بِاَجْرٍ وَيَكْفُرُوْنَ اَكْسَمَةٌ مَحْتَلِقٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَحْتَلِقٌ جَمَلَةٌ لَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَبَاوُلٍ مَصْدَرٌ جَرُورٌ، جَدِ بِاَجْرٍ وَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوْاسْتِيْنَانِيَّةٌ لَامٌ ﴿ ۶۵ ﴾ كَيْ جَارَةٌ وَيَكْفُرُوْنَ فِعْلٌ بِاَوَّلِ ضَمِيْرِ فَاعِلٍ بِتَبَاوُلٍ مَصْدَرٌ جَرُورٌ، جَدِ بِاَجْرٍ وَ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ ظَرْفٍ اَلْوَيْشُرُ كُوْنٌ كَيْ مَحْتَلِقٌ هُوَل فَاِذَا اسْتِيْنَانِيَّةٌ سَوِيْفٌ عِلَامَةٌ فِعْلٌ، يَعْلَمُوْنَ فِعْلٌ بِاَوَّلِ ضَمِيْرِ فَاعِلٍ جَمَلَةٌ لَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل

اَوْ لَمْ يَرْوُا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمِيْنًا وَ يَحْظَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۗ اَقْبَابًا يُبَاطِلُ

يُوْمِنُوْنَ وَبِعِنْبَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٦﴾

**آیت نمبر ۶۶:** هَمْزٌ فَاسْتِهْمَايَةٌ وَاُوْاسْتِيْنَانِيَّةٌ اَوْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَعْدُوفٌ بِهٖ لَمْ يَنْظُرُوْا اَلَمْ يَرَوْا بِمَعْنَى لَمْ يَعْلَمُوْا فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيْقِيٌّ تَا ضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَامِلٌ سَمٌّ جَعَلْنَا فِعْلٌ تَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ مَعْنَاةٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ اَوَّلٌ مَعْدُوفٌ بِهٖ، حَرَمًا اَمِيْنًا مَرْكَبُ تَوْصِيْفِيٍّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ

جانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتداول مفرد لَمْ یَزِدَا کے دو مضمونوں کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَمْ یَزِدَا جملہ مستانہ انشائیہ اور معنی جملہ خبریہ ہو۔ واو عالیہ یَتَمَتَّعُ لعل مجہول اَللّٰهُمَّ زوالحال و من حَوْلِهِمْ کائنات کے متعلق ہو کر حال و زوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول اِنَابَ قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لَمْ یَزِدَا کے فاعل سے حال ہے۔ هَمْزُہ استہمائیہ فاء عاطفہ بِالْبَاطِلِ جلد با مجرور یُؤْمِنُونَ کے متعلق مقدم یُؤْمِنُونَ فعل باو ضمیر فاعل و متعلق مقدم معطوف علیہ، واو عاطفہ بَاء جلد و یَعْمَتُ اللّٰهُ مرکب اضافی مجرور، جہ با مجرور متعلق مقدم یُؤْمِنُونَ فعل باو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے ل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ ہو۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۳۱۱﴾

**آیت نمبر ۲۸:** واو استہمائیہ مِمَّنِ استہمائیہ مبتدا، اَظْلَمُ اسم تفضیلی ہُو مستتر فاعل من جلد جہ با مجرور متعلق ہوئے کَذِبًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کَذَّبَ فعل ہُو مستتر فاعل بِالْحَقِّ متعلق لَمَّا ظرفیہ مضاف جَاءَ فعل ہُو مستتر فاعل ا ضمیر مفعول بہ سے ل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہ با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیلی بافاعل و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ استہمائیہ ہُو۔ هَمْزُہ استہمائیہ لَيْسَ فعل ناقص فی جَهَنَّمَ جلد با مجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَثْوًى موصوفہ لِّلْكَافِرِينَ طرف مستقر کافِرِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ استہمائیہ ہو۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۱۲﴾

**آیت نمبر ۲۹:** واو استہمائیہ الَّذِينَ جَاهَدُوا فعل موصول جَاهَدُوا فعل ناقص واو ضمیر فاعل فِينَا متعلق سے ل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا، لآمر موطئ للشم اور قسم محذوف ہے تَهْدِيَنَّهُمْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلُ سُبُلِنَا مرکب اضافی مفعول بہ جانی، فعل بافاعل و مفعولین جواب قسم، قسم محذوف با جواب قسم خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہو۔ واو عاطفہ اَنْ حَرْف تَحْقِيقِ اَللّٰهُ اس کا اسم لآمر مذ حلقہ مَعَ الْمُحْسِنِينَ مرکب اضافی کافِرِينَ کا مفعول فیہ ہو کر خبر اَنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

## ترکیب سُورَةُ الرَّؤْمِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلَمْ غَلَبَتْ الرَّؤْمُ ۙ فِیْ اَٰذُنِیْ الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱، ۲، ۳:** اَلَمْ غَلَبَتْ الرَّؤْمُ ۙ فِیْ اَٰذُنِیْ الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝  
 قائل فی حرف جا اذنی الارض مرکب اضافی مجرد، جدا بجزر و متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائے فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہُم ضمیر مبتدا، من جارہ بَعْدِ غَلَبِهِمْ مرکب اضافی مجرد، جدا بجزر و متعلق مقدم سین میں علامت فعل یَغْلِبُوْنَ فعل واو ضمیر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا بجزر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ ابتدائی ہوں۔

فِیْ بَضْعِ سِنِیْنِ ۙ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ ۙ وَمِنْ بَعْدُ ۙ وَ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۙ یَنْصُرُوْنَ مَنْ یَّشَآءُ ۙ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

**آیت نمبر ۵، ۶، ۷:** فِیْ بَضْعِ سِنِیْنِ ۙ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ ۙ وَمِنْ بَعْدُ ۙ وَ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۙ یَنْصُرُوْنَ مَنْ یَّشَآءُ ۙ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝  
 کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْاَمْرُ مبتدا، مِنْ غرض، مِنْ قَبْلُ جدا بجزر و معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْ بَعْدُ جدا بجزر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف نفوس کا لائن کے متعلق ہے جو خبر ہے، مبتدا بجزر جملہ اسبیہ خبریہ معترضہ ہوں، واو عاطفہ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم یَفْرَحُ فعل الْمُؤْمِنُوْنَ قائل ہاء حرف جار نَصْرُ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرد، جدا بجزر و متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں، یَنْصُرُوْنَ فعل ہُوَ مستتر قائل مِنْ اِسْمِ موصول یَشَآءُ فعل ہا ہُوَ مستتر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متناہ، ہوں، واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا، الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ اس کی دو خبر، مبتدا بجزر، جملہ اسبیہ خبریہ ہوں۔

وَعَدَ اللّٰهُ ۙ لَا یُخْلِِفُ اللّٰهُ وَعْدًا ۙ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۸:** وَعَدَ اللّٰهُ ۙ لَا یُخْلِِفُ اللّٰهُ وَعْدًا ۙ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝  
 فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لٰكِنَّ حرف استدراک اَكْثَرَ النَّاسِ مرکب اضافی اس کا اسم لایَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر خبر، لٰكِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسبیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے وَعَدَ اللّٰهُ سے، ذوالحال ہا حال فعل محذوف وَعَدَ کا مفعول مطلق ہے۔

یَعْلَمُوْنَ ۙ كَاٰهَرًا ۙ مِنَ الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا ۙ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۹:** یَعْلَمُوْنَ ۙ كَاٰهَرًا ۙ مِنَ الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا ۙ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝  
 کے متعلق ہو کر کاہرہ کی صفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہُمْ

ضمیر مؤکد اور ھم ضمیر ثانی تاکید، مؤکد بتاکید مبتدا، عن الأخریۃ جہد باجرور متعلق مقدم عَاقِفُونَ اسم فاعل ھم متستر قائل و متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہوں۔

أَوْ لَمْ يَتَّفَكُرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۸: ھمزہ استہمامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے تقدیر عبارت ہے اَقْصَرُوا نَظَرَھُمْ عَلٰی کُلِّھِمْ مِّنَ الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا لَمْ یَتَّفَكُرُوا فِعْل وَاو ضمیر فاعل فی اَنْفُسِھُمْ متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ متصفح ہوں مآ نایہ خَلَقَ فِعْل اللّٰہُ فاعل اَلسَّمَوَاتِ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلْاَرْضِ معطوف اول، واو عاطفہ مآ اسم موصول بَیْنَهُمَا مرکب انشائی فعل مخدوف کَبِیت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ذوالحال اَلْاَحْرَافِ استہمامیہ جہد باخبر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَجَلٍ مُّسَمًّى مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہد باجرور ظرف مستقر مَقْرُونَةٌ کے متعلق ہو کر حال (مظہری) ذوالحال باحال مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متصفح ہوں واو استہمامیہ ان حرف تحقیق کَثِیْرًا موصوف من النَّاسِ ظرف مستقر کَاثِرًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت اِنَّ کَام تاء جہد بِلِقَائِ رَبِّھُمْ مرکب انشائی مجرور، جہد باجرور متعلق مقدم، لآء مرفوعہ کَاْفِرُوْنَ اسم فاعل ھم متستر قائل و متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثانیہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متصفح ہوں۔

أَوْ لَمْ یَسِیْرُوا فِی الْاَرْضِ فِیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الدِّیْنِ مِنْ قَبْلِھُمْ ؕ کَانُوا اَشَدَّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَّاَثَارًا فِی الْاَرْضِ وَعَمَرُوْهَا کَثِیْرًا مَّمَّاعَمَرُوْهَا وَجَاءَتْھُمْ رُسُلُھُمْ بِالْبَیِّنٰتِ ؕ فَمَا کَانَ اللّٰہُ لَیْظَلِھُمْ وَّلٰکِنْ کَانُوا اَنْفُسِھُمْ یَظْلِمُوْنَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۹: ھمزہ استہمامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے تقدیر عبارت ہے اَلَمْ یَخْرُجْ اٰھْلُ مِکَّةَ مِنْ دِیَارِھُمْ (مظہری) لَمْ یَسِیْرُوا فِعْل وَاو ضمیر فاعل فی الْاَرْضِ متعلق سے ل کر معطوف علیہ، قاء عاطفہ فِیَنْظُرُوا فِعْل وَاو ضمیر قائل کَیْفَ کَاثِرًا کا مفعول فیہ ہو کر مکان کی خبر مقدم مکان فعل ناقص عَاقِبَةُ الدِّیْنِ مضاف اِلَیْہِ اسم موصول مِنْ قَبْلِھُمْ ظرف مستقر فعل مخدوف کَثِیْرًا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استہمامیہ ہو کر فِیَنْظُرُوا کا مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ معطوف ہوں کَاثِرًا فِعْل ناقص وَاو ضمیر اس کا اسم اَشَدَّ اسم تفضیل ھم متستر قائل مِنْھُمْ متعلق قُوَّةً تیز سے ل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَثَارًا فِعْل وَاو ضمیر فاعل اَلْاَرْضِ مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ عَمَرُوْا فِعْل وَاو ضمیر فاعل ھَا ضمیر مفعول ہے، اَسَدًا اسم تفضیل ھم متستر قائل مِنْ جہد مآ اسم موصول عَمَرُوْا فِعْل وَاو ضمیر فاعل ھَا ضمیر مفعول ہے سے ل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہد باجرور اَسَدًا کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق بواصلہ موصوف مخدوف عَمَرُوْا کے مفعول مطلق،

عَمَرُوا كَا، فعل بافاعل ومفعولين جملہ فعلیہ خبریہ معطوف جملی، معطوف علیہ با معطوفین پھر معطوف علیہ، واو عاطفہ جَاءَتْ فعل  
ہم ضمیر مفعول بہ، و مضمحلہ مرکب اضافی فاعل بِالْأَيِّتَاتِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ  
متناسفہ بیئنے ہوں

فَاعِظَةٌ اور معطوف علیہ معذوف ہے كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَاهْلَكْتَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، صَاحِبَانِيہ كَانَ فعل ناقص اَللَّهُ اس کا اسم  
لاہر جمع یہ اور اس کے بعد اَن تقدیر ہے يَطْلُبُ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر  
مجرور، جادہ با مجرور مَرِيْدًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ لِيَكُنْ حرف استدراك مہمل كَانُوا فعل ناقص  
واو ضمیر اس کا اسم اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم يَطْلُبُونَ فعل واو ضمیر فاعل ومفعول بہ مقدم سے مل کر فعل ناقص کی خبر،  
فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متناسفہ ہوں

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوْاى اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَ كَانُوا بِهَا

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١﴾

آیت نمبر ۱: ثُمَّ عَاطِفَةٌ كَانَ فعل ناقص عَاقِبَةُ مضاف اَلَّذِينَ اس موصول اسَاوُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول  
باسلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر مقدم، السُّوْاى اس موصول بان سبب كَذَّبُوا فعل واو ضمیر فاعل بِآيَاتِ اللّٰهِ متعلق سے  
مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اس اسمیہا جادہ با مجرور متعلق مقدم يَسْتَهْزِءُونَ فعل  
واو ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر  
السُّوْاى سے بدل ہے، فعل ناقص با اسم و خبر مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں

﴿ ۲ ﴾ رُكُوْعُ خَمْرٍ ۲ ﴿ ۱ ﴾

اللّٰهُ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢﴾

آیت نمبر ۲: اللّٰهُ مبتدأ، يَبْدُوْا فعل ہو مستتر فاعل الْخَلْقَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفَةٌ  
فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، ثُمَّ عَاطِفَةٌ تُرْجَعُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اِلَيْهِ  
متعلق مقدم سے مل کر معطوف جملی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ اسمیہ خبریہ متناسفہ ہوں

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٣﴾

آیت نمبر ۳: واو عاطفہ وَيَوْمَ مضاف تَقُومُ فعل السَّاعَةَ فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ مقدم،  
يُبْلِسُ فعل الْمُجْرِمُوْنَ فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُا وَ كَانُوا بِشِرْكَائِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿٤﴾

آیت نمبر ۴: واو عاطفہ لَمْ يَكُنْ فعل ناقص لَهُمْ كَافِرِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِنْ شُرَكَائِهِمْ جادہ با مجرور ظرف



مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر حال مقدم مشقاً دعا والی اور مؤخر ذوالحال با حال اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کا نوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم بشرکاً و ہمزہ جہ باجرور متعلق مقدم کا قیودون اسم فاعل ہمزہ مستتر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدُ يَتَفَقَّرُونَ ﴿١٣﴾

آیت نمبر ۱۳: واو عاطفہ یومَ مضاف تقومُ فعل السَّاعَةُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مؤکد، یومِئِدُ مرکب اضافی تاکید لفظی، مؤکد با تاکید معقول فی مقدم یَتَفَقَّرُونَ فعل، واو ضمیر قائل اور معقول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَصَّرُونَ ﴿١٥﴾

آیت نمبر ۱۴، ۱۵: قادم اثینا فی آما حرف شرط و تفسیر الذین اسم موصول آمَنُوا فعل ہادو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل واو ضمیر قائل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ مبتدا متضمن معنی شرط، قادم جزائیہ ہمزہ ضمیر مبتدا فی رَوْضَةٍ رَوْضَةٌ جہ باجرور متعلق مقدم یُحْبَرُونَ فعل مجهول واو ضمیر نائب قائل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ آما حرف شرط و تفسیر الذین اسم موصول كَفَرُوا فعل ہادو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَذَّبُوا فعل، واو ضمیر قائل بآہ جارہ آیاتنا مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ لِقَاءِ الْآخِرَةِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہ باجرور كَذَّبُوا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ مبتدا متضمن معنی شرط، قادم جزائیہ اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا فی الْعَذَابِ جہ باجرور متعلق مقدم مُخَصَّرُونَ اسم مفعول ہمزہ ضمیر نائب قائل و متعلق مقدم شبہ جملہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہو۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمْسُونَ وَ حِیْنَ تُصْبِحُونَ ﴿١٦﴾ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

وَ عَشِیًّا وَ حِیْنَ تَظْهَرُونَ ﴿١٧﴾

آیت نمبر ۱۶، ۱۷: قادم نسیم اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا تَبَيَّنَ لَكَ مَا ذُكِرَ سُبْحَانَ مصدر مضاف اللہ مضاف الیہ، حِیْنَ مضاف تُمْسُونَ فعل ہادو ضمیر قائل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ حِیْنَ مضاف تَصْبِحُونَ فعل ہادو ضمیر قائل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف اول، واو عاطفہ عَشِیًّا معطوف ثانی، واو عاطفہ حِیْنَ مضاف تَظْهَرُونَ فعل ہادو ضمیر قائل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف ثلاث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث مفعول فیہ اور سُبْحَانَ مصدر کا، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر مفعول مطلق ہوا فعل محذوف سَبِّحُوا کا سَبِّحُوا فعل امر ہادو

ضمیر فاعل ومفعول مطلق جملہ انشائیہ امریہ جنہم شرطہ ہوا جزاء جملہ شرطیہ ہوا اور اعتراضیہ لہ کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم الخند مصدر فی جملہ کسومات والارض معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہ باجر و مصدر کے متعلق، مصدر با متعلق مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہو۔

يُخْرِجُ النَّحْيَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ النَّحْيِ وَيُعِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَ  
كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْجَوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹: يُخْرِجُ فعل ہو مستتر فاعل النحی مفعول بہ ومن المیت جہ باجر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ يُخْرِجُ فعل ہو مستتر فاعل المیت مفعول بہ ومن النحی متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، او عاطفہ يُعِي فعل ہو مستتر فاعل الارض مفعول بہ بَعْدَ مَوْتِهَا مرکب انشائی مفعول فیہ، فعل با فاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستانہ ہوا او عاطفہ کَذَلِكَ جہ باجر و کائین کے متعلق ہو کر احوال جاموصوف مفرد کے واسطہ سے مفعول مطلق مقدم، نُخْرِجُ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل ومفعول مطلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

﴿ رُكوع نمبر ۳ ﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ  
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

آیت نمبر ۲۱: ۱: او عاطفہ مِنْ آيَاتِهِ کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، أَنْ ناصب خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ مِنْ تُرَابٍ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ إِذَا ماضیہ جاتیہ مفعول فیہ مقدم، أَنْتُمْ مبتدا، بَشَرٌ موصوف مبتدا، تَنْتَشِرُونَ متناہی مصدر مبتدا موخر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، موصوف ہفت خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مبتدا موخر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، او عاطفہ مِنْ آيَاتِهِ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، أَنْ ناصب خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل کُم جہ باجر و متعلق ثانی، مِنْ أَنْفُسِكُمْ جہ باجر و متعلق ثانی، اَزْوَاجًا مفعول بہ لآہ جہ تعلیلیہ اس کے بعد، أَنْ مقدر ہے تَسْكُنُوا فعل واو ضمیر فاعل إِلَيْهَا متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جہ باجر و متعلق ثانی، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلقات ثلاث معطوف علیہ، او عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل بَيْنَكُمْ مرکب انشائی مفعول ثانی کی جگہ میں ہے، مَوَدَّةً وَرَحْمَةً معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، اُول، فعل با فاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا، اِنْ حرف تحقیق فی ذالک طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لآہ نہ حلقہ آيات موصوف لآہ جہ قَوْمٍ موصوف يَتَفَكَّرُونَ فعل با واو ضمیر نائب فاعل، موصوف ہفت

بجز وہ جملہ باجر و کلثمہ کے متعلق ہو کہ آیات کی صفت، موصوف ہفت اسم سوخریان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: اوواظاظر من آیاتہ عرف مستقر کلثم کے متعلق ہو کہ خبر مقدم خلق مضاف السموات و الارض معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ اوواظاظر اختلافا مصدر مضاف السنتکم مرکب اضافی معطوف علیہ، اوواظاظر اللوانکم مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف اختلافا کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو لایان حرف تمثیل فی ذلک حرف مستقر کلثمہ کے متعلق ہو کہ خبر مقدم، لایان مطلق آیات موصوف للعالمین جملہ باجر و کلثمہ کے متعلق ہو کہ صفت، موصوف ہفت اسم سوخریان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ قَضِيئِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: اوواظاظر من آیاتہ کہہ آیات کہہ مرکب اضافی باجر و کلثمہ کے متعلق ہو کہ خبر مقدم مضاف مصدر مضاف کم ضمیر مضاف الیہ معنی قابل یاد جلد اللیل و النهار معطوف علیہ با معطوف مجرد جملہ باجر و متعلق مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق معطوف علیہ اوواظاظر ابتغاء مصدر مضاف کم ضمیر مضاف الیہ معنی قابل من فضلیہ متعلق مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق خبر جملہ ہو کہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو لایان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون کی ترکیب ان فی ذلک لآیات لقوم یفتقدون کی شکل ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَكَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: اوواظاظر من آیاتہ کہہ آیات کہہ مرکب اضافی باجر و کلثمہ کے متعلق ہو کہ خبر مقدم یبری فعل مفعول مستقر کلثمہ معنی معقول بہ اول البزق مفعول بہ فعلی خوقا و کما معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ فعلی خوقا و کما کل جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، اوواظاظر یریکل فعل مفعول مستقر کل من السماء و کما مفعول بہ سے ل کریمہ فعلیہ خبریہ معطوف اول کما مضاف فی فعل مفعول مستقر کل بہ معنی الارض مفعول بہ بعد مآتها ہا مضافی مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ معطوف علیہ با معطوف بہا ل مصدر (یعنی ان ہجرت) مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو لایان فی ذلک لآیات لقوم یفتقدون کی شکل ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۲۵:** واؤاعطفہ من آیاتہ کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ آن نامہ تَقُومَ فعل السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ معطوف علیہ بالمعطوف قائل بِأَمْرِهِ جہا بجز و متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عطفہ اِذَا مَفَاجَاتِیہ مفعول فیہ مقدمہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ تَخْرُجُونَ فعل مجهول والاضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جزاء، شرط ہا جزاء معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف بتاویل مصدر مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهٗ قٰبِلٌ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۲۶:** واؤاعطفہ لہُ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ من اسم موصول فی جہا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ بالمعطوف مجرور، جہا بجز و ظرف مستقر فعل محذوف کَسَبَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں، مَعْلُومٌ مبتدأ قٰبِلٌ اسم فاعل هُوَ مستقر قائل لہُ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَ لَهٗ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۰:** واؤاعطفہ هُوَ ضمیر مبتدأ الَّذِي اسم موصول یَبْدُؤُا فعل هُوَ مستقر قائل اَلْخَلْقُ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عطفہ یُعِيدُهُ فعل هُوَ مستقر قائل یُضْمِرُ ذوالحال واؤاعطفہ هُوَ ضمیر مبتدأ اَهْوَنُ اسم تفضیل هُوَ مستقر قائل عَلَیْهِ متعلق سے مل کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں، واؤاعطفہ لہُ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی مرکب تو صیغی ذوالحال فی جہا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ بالمعطوف مجرور، جہا بجز و کائن کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واؤاعطفہ هُوَ ضمیر مبتدأ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ دو خبر، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

**سوال (۱):** مبتدأ تام ہوتا ہے جب کہ آیت نمبر ۲۳ میں یُرِیٰی فعل کو مبتدأ بنا لیا گیا ہے؟

**جواب:** کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضاف پر داخل ہونے والے آن نامہ کو مقدر کر دیا جاتا ہے اور مضاف کو مرفوع پڑھا جاتا ہے جیسا کہ مشہور مثال میں ہے تَسْبَعُ بِالْمُعْجِبِیْنَ خَیْرٌ مِّنْ اَنْ تَرَاہُ، یہ اصل میں اَنْ تَسْبَعُ ہے اسی طرح اس آیت میں بھی اَنْ مقدر ہے اور مضاف مصدر کے معنی میں ہو کر مبتدأ ہے اور مصدر تام ہوتا ہے۔

**سوال (۲):** مفعول لہ میں یہ شرط ہے کہ فعل معطل اور مفعول لہ کا فاعل ایک ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ یُرِیٰی فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور تَخَوَّفًا وَطَمَعًا مفعول لہ کا فاعل مخاطب ہے تو جب شرط نہیں پائی گئی تو تَخَوَّفًا وَطَمَعًا کو مفعول لہ بنا

کیسے درست ہے؟

جواب (۱): حَوْفًا وَطَمَعًا سے پہلے مضاف محذوف ہے تقدیر عبارت ہے إِزَاءَةً حَوْفٍ وَطَمَعٍ لِمَذَابِ فِئْلٍ مَعْلٌ اور مفعول لہ کا قائل ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ۔

جواب (۲): حَوْفًا وَطَمَعًا إِخَافَةً وَإِنْتِظَارًا کی تامل میں ہو کر مفعول لہ ہیں لِمَذَابِ فِئْلٍ مَعْلٌ اور مفعول لہ کا قائل ایک ہے کیونکہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ (مظہری)

﴿۱﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿۲﴾

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ فَإِنَّكُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ کا تائے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لہا ہل استنبہا یہ لکم طرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر خبر مقدم مین جارہ ماموصولہ ملکیت فعل اَیْمَانُ لکم مرکب اضافی قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ ہاسلہ مجرور، جارہ باجمرور کا تینوں کے متعلق ہو کر حال مقدم مین جارہ زلذہ شُرُکَاءَ موصوفہ فی حرف جر مآسَم موصول رَزَقْنَا فعل نا ضمیر قائل لکم ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہاسلہ مجرور، جارہ باجمرور کا تینوں کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت ملامر فروع ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انتاہیہ ہولفاء واقع ہے استنبہام کے جواب میں اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ فیہ جارہ باجمرور متعلق مقدم سَوَاءٌ بمعنی مُسْتَوُونَ لہے متعلق سے ل کر خبر اول تَخَافُونَ فعل واو ضمیر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ کاف جارہ حِیْقَۃٌ مصدر مضاف لکم ضمیر مضاف الیہ معنی قائل اَنْفُسُکُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، مصدر مضاف لہے مضاف الیہ معنی قائل و مفعول بہ سے ل کر مجرور، جارہ باجمرور طرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف حِیْقَۃٌ کے مفعول مطلق مقدم نَقُصُّ لہے متعلق قائل الْآیَاتِ مفعول بہ لآرہ جارہ قَوْمٍ موصوفہ یَعْقِلُونَ فعل ہاوا ضمیر قائل مفت، موصوف ہفت مجرور، جارہ باجمرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَنْتُمْ کی خبر تالی ہے۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرٍ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا موصول ہاسلہ قائل اَهُوَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بِغَيْرِ عِلْمٍ طرف مستقر مَن يَهْدِي کے متعلق ہو کر اتَّبَعَ کے قائل سے حال ہے، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہولفاء فیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اتَّبَعُوا اَهُوَاءَهُمْ، یا قاء عاطفہ ہے مَن استنبہا یہ مبتدأ یَهْدِي فعل ہو مستقر قائل مَن موصول اَضَلَّ لہے

فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ تہدیی کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انتظائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو اور او عطفہ صانیہ لہم جہ با جزاء کائون کے متعلق ہو کر خبر مقدم من جہ زلہ ناکسیرین مرفوع ملامتہ او خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَٰكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۲﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۚ كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونٌ ﴿۳﴾

آیت نمبر ۳۰، ۳۱، ۳۲: قاء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے لکن ثابت و خدا نیتہ اللہ، بان صلہ بغض الناس، آقہ فعل امر آت مستزاد الحال حنیفاً حال، ذوالحال باحال فاعل و جہک مرکب اضافی مفعول بہ لیل الدین جہ با جزاء معلق ہوئے، فعل امر بافاعل و مفعول بہ و متعلق جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ فطرۃ اللہ مرکب اضافی موصوف الی نام موصول فطرۃ فعل ہو متصرف فاعل الیک مفعول بہ علیہا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مفعول بہ ہو۔ فعل محذوف الزموا کا الزموا فعل امر وا ضمیر ذوالحال منیبین اسم فاعل اتقوا مستزاد فاعل الیہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ذوالحال باحال الزموا کا فاعل، فعل امر بافاعل و مفعول بہ جملہ انتظائیہ امریہ ہو۔ لانی نہیں تبدیلی اس کا لام لا ہر جہہ خلوا اللہ مرکب اضافی مجرور، جہ با جزاء کائون کے متعلق ہو کر خبر، لانی جنس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔ ذلک اسم اشارہ مبتدا الیدین القیمہ مرکب اضافی ذوالحال و او عالیہ با عطفہ لکن حرف استدراک اکثرو الناس مرکب اضافی اس کا اسم لا یعلمون فعل ہوا ضمیر فاعل لکن کی خبر، لکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

و او عطفہ اتقوا فعل امر وا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، و او عطفہ آقیموا فعل امر وا ضمیر فاعل الصلو مفعول بہ سے مل کر جملہ انتظائیہ امریہ معطوف اول، و او عطفہ لا تکتونوا فعل ناقص وا ضمیر اس کا اسم من المشرکین مبدل منہ ہیو جزاء الیدین اسم موصول فرقوا فعل وا ضمیر فاعل دینہم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، و او عطفہ کانوا فعل ناقص وا ضمیر اسم شیعاً خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ہیو مجرور، جہ با جزاء مبدل من مبدل من بدل کائون کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین پھر یہ معطوف ہے الزموا مقدر کا۔ کل جزؤ مرکب اضافی مبتدا، ہا جہہ موصول لکنہم مرکب اضافی فعل محذوف حیثیت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور جہ با جزاء معلق مقدم فحون صیغہ صفت ہم متصرف فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحِمَهُ إِذَا

### فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشِيرُونَ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** او استیانیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم حسن فعل النّاس مفعول بہ مقدم ضروف قائل مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مدخوٰۃ فعل واؤ ضمیر ذوالحال مُبِیِّنِیْنَ اسم قائل هُم مستتر قائل اَلَّذِیْهِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہذا وال حال باحال قائل رَبِّهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اذاق فعل هُوَ مستتر قائل هُم ضمیر مفعول بہ و مَنَّهُ کَافِيَةٌ کے متعلق ہو کر حال مقدم سُوْحَةُ ذوالحال مؤخر ہذا وال حال باحال مفعول بہ یعنی، فعل باقائل و مفاسل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط إذا مضافیہ مفعول فیہ مقدم فَرِيقٌ موصوف ہونے والے کَلْبٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتدایہ يُشِيرُونَ فعل واؤ ضمیر قائل بِرَبِّهِمْ متعلق و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانف ہوں۔

### لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوا فَيَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۲:** لامر تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَكْفُرُوا فعل واؤ ضمیر قائل بَاء جادہ ماصول اَتَيْنَا فعل النّاس ضمیر قائل هُم ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاولیل مصدر مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے يُشِيرُونَ کے، فَاء استیانیہ فَتَمَتَّعُوا فعل امر باواؤ ضمیر قائل جملہ انشائیہ امریہ ہول فاء نسیحہ اور اس کی شرط معذوف ہے اِذَا كَفَرْتُمْ، یا فاء تعلیہ ہے سُوْفَ علامت فعل تَعْلَمُونَ فعل باواؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

### أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهَوْ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشِيرُونَ ﴿۳۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** امر متعلقہ أَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر قائل عَلَيْهِمْ جادہ با مجرور متعلق سُلْطٰنًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء مدخوٰۃ هُوَ ضمیر مبتدایہ يَتَكَلَّمُ فعل هُوَ مستتر قائل بَاء جادہ ماصول كَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کلام يُشِيرُونَ فعل واؤ ضمیر قائل بہ متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جادہ با مجرور يَتَكَلَّمُ کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانف ہوں۔

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ؕ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَائِمَةٌ يَبَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا

### هُمْ يَقْتُلُونَ ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۴:** واؤ عاطفہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اذَقْنَا فعل نا ضمیر قائل النَّاس مفعول بہ اَوَّل رَحْمَةٍ مفعول بہ یعنی، فعل باقائل و مفاسل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مدخوٰۃ اذَقْنَا فعل واؤ ضمیر قائل بِهَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اِنْ شرطیہ تُصِيبُ مفعول بہ سَائِمَةٌ قائل بَاء جادہ ماصول قَدَمَتْ فعل اَيِّدِيهِمْ مرکب اضافی مرفوع تقدیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق

جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط یا إذا مفاعلیہ مفعول فی مقدمہ ضمیر مبتدأ یَقْتَضُونَ فعل واو ضمیر قائل اور مفعول فی مقدمہ سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہوں۔

**أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾**

**آیت نمبر ۳۷:** ۳۷: هَمْزًا تَسْتَهْمِيهِ، وَاوُ عَاطِفٌ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ يَتَفَكَّرُوا وَاللَّهُ يَرَوْا بِمَعْنَى لَمْ يَتَفَكَّرُوا فَعَلُوا وَهُوَ مَعْنَى لَمْ يَرَوْا حَرْفٌ تَسْتَهْمِيهِ وَاللَّهُ اس کا اسم مَبْسُطٌ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ قَائِلُ الرِّزْقِ مَفْعُولٌ بِهِ لَمْ يَرَوْا جَدَاهُ مِنْ مَوْصُولٍ بِشَاءَ فَعَلٌ بِأَوْ مُسْتَرْتَفِعٌ صَلَ، مَوْصُولٌ بِصَلِّهٌ مَجْرُورٌ، جَدَاهُ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِأَوُ عَاطِفٌ مَفْعُولٌ بِهِ وَتَخَلُّقٌ مَعطوفٌ عَلَيهِ، وَاوُ عَاطِفٌ يَقْدِرُ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ قَائِلٌ مَلْ كَر مَعطوفٌ، مَعطوفٌ عَلَيهِ بِمَعطوفٍ خَبْرٌ، إِنَّ بَاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلٌ اسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ لَمْ يَرَوْا كَر مَفْعُولٌ كَيْ قَائِمٌ مَقَامٌ، فَعَلٌ بِأَوُ عَاطِفٌ مَفْعُولٌ لِيْنٌ مَعطوفٌ، مَعطوفٌ عَلَيهِ بِمَعطوفٍ لِقَوْمٍ لِقَوْمٍ فِي ذَلِكِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ كَر تَرْكِبٌ إِنَّ فِي ذَلِكِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ كَر تَرْكِبٌ كِي مَثَلٌ هُوَ اور اس کی تَرْكِبٌ آیت نمبر ۱۲ کے تحت گزر چکی ہے۔

**قَاتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾**

**آیت نمبر ۳۸:** ۳۸: فَاءٌ نَصِيْبَةٌ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ كَانَ الرِّزْقُ يَبْدَأُ اللّٰهُ، اِيْذَا عَرَفْتَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ وَيَقْدِرُ، اَيُّ فَعَلٌ اِسْرَآءٌ مُسْتَرٌ اس کا نَاعِلٌ ذَا الْقُرْبَى مَعطوفٌ عَلَيهِ، وَاوُ عَاطِفٌ الْمِسْكِيْنَ مَعطوفٌ اِثْلٌ، وَاوُ عَاطِفٌ اِبْنِ السَّبِيْلِ مَرْكَبٌ اِضْآئِيٌّ مَعطوفٌ عَلَيِّهِ، مَعطوفٌ عَلَيهِ بِمَعطوفِيْنِ مَفْعُولٌ بِهِ اِثْلٌ حَقَّهُ مَرْكَبٌ اِضْآئِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ ثَمَانِيٌّ، فَعَلٌ بِأَوُ عَاطِفٌ لِيْنٌ جَمَلٌ اِشْآئِيٌّ اِسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ ذَلِكِ اسْمٌ اِشْرَآءٌ مَبْتَدَأٌ خَيْرٌ اسْمٌ تَفْضِيْلِيٌّ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ قَائِلٌ لَمْ يَرَوْا اَلَّذِيْنَ اسْمٌ مَوْصُولٌ يُرِيدُونَ فَعَلٌ وَهُوَ ضَمِيْرٌ قَائِلٌ وَجْهَ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضْآئِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كَر جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صَلَ، مَوْصُولٌ بِصَلِّهٌ مَجْرُورٌ، جَدَاهُ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، اسْمٌ تَفْضِيْلِيٌّ بِأَوُ عَاطِفٌ وَتَخَلُّقٌ شَبِيْهُ جَمَلٌ هُوَ كَر خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ مَبْتَدَأُ خَبْرٌ جَمَلٌ اسْمِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ مِثْلَةٌ هُوَ، وَاوُ عَاطِفٌ اُولَٰئِكَ اسْمٌ اِشْرَآءٌ مَبْتَدَأٌ هَمْزٌ ضَمِيْرٌ فَعَلٌ اَلْمُفْلِحُونَ خَبْرٌ، مَبْتَدَأُ خَبْرٌ جَمَلٌ اسْمِيَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعطوفٌ ہوں۔

**وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۹﴾**

**آیت نمبر ۳۹:** ۳۹: وَاوُ اِسْتِآئِيَّةٌ مَّآسَمٌ شَرْطٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ مِنْ زِيَا كَاثِبًا كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَر حَالٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ بِحَالِ مَفْعُولٌ بِهِ مَقْدَمٌ اَتَيْتُمْ فَعَلٌ ثُمَّ ضَمِيْرٌ قَائِلٌ لَمْ يَرَوْا اس کے بعد اِنْ مَقْدَرٌ ہے يَزِيْوُ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ قَائِلٌ فِيْ اَمْوَآلِ النَّآسِ مُتَعَلِّقٌ سَلٌّ كَر تَابِلٌ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَدَاهُ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِأَوُ عَاطِفٌ مَفْعُولٌ بِهِ وَتَخَلُّقٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر شَرْطٌ، فَاءٌ لَآيَاتِيَّةٌ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ قَائِلٌ عِنْدَ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضْآئِيٌّ مَفْعُولٌ فِيْ سَلٌّ كَر جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلٌ شَرْطِيَّةٌ مَعطوفٌ عَلَيهِ، وَاوُ عَاطِفٌ مَّآسَمٌ شَرْطٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ مِنْ زَكَاةٍ



کافی کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم آئیں گے فعل مُضْمِرٌ ذوالحال مُرِيدُونَ فعل واو ضمیر فاعل وَجْهَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قضاء جزائیہ اَوْ لِئَلَّا اَسْمَ اشرہ مبتدا، هُمْ ضمیر فعل اَلْمُضْمِعُونَ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: اللہ مبتدا، الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ رَزَقَ فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ يُمِيتُ فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ سے ل کر معطوف ثانی، ثُمَّ عاطفہ يُحْيِي فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ سے ل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، هَلْ استفہامیہ میں جارہ شُرَكَائِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَن اسم موصول يَفْعَلُ فعل ہو مستتر فاعل مَن ذٰلِكُمْ کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، مَن جارہ زائدہ شئی ہے فلا منصوب ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ انتہائیہ استفہامیہ ہوں، سُبْحٰنَهُ مرکب اضافی مفعول مطلق ہے فعل محذوف سَبَّحَتْ کا، فعل بافاعل و مفعول مطلق معطوف علیہ، واو عاطفہ تَعَالٰى فعل ہو مستتر فاعل عَنْ جادہ، اسم موصول يُشْرِكُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

﴿ ۳۰ ﴾ رکوع نمبر ۵ ﴿ ۳۰ ﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ وَابْتَعَدَ النَّاسُ لِيُنْذِرَهُمْ بِبَعْضِ الَّذِي

عَمِلُوا الْعَالَمُ يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: ظَهَرَ فعل الْفَسَادُ فاعل فِي جارہ الْبَحْرِ و الْبَحْرِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار باجور و متعلق اول، بِبَعْضِ جارہ مَعًا اسم موصول كَسَبَتْ فعل الْبَحْرِ مفعول مرکب اضافی مرفوع تقدیر فاعل سے ل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور و متعلق ثانی، لآرہ جارہ تعلیلیہ اس کے بعد ان مقدم ہے يُنْذِرُ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول بَعْضِ مضاف الَّذِي اسم موصول عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتادیل مصدر مجرور، جار باجور و متعلق ثالث، فعل بافاعل و متعلقات ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں لکن حرف ترمی هُمْ ضمیر اس کا اسم یَرْجِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ باسم و خبر جملہ انتہائیہ ترجیہ معللہ ہوں، لِيُنْذِرُ کی ضمیر فاعل سے حال ہوں

قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانِ اسْوٰءُ هُمْ



معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ یُخْرِجُ مَنِ كَامِعْفُولٍ بِہِ مِنْ فَضْلِهِ جہد با مجرد متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومعقول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرد، جہد با مجرد متعلق ہوئے یُنْهَدُونَ کے بان حرف تحقیق ء ضمیر اس کا اسم لا یُجِبُ فعل ہو مستتر قائل الکفرین معقول بہ، فعل بافاعل معقول بہ ان کی خبر بان ہام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطلہ ہو۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مَبْشُرَاتٍ وَ لِيُنذِرَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِيَتَجَرَّيَ  
الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: ۱۔ واو استثنائیہ من آياتہ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم ان نامبر یُرْسِلُ فعل ہو مستتر قائل الریح زوالحال مَبْشُرَاتٍ حال نزوالحال باحال معقول بہ، فعل بافاعل ومعقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ واو عاطفہ لاکر جہد یُنْذِرُ فعل ہو مستتر قائل کُم ضمیر معقول بہ و من رَحْمَتِهِ متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مجرد، جہد با مجرد معطوف علیہ، واو عاطفہ لاکر جہد اس کے بعد ان مقدر ہے تجری فعل الفلک قائل بِأَمْرِهِ جہد با مجرد متعلق ہوئے ینویں مل کر معطوف اول، واو عاطفہ لاکر جہد اس کے بعد ان مقدر ہے تَتَّبِعُوا فعل واو ضمیر قائل من فَضْلِهِ متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مجرد، جہد با مجرد معطوف ثانی، واو عاطفہ لکھن حرف ترمی کُم ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُونَ فعل ہواو ضمیر قائل خبر، لکھن ہام و خبر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ باعتبار معنی کے مَبْشُرَاتٍ پر معطوف ہے گویا کہ تقدیر عبارتوں سے لِيَتَّبِعُوا کُم وَ لِيُنذِرَكُمْ۔

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْ  
الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۚ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: ۱۔ واو استثنائیہ لاکر موطن اللقم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل، اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر قائل من قَبْلِكَ کائینتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم رُسُلًا زوالحال مؤخر، زوالحال باحال معقول بہ۔ الی قَوْمِهِمْ جہد با مجرد متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق ومعقول بہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ جَاؤُوا فعل واو ضمیر قائل هُمْ ضمیر معقول بہ بِالْبَيِّنَاتِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔ فَاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے فَكَلَّمُوا هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فعل نا ضمیر قائل من جہد بالذین اسم موصول أَجْرَمُوا فعل ہواو ضمیر قائل صلہ، موصول باصلہ مجرد، جہد با مجرد متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ واو استثنائیہ کان فعل ناقص حَقًّا موصوف عَلَيْنَا طرف مستقر کائینتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت خبر مقدم نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ مرکب اضافی اسم مؤخر، کان ہام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہو۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِزُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ  
رِسْفًا فَيَكْرِي الودقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ  
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: ۱۔ اللہ مبتدا، الَّذِي موصول یُرْسِلُ فعل ہو مستتر قائل الریح متعلق ہے۔ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف

علیہ، فقاء عاطفہ یُشیرُ فعل ہی مستتر قائل سَحَابًا مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف اول، فقاء عاطفہ یَسْبِطُ فعل هو مستتر قائل اُ ضمیر ذوالحال کا، کئی کئی کائیٹا کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، یَشَاءُ فعل هو ضمیر ذوالحال باحال یَشَاءُ کا قائل، فعل باقاع حال، بذوالحال باحال یَسْبِطُ کا قائل اُ ضمیر مفعول بہ، فی السَّمَاءِ جہد باجر و متعلق ہوئے، فعل باقاع، و مفعول بہ و متعلق معطوف ثانی، و او عاطفہ یَجْعَلُ فعل هو مستتر قائل اُ ضمیر مفعول بہ اول کسبفہا مفعول بہ ثانی، فعل باقاع و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ تَکْرَى فعل اَنْتَ مستتر قائل اَلْوَدُودُ ذوالحال یَخْرُجُ فعل هو مستتر قائل وین خلیلہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، بذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقاع و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف " معطوف ثالث، معطوف علیہ ہا معطوفات ثلاثہ الَّذِی کاسلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں فقاء عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَصَابَ فعل هو مستتر قائل پہ جہد باجر و متعلق من اسم موصول یَشَاءُ فعل باهو مستتر قائل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال وین عِبَادَہِ کائیٹا کے متعلق ہو کر حال، بذوالحال باحال اَصَابَ کا مفعول بہ، فعل باقاع و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اِذَا مفاجاتیہ مفعول فیہ مقدم ہُمُ ضمیر مبتدأ یَسْتَبِشُرُونَ فعل و او ضمیر قائل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٣٩﴾

آیت نمبر ۳۹: و او حالیہ اِنْ محذوف من اللہ ہُمُ ضمیر شان مقدس کا اسم کا نُوا فعل ناقص و او ضمیر ذوالحال وین جہد قبلی مضارع اَنْ ہا، یُنزَّلُ فعل جہول هو مستتر نائب قائل عَلَيْهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتناویل مصدر مضارع الیہ، مضارع ہا مضارع الیہ مجرور، جہد باجر و مؤکد، وین قبلیہ جہد باجر و تاکید، مؤکد ہا تاکید طرف مستقر کائیٹین کے متعلق ہو کر حال، بذوالحال باحال کا نُوا کا اسم، لامر فاعلہ مُبْلِسِينَ خبر، فعل ناقص ہا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنْ محذوف کی خبر اِنْ محذوف ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ یَسْتَبِشُرُونَ کی ضمیر قائل سے حال ہوں۔

فَانظُرْ إِلَى الْأَرْضِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُعْبَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْجِبٌ الْمُؤْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

آیت نمبر ۴۰: فقاء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اَرَدْتُ اَنْ تَعْرِفَ مَا يَتَوَكَّبُ عَلٰی اَنْوَالِ الْبَطْرِ، بَا اِنْ اَرْسَلِ اللّٰهُ الرِّیَاحَ، اَنْظُرُ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل اِلٰی جہد اَنْ اَرَادَ رَحْمَتِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جہد باجر و متعلق ہوئے، کئی کئی کائیٹا کا مفعول فیہ ہو کر واسطہ موصوف محذوف اِخْتِیَا کے مفعول مطلق مقدم یُخْبِیْ فعل هو مستتر قائل اَلْاَرْضَ مفعول بہ یَعْدُ مَوْتِہَا مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر یہ بدل ہے اَنْ اَرَادَ رَحْمَةَ اللّٰهِ سے، اَنْظُرُ فعل باقاع و متعلق جملہ انتظامیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنْ حرف تھمیں ذلک اس کا لامر مذلتہ معنی الْمُؤْتَى مرکب اضافی خبر اِنْ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں و او عاطفہ هو ضمیر مبتدأ علی کُلِّ شَیْءٍ جہد باجر و متعلق مقدم قَدِیْرٌ صیغہ مفت باهو مستتر قائل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَلٰكِنْ اَرْسَلْنَا رِیْحًا فَرَاوٰهُ مُصَفَّرًا لَّا تَلَوُّا مِنْ بَعْدِہِ یَكْفُرُونَ ﴿٤١﴾

**آیت نمبر ۵۱:** وَإِذَا سَأَلَكَ فَاعِلٌ تَأْمِيرًا فَاعِلٌ بِرِجْعًا مفعول یہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاعل عاطفہ رَأَوْ فاعلِ وَ تَأْمِيرًا فَاعِلٌ تَأْمِيرًا ذوالحال مُصْفًوا حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، لآمر جوابیہ کَلَّمُوا فاعلِ ناقصِ وَ تَأْمِيرًا ذوالحال مِنْ بَعْدِهَا کَلَّمُوا مِنْ كے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اسمِ کَلَّمُوا فاعلِ با تَأْمِيرًا فَاعِلٌ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جواب ہے قسم محذوف کا اور شرط کی جڑ محذوف ہے، جس پر جواب قسم وال ہے۔

**فَأِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكُفْرَانَ وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُنْيِ عَنْ صَلَاتِهِمْ ۚ إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾**

**آیت نمبر ۵۲، ۵۳:** فاعل عاطفہ تَلْمِيزَانِ حرف تحقیق کَانَ ضمیر اس کا اسم لَا تَسْمِعُ فعلِ أَنْتَ مستتر فاعلِ الْكُفْرَانَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، عاطفہ لَا تَسْمِعُ فعلِ أَنْتَ مستتر فاعلِ الدُّعَاءَ مفعول بہ اولِ الدُّعَاءَ مفعول بہ ثانی، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفاعیلِ عِلَاش جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوْءِ عاطفہ مَا حَاجِبِیہ أَنْتَ ضمیر اس کا اسم بآءِ جہہ زلذہ ہا د اسم فاعلِ مضاف الْعُنْيِ مضاف الیہ معنی مفعول بہ عَنْ صَلَاتِهِمْ متعلق، اسم فاعلِ مضاف لپے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مَا کی خبر، مَا کپے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مظلہ ہوں اِنْ نَافِیہ تَسْمِعُ فعلِ أَنْتَ مستتر فاعلِ اِلْا حروفِ استثناء مِنْ اسم موصولِ یُؤْمِنُ فعلِ هُوَ مستتر فاعلِ بِآيَاتِنَا متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فاعل عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ، مُسْلِمُونَ خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مظلہ ہوں۔

﴿ ۵۲ ﴾ رکوع نمبر ۶ ﴿ ۵۳ ﴾

**اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۳﴾**

**آیت نمبر ۵۳:** اللَّهُ الَّذِي اسم موصولِ خَلَقَ فعلِ هُوَ مستتر فاعلِ كُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ ضَعْفٍ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ جَعَلَ فعلِ هُوَ مستتر فاعلِ مِنْ جہہ بَعْدِ ضَعْفٍ مرکب اضافی مجرد، جہہ با مجرد و متعلق ہوتے قُوَّةً مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، اول، ثُمَّ عاطفہ جَعَلَ فعلِ هُوَ مستتر فاعلِ مِنْ بَعْدِ قُوَّةً جہہ با مجرد و متعلق ضَعْفًا وَشَيْبَةً معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوں یَخْلُقُ فعلِ هُوَ مستتر فاعلِ مَا اسم موصولِ يَشَاءُ فعلِ هُوَ مستتر فاعلِ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانہ یا مبتدأ کی خبر ثانی ہوں وَاوْءِ عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدأ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اس کی دو خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَيْسُوا بِغَيْرِ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: واوستینا فی یوم مغرب تقوم فعل الساعۃ فاعل سے مل کر مغرب الیہ، مضاف باضاف الیہ معقول فی مقدم یقسیم فعل المجرمون قائل و معقول فی مقدم سے مل کر قسم، مانا فی لیسوا فعل واو ضمیر فاعل غیب ساعۃ مرکب اضافی معقول فی مقدم سے مل کر جواب قسم، کذا لیک کتابا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف افکا کے معقول مطلق مقدم، کا نوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یؤفکون فعل مجهول واو ضمیر نائب قائل و معقول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص باسم واو خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَقَالَ الَّذِينَ اٰتَوْا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: واو عاطفہ قال فعل الذين اسم موصول اوتوا فعل مجهول واو ضمیر نائب قائل العلم والایمان معطوف علیہ با معطوف معقول بہ، فعل مجهول بانائب قائل و معقول بہ صلہ موصول باصلہ قائل، فعل باقائل قول، لامر موطنہ للقسم اور قسم محذوف ہے قدامت فعل، لایبئتم فعل ثم ضمیر فاعل فی کتاب اللہ ظرف مستقر کا کتابا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف و مانا کے معقول فی الی یوم البعث جہ باجور متعلق ہوئے، فعل باقائل و معقول فی و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب قسم مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فقاء فیصحہ اور اس کی شرط محذوف ہے ان کنتم تئذ کیون البعث (مظہری) ہذا مبتدا یوم البعث مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جزاء، شرط محذوف با جزاء مقولہ ہے واو عاطفہ لیکن حرف استدراک کنتم ضمیر اس کا اسم کنتم فعل ناقص ثم ضمیر اس کا اسم لا تعلمون فعل باواو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص باسم واو خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لیکن باسم واو خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: فقاء فیصحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اذا کان الامر کذا لیک، یومئذ مرکب اضافی معقول فی مقدم، لا ینفع فعل الذين ظلموا اسم موصول باصلہ معقول بہ معذرتہم مرکب اضافی قائل، فعل باقائل و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ ہم ضمیر مبتدا لا یستعتبون فعل مجهول باواو ضمیر نائب قائل جملہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَ لٰكِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: واوستینا فی لامر موطنہ للعلم اور قسم محذوف ہے قدامت فعل، صرنا لیسوا فعل ناقص ضمیر فاعل للناس جہ باجور

متعلق فی جملہ ہذا الْقُرْآنِ مرکب تو مصیٰ بحرور، جملہ باجرور کا کثرتا کے متعلق ہو کہ حال مقدم میں تہیضیہ کلّی متعلّق مرکب اضافی ذوالحال موخر بذوالحال باحال بحرور، جملہ باجرور مفعول ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول ہے جواب قسم، قسم باجواب قسم، جملہ انشائیہ قسمیہ ہو لو او عاطفہ لاکر موطن القسم اور قسم محذوف ہے ان شرطیہ جثت فعل تاء مفتوحہ ضمیر قائل ہڈ ضمیر منصوب مفعول ہے یا یقینہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لاکر جوابیہ یَقُولُونَ فعل اللّٰذِیْنَ کَفَرُوْا موصول ہاصلہ قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول بان نافی اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ، اَلْاَحْرَافِ اسْتِثْنَاءُ مَبْطُلُوْنَ مستثنیٰ مفرغ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ قسم محذوف کا جواب ہے، باور شرط کی جملہ محذوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے۔

كَذٰلِكَ يَظْبِغُ اللهُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الدّٰیْنِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: كَذٰلِكَ جملہ باجرور کا کثرتا کے متعلق ہو کہ بواسطہ موصوف محذوف کتبنا کے مفعول مطلق مقدم یظبغ فعل اللّٰهُ قائل علی جملہ قُلُوْبِ مضاف اللّٰذِیْنَ اسم موصول لَا يَعْلَمُوْنَ فعل واؤ ضمیر قائل سے مل کر صلہ موصول ہاصلہ مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ بحرور، جملہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ یا معترضہ ہو۔

فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا یَسْتَخْفِتُكَ الدّٰیْنِ لَا یُوقِنُوْنَ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: فَاَعْدَاءُ اللّٰهِ عَلَیْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ یَظْبِغُ عَلٰی قُلُوْبِ الْجٰہِلِیْنَ (تفسیر الاصبغ) فعل اللّٰهُ قائل علی جملہ قُلُوْبِ مضاف اللّٰذِیْنَ اسم موصول لَا یَسْتَخْفِتُكَ فعل لای کاف ضمیر مفعول ہے اللّٰذِیْنَ لَا یُوقِنُوْنَ موصول ہاصلہ قائل، فعل بافاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ انشائیہ اصبغ محذوف ہو۔



## ترکیب سورۃ لقمان

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اللَّهُمَّ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً  
لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
يُوقِنُونَ ۝

آیت نمبر ۱: ۳۰۲، ۳۰۱۔ اللہ خبر ہے مبتدا محذوف ہڈی ہاکی، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول تِلْكَ اسم اشارہ مبتدا با ایات مضاف  
الْكِتَابِ الْحَكِيمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ ذوالحال ہُدًى وَرَحْمَةً معطوف علیہ با معطوف موصوف لآہر جاہ  
الْمُحْسِنِينَ موصوف الَّذِینَ اسم موصول یَقِیْمُونَ فعل واؤ ضمیر قائل الصَّلَاةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مواؤ  
عاطفہ یُؤْتُونَ فعل واؤ ضمیر قائل الزَّكَاةَ مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واؤ عاطفہ هُمْ ضمیر ازل مؤکد، هُمْ ضمیر ثانی تاکید، مؤکد  
باتاکید مبتدا یُوقِنُونَ فعل واؤ ضمیر قائل بِالْآخِرَةِ متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ،  
موصول ہاصلہ صفت، موصوف ہافت مجرور، جاہ باخبر درکائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہافت حال ذوالحال باحال خبر،  
مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

آیت نمبر ۵: اُولَٰئِكَ اسم اشارہ عَلٰی جاہ ہُدًى موصوف مِّن رَّبِّهِمْ کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہافت  
مجرور، جاہ باخبر درکائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ أُولَٰئِكَ مبتدا، هُمْ ضمیر فعل الْمُفْلِحُونَ خبر، مبتدا  
باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متاثر ہول

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ  
يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

آیت نمبر ۶: واؤ عاطفہ مِّنَ النَّاسِ جاہ باخبر درکائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِّنَ اسم موصول یَشْتَرِي فعل هو مستتر قائل  
لَهْوَ الْحَدِيثِ مرکب انسانی مفعول بہ لآہر جاہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان تقد رہے یُضِلُّ فعل هو مستتر ذوالحال بِغَيْرِ عِلْمٍ کائینا کے  
متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال قائل عَن سَبِيلِ اللَّهِ جاہ باخبر در متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ واؤ عاطفہ  
يَتَّخِذَهَا فعل هو مستتر قائل هَا ضمیر مفعول بہ ازل، هُوَ مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور،  
جاہ باخبر درکائین کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ  
اسمیہ خبریہ معطوف ہول، اُولَٰئِكَ مبتدا، لَهُمْ کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ مُّهِينٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر مبتدا



اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَإِذَا تَلَّوْا عَلَیْهِ آتِنَّا وَلَی مُسْتَكْبِرًا كَان لَمْ یَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِیْ أُذُنِیْهِ وَقَوَّاعٍ قَبِیْضَةٌ

**بَعْدَ ابِیْیَمٍ ۝**

**آیت نصیر ۷:** اووا عاقلہ اذکا شرطیہ مفعول فیہ مقدم تثلّی فعل مجہول علیہ جہا بجزء مطلق ہو گا یا تثلّتا مرکب اضافی نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی فعل ہو مستتر ذوالحال مستعجبہ احوال اولیٰ کان مطلق من اللغۃ ضمیر شان مقدراں کلام لَمْ یَسْمَعْ لَمْ یَسْمَعْ فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر خبر مکان یا اسم و خبر حال دوم مکان حرف تشبیہ فِیْ أُذُنِیْهِ کثیر کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہو قَوَّاعٍ اسم و خبر مکان یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال سوم ذوالحال باحوال ثلاث وئی کا فاعل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہوں فکام نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اذاکان حال مطلق خبری لَمْ یَسْمَعْ لَمْ یَسْمَعْ فعل امر انت مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ بناء جہا بعد عَدَابِ الیہ مرکب توصیفی جزو، جہا بجزء مطلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ شرطیہ امریہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

إِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِمُ ۝ خُلِدُوا فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ

**حَقًّا ۝ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝**

**آیت نصیر ۹، ۸:** اِن حرف تمحیض الَّذِیْنَ اسم موصول آمَنُوا فعل باوا ضمیر فاعل معطوف علیہ اووا عاقلہ عَمِلُوا فعل باوا ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ موصول باصلان کلام لَهُمْ جَنَّاتٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم جَنَّاتٌ التَّجْرِیْمِ مرکب اضافی مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیان یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ تَخَلَّدُوا اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل فِیْهَا متعلق سے مل کر شرط جملہ ہو کر حال ہے لَمْ یَسْمَعْ لَمْ یَسْمَعْ فعل امر انت مستتر فاعل ہا ضمیر سے اذاکان حال مطلق ہوئے و عَدَّ اللَّهُ مرکب اضافی مفعول مطلق ہے فعل مخدوف وَعَدَّ کا، فعل با قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اووا عاقلہ هُوَ ضمیر مبتدا با الخبریٰ الْحَكِیْمُ اس کی دو خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرْكُوْنَهَا وَ اَلْاَرْضِ رَوٰسِیْ اَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ وَ بَنٰ

فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّۃٍ ۝ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَالْتَبَتْنَا فِیْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرۡۤیْمٍ ۝

**آیت نصیر ۱۰:** خَلَقَ فعل ہو مستتر علی السَّمٰوٰتِ ذوالحال بناء جہا بعد عَمَدٍ مضاف مقنن موصوف تَرْكُوْنَهَا فعل باوا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول، موصوف ہفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ جزو، جہا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ جہا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ اَرْضِ رَوٰسِیْ اسم فاعل تَمِیْدَ فعل امر انت مستتر فاعل ہا ضمیر سے اذاکان حال مطلق ہوئے و بَنٰ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّۃٍ اسم فاعل خَلَقَ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہے لَمْ یَسْمَعْ لَمْ یَسْمَعْ فعل امر انت مستتر فاعل ہا ضمیر سے اذاکان حال مطلق ہوئے و عَدَّ اللَّهُ مرکب اضافی مفعول مطلق ہے فعل مخدوف وَعَدَّ کا، فعل با قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اووا عاقلہ هُوَ ضمیر مبتدا با الخبریٰ الْحَكِیْمُ اس کی دو خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔



**آیت نمبر ۱۳:** واوا استثنایہ اذ مضاف حال فعل لقمان ذوالحال واوامالیہ ہو ضمیر مبتدأ یعطف فعل ہو مستتر قائل ضمیر مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ذوالحال باحال قائل لاینبہ جہا بجز در متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، بیکہ حرف علامہ اذعو کے قائم مقام اذعو فعل انا ضمیر مستتر قائل یعنی مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ انتظایہ ہو کر تمامہ لا تشکرک فعل اکت مستتر قائل بالذکر متعلق سے مل کر جواب علامہ، علامہ باجواب علامہ مقولہ، قول با مقولہ اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل مخدوف اذکو کا۔ الخ ان حرف تحقیق الشیء ان کا، لامر مذ حلقہ کلمہ عظیمہ مرکب توصیفی خبر بیان باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

**وَصَبَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْتًا عَلٰى وَهْنٍ وَ فَضَلَهُ فِيْ عَامِيْنَ اَنۡ اَشْكُرَ لِيْ وَاَوْ اَدِيْلَكَ اِلٰى التَّحِيْرِ ۝**

**آیت نمبر ۱۴:** واوا استثنایہ و صَبَّيْنَا فعل نا ضمیر قائل الانسان مفعول بہ یوالدیه متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ان حرف تفسیر اَشْكُرُ فعل امر اکت مستتر قائل ی جہا بجز در معطوف علیہ، واوا عطف لوالدیک جہا بجز در معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ انتظایہ ہو کر مفسر، مفسر با مفسر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں حَمَلَتْ فعل نا ضمیر مفعول بہ، اُمُّهُ مرکب اضافی ذوالحال وَهْتًا موصوف علی وَهْنٍ کائنا کے متعلق ہو کر مفعول، موصوف ہفت فعل مخدوف تَهْن کا مفعول مطلق ہو کر حال ذوالحال باحال قائل، فعل باقاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واوا عطف فضا لمرکب اضافی مبتدأ فی عَامِيْنَ کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معترضہ ہوا یعنی کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم التَّحِيْرُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

**وَ اِنۡ جَاهَدَكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ فَلَا تُطْعَمُهُمَا وَ صَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْقًا ۚ وَ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنْابَ اِلَيْ ۚ ثُمَّ اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاَنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۵:** واوا عطف ان شریہ جاہداً فعل الف ضمیر قائل علی حرف جہا ان مصدریہ نامیہ تُشْرِكَ فعل اکت مستتر قائل ی جہا بجز در متعلق ہوئے، ما کام موصول کیس فعل نا فعل لک کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم علمہ مصدریہ متعلق مقدم سے مل کر کام مؤخر کیس با اسم و خبر صلہ، موصول ہاسلہ مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ بتاول مصدر جرد، جہا بجز در متعلق، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فقاء جزائیہ لا تطیع فعل اکت مستتر قائل ہما مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شریہ ہوں واوا عطف صَاحِبًا فعل امر اکت مستتر قائل ہما ضمیر مفعول بہ فی الدُّنْيَا متعلق مَعْرُوْقًا واسطہ موصوف مخدوف صَاحِبًا مفعول مطلق، فعل باقاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واوا عطف اَتَّبِعْ فعل امر اکت مستتر قائل سَبِيْلَ مَنْ اَنْابَ اِلَيْ موصول اکت فعل ہو مستتر قائل یعنی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ سَبِيْلَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل باقاعل



معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوف ہولیان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم مستتر نازل فعل ہو مستتر نازل کل مضاف مختلای  
فخوذ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ، اِن کی خبر اِن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
مطلیہ ہول

وَ اَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

آیت نمبر ۱۹: واؤ اعطف اقصید فعل امر آتت مستتر نازل فی مشیک متعلق سے ل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ اعطف  
اغضض فعل امر آتت مستتر نازل من صوتک متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوف ہولیان حرف تحقیق  
انکر الاصوات مرکب اضافی اس کا اسم لامر ملقہ صوت الحمیر مرکب اضافی خبر اِن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلیہ ہول

﴿ ۱۹ ﴾

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِي الْاَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ  
كَاِهْرَةً وَ بَاطِنَةً ۙ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى وَ لَا كِتٰبٍ

﴿ ۲۰ ﴾

آیت نمبر ۲۰: ہمزہ استفہامیہ لَمْ تَرَوْا فعل داؤ ضمیر نازل اِن حرف تحقیق اللہ اس کا اسم مستتر نازل فعل ہو مستتر نازل مآسم  
موصول فی السّموات ظرف مستقر فعل مخدوف تبت کے متعلق ہو کر صلہ موصول ہا صلہ معطوف علیہ، واؤ اعطف مآ فی الارض کی  
ترکیب مآ فی السّموات کی مثل ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ ہا سَخَّرَ کا مفعول بہ، لَمْ جہاد باجرور متعلق ہوئے، فعل  
باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ اعطف اسبغ فعل ہو مستتر نازل علیکم جہاد باجرور متعلق ہوئے نِعْمَتَهُ  
مرکب اضافی ذوالحال کاہرۃ و باطنۃ معطوف علیہ ہا معطوف حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ  
خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اِن کی خبر اِن ہا اسم و خبر لَمْ تَرَوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ  
استفہامیہ ہول واؤ استثنائیہ من النَّاسِ کالین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، من موصول یجادل فعل ہو مستتر ذوالحال ہا جہاد بغیر  
مضاف علیہ معطوف علیہ، واؤ اعطف لا زلہ ہُدًى معطوف اول، واؤ اعطف لا زلہ کتّاب مبینہ مرکب توصیفی معطوف ثانی، معطوف  
علیہ ہا معطوفین مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور، جہاد باجرور مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال یجادل کافعال فی  
اللہ جہاد باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق صلہ موصول ہا صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مسافہ ہول

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاؤُنَا ۙ اَوْ لَوْ  
كَانَ الشّٰيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السّعِيْرِ ﴿٢١﴾

آیت نمبر ۲۱: واؤ اعطف اذ اشرطیہ مفعول فیہ مقدم قیل فعل مجبول ہو مستتر نائب فاعل لَمْ تَرَوْا متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ  
قول ایتبعوا فعل امر داؤ ضمیر نازل مآسم موصول انزل فعل اللہ نازل سے ل کر صلہ موصول ہا صلہ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ



خبر یہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستتر ہو

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ دَلِيلُ  
أَكْمَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: اور استیثانیہ لاکر موطر لقمہ اور قسم محذوف بیان شریعتاً سائلتہم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قائل الحمد لله دليل اكرمهم لا يعلمون اس جیسی آیت کی ترکیب سے یہ کہہ دے کہ میں تم سے کچھ نہیں جانتا ہے۔  
لَيْتَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: لیتہ جہاں باجہر و کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ تمام موصول فی جہاں السموات والأرض معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہاں باجہر و فعل محذوف ثبیت کے متعلق ہو کر صلہ موصول پہلے مبتدا مؤخر، مبتدا باجہر جملہ اسمیہ خبریہ ہولین حرف تحقیق اللہ اس کا اسم ہو ضمیر فصل الغفی الحمید دو خبر بیان باہم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔  
وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُءُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا  
لَفِدَّتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۷: او عاقلہ لاکر شرطیہ ان حرف تحقیق ما موصول فی الأرض فعل محذوف ثبیت کے متعلق ہو کر صلہ موصول پہلے ذوالحال ہون شجرۃ جہاں باجہر و کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہولین ان کا اسم اقلام خبر بیان باہم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قائل ہوا فعل محذوف ثبیت کا، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوا و احوالیہ البحر یمدئ فعل ضمیر مفعول پہلے ہون بعدیہ کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم سبعتہ ابھر مرکب اضافی یا تمیز با تمیز ذوالحال مؤخر، ذوالحال ہولین قائل، فعل بافاعل و مفعول پہلے جملہ فعلیہ خبریہ البحر کی خبر، مبتدا با خبر اقلام کا حال ہے۔ مآنایہ لفظت فعل کلمات اللہ مرکب اضافی قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، شرط با خبر جملہ شرطیہ ہولین حرف تحقیق اللہ اس کا اسم عزیز حکیم دو خبر بیان باہم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔  
مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَعَثْتُمْ إِلَّا نَفْسًا وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: مآنایہ خالقکم مرکب اضافی معطوف علیہ، او عاقلہ لاکر نہ بعتکم مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا، الاحرف استثناء کا جہاں نفس و احدۃ مرکب تو سمعی مجرور، جہاں باجہر مستثنی مفرغ کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہولین حرف تحقیق اللہ اس کا اسم سمیع بصیر دو خبر بیان باہم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔  
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ  
الْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِى إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى وَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: ہمدیہ استفہامیہ نہ تکرار فعل ائت مستتر قائل ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یولج فعل مستتر قائل اللیل مفعول بی فی النهار متعلق سے ل کر معطوف علیہ، او عاقلہ یولج فعل مستتر قائل اللیل مفعول بی فی اللیل متعلق سے ل

کر معطوف اول، واو عاطفہ سَخَّرَ فعل ہو مستتر فاعل اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق اَللّٰہِ اس کا اسم بآء جارحاً موصولہ تَعْمَلُوْنَ فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرور، جد با مجرور متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنْمَ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انتہائیہ استفہامیہ ہو لکن مبتدأ یَجْرِيْ فعل ہو مستتر فاعل اِلٰی جارحہ اَجَلٍ مُّسَقًّى مرکب توصیفی مجرور، جد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سے حال ہوں

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبٰطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ

الْكَافِرُوْٓ

آیت نمبر ۳۰: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ بآء جارحہ اَنْ حرف تحقیق اَللّٰہِ اس کا اسم ہو ضمیر فعل الْحَقُّ خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق مَا موصولہ يَدْعُوْنَ فعل باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مِنْ دُوْنِهِ کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اَنْ کا اسم الْبٰطِلُ خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق اَللّٰہِ اس کا اسم ہو ضمیر فعل الْعَلِيُّ الِکْبٰرُ دو خبر اَنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جد با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

رُكُوْعٌ ۳

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيْكُمْ مِنْ اٰيٰتِهِ ذٰلِكَ فِيْ ذٰلِكَ

اٰلٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ

آیت نمبر ۳۱: اَلَمْ تَرَ اَنْتَ مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق الْفُلْكَ اس کا اسم تَجْرِيْ فعل ہی مستتر ذوالحال بِنِعْمَةِ اللّٰهِ ظرف مستقر مَقْرُوْنَةٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل فی الْبَحْرِ جد با مجرور متعلق اول ہوئے، لآء جارحہ تَلْوِيْہِ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے لِيُرِيْ فعل ہو مستتر فاعل اَنْتَ مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق اَللّٰہِ اس کا اسم بآء جارحاً موصولہ تَعْمَلُوْنَ فعل با فاعل و مفعول بہ، متعلق باوا صلہ مصدر مجرور، جد با مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبر اَنْ با اسم و خبر لآء تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انتہائیہ استفہامیہ ہو لکن حرف تحقیق فِيْ ذٰلِكَ ظرف مستقر کَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم لآء مذمتہ اٰتِیَاتٍ موصوفہ لآء جارحہ کُلِّ مضاف صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جد با مجرور لآء کے متعلق ہو کر ممت، موصوفہ با صفت اسم مؤخر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظَّلْمِ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ

فِيْنَهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَا مَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتّٰرٍ كَفُوْرٍ



**آیت نمبر ۳۲:** وَاَوْعَاطِفْ اِذَا شَرِيَه مَفْعُول فِي مَقْدَمِ غَيْبِي فَعَلْ هُوَ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ بِهٖ مَوْجُوعٌ مَوْصُوفٌ كَالْفَعْلِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَاثِنٌ  
 کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط وادعوا فعل واد ضمیر و الحال مصلیٰ صیغۃ اسم  
 فاعل ہُوَ مستتر فاعل لہٗ متعلق الذین مفعول بہ سے ل کر شبہ جملہ ہو کر حال و الحال باحال فاعل اللہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ  
 جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو لفاء عاطف لئلا شرطیہ مفعول فی مقدم تخیلی فعل ہُوَ مستتر فاعل ہُوَ ضمیر مفعول بہ الی الی متعلق  
 سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط و فقاء جزائیہ و ملہم کا کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مقتصد مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ  
 خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو لفاء و استینافہ مآنانہ یَجْعُدُ فعل بناء جار ما لیتنا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق مقدم اِلَّا  
 حرف استثناء کلّ مضارع متخاّر کفؤر مرکب توسیعی مضارع الیہ، مضارع ہامض الیہ مستثنیٰ مفرغ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ  
 فعلیہ خبریہ متانہ ہو۔

**يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشِنُوا يَوْمَ مَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لَمَّا تُولَدُ هُوَ جَارٌ  
 عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ  
 الْغُرُورُ**

**آیت نمبر ۳۳:** بَيَّأَ حَرْفٌ نَدَاءٌ تَائِمٌ مَقَامُ اذْعُوْا كَمَا اذْعُوْا فَعَلٌ اَنَا مُسْتَرْتَفِعٌ اَبَى مَوْصُوفٌ هَا بَرَأْتِ عَمِيهِ النَّاسُ مَفْعُولٌ  
 موصوف ہفت کما منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء یا اتقوا فعل واد ضمیر فاعل ربکم مرکب اضافی  
 مفعول بہ سے ل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ و او اعاطف احشون فعل امر واد ضمیر فاعل یوم ما موصوف لا یجزی فعل و الی الی معطوف  
 علیہ و او اعاطف لازمہ صولود موصوف (مظہری) ہُو مبتدا، جازا اسم فاعل ہُو مستتر فاعل عَنِ وَالِدِهِ جار مجرور متعلق شئیئًا بواسطہ  
 موصوف محذوف جؤ آء کے مفعول مطلق، اسم فاعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق شیبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر صولود کی صفت،  
 موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف لا یجزی کا فاعل عَنِ وَلَدِهِ جار مجرور متعلق ہُوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ  
 خبریہ ہو کر یوم ما کی صفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء، نداء باجواب  
 نداء جملہ انشائیہ نداء ہے اور اِن حرف تحقیق وَعَدَ اللّٰهُ مرکب اضافی اس کلام حقی خبر اِن، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہو لفاء  
 نصیر اور اس کی شرط ہے اِذَا عَلِمْتَ اَنَّ اَحَدًا لَا يَجْزِي عَنْ اَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (تفسیر) لَا تَغُرَّنَّ فعل نمی  
 تُغْمِ ضمیر مفعول بہ اَحْيَاةُ الدُّنْيَا مرکب توسیعی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ و او اعاطف لَا يَغُرَّنَّ فعل  
 نمی کُفْ ضمیر مفعول بہ بِاللّٰهِ متعلق الْغُرُورُ فاعل سے ل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ  
 شرطیہ ہو۔

**إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي  
 نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**

**آیت نمبر ۳۳:** اِنَّ حَرْفَ تَحْقِیْنِ اللّٰہِاسِ کَالِاسْمِ عَلَیْہِ مُرکَبِ اِنْسَانِیٍّ حَاصِلٌ مَعْدُوْفٌ کَالْمَعْمُوْلِ فِیْہِ ہُوکِرْ خَبْرٌ مَقْدَمٌ عَلَیْہِ السَّاعَةِ مُرکَبِ اِنْسَانِیٍّ مَبْتَدَاً وَّخَبْرٌ مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمَلٌ اِسْمِیَّہِ خَبْرِیَّہِ مَعْدُوْفٌ عَلَیْہِ ہُو اَوْ عَاطِفٌ یُّکَدِّرُیْ لِفِعْلِ ہُو مُسْتَرْتَقَا عَلِیَّ النَّعِیْتِ مَعْمُوْلٍ بِہِ سَعَلٌ جَمَلٌ عَلَیْہِ خَبْرِیَّہِ مَعْدُوْفٌ اَوَّلٌ ہُو اَوْ عَاطِفٌ یُّعَلِّمُ لِفِعْلِ ہُو مُسْتَرْتَقَا عَلِیَّ مَا فِی الْاَزْکَاہِ مَوْصُوْلٌ بِسَلْسَلِہِ مَعْمُوْلٍ بِہِ فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَّ مَعْمُوْلٍ بِہِ جَمَلٌ فَعْلِیَّہِ خَبْرِیَّہِ مَعْدُوْفٌ مَعْنٰی مَعْدُوْفٌ عَلَیْہِ بِاِعْمُوْلِیْنِ اِنَّ کِیْ خَبْرٌ اِنَّ ہَا اِسْمٌ وَّخَبْرٌ جَمَلٌ اِسْمِیَّہِ خَبْرِیَّہِ مَسْتَفْہِمٌ ہُو لَوْ اَوْ عَاطِفٌ مَّآ تَانِیَّہُ کُدِّرِیْ لِفِعْلِ کَفَسٌ قَاعِلٌ مَّآ ذَا اِسْتَفْہَامِیَّہِ مَعْمُوْلٍ بِہِ مَقْدَمٌ یُّکَسِبُ لِفِعْلِ ہِیْ مُسْتَرْتَقَا عَلِیَّ عَدَا مَعْمُوْلٍ فِیْہِ اَوْرٌ مَعْمُوْلٍ بِہِ مَقْدَمٌ سَعَلٌ جَمَلٌ اِنطِیَّیَّہِ اِسْتَفْہَامِیَّہِ ہُو کُرْ کُدِّرِیْ کَعُو مَعْمُوْلٍ کَعُو مَعْمُوْلٍ کَعُو مَقَامٌ فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَّ مَعْمُوْلِیْنِ جَمَلٌ فَعْلِیَّہِ خَبْرِیَّہِ مَعْدُوْفٌ عَلَیْہِ ہُو اَوْ عَاطِفٌ مَّآ تَانِیَّہُ کُدِّرِیْ لِفِعْلِ کَفَسٌ قَاعِلٌ بِاَہِ جَمَلٌ اَسْمٰی اَوْضِیْنِ مُرکَبِ اِنْسَانِیٍّ مَجْرُوْرٌ جَدُّ بِاَجْرُوْرٍ مَتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ تَمَّوْتُ لِفِعْلِ ہِیْ مُسْتَرْتَقَا عَلِیَّ وَّ مَتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَعَلٌ جَمَلٌ کُرْ کُدِّرِیْ کَعُو مَعْمُوْلٍ کَعُو مَقَامٌ فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَّ مَعْمُوْلِیْنِ جَمَلٌ فَعْلِیَّہِ خَبْرِیَّہِ مَعْدُوْفٌ ہُو اِنَّ حَرْفَ تَحْقِیْنِ اللّٰہِاسِ کَالِاسْمِ عَلَیْہِ حَبِیْئٌ وَّ خَبْرٌ اِنَّ ہَا اِسْمٌ وَّخَبْرٌ جَمَلٌ اِسْمِیَّہِ خَبْرِیَّہِ مَعْلٰہِ ہُو ل۔

## ترکیب سُورَةُ السَّجْدَةِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلَمْ یُنزِّلْ الْکِتٰبَ لَارِیْبَ فِیْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

آیت نمبر ۱:۲۰: کہ خبر ہے مبتدا مخدوف ہلکا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئی تَنْزِیْلُ الْکِتَابِ ذوالحال لائمی جنس ریب اس کا اسم فنیہ جادہ باجرور کا کائن کے متعلق ہو کر خبر لائمی جنس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا، میں جادہ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ مرکب اضافی مجرد، جادہ باجرور کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

اَمْ یَقُولُوْنَ اَفْتَرٰهُ یٰۤاِبٰنُ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اٰتٰهُمْ مِنْ نَّذِیْرٍ مِّنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُوْنَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ مَا لَکُمْ مِنْ دُوْنِہِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیْعَ ؕ اَفَلَا تَتَذٰکُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳:۳۰: اَمْ یَقُولُوْنَ فعل باوا ضمیر فاعل قول، اَفْتَرٰهُ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لکن براے اضراب ہو ضمیر مبتدا الْحَقُّ ذوالحال من رَبِّکَ کا کائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لکن جادہ تحلیلہ اس کے بعد ان مقدم ہے تَنْذِیْرٍ مِّنْ قَبْلِکَ فعل لائمی خبریہ ذوالحال لکعل حرف تریقی ضمیر اس کا اسم فنیہ تَنْذِیْرٍ مِّنْ قَبْلِکَ فعل باوا ضمیر فاعل خبر لکعل با اسم و خبر جملہ انشائیہ تریبیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل قَوْمًا موصوف مانائیہ اَنْی فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، میں جادہ زائدہ لَنْذِیْرٍ موصوف من قَبْلِکَ جادہ باجرور کا کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت تَمَّار فاعل، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف با صفت تَنْذِیْرٍ کا مفعول بہ، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر متبادل مصدر مجرد، جادہ باجرور متعلق ہوئے تَنْزِیْلُ مَعْدَم کے، اَللّٰهُ مبتدا الَّذِیْنَ اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل السَّمٰوٰتِ مَعْطُوف علیہ، وَاو عاطفہ الْاَرْضِ مَعْطُوف ذل، وَاو عاطفہ مَا موصول یَنْتَهَمٰ مرکب اضافی مفعول فیہ ہو فعل مَعْدُومٌ حَبِیْبٌ کا، فعل با فاعل ومفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مَعْطُوف یعنی، مَعْطُوف علیہ با مَعْطُوفِیْنَ خَلَقَ کا مفعول بہ یعنی جادہ سِتَّةَ اَیَّامٍ مرکب اضافی یا یَمِیزُ ہائمی مجرد، جادہ باجرور متعلق ہوئے خَلَقَ کے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مَعْطُوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اسْتَوٰی فعل ہو مستتر فاعل عَلَی الْعَرْشِ جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مَعْطُوف، مَعْطُوف علیہ با مَعْطُوف صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لکن مانائیہ لکعلہ جادہ باجرور طرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں دُوْنِہِ جادہ باجرور کا کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم میں جادہ زائدہ مَوْجِبِ مَعْطُوف علیہ، وَاو عاطفہ لَزَادَہ شَفِیْعٍ مَعْطُوف، مَعْطُوف علیہ با مَعْطُوف ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال تَمَّار فاعل

مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ہمیں کا استفہامیہ فاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف لا یَنْظُرُونَ، لا یَنْظُرُونَ فعل ہاوا ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف ہمل انشائیہ مستانہ ہوں۔

**يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝**

**آیت نمبر ۵:** يُدْبِرُ فعل ہو مستتر فاعل الْأَمْرُ مفعول بہ مِنَ السَّمَاءِ جار مجرور متعلق ازل، اِلَى الْأَرْضِ جار مجرور متعلق ثانی، فاعل با قائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ یُعْرِجُ فعل ہو ضمیر ذوالحال فی جارہ یَوْمٍ موصوف کان فعل ناقص مِقْدَارُهُ مرکب اضافی اس کا اسم اَلْفَ سَنَةٍ مرکب اضافی موصوف مِنْ جَارِهِ مَا م موصول تَعُدُّونَ فعل ہاوا ضمیر فاعل صلہ، موصول بصلہ مجرور، جار مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ یَوْمِ کی صفت، موصوف ہفت مجرور، جار مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر حال بذوالحال با حال فاعل إِلَيْهِ جار مجرور متعلق ہوتے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے خَلَقَ کی ہو ضمیر سے، یا اسْتَوَى کی ہو ضمیر سے حال ہے۔ یا اللَّهُ کی خبر ہے۔

**ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝**

**آیت نمبر ۶، ۷، ۸:** ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدا، عَالَمُ مضاف الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر ازل، الْعَزِيزُ و دوسری خبر، الرَّحِيمُ خبر ثالث، الَّذِي اسم موصول أَحْسَنَ فعل ہو مستتر فاعل كُلَّ شَيْءٍ موصوف خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے ل کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ بَدَأَ فعل خَلَقَ مصدر مضاف الْإِنْسَانِ مضاف الیہ معنی مفعول بہ مِنْ طِينٍ جار مجرور متعلق، مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق بَدَأَ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ معطوف ازل، ثُمَّ عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل نَسْلَهُ مرکب اضافی مفعول بہ، مِنْ جَارِهِ سُلَالَةٍ موصوف مِنْ جَارِهِ مَاءٍ مَهِينٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مجرور، جار مجرور جَعَلَ کے متعلق، فعل با قائل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین الَّذِي کی کاسلہ، موصول بصلہ خبر رابع، مبتدا با خبر ازل، اسمیہ خبریہ ہوں۔

**ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ ۝ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝**

**آیت نمبر ۹:** ثُمَّ عاطفہ سَوَّاهُ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ نَفَخَ فعل ہو مستتر فاعل فِيهِ متعلق ازل، مِنْ رُوحِهِ متعلق ثانی سے ل کر معطوف ازل، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل لَكُمُ متعلق السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ

والاؤفدۃ معطوف علیہ بمعطوفین مفعول بہ، فعل بالفاعل، متعلق ومفعول بہ معطوف علیہ بمعطوفین جملہ معطوف ہوں  
 قلیلًا بواسطہ موصوف مخذوف تشکؤن کے مفعول مطلق مقدم ہاؤفہ تشکؤن فعل ہاؤفہ ضمیر فاعل ومفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ  
 خبریہ متاخر ہوں

وَقَالُوا اِعْرَاضًا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ عَاتَا لَفِي خَلْقِي جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۝

آیت نمبر ۱۰: واؤ استینانیہ قالوا فعل ہاؤفہ ضمیر فاعل قول، ہمزہ ہا استنبہا میرا اؤا اثر طبع مفعول فیہ مقدم ضَلَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل فی  
 اؤرض متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء مخذوف ہے نُبْعَثُ، شرط جزاء مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں  
 ہمزہ ہا استنبہا میرا ن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لامر ہمدق فی جادہ خَلْقِي جَدِيدٍ مرکب توصیفی مجرور، جادہ مجرور کاؤنوں کے متعلق  
 ہو کر خبر، مبتدا مجرور جزاء مخذوف کی تفسیر ہے بل برائے اضرب ہُو ضمیر مبتدا ہاؤ جادہ لِقَائِي رَبِّهِمْ مرکب اضافی مجرور، جادہ مجرور  
 متعلق مقدم کاؤنوں اسم فاعل ہُو متعلق فاعل، متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

آیت نمبر ۱۱: قُلْ فعل امر اؤت متعلق فاعل سے مل کر قول، يَتَوَفَّى فعل کُم ضمیر مفعول بہ مَلَكَ الْمَوْتِ مرکب اضافی موصوف  
 الَّذِي اسم موصول وُكِّلَ فعل مجہول فاعل ہُو متعلق فاعل بِكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ صفت، موصوف  
 باصفت فاعل، فعل بالفاعل ومفعول بہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ تُرْجَعُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل اِلَى رَبِّكُمْ متعلق مقدم سے مل  
 کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَرْبِنَا ابْصُرْنَا وَ سَمِعْنَا

فَاَرْجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ ۝

آیت نمبر ۱۲: واؤ استینانیہ لو تری لو شرطیہ تری فعل اؤت متعلق فاعل اؤ مضاف اِلْمُجْرِمُونَ مبتدا، نَاكِسُوا مضاف وُؤوسِهِمْ مرکب  
 اضافی، مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ خبر، مبتدا با خبر مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بالفاعل ومفعول فیہ جملہ فعلیہ  
 خبریہ ہو کر شرط، جزاء مخذوف ہے لو اؤت اَمْرًا عَظِيمًا، عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی کاؤنوں کا مفعول فیہ ہو کر حال ہے وُؤوسِهِمْ  
 کا ہمزہ ضمیر سے، یا نَاكِسُوا کا مفعول فیہ ہے۔ رَبِّنَا اصل یَا رَبِّنَا ہے اور یہ علامہ ہے ابْصُرْنَا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ،  
 واؤ عاطفہ سَمِعْنَا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جواب علامہ، علامہ با جواب علامہ قَائِلِينَ مخذوف کا مقولہ  
 ہو کر حال ہے وُؤوسِهِمْ کی ہمزہ ضمیر سے۔ فَاد فیمہ اور اس کی شرط مخذوف ہے اِذَا عَمَرْنَا فَنَاتَقْتَصِيرُ لَكَ تفسیر اِذَا جَعَلَ فعل امر اؤت  
 متعلق فاعل نا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لِنَعْمَلْ فعل نا ضمیر فاعل متعلق فاعل صَالِحًا مفعول بہ سے مل کر جزاء ہے  
 شرط مقدر اِن تُوَجِّعْنَا، اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم موصوف قَائِلِينَ خبر اِن، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىهَا وَ لَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

**آیت نمبر ۱۳:** واو عاطفہ کو شرطیہ شئنا فعل تاضمیر قائل سے مل کر شرط لاکر جوابیہ آتینا فعل تاضمیر قائل کل نفس مرکب اضافی مفعول بہ اول، ہذا اہا مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہولو واو عالیہ لیکن حرف استدراک مہمل حق فعل القول ذوالحال موقوع طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال قائل، فعل بافاعل حال ہے ہذا اھا سے لاکر موطن القوم اور قسم محذوف ہے املکن فعل تاضمیر قائل جہنم مفعول بہ من جملہ ما جنتہ والناس معطوف علیہ با معطوف مؤکد، اجتمعین تاکید، مؤکد ہا تاکیدی مجرور، جہا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اِنَّا نَسِينُكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۴:** فاء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے ان نسیینکم ہذا اگلے ذوقوا فعل امر واو ضمیر قائل بیاہ جملہ ما موصول نسیینکم فعل ثانی ضمیر قائل لقاء مضاف یومکم مرکب اضافی موصوف ہذا صفت، موصوف ہفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہولین حرف تحقیق تاضمیر اس کا اسم نسیینا فعل تاضمیر قائل کف ضمیر مفعول بہ سے مل کر خبر، ان یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانف ہولو واو عاطفہ ذوقوا فعل امر واو ضمیر قائل عذاب الخلد مرکب اضافی مفعول بہ بیاہ جملہ ما موصول کنتم فعل ناقص ثانی ضمیر اس کا اسم تعملون فعل اول واو ضمیر قائل صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** ان حرف تحقیق ما کا نہ یؤمن فعل باایاتنا جہا مجرور متعلق ہوئے الذین نام موصول اذا شرطیہ مفعول بہ مقدم، ذکروا فعل مجہول ہادوا ضمیر نائب قائل یہا متعلق سے مل کر شرط، خروا فعل واو ضمیر ذوالحال سجد احال ذوالحال باحال قائل، فعل بافاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ سبحوا فعل واو ضمیر ذوالحال بحمدا ربہم جہا مجرور متعلق سبین کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال قائل واو عالیہ ہم ضمیر مبتدئہ لا ینسبکروا فعل ہادوا ضمیر قائل خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ثانی ہے سبحوا کی واو ضمیر قائل سے، فعل بافاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء صلہ، موصول ہاصلہ یؤمن کا قائل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوں۔

تَجَافَى جُؤُوبَهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ يَذْعُون رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۶﴾

**آیت نمبر ۱۶:** تَجَافَى نفل جُؤُوبَهُمْ مرکب اضافی قائل عن الْمَصَاجِعِ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستوف ہوں یَذْعُون نفل واؤ ضمیر قائل رَبَّهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ خَوْفًا وَ طَمَعًا معطوف علیہ ہا معطوف مفعول لہ، نفل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ من جادہ مآسم موصول و رَزَقْنَا نفل نا ضمیر قائل ہُمہ ضمیر مفعول بہ سے ل کر صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق مقدم یُنْفِقُونَ نفل ہا واؤ ضمیر قائل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستوف ہوں

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

**آیت نمبر ۱۷:** قاء نصیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے ان آزَادًا اَسَدًا اَنْ يَّعْلَمَ مَا اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ، لَا تَعْلَمُ نفل نفس قائل مآسم موصول اخْفِيَ نفل ہو مستتر نائب قائل لَهُمْ متعلق سے ل کر صلہ، موصول ہا صلہ ذوالحال من جادہ قُرَّةِ اَعْيُنٍ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور رکب کا متعلق ہو رکال ذوالحال ہا حال مفعول بہ، نفل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاہ، شرط ہا جزاہ جملہ شرطیہ ہوں جَزَاءُ مصدر بئام جادہ مآسم موصول کا نوا نفل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم یَعْمَلُونَ نفل ہا واؤ ضمیر قائل خبر، نفل ناقص ہا اسم و خبر صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے، مصدر ہا متعلق مفعول لہ ہوا نفل مخدوف جُؤُوزًا کا۔

اَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۸﴾

**آیت نمبر ۱۸:** ہمز کا استفہامی قاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے تقدیر عمدت ہے اَيَّ يَسْتَوِي وَلِيَّ اللهُ وَعَدُوُّ اللهِ، مَن اسم موصول کان نفل ناقص ہو مستتر م مؤمِنًا خبر سے ل کر صلہ، موصول ہا صلہ مبتدا، کان جادہ مَن اسم موصول کان نفل ناقص ہو مستتر م فاسِقًا خبر سے ل کر صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جادہ با مجرور رکب کا متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستوف انتہائی ہوں لَا يَسْتَوُونَ نفل ہا واؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ الْاٰمَآءِ يُزَلُّوْنَ اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا فَلَهُمْ جَنَّٰتُ الْاٰمَآءِ يُزَلُّوْنَ ﴿۱۹﴾

**آیت نمبر ۱۹:** اَمَّا حرف شرط و تقصیل الَّذِينَ اٰمَنُوا اسم موصول اَمَنُوا نفل ہا واؤ ضمیر قائل معطوف علیہ، واؤ عاطفہ عَمِلُوا نفل واؤ ضمیر قائل الصَّٰلِحٰتِ مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف صلہ، موصول ہا صلہ مبتدا معتمن معنی شرط، قاء جزائیہ لہمہ جادہ با مجرور رکب کا متعلق ہو کر خبر مقدم جَنَّٰتِ الْاٰمَآءِ مرکب اضافی ذوالحال نُزَلُّوْنَ موصول بئام جادہ موصول کا نوا نفل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم یَعْمَلُونَ نفل ہا واؤ ضمیر قائل خبر، نفل ناقص ہا اسم و خبر صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جادہ با مجرور رکب کا متعلق ہو کر صفت، موصول ہا صفت حال ذوالحال ہا حال مبتدا، مؤخر، مبتدا با خبر مبتدا اول کی خبر قائم مقام جزاہ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَ  
قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۲۰:** واو عطف لہر ماضی شرط و تفصیل اللّٰذِیْنَ اسم موصول فَسَقُوا فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مبتدا قائم مقام شرط مقامہ جزائیہ مآوہم مرکب اضافی مبتدا، النَّارُ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اہل کی خبر قائم مقام جزائیہ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لکن ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم، اَرَادُوا فعل واو ضمیر فاعل اَنْ ناصب یَخْرُجُوا فعل واو ضمیر فاعل مِنْهَا متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مفعول یہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اُعِيدُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل فیہا متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عطف قیل فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل لہم متعلق سے مل کر قول، ذُوقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل عَذَابِ النَّارِ مرکب اضافی موصوف اللّٰذِیْنَ اسم موصول کُنْتُمْ فعل ناقص شہ ضمیر اس کا اسم بہ جملہ باخبر متعلق مقدم تَکْذِیْبُونَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہفت ذُوقُوا کا مفعول یہ، فعل بافاعل و مفعول یہ مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزائیہ، شرط باجزائیہ جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَنْذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلْوَنِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** واو عطف لہر ماضی شرط اور قسم محذوف ہے لَنْذِيْقَنَّ فعل نَحْنُ متشرفا فعل ہم ضمیر مفعول بہ صون جاہہ الْعَذَابِ الْأَلْوَنِ مرکب توصیفی مجرور، جاہ باخبر در کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم دُونَ مضاف الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو لکن حرف تہیٰ ہم ضمیر اس کا اسم یَرْجِعُونَ فعل باو ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطلہ ہو۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲:** واو استثنائیہ من اسم استفہام مبتدا اَظْلَمُ اسم تفصیل ہو متشرفا فعل صون جاہہ من اسم موصول ذُكِّرَ فعل مجہول ہو متشرفا فاعل بِآيَاتِ رَبِّهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عطف اَعْرَضَ فعل ہو متشرفا فاعل عَنْهَا متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہ باخبر در متعلق ہوئے، اسم تفصیل بافاعل و متعلق شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو لکن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مُنتَقِمُونَ اسم فاعل نَحْنُ متشرفا فعل صون الْمُجْرِمِينَ متعلق مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿ ۲۲ ﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿ ۲۱ ﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۲۳﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يُهْتَدُونَ بِأَمْرِ نَاكِلًا صِدْقًا وَآءُ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿۲۴﴾





### أَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۷﴾

**آیت نمبر ۲۷:** ہمزہ استہمامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے **أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَلَمْ يَرَوْا بِمَعْنَى لَمْ يَعْلَمُوا** فعل واو ضمیر قائل **أَنْ** حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم **شَوْقُ** فعل تَخَنُّنٌ ضمیر مستتر قائل **أَلَمْ يَرَوْا** بہ لای جارہ **الْأَرْضِ** الجُزْءِ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ہوتے، فعل با قائل و معطوف بہ و متعلق معطوف علیہ، **فَاءَ** عاطفہ تُخْرِجُ فعل تَخَنُّنٌ مستتر قائل بہ جار مجرور متعلق ہوتے **زَكَامُ** موصوف تَكَلُّمٌ فعل مَبْنِيَةٌ جار مجرور متعلق ہوتے **أَلْعَامُ** مَرْكَبُ اِضْطِغَابٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ **أَنْفُسُهُمْ** مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف قائل، فعل با قائل و متعلق صفت، موصوف بہ صفت تُخْرِجُ کا مفعول بہ، فعل با قائل و معطوف بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف **أَنْ** کی خبر، **أَنْ** با اسم و خبر بتاویل مفرد لَمْ یَرَوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با قائل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متساوی ہول ہمزہ کا استہمامیہ **فَاءَ** عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے **أَلَا يُبْصِرُونَ أَنْفُسَهُمْ**، **لَا يُبْصِرُونَ** فعل باو واو ضمیر قائل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متساوی ہول

### وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۸﴾

**آیت نمبر ۲۸:** واو استہمامیہ **يَقُولُونَ** فعل باو واو ضمیر قائل قول، معنی استہمامیہ **كَانُوا** کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم **هَذَا الْفَتْحُ** مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** فعل ناقص **بِاسْمِ** و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور اس کی جڑ **مَحذُوفٌ** ہے **فَبَيِّنُوا** التَّائِبِينَ وَفَتَنَهُ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہول

### قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۲۹﴾

**آیت نمبر ۲۹:** قُلْ فعل امر با **أَنْتَ** مستتر قائل قول ہول **يَوْمَ الْفَتْحِ** مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم **لَا يَنْفَعُ** الَّذِينَ كَفَرُوا موصول ہاصلہ مفعول بہ مقدم **إِيْمَانُهُمْ** مرکب اضافی قائل، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ **هُمْ** ضمیر مبتدأ **لَا يُنْظَرُونَ** فعل مجہول باو واو ضمیر نائب قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہول

### فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۳۰:** **فَاءَ** ضمیر امر اس کی شرط محذوف ہے **إِذَا عَزَمْتَ** كَالْهَمِّ وَمَا لِيَهُمْ، **أَعْرِضْ** فعل امر **أَنْتَ** مستتر قائل **عَنْهُمْ** متعلق سے ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ **انْتَظِرْ** فعل امر **أَنْتَ** مستتر قائل سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہول **إِنْ** حرف تحقیق **هُمْ** ضمیر اس کا اسم **مُنْتَظَرُونَ** خبر، **إِنْ** با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہول

## ترکیب سُورَةِ الْأَحْزَابِ

● رُكُوعٌ ۱ ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

آیت نمبر ۱: ۳۳:۱۔ ۳۳:۴: یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ۝ علم ہے اتقی فعل امر آتت مستتر ناعل اللہ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لا تَطِيعُ فعل نہی آتت مستتر ناعل الکافرین و المنافقین معطوف علیہ بمعطوف مفعول بہ، فعل ہاقاعل و مفعول بہ جملہ انطیعیہ معطوف اول، واو عاطفہ اتَّبِعْ فعل امر آتت مستتر ناعل ما کم موصول یوحی فعل مجہول ہو مستتر نائب قاعل الیک متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہاسلہ ذوالحال من رَبِّكَ کا کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہاقاعل مفعول بہ، فعل ہاقاعل و مفعول بہ جملہ انطیعیہ امریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ تَوَكَّلْ فعل امر آتت مستتر ناعل عَلَى اللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ انطیعیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ بمعطوفات ثلاثہ جراب علم، علم، علم ہاجواب علم، جملہ انطیعیہ نمائندہ ہوں۔

۱۔ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اسم عَلِيمًا حَكِيمًا اس کی دو خبر، فعل ناقص ہا اسم دو خبریں ان کی خبر، ۲۔ اِنَّ بِاِسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہولین حرف تحقیق اللہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم بناء جارہ ما کم موصول تَعْمَلُونَ فعل باوا ضمیر ناعل صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جارہ مجرور متعلق مقدم حَبِيرًا صیغہ صفت ہا ہو مستتر ناعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص ہا اسم دو خبر ان کی خبریں ان ہا اسم دو خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں واو استینافہ کفٰی فعل بناء جارہ ذلک ما اللہ مرفوع علما قاعل و کفٰی تمیز، فعل ہاقاعل و تمیز جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَرْوَا جِكُمْ اَلْسِنِي تَظْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اَمْهَتِكُمْ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَ اَللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝

آیت نمبر ۳: ۳۳:۳۔ ۳۳:۴: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ ۚ جارہ مجرور متعلق ہوں من قَلْبَيْنِ موصوفی جَوْفِهِ کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل ہاقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا تَظْهَرُونَ فعل ہو مستتر ناعل اَرْوَا جِكُمْ مرکب اضافی موصوف اَلْسِنِي موصول بتکھا ہون فعل واو ضمیر ناعل مِنْهُنَّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ صفت، موصوف ہفت مفعول بہ اول اَمْهَتِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل ہاقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ مَا تَقُوْلُ حَقَّ فعل ہو مستتر ناعل اَدْعِيَاءَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اول اَبْنَاءَكُمْ مرکب

اضانی مفعول بہ یعنی سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف یعنی معطوف علیہ با معطوفین جملہ متصرف ہوں۔ اَلْاَنْحٰرُ اسم اشدہ مبتدأ، وَقَوْلُكُمْ مرکب اضانی ذوالحال بآء جادہ اَوْ اَوْ اِحْکُمُ مرکب اضانی مجرور، جادہ با مجرور ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال باحال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو استثنائیہ اَللّٰهُ مبتدأ، يَقُوْلُ فعل ہو مستتر قائل الْحَقُّ بواضع موصوف محذوف اَلْقَوْلِ کے مفعول مطلق، فعل با قائل و مفعول مطلق خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدأ، يَهْدِيْ فعل ہو مستتر قائل اَلْاَنْحٰرِ مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متصرف ہوں۔

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ عِ قٰن لَمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ مَوٰلِيْكُمْ ؕ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ ؕ وَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

آیت نمبر ۵: اُدْعُوْا فعل امر واو ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ لِاٰبَائِهِمْ متعلق سے ل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ هُوَ ضمیر مبتدأ، اَقْسَطُ اسم تفضیل ہو مستتر ذوالحال عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضانی کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال باحال قائل، اسم تفضیل با قائل خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں، فاء استثنائیہ اِنْ شرطیہ لَمْ تَعْلَمُوْا فعل واو ضمیر قائل اٰبَاءَهُمْ مرکب اضانی مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اِخْوَانُكُمْ مرکب اضانی ذوالحال فی الدِّيْنِ کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ مَوٰلِيْكُمْ مرکب اضانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر ہے مبتدأ محذوف هُوَ کی، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، واو عاطفہ لَيْسَ فعل ناقص عَلَيْكُمْ کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، جُنَاحٌ موصوف فی جادہ مآ موصولہ اَخْطَاْتُمْ فعل ثم ضمیر قائل بہ متعلق سے ل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ با مجرور کائنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت لَيْسَ کلام موخر، لَيْسَ با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں، واو عاطفہ لٰكِنْ حرف استدراک مہمل مآ اسم موصول تَعَمَّدَتْ فعل قُلُوْبُكُمْ مرکب اضانی قائل سے ل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ اور خبر محذوف ہے لَوْ اَخْذَلُوْنَ بہ مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو استثنائیہ اِنْ کان فعل ناقص اَللّٰهُ اس کا اسم غَفُوْرًا رَّحِيْمًا اور خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ن جملہ فعلیہ خبریہ متصرف ہوں۔

اَلَّذِيْنَ اٰوٰلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُمْ اَمْهَتُهُمْ ؕ وَ اُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى اَوْلِيٰيْكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كٰنَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

آیت نمبر ۶: اَلَّذِيْنَ مبتدأ، اَوْلٰى اسم تفضیل ہو مستتر قائل بِالْمُؤْمِنِيْنَ جادہ با مجرور متعلق اول مِنْ اَنْفُسِهِمْ جادہ با مجرور متعلق یعنی اسم تفضیل با قائل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو عاطفہ اَزْوَاجُهُمْ مرکب اضانی مبتدأ، اَمْهَتُهُمْ مرکب اضانی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں، واو عاطفہ اُولُو الْاَرْحَامِ مبتدأ، اَوْلٰى بَعْضُهُمْ بَعْضٍ متعلق اضانی مبتدأ یعنی اسم تفضیل ہو مستتر قائل بِبَعْضٍ جادہ با مجرور متعلق اول، فی کتاب اللہ جادہ با مجرور متعلق یعنی، مِنْ جادہ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ



علیہ، مقام عاقلہ آرسلنا فعل نا ضمیر فاعل علیہم جار مجرور متعلق یوحنا معطوف علیہ، و او عاقلہ جُنُودًا موصوف لَمْ تَكْرَهُوا لعل و لا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف ہاضف الیہ اُدْکُرُوا کا مفعول فیہ، فعل امر باقاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جواب عامہ، عامہ باجواب عامہ جملہ انشائیہ ثانیہ ہو۔ و او عاقلہ کان فعل ناقص اَللّٰهُ اس کا اسم پناہ جار معاً اسم موصول تَعْمَلُونَ فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ہوئے بَصِيْرًا کے بَصِيْرًا صیغہ صفت ہو ضمیر فاعل، صیغہ صفت باقاعل و متعلق خبر، کان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**اِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونًا ۝۱۰**

**آیت نمبر ۱۰:** اِذْ مضاف جَاءُوا فعل باو ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ فَوْقِكُمْ جار مجرور معطوف علیہ، و او عاقلہ مِنْ جار مجرور متفضیل اسم تفضیل ہو ضمیر فاعل مِنْكُمْ جار مجرور متعلق، فعل باقاعل و متعلق مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف متعلق، فعل باقاعل و مفعول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف ہاضف الیہ معطوف علیہ، و او عاقلہ اِذْ مضاف زَاغَتِ فعل اَلْأَبْصَارُ فاعل، فعل باقاعل معطوف علیہ، و او عاقلہ بَلَغَتِ فعل الْقُلُوبُ فاعل اَلْحَنَاجِرَ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اِذْ و او عاقلہ تَظُنُّونَ فعل باو ضمیر فاعل بِاللّٰهِ جار مجرور متعلق اَلظُّنُونًا مفعول مطلق، فعل باقاعل و متعلق مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہیں، معطوف علیہ ہا معطوفین اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف ہاضف الیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف ہل بہ اِذْ جَاءَكُمْ کُمْ سے۔

**هٰذَا لِكِ الْبَئِثِ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝۱۱**

**آیت نمبر ۱۱:** هٰذَا لِكِ اسم اشارہ علام منصوب مفعول فیہ مقدم اَلْبَئِثِ فعل مجہول اَلْمُؤْمِنُونَ نائب فاعل، فعل مجہول ہا نائب فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاقلہ زُلْزِلُوا فعل مجہول باو ضمیر نائب فاعل زِلْزَالًا شَدِيدًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متناہ ہو۔

**وَ اِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اِلَّا غُرُورًا ۝۱۲**

**آیت نمبر ۱۲:** و او عاقلہ اِذْ مضاف يَقُولُ فعل الْمُنْفِقُونَ معطوف علیہ، و او عاقلہ الَّذِينَ اِسْم موصول فی قُلُوبِهِمْ ظرف مستقر جَبَّتْ کے متعلق ہوئے، مَرَضٌ فاعل تینوں مل کر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف فاعل، فعل باقاعل قول، مآنانیہ وَعَدَ فعل نا ضمیر مفعول بہ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ معطوف علیہ ہا معطوف فاعل، اِلَّا حرف استثناء غُرُورًا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ مقولہ، قول ہا مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ ہے۔







فعلیہ خبریہ ہوں۔ فقہ استینائیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل الْخَوْفِ فاعل سے مل کر شرط، وَآيَاتٍ فعل تاء متنوعہ فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اذَلْ يَنْظُرُونَ فعل واو ضمیر زوالحال تَدَوُّوا فعل اَعْيُنُهُمْ مرکب اضافی فاعل کات جلدہ الَذِيں اسم نوصول يُغْشَى فعل مجہول عَلَيْهِ جلدہ باجر ورتاب فاعل مِنَ الْعَوْبِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جلدہ باجر ورتاب کا تَمَاتُ کے متعلق ہو کر تَدَوُّوا کا موصوفہ حذف کے واسطے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق حال، ذوالحال باحال فاعل اَلَيْكَ جلدہ باجر ورتاب متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ فقہ عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ذَهَبَ فعل الْخَوْفِ فاعل سے مل کر شرط، سَلَقُوا فعل واو ضمیر زوالحال اَبْحَثَةَ صیغہ صفت باھم متصرف فاعل عَلَي الْخَيْرِ متعلق سے مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل تَاء جلدہ اَلَيْسَتْ وَجَدَ اِدْرِكُ تَوْصِيْفِي مجرور، جلدہ باجر ورتاب متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ، و متعلق جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ اُولَئِكَ اسم اشدہ مبتدأ، لِيُصَوِّوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ، فقہ عاطفہ اَحْبَطَ فعل اَللّٰهُ فاعل اَعْمَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ باعطف خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ اَوْ اَوْ اَعْرَابِيَةٍ كَانِ ناقصہ، ذُلِكَ اس کا اسم یَسِيْرٌ اَسِيْد صیغہ صفت هُوَ متصرف فاعل عَلَي اللّٰهِ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

يَخْسَبُونَ الْأَعْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۚ وَإِنْ يَأْتِ الْأَعْرَابُ يَوَدُّوْا لَوِ أَنَّهُمْ يُادُّونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَابِكُمْ ۚ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيْلًا ۝

**آیت نمبر ۲۰:** يَخْسَبُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْأَعْرَابِ مفعول بہ اذَلْ لَمْ يَذْهَبُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستأنف ہوں۔ اَوْ عاطفہ ان شرطیہ یَأْتِ فعل الْأَعْرَابِ فاعل سے مل کر شرط، يَوَدُّوْا فعل واو ضمیر فاعل لَوْ شرطیہ اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم یَادُّونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال فی الْأَعْرَابِ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر اذَلْ يَسْأَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل عَنْ اَسْبَابِكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر دوم، اَنْ ہا اسم و خبرین بتاویں مصدر فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے۔ لَكِنَّ خَيْرًا (مظہری) شرط باجزاء محذوف منصوب يَوَدُّوْا کا مفعول بہ یعنی مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ معطوف ہوں۔ اَوْ عاطفہ لَوْ شرطیہ كَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم فِيكُمْ كَاتِبِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، مَتَانِيْ قَاتَلُوْا فعل واو ضمیر فاعل اِلَّا حرف استثناء قَلِيْلًا بواسطے موصوفہ محذوف مَتَانِيْ کے مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

﴿ رُكُوْعٌ نَّمْبِرٌ ۳ ﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا ۝

**آیت نمبر ۲۱:** لآء موطء للقم اور قسم محذوف ہے۔ قَدْ علامت فعل كان فعل ناقص لَكُمْ جلدہ باجر ورتاب مبدل متلازم جلدہ مَعْنِ اسم موصول كان فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم يَرْجُوْا فعل هُوَ مستتر فاعل اَللّٰهُ معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ اَلْيَوْمِ الْآخِرِ : الْآخِرِ مرکب توصیفی معطوف،

معتوف علیہ ہا معتوف مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ خبر، فعل ناقص با اسم وخبر جملہ فعلیہ خبریہ معتوف علیہ، واو عاطفہ ذکر کون فعل ہو  
مستتر فاعل اللہ مفعول بہ، کثیر الباطن موصوف محدود ذکر کیا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل ومفعولین معتوف، معتوف علیہ ہا معتوف  
صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہد باجر و بدل، مبدل منہ باہل کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی رسول اللہ کائنات کے متعلق ہو کر حال  
مقدم اُسوۃ حسنۃ مرکب تو صیغی زوال حال موخر ذوال حال باحال اسم موخر، فعل ناقص با اسم وخبر جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ  
تسمیہ ہو۔

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ﴿۲۲﴾ وَقَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

آیت نمبر ۲۲: واو عاطفہ لکنا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ہوا فی فعل الْمُؤْمِنُونَ فاعل الْأَحْزَابِ مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ  
خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فعل یاد ضمیر فاعل قول، هَذَا اسم اشارہ مبتدأ، مَا اسم موصول وَعَدَ فعل ناقص مفعول بہ مقدم اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
معتوف علیہ ہا معتوف فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معتوف علیہ، واو عاطفہ صَدَقَ فعل اللہ وَرَسُولُهُ معتوف علیہ  
ہا معتوف فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معتوف اِذْ، واو عاطفہ مَا نافی زائد فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اِذْ، الْا حَرْف  
استفہام اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا معتوف علیہ ہا معتوف مفعول بہ، یعنی، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معتوف یعنی، معتوف علیہ  
ہا معتوفین صلہ، موصول ہاصلہ هَذَا کی خبر، مبتدأ باجر مقولہ، قول ہا مقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ

مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ظرف مستتر کائون کے متعلق ہو کر خبر مقدم رِجَالٌ موصول صَدَقُوا فعل واو ضمیر  
فاعل مَا اسم موصول عَاهَدُوا فعل واو ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ عَلَيْهِ متعلق سے ل کر صلہ، موصول ہاصلہ صَدَقُوا کا مفعول بہ، فعل  
بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتدأ موخر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لفاء تقریریہ مِنْهُمْ کائون  
کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِّنْ اسم موصول قَضَىٰ فعل ہو مستتر فاعل نَحْبَهُ مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر صلہ، موصول ہاصلہ  
مبتدأ موخر، مبتدأ باجر معتوف علیہ، واو عاطفہ مِنْهُمْ کائون کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِّنْ اسم موصول يَنْتَظِرُ فعل ہو مستتر فاعل سے  
ل کر صلہ، موصول ہاصلہ مبتدأ موخر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ معتوف اِذْ، واو عاطفہ مَا نافی بَدَّلُوا فعل واو ضمیر فاعل تَبْدِيلًا مفعول  
مطلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معتوف، یعنی، معتوف علیہ ہا معتوفین جملہ معتوفہ ہو۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: لآہ جارہ تعلق لے جزی فعل اللہ فاعل الصَّادِقِينَ مفعول بہ بِصِدْقِهِمْ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ

معتوف علیہ، واو عاطفہ رُعِدَ بِ لُفْلُہُ مستتر قائل اَلْمُتَأَفِّقِينَ مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معتوف علیہ، واو عاطفہ یُتَوَّبُ لُفْلُہُ مستتر قائل عَلَیْہُمْ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معتوف، معتوف علیہ بمعطوف وال بر جرمانہ ان شرطیہ شائد لُفْلُہُ مستتر قائل سے ل کر شرط، شرط وال بر جرمانہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف بتاویل مصدر مجرور، جملہ مجرور متعلق ہوا لُفْلُہُ محذوف وَفَعَّ جَمِیعُ مَا وَفَعَّ کَا، لُفْلُہُ ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہولیان حرف تَحْمِینُ اَللّٰہِ کَا اسم کان لُفْلُہُ ناقص غَفُوْا وَرَجِیْنَا س کی دو خبر، لُفْلُہُ ناقص ہا اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَرَدَّ اَللّٰهُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِغَیْظِہُمْ لَمْ یَنَالُوْا حَیْرًا ۗ وَ کَفٰی اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ الْقِتَالَ ۗ وَ کَانَ اللّٰهُ قَوِیًّا عَزِیْزًا ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: واو استینایہ رَدَّ لُفْلُہُ اَللّٰهُ قائل الَّذِیْنَ اسم موصول کَفَرُوْا لُفْلُہُ واو ضمیر ذوالحال ہا جار و حَیْظِہُمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور کَائِدِیْنَ کے متعلق ہو کر حال اِذْ لَمْ یَنَالُوْا لُفْلُہُ واو ضمیر قائل حَیْرًا مفعول بہ، لُفْلُہُ ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ثانی ذوالحال ہا لیس قائل، لُفْلُہُ ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہا صلہ رَدَّ کَا مفعول بہ، لُفْلُہُ ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متاثر ہوں واو عاطفہ کَفٰی لُفْلُہُ اَللّٰهُ قائل اَلْمُؤْمِنِیْنَ مفعول بہ اِذْ لَمْ یَنَالُوْا لُفْلُہُ ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ کان لُفْلُہُ ناقص اَللّٰہِ کَا اسم قَدْ یَا عَزِیْزًا اس کی دو خبر، لُفْلُہُ ناقص ہا اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَ اَنْزَلَ الَّذِیْنَ ظَاہَرُوْهُم مِّنْ اَہْلِ الْکِتٰبِ مِنْ صَیِّآصِیْہِہُمْ وَ قَدَّتْ فِیْ قُلُوْبِہُمْ الرُّعْبَ فَرِیْقًا تَقْتُلُوْنَ وَ تَاسِرُوْنَ فَرِیْقًا ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واو عاطفہ اَنْزَلَ لُفْلُہُ مستتر قائل الَّذِیْنَ اسم موصول ظَاہَرُوْا لُفْلُہُ واو ضمیر ذوالحال ہا مِنْ اَہْلِ الْکِتٰبِ ظرف مستقر کَائِدِیْنَ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہا قائل اَنْزَلَ لُفْلُہُ ضمیر مفعول بہ مِنْ صَیِّآصِیْہِہُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، لُفْلُہُ ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معتوف علیہ، واو عاطفہ قَدَّتْ لُفْلُہُ مستتر قائل فِیْ قُلُوْبِہُمْ جار مجرور متعلق الرُّعْبَ مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوف ہوں تَقْتُلُوْنَ لُفْلُہُ واو ضمیر قائل قَدَّتْ فَرِیْقًا مفعول بہ مقدم سے ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تَاسِرُوْنَ لُفْلُہُ واو ضمیر قائل قَدَّتْ فَرِیْقًا مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معتوف، معطوف علیہ بمعطوف قُلُوْبِہُمْ کی ضمیر سے حال

وَ اَوْرَثْکُمْ اَرْضَہُمْ وَ دِیَارَہُمْ وَ اَمْوَالَہُمْ وَ اَرْضًا لَمْ تَنظُوْہَا ۗ وَ کَانَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرًا ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: واو عاطفہ اَوْرَثْ لُفْلُہُ مستتر قائل لُفْلُہُ ضمیر مفعول بہ اِذْ لَمْ تَنظُوْہُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ دِیَارَہُمْ مرکب اضافی معطوف اِذْ لَمْ تَنظُوْہُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَرْضًا موصوف لَمْ تَنظُوْہُمْ لُفْلُہُ واو ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ سے ل کر مفت، موصوف ہفت معطوف ثلاث، معطوف علیہ بمعطوفات ثلاث مفعول بہ ثانی، لُفْلُہُ ہا قائل

ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ آنکول پر معطوف ہے واول استثنائیہ کان فعل ناقص اللہ اس کلام قدیدر امینہ صفت ہو مستتر فاعل علی کن  
تھی یہ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَبِّي خَيْرٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۲۸﴾

**آیت نمبر ۲۸:** یاء حرف ندا ادعو کے قائم مقام ہائی موصوف ہا برائے تمییز النبی صفت، موصوف ہا صفت موصوف ہا  
مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، قُل امر بالآت مستتر فاعل لا کون لای کون لای شریطہ کننن  
فعل ناقص مع اسم بتوذن فعل نون مفتوحہ فاعل الخیوة الدنیامرکب توصیفی معطوف علیہ واول عاطفہ زینتہا مرکب اضافی  
معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ تکالین فعل امر باتون مفتوحہ  
فاعل جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شریطہ مقول، قول بالمقولہ جواب نداء، ہا جواب نداء جملہ انشائیہ ہوا امتنع فعل مضارع  
مجروم آنا مستتر فاعل کن ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ واول عاطفہ اسیخ فعل آنا مستتر فاعل کن ضمیر مفعول بہ سوا حاکم جیلا  
مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جزاء اور اس کی شرط محذوف ہے ان تکالین، شرط باجزاء جملہ  
شرطیہ ہوں

وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْجَنَّةِ الْكَبْرَىٰ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا الْأُولَىٰ وَمَنْ يُضِلَّهُمْ رَبُّهُمْ يَأْتِ الْكَلْبَ الْمَوْسِيُّ وَسُقْيَاهُ يُسْقَاهُ مِنْ عَيْنٍ فَاحِشَةٍ ﴿۲۹﴾

**آیت نمبر ۲۹:** واول عاطفہ طرفان شریطہ کننن فعل ناقص نون مفتوحہ اس کلام بتوذن فعل نون مفتوحہ اس کا فاعل اللہ معطوف  
علیہ واول عاطفہ رسولہ مرکب اضافی معطوف اول، واول عاطفہ الدار الاخریہ مرکب توصیفی معطوف ثانی، معطوف علیہ بمعطوفین خبر،  
فعل ناقص ہاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق اللہ اس کلام اعد فعل ہو مستتر فاعل لادہ جادہ الف لام اسم  
موصول محسنات اسم فاعل هن ضمیر مسترز وال حال منکن طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، اسم فاعل  
بافاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جملہ مجرور متعلق اجزا اعظیمیامرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل ومطلق ومفعول بہ ان کی خبر، ان با  
اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شریطہ معطوف ہوں

يُنْسَاءُ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُم بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَآو  
كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۳۰:** یاء حرف ندا ادعو کے قائم مقام، ادعو فعل آنا مستتر فاعل نساء النبي مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل  
ومفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، من اسم شرط مبتدئ یات فعل ہو مسترز وال حال منکن طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال

فَاعْلَمْ يَوْمَئِذٍ أَنَّ مَرْكَبَ تَوْصِيفِي جَرُورٌ، جَدُّ بَاجِرٌ وَرَ مَطْلِقٌ، فَعَلُّ بِإِطْلَاقِ مَجْمُوعِ جُزْئِيهِ شَرْطٌ، وَيَضَافُ عَافٌ لِعَلِّ مَجْمُوعِ لَهَا مَطْلِقٌ الْعَدَابُ، نَائِبٌ قَاعِلٌ ضَعْفَيْنِ مَطْلِقٌ سَعَلٌ كَرَجَاهُ، شَرْطٌ بِإِجْرَاهُ، مَجْمُوعٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ كَمَنْ كِي خَيْرٌ، مَبْتَدَأُ خَيْرِ مَجْمُوعِ خَيْرِيَّةٍ جَوَابٌ عَدَاهُ، عَدَاهُ بِإِجْرَابِ عَدَاهُ، مَجْمُوعٌ انشائيَّةٌ عَدَائِيَّةٌ هُوَ.

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** او استانیہ من اسم شرط مبتدا، يَقْنُتْ فعل هو مستتر، وال حال مِنْكُمْ كائنا ما متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قاعِل لآء جده اللہ ورسوله معطوف علیہ بمعطوف جَرُورٌ، جَدُّ بَاجِرٌ وَرَ مَطْلِقٌ، فعل باقاعِل و متعلق معطوف علیہ، و او عاطفہ تَعْمَلْ فعل ہی مستتر قاعِل صالِحًا مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف شَرْطٌ، نُؤْتِهَا فعل نَحْنُ مستتر قاعِل ہا ضمیر مفعول بہ اول، أَجْرَهَا مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، مَرَّتَيْنِ مفعول مطلق عدوی سے ل کر معطوف علیہ، و او عاطفہ أَعْتَدْنَا فعل تا ضمیر قاعِل لَهَا متعلق رِزْقًا کریمًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل باقاعِل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جَرَاهُ، شَرْطٌ بِإِجْرَاهُ مَن كِي خَيْرٌ، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لِنِسَاءِ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۲:** بیام حرف تمام اذْعُو فعل انا مستتر قاعِل نِسَاءَ النَّبِيِّ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقاعِل و مفعول بہ جملہ انشائیہ عَدَاهُ، نِسَاءُ نون مفتوحہ اس کا اسم، کاف جده احدی موصوف مِنَ النِّسَاءِ کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت جَرُورٌ، جَدُّ بَاجِرٌ وَرَ کائینات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جواب عَدَاهُ، عَدَاهُ بِإِجْرَابِ عَدَاهُ، مَجْمُوعٌ انشائیہ ہوں، لِنِسَاءِ شَرْطِيَّةٌ اتَّقَيْتُنَّ فعل نون مفتوحہ قاعِل سے ل کر شرط، فَاء جَزَائِيَّةٌ لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ کی تقدیر عبارت ہو گی لَا يَكُنْ مِنْكُمْ خَضَعُ الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ (اگر یہ تقدیر عبارت نہ نکالیں تو خبر کا عطف انشائیہ لازم آئے گا لَا يَكُنْ فعل ناقص مِنْكُمْ كائنا ما متعلق ہو کر خبر مقدم، خَضَعُ الْقَوْلِ مرکب اضافی مفعول علیہ، فَاء عاطفہ طَمَعَ مضاف الی الذی اسم موصول فی قَلْبِهِ کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَرَضٌ مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، و او عاطفہ قُلْنَ فعل امر نون مفتوحہ قاعِل قَوْلًا مَعْرُوفًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل باقاعِل و مفعول مطلق معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جَرَاهُ، شَرْطٌ بِإِجْرَاهُ، مَجْمُوعٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

## وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واو عطفہ قَرْنَ فعل امر لون مفتوحہ قائل فی یُؤْتِيَنَّكَ مَتَلَق سے ل کر معطوف علیہ، واو عطفہ لَآيِبْرَ حَجْنَ فعل نیا لون مفتوحہ قائل تَبْرُجْ مضاف الْجَاهِلِيَّةَ الْاُولَى مرکب توصیلی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول مطلق، فعل ہا قائل ومفعول مطلق معطوف اول، واو عطفہ اَيَّوْنَ فعل لون مفتوحہ قائل الصَّلَاةَ مفعول بہ سے ل کر معطوف ثانی، واو عطفہ اَيَّوْنَ فعل امر لون مفتوحہ قائل الزُّكُوَّةَ مفعول بہ سے ل کر معطوف ثالث، واو عطفہ اَطْعَنَ فعل امر لون مفتوحہ قائل اَللَّهَ وَرَسُوْلَهُ معطوف علیہ معطوف مفعول بہ، فعل ہا قائل ومفعول بہ معطوف رابع، معطوف علیہ ہا معطوفات اربعہ جملہ معطوفہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق مآکانہ یُرِيْدُ فعل اَللَّهَ قائل لاکر جادہ تظہیر یُذْهِبُ فعل هُوَ مستتر قائل عَنْكُمْ متعلق اَلرَّجْسِ مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ، واو عطفہ يَطْهَرُ فعل هُوَ مستتر قائل كُمْ ضمیر مفعول بہ تظہیر مفعول مطلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف بتبادل مصدر مجرور، جادہ مجرور متعلق، فعل ہا قائل ومتعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

## وَ اذْ كُرْنَ مَا يُنْتَلَىٰ فِيْ يَوْمَيْكَنَّ مِنْ اٰیَاتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا حٰخِيْرًا ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: واو عطفہ اذْ كُرْنَ فعل امر لون مفتوحہ قائل مَا اسم موصول یُنْتَلَىٰ فعل مجہول هُوَ مستتر نائب قائل فی یَوْمَيْكَنَّ جادہ مجرور متعلق سے ل کر صلہ، موصول ہسلہ ذوالحال من جادہ آیات اللہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عطفہ الْحِكْمَةِ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مجرور، جادہ مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر حال بذوالحال ہا اذْ كُرْنَ کا مفعول بہ، فعل امر ہا قائل ومفعول بہ جملہ انتہائی معطوفہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق اَللَّهَ اس کا اسم کان فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم لطیفًا حٰخِيْرًا خبر بان واسم وخبرین جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

﴿ ۵ نمبر ۵ ﴾

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَنِيْتِيْنَ وَ الْقَنِيْتَاتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقَاتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرَاتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ الصّٰلِحَاتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظَاتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَ الذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: اِنَّ حرف تحقیق الْمُسْلِمِيْنَ معطوف علیہ، واو عطفہ الْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِيْتِيْنَ وَالْقَنِيْتَاتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَالصّٰلِحَاتِ جملہ معطوفات ہیں واو عطفہ الف لاکر اسم موصول حٰفِظِيْنَ اسم قائل هُمْ مستتر قائل فُرُوْجَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر صلہ، موصول موصول ہسلہ سولہواں معطوف، یوں بھی کہہ سکتے ہیں الْحٰفِظِيْنَ اسم قائل هُمْ مستتر قائل فُرُوْجَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر سولہواں معطوف، واو عطفہ الْحٰفِظَاتِ ستر ہواں معطوف، واو عطفہ الذّٰكِرِيْنَ اسم

فعل ہُمّ مستتر قائل اللہ مفعول بہ، کثیراً بواصلہ موصوف محذوف ذکراً مفعول مطلق، اسم قائل باقاعل و مفعولین اشر حواص معطوف، و او اعطی اللذ کیوات انیسوا معطوف المسئلین معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے ل کر ان کا اسم، اعد فعل اللہ قائل لہم جہ باجور متعلق، مفعولہ معطوف علیہ، و او اعطی انما مرکب تو صیغی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر ان کا اسم و خبر جملہ اسیہ خبریہ ہوں

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ مَا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝

آیت نمبر ۳۶، و او استینافہ ما نانیہ کان تا تصد لہ جہ مؤمن معطوف علیہ، و او اعطی لہ لادہ، مؤمنیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہ باجور و طرف مستقر کا صیغ کے متعلق ہوئے، کا صیغ اسم قائل ہو مستتر قائل إذا مضاف قضي فعل اللہ و رسولہ معطوف علیہ با معطوف قائل امرؤ مفعول بہ سے ل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہو کا صیغ کا اسم قائل باقاعل و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، ان نامبہ یكون فعل ناقص لہم کائنۃ کے متعلق ہو کر یكون کی خبر مقدم، و الخیرۃ ذوالحال من امرہم کائنۃ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال یكون کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر بتادل مصدر کان کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلَّهِ لِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاءِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۝ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

آیت نمبر ۳۷، و او استینافہ إذا مضاف تقول فعل آنت قائل لہ جہ اللذی اسم موصول الاعمہ فعل اللہ قائل علیہ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہ باجور و تقول کے متعلق، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اأمسک فعل امر آنت مستتر قائل علیک متعلق و زوجک مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر جملہ اضافیہ معطوف علیہ، و او اعطی اتقی فعل امر آنت مستتر قائل اللہ مفعول بہ سے ل کر جملہ اضافیہ معطوف، معطوف علیہ با مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، و او اعطی تخفی فعل آنت مستتر ذوالحال و او حالہ تخفی فعل آنت مستتر قائل انکاس ذوالحال و او حالہ اللہ مبتدہ، احق اسم تفضیل ہو مستتر قائل ان نامبہ تخشى فعل آنت مستتر قائل ضمیر مفعول بہ سے ل کر بتادل مصدر منصوب بزعم اللذی لہ تکہ بیان... الخ ہے احق کے متعلق اسم تفضیل باقاعل و متعلق خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال تخشى کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ، حال ذوالحال باحال تخفی کا قائل فی نفسک جہ باجور متعلق، ما اسم موصول اللہ مبتدہ، مبندیہ مرکب اضافی خبر، مبتدہ با خبر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، تخفی

فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف  
 اذ نزل: ۱۰۱، استثنائیہ لَمَّا استغنى منی شرط مفعول فیہ مقدم قَطَعُ فعل زید فاعل وینہما متعلق وکلمہ مفعول بہ سے مل کر شرطاً و زَوْجَتَا فاعل  
 تاضیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ ۱۰۱، ہا ضمیر مفعول بہ یعنی: لآجر جادہ تعلیہ کی حرف مصدری ہمسب (یہ کی تعلیل کے لئے نہیں ہے  
 کیونکہ اگر یہ برائے تعلیل ہوتا تو اس پر دو سر ارف تعلیل لآجر جادہ داخل نہ ہوتا لَآکُونُ فعل ناقص علی المؤمنین طرف مستقر  
 کا پینٹا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، حَجَّجَ موصوف فی جادہ اَزْوَاجِ اذ عیناً تہذ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور کا کائن کے متعلق ہو کر صفت  
 اولیٰ اِذَا مضاف قَحْوًا فاعل و اذ ضمیر فاعل و مفعول ہنہن متعلق وکلمہ مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ کا مفعول فیہ  
 صفت ثانیہ، موصوف با صفتین اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جادہ با مجرور و زَوْجَتَا کے متعلق، فعل بافاعل و مفعولین  
 و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانہ ہوں و او استثنائیہ کان فعل ناقص اَمْرُ اللہ مرکب اضافی اسم مفعول لآجر، فعل  
 ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ

قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: مانا یہ کان فعل ناقص علی النَّبِيِّ طرف مستقر کا پینٹا کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں جادہ نزلہ حَجَّجَ  
 موصوف فی جادہ ما اسم موصول قَرْضُ فعل اللہ فاعل لہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ با مجرور کا کائن کے  
 متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ثلاثیہ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں سُنَّةَ اللہ مرکب اضافی ذوالحال  
 فی حرف جر الذین اسم موصول خَلَوْا فاعل و اذ ضمیر فاعل و مفعول ہنہن متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ با مجرور کا کائن کے متعلق  
 ہو کر حال ذوالحال باحال منصوب علی الإعراب مفعول بہ ہے فعل محذوف التزموا کا یا مفعول مطلق ہے فعل محذوف سَنَ کا، و او  
 اعتراضیہ کان فعل ناقص اَمْرُ اللہ مرکب اضافی اس کا اسم قَدَرًا مَقْدُورًا مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ  
 معترضہ ہوں۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: الَّذِينَ اسم موصول يُبَلِّغُونَ فعل و اذ ضمیر فاعل رِسَالَاتِ اللہ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ  
 خبریہ معطوف علیہ و او عاطفہ وَيَخْشَوْنَ فعل و اذ ضمیر فاعل تاضیر مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، و او عاطفہ لَا يَخْشَوْنَ فعل و اذ ضمیر  
 فاعل أَحَدًا مستثنیٰ منہ بِالْأَحْرَفِ استثناء اللہ مستثنیٰ، پھر یہ مفعول بہ ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین  
 صلہ، موصول باصلہ خبر ہے مبتدا محذوف هُمْ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں یا موصول باصلہ الَّذِينَ خَلَوْا کا بدل ہے و او عاطفہ كَفَىٰ  
 فعل بناء جادہ نزلہ لفظ اللہ ثلاثیہ اسم مؤخر ذوالحال حَسِيبًا حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔



مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ؕ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

**آیت نمبر ۳۰:** مآثرانہ کان فعل ناقص مُحَمَّدٌ اس کا اسم ابا احد مرکب اضافی موصوفہ میں وِجَالِكُمْ ظرف مستقر کا مآثرانہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت معطوف علیہ، واو عاطفہ لکن حرف استدراک ہمسلمہ رَسُولَ اللہ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کان کی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں واو اعتراضیہ کان فعل ناقص اَللّٰهُ اس کا اسم عَلِيمًا صیغہ صفت ہو مستتر قائل بِكُلِّ شَيْءٍ متعلق مقدم سے ل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معترض ہوں۔

﴿ ۶ ﴾ رکوع نمبر ۶ ﴿ ۶ ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

**آیت نمبر ۳۱، ۳۲:** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت زیادہ مرتبہ کر کے چکی ہے اور یہ نداء ہے اذْكُرُوا فعل امر واو ضمیر قائل اَللّٰهُ مفعول بہ ذِكْرًا كَثِيرًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے ل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سَبِّحُوْا فعل امر واو ضمیر قائل ضمیر مفعول بہ بُكْرَةً وَأَصِيلًا معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ہوں۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ؕ وَكَانَ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

**آیت نمبر ۳۳:** ہو ضمیر مبتدأ الَّذِي ہا اسم موصول يُصَلِّيْ فعل ہو مستتر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَلَائِكَتُهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف قائل عَلَيْكُمْ جار مجرور متعلق اول، لاہر جارہ اس کے بعد ان مقدر ہے يُخْرِجُ فعل ہو مستتر قائل كُمْ ضمیر مفعول بہ مِنَ الظُّلُمَاتِ متعلق اول، اِلَى النُّورِ متعلق ثانی سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور يُصَلِّيْ کے متعلق ثانی، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو اعتراضیہ کان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم و رَحِيمًا صیغہ صفت ہو مستتر قائل بِالْمُؤْمِنِينَ متعلق سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معترض ہوں۔

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۝ وَاعْتَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝

**آیت نمبر ۳۴:** تَحِيَّةٌ مصدر مضاف حُمُ ضمیر مضاف الیہ ذوالحال یَوْمَ مضاف يَلْقَوْنَ فعل واو ضمیر قائل ضمیر مفعول بہ سے ل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ کَرِيمًا کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال مضاف الیہ معنی مفعول بہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدأ، سلامہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ اَعْتَدَ فعل ہو مستتر قائل لَهُمْ متعلق اَجْرًا كَرِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ آتَىٰ سَلْمَكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ۝ وَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ سِرَاجًا

مُنِيرًا ۝

**آیت نمبر ۳۶، ۳۵:** بیام حرف نماذعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل آتا مستتر قائل ائی موصوف ہا برائے عمیر اللہی صفت، موصوف ہفت علماً منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ نماہر ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم آرسلنا فعل تا ضمیر قائل کان ضمیر زوالحال شاہدا معطوف علیہ، واو عاطفہ مَبَشِّرًا معطوف اول، واو عاطفہ نَذِيرًا معطوف ثانی، واو عاطفہ دَاعِيًا اسم فعل ہو مستتر قائل اِلَى اللّٰهِ متعلق اول، بِأَذْنِهِ متعلق جملی سے ل کر معطوف ثالث، واو عاطفہ نَبِيْرًا جَمْعًا ضمیر امرک بوصفی معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ حال ہذا زوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان بالاسم و خبر جواب نماہر نماہر باجواب نماہر جملہ انشائیہ نماہر ہو۔

وَ بَشِيرًا لِّلْمُؤْمِنِيْنَ بِأَن لَّهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ۝ وَ لَا تُطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُتَنَفِّثِيْنَ وَ دَعَا أَذْنَهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝

**آیت نمبر ۳۸، ۳۷:** واو عاطفہ بَشِيرًا فعل امر آت مستتر قائل الْمُؤْمِنِيْنَ مفعول بہ بیام جارہ ان حرف تحقیق لَّهُمْ ثابت کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِنَ اللّٰهِ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم فَضْلًا كَبِيْرًا ضمیر امرک بوصفی زوالحال مؤخر ہذا زوالحال باحال ام مؤخر، ان بالاسم و خبر بتاول مفرد مجرور، جار مجرور و متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تُطِيعُ فعل نہی آت مستتر قائل الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُتَنَفِّثِيْنَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ سے ل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ دَعَا فعل امر آت مستتر قائل اِذَا كَانَتْ حُرُوكَ اَضَانِ مفعول بہ سے ل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ تَوَكَّلْ فعل امر آت مستتر قائل عَلَى اللّٰهِ متعلق سے ل کر جملہ انشائیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ بواسطہ عطف کے يَأْتِيهَا النَّبِيُّ کا جواب نماہر

**سوال:** بَشِيرًا امر ہے تو اس کا عطف اِنَّا اَرْسَلْنَا كَيْسے ہو گا کیونکہ یہ عطف الانشاء علی الخبر ہے؟

**جواب:** یہ عطف القصر علی انصر کے قبیل سے ہے مزید در (۲) جواب روح المعانی میں دیکھو۔

واو استنایہ کنفی فعل بیام جارہ زلما لِّلْمُؤْمِنِيْنَ زوالحال ہو کینلا حال ہذا زوالحال باحال قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہو۔

يَأْتِيهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوْنَ وَنَهَايْتُمْ عَنْ سَرَاحٍ جَبِيْلًا ۝

**آیت نمبر ۳۹:** يَأْتِيهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اس کی ترکیب بہت زیادہ مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نماہر ہے اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم نَكَحْتُمُ فعل ثُمَّ ضمیر قائل الْمُؤْمِنَاتِ مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ طَلَقْتُمُوْهُنَّ فعل ثُمَّ ضمیر قائل هُنَّ ضمیر مفعول بہ ہون جارہ قَبْلِ مضاف ان ہا مَبَشِّرًا و افعال واو ضمیر قائل هُنَّ ضمیر مفعول بہ سے ل کر بتاول مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جارہ مجرور و متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فقاء جزائیہ مَتَانِيَةً لَكُمْ جارہ مجرور

کالین کے متعلق ہو کر خبر مقدم علیہن جہد باجمرو طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم ہن جہد زلہ جدۃ موصوف متعقدون فعل واؤ ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر صفت، موصوف ہفت ٹکڑا نوح ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا باجزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر جواب نداء نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ ہوا فاء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے ان لَمْ تَقْرُؤْ لَمْ یُؤْمَرْ بِہَا فَذُرُوا مَنَظَرًا مَعْتَدًا فعل امر واؤ ضمیر فاعل ہن ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ سہو فعل امر واؤ ضمیر فاعل ہن ضمیر مفعول بہ سہو احاطہ جہد مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء اور اس کی شرط محذوف ہے اور وہ احناف کے قول کے مطابق یہ ہے ان کلکتمہم اڑوا جکمہ من قبل ان یتسبوا ہن وکم تسبوا ہن صدقاً (نصیر) شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَّا أَفَاءً  
اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَنَاتِ عَمَّتِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ وَ بَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ  
مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً  
لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

آیت نمبر ۵۰: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اس کی ترکیب بہت زیادہ مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم اخللنا فعل تا ضمیر فاعل لک جہد باجمرو متعلق اڑوا جک مرکب اضافی موصوف الی اسم موصول آتیت فعل تاء مفتوحہ فاعل اجور ہن مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہفت معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ما اسم موصول مملکت فعل یمنینک مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال ہن جہد ما اسم موصول افاء فعل اللہ فاعل علیک متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہد باجمرو کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف اول، واؤ عاطفہ بنات عمتک مرکب اضافی معطوف ثانی، واؤ عاطفہ بنات خالک مرکب اضافی معطوف ثالث، واؤ عاطفہ بنات خلتک مرکب اضافی معطوف رابع، واؤ عاطفہ بنات خلتک مرکب اضافی معطوف خامس، معطوف خاس، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ اخللنا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہوں

واؤ عاطفہ امرؤ مؤمنۃ مرکب توصیفی بواسطہ عطف مفعول بہ ہے اخللنا کا ان شرطیہ و ہبیت فعل ہیج مستقر ذوالحال خالصة اسم فاعل ہیج ضمیر ذوالحال ہن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل لک جہد باجمرو متعلق اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال و ہبیت کا فاعل نفستہا مرکب اضافی مفعول بہ، یلینجی جہد باجمرو متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط اس کی جزاء محذوف ہے اخللنا کا لہ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا ان شرطیہ آراد فعل

اَلَّذِي نَادَىٰ اَنْ نَّاصِرِي يَسْتَنْبِحْ لِي هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ هَا صَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ سَلٌ كَرْتَاوِيلٌ مَصْدَرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهٖ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ كَرْمِيٌّ شَرْطٌ اَوَّلٌ كِي شَرْطٌ هُوَ اَوَّلُ تَقْدِيرِ عِبَادَتٍ يَهٗ بِهٖ اَنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْبِحَ الْوَاهِبَةَ لِقَسَمِهَا اَحْلَلْنَا لَهٗ اِنْ وَهَبْتُمْ نَفْسَهَا (مظہری)

قَدْ عَلِمْتَ فِعْلٌ عَلِمْنَا فِعْلٌ نَا صَمِيرٌ فَاعِلٌ مَا سَمٍ مَوْصُولٌ فَوَضِعْنَا فِعْلٌ نَا صَمِيرٌ فَاعِلٌ عَلَيْهِمْ مُتَعَلِّقٌ سَلٌ كَرْمِيٌّ خَبْرِيَّةٌ مَصْدَرٌ مَوْصُولٌ بِمَصْلٍ ذَوَالِحَالٍ فِي جَاهِهِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ اَعَاطَفَهُ مَا سَمٍ مَوْصُولٌ مَا مَلَكَتْ فِعْلٌ اَيْ مَا كُنْهُ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ فَاعِلٌ سَلٌ كَرْمِيٌّ مَوْصُولٌ بِمَصْلٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ مَجْرُورٌ، جَاهٌ بِمَجْرُورٍ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَالٌ ذَوَالِحَالٍ بِاِحَالٍ عَلِمْنَا كَامْفَعُولٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهٖ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْرُوضَةٌ هُوَ لَا هَرَجَةٌ عَلَيَّ كِي حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ نَصْبٌ لِيَا كُوْنُ فِعْلٌ نَا قَسَمٌ عَلَيَّكَ ظَرْفٌ مُسْتَرَفَاعٌ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْمِيٌّ مَقْدَمٌ حَرْفٌ اَمٍ مَوْخَرٌ، فِعْلٌ نَا قَسَمٌ بِاَسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرِيٍّ مَجْرُورٌ، جَاهٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اَحْلَلْنَا لَكَ يَافِعْلٌ مَعْرُوفٌ هُوَ خُتْلَا هَذَا الشَّرْحُ كِي (روح المعاني)۔ وَ اَوْ اِسْتِنَايَةً كَانُ فِعْلٌ نَا قَسَمٌ اَللّٰهُ اَسْ كَامٍ عَفُوْرًا وَرَحِيْمًا اِسْ كِي وَخَبْرٌ كَانُ بِاَسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ

تُرْبِيٌّ مِّنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُوِيٌّ اِلَيْكَ مِّنْ تَشَاءُ ۚ وَ مِّنْ اِبْتِغَايَاتٍ مِّمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذٰلِكَ اِذْنِي اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَ لَا يَحْزَنَ وَ يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۗ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝۵۱

آيَتِ نَصْبِ ۵۱: تُرْبِيٌّ فِعْلٌ اَنْتَ مُسْتَرَفَاعٌ مِّنْ اَسْمٍ مَوْصُولٌ تَشَاءُ فِعْلٌ اَنْتَ مُسْتَرَفَاعٌ سَلٌ كَرْمِيٌّ مَوْصُولٌ بِمَصْلٍ ذَوَالِحَالٍ مِنْهُنَّ جَاهٌ بِمَجْرُورٍ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَالٌ ذَوَالِحَالٍ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهٖ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ اَعَاطَفَهُ تُوِيٌّ فِعْلٌ اَنْتَ مُسْتَرَفَاعٌ اِلَيْكَ جَاهٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مِّنْ اَسْمٍ مَوْصُولٌ تَشَاءُ فِعْلٌ اَنْتَ مُسْتَرَفَاعٌ سَلٌ كَرْمِيٌّ مَوْصُولٌ بِمَصْلٍ مَعْفُوفٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهٖ وَمُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَمْلَةٌ مُتَاوِلَةٌ هِيَ اَوْ اِسْتِنَايَةً مِّنْ اَسْمٍ شَرْطٌ مَفْعُولٌ بِهٖ مَقْدَمٌ اِبْتِغَايَاتٍ فِعْلٌ تَاءٌ مُتَوَدِّعٌ صَمِيرٌ مُتَمَصِّلٌ فَاعِلٌ مِّنْ حَرْفٍ مِّنْ اَسْمٍ مَوْصُولٌ عَزَلْتَ فِعْلٌ تَاءٌ مُتَوَدِّعٌ فَاعِلٌ سَلٌ كَرْمِيٌّ مَوْصُولٌ بِمَصْلٍ مَجْرُورٌ، جَاهٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهٖ مَقْدَمٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ كَرْمِيٌّ شَرْطٌ هَا جَاهٌ بِمَجْرُورٍ بِاِحَالٍ كَامٍ عَلَيَّكَ جَاهٌ بِمَجْرُورٍ سَلٌ كَرْمِيٌّ ظَرْفٌ مُسْتَرَفَاعٌ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْمِيٌّ لَا بِاَسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَاهٌ بِمَجْرُورٍ بِاِحَالٍ شَرْطِيَّةٌ هِيَ ذٰلِكَ اِسْمٌ اَشَدُّ مَبْتَدَاً اِذْنِي بِاَسْمٍ تَفْصِيْلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ كَا فَاعِلٌ اَنْ نَّاصِرِي تَقَرَّ فِعْلٌ اَعْيُنُهُنَّ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ فَاعِلٌ سَلٌ كَرْمِيٌّ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ اَعَاطَفَهُ لَا يَحْزَنُ فِعْلٌ نُونٌ مُتَوَدِّعٌ صَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلٌ كَرْمِيٌّ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ اَوَّلٌ، وَ اَوْ اَعَاطَفَهُ يَرْضَيْنَ فِعْلٌ نُونٌ مُتَوَدِّعٌ صَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَمَصِّلٌ مَوْكَلَةٌ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ تَاكِيْدٌ، مَوْكَلَةٌ بِتَاكِيْدِ فَاعِلٍ بِتَاءٍ حَرْفٌ جَاهٌ اَسْمٍ مَوْصُولٌ اَتَيْتَ فِعْلٌ تَاءٌ صَمِيرٌ مُتَوَدِّعٌ فَاعِلٌ هُنَّ صَمِيرٌ مَضْبُوبٌ مَفْعُولٌ بِهٖ سَلٌ كَرْمِيٌّ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَصْدَرٌ مَوْصُولٌ بِمَصْلٍ مَجْرُورٌ، جَاهٌ بِمَجْرُورٍ وَ يَرْضَيْنَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ تَاوِيلٌ مَصْدَرٌ مَضْبُوبٌ بَزْعٌ اِلَافِضٍ (دِرَاصِلٌ اِلَى اَنْ تَقَرَّ هِيَ) مُتَعَلِّقٌ بِاَسْمٍ تَفْصِيْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمُتَعَلِّقٌ ذٰلِكَ كِي خَبْرٌ، مَبْتَدَاً بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ اَوْ اِسْتِنَايَةً اَللّٰهُ مَبْتَدَاً يَعْلَمُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعٌ مَا سَمٍ مَوْصُولٌ فِي

قَالُوا كَيْفَ جَدَّ بِمَجْرُورِ فَعْلٍ مَخْدُوفٍ اسْتِغْفَرُوكَ مُتَعَلِّقٍ هُوَ كَرْمَلُهُ، مَوْصُولٌ بِاسْمِ مَفْعُولٍ بِهِ، فَعْلٌ بِمُتَعَلِّقٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ، خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ هَلْ وَوَاوَاؤُ اسْتِغْفَرُوكَ كَانَ فَعْلٌ نَاقِصٌ اَللَّهُ اسْمٌ كَلَامٌ عَلِيًّا مَخْلِيًّا بِمَدِّ خَبْرٍ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَافِرَةٌ هَلْ

لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ۝

آیت نمبر ۵۲: لَا يَجِلُّ فَعْلٌ لَكَ جَدَّ بِمَجْرُورِ مُتَعَلِّقٍ اَلنِّسَاءُ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوَاظِلُّ لَا زَلَّةَ لَهُنَّ هِيَ تَبَدَّلَ فَعْلٌ (یہ اصل میں تَبَدَّلَ ہے) اَنْتَ مُتَرَفَعٌ عَلَيْهِنَّ جَدَّ بِمَجْرُورِ مُتَعَلِّقٍ مِنْ حَرْفِ جَزْمٍ فَذَوَاؤُجٍ مُنْصُوبٌ مَعْلًا مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِمُتَعَلِّقٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَاوِيلِ مَعْدَرٍ مَعْفُوفٍ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ ذَوَالِ هَالٍ وَوَاوَاظِلُّ لَوْ شَرَطِيَّةٌ اَعْجَبَكَ فَعْلٌ كَانِ خَبْرٌ مَفْعُولٌ بِهِ حُسْنُهُنَّ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ قَائِلٌ سَلَّ كَرَجَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلُهُ اَدْرَاسُ كِي جَزْمٌ مَخْدُوفٌ هِيَ لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ، شَرَطِيَّةٌ بِمَجْرُورِ جُمْلَةٍ شَرَطِيَّةٌ هُوَ كَرْمَلُهُ ذَوَالِ هَالٍ بِحَالٍ مَبْدَلٌ مِنْهُ بِالْأَحْرَفِ اسْتِغْفَارًا مَوْصُولٌ مَلَكَتْ فَعْلٌ يَمِينُكَ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ قَائِلٌ سَلَّ كَرْمَلُهُ مَوْصُولٌ بِاسْمِ بَدَلٌ مِنْهُ بِهَلْ لَا يَجِلُّ كَانِ قَائِلٌ مِنْ بَعْدُ جَدَّ بِمَجْرُورِ مُتَعَلِّقٍ مَعْلِيٌّ، فَعْلٌ بِمُتَعَلِّقٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ هَلْ وَوَاوَاؤُ اسْتِغْفَرُوكَ كَانَ فَعْلٌ نَاقِصٌ اَللَّهُ اسْمٌ كَلَامٌ رَاقِبًا سَيِّدٌ مَفْعُولٌ هُوَ مُتَرَفَعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ سَلَّ كَرَجَلُهُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَافِرَةٌ هَلْ

﴿ رُكُوعِ نَمْرٍ ﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ اِنَّهُ ۚ وَ لَكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِزُّ مِنْكُمْ ۗ وَ اَللّٰهُ لَا يَسْتَعِزُّ مِنْ الْحَقِّ ۗ وَ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ ۗ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهَا اَبَدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝

آیت نمبر ۵۳: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ تکرر جمل سے اور یہ عدا ہے لَا تَدْخُلُوا فَعْلٌ نَمْرًا وَ خَبْرٌ مَعْلٌ بِمُتَعَلِّقٍ اِنَّهُ ۚ وَ لَكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِزُّ مِنْكُمْ ۗ وَ اَللّٰهُ لَا يَسْتَعِزُّ مِنْ الْحَقِّ ۗ وَ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ ۗ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهَا اَبَدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝

عَلِيٌّ مضاف ناظرین اسم فاعل اَنْكُمُ مستتر فاعل اِنَّا مركب اضافی مفعول بہ سے مل کر مضاف علیہ، مضاف با مضاف الیہ حال ہے لکن خُلُوْا کی واؤ ضمیر فاعل سے، واؤ عاطفہ لیکن حرف استدراک مہمل، اذاکا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ہجعی فعل مجہول نُفَّھ ضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائیہ اَدْخُلُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ اذاکا شرطیہ مفعول فیہ مقدم طبعاً نُفَّھ فعل نُفَّھ ضمیر فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر شرط، فقاء جزائیہ اَنْتَشِرُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا۔

واو عاطفہ لا رتدہ مُسْتَأْنِسِيْنَ اسم فاعل اَنْكُمُ مستتر فاعل لِیَحْدِثَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر بواسطہ عطف حال ہے لکن خُلُوْا کی ضمیر فاعل سے، اِنْ حرف تحقیق ذاکل کُمُ اسم اشدہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم یُؤَدِّيْ فعل ہو ضمیر فاعل اَلَّذِيْ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف کان کی خبر، فعل ناقص اسم با خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر، اِنْ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوا واو اعتراضیہ اللّٰهُ مبتدأ لا یَسْتَحْيِيْ فعل ہو مستتر فاعل مِنْ الْحَقِّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، واو عاطفہ اذاکا شرطیہ مفعول فیہ مقدم سَأَلْتُمُوْا نُفَّھ فعل ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ اِذْ لَمْ يَمْتَسِكَا مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائیہ اِسْأَلُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ مِنْ حرف جلد و آء حجاب مرکب اضافی انسانی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

ذاکل کُمُ اسم اشدہ مبتدأ اَطَهَّرُوْا م تفصیل ہو مستتر فاعل لاہر حرف جار قُلُوْا یُکْفِرُ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ قُلُوْا یُؤْمِنُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق، اسم تفصیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، واو عاطفہ لاہر نائبیہ کان فعل ناقص اَنْكُمُ جار با مجرور کان کے متعلق ہو کر کان کی خبر مقدم، اِنْ نائبیہ تَلُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل سَوَّلُوْا اللّٰهُ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ بتداول مصدر معطوف علیہ، واو عاطفہ لا رتدہ اِنْ نَاصِر تَنَكَّبُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل اَوْ و اجہ مرکب اضافی ذوالحال مِنْ بَعْدِہَا کَائِدَةٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ اَبَاکُمْ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول فیہ بتداول مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوا اِنْ حرف تحقیق ذاکل کُمُ اسم اشدہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی کَائِدَاتِنَا کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم عظیمیہ ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال خبر، فعل ناقص با اسم و خبر اِنْ کی خبر، اِنْ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

اِنْ تَبَدُّوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفَوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: اِنْ شرطیہ تَبَدُّوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل شَيْئًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تُخْفَوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فقاء جزائیہ اِنْ : تحقیق اللّٰهُ اَلْاَعْلَمُ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم بآء جارہ کُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم عَلِيْمًا اسمیہ صفت ہو مستتر فاعل

و متعلق مقدم سے مل کرگان کی خبر، فعل ناقص ہاام و خبران کی خبر ہاام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزم، شرط باجزاء جملہ شرطیہ

ہو

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَسْرَائِلِهِمْ وَلَا مَلَائِكَةً وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۚ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

**آیت نمبر ۵۵:** لانی جنس جُنَاحِ اس کلام عَلَیْهِمْ ظرف مستقر متعلق ہوئے کاتین کے کاتین اسم فاعل ہو ضمیر اس کا فاعل فی حرف جرائز عَلَیْهِمْ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ لازمہ ابْنَائِهِمْ مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ لازمہ إِخْوَانِهِمْ مرکب اضافی معطوف ثالث، واو عاطفہ لازمہ اَسْرَائِلِهِمْ مرکب اضافی معطوف رابع، واو عاطفہ لازمہ مَلَائِكَةً مرکب اضافی معطوف خامس، واو عاطفہ لازمہ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ مرکب اضافی معطوف ششم، فعل ناقص ہاام فاعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر لا کی خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، واو استیناف اِتَّقِينَ فعل امر نون مفتوحہ فاعل اللہ مفعول بہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مستند ہو۔ اِن حرف تحقیق اللہ اس کلام گان فعل ناقص ہو مستراس کلام شہیداً صیغہ صفت ہو ضمیر فاعل علی حرف جر کی شئی ہو مرکب اضافی مجرور، جہد باجرور متعلق ہو صیغہ صفت کا صیغہ صفت بافاعل و متعلق خبر ہوئی گان کی گان ہاام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہاام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتُهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

**آیت نمبر ۵۶:** اِن حرف تحقیق اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَلَائِكَتُهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوفان کا اسم یُصَلُّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل علی النَّبِيِّ جہد باجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق خبر ہاام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ گزری ہے، نداء ہے صَلُّوا فعل واو ضمیر فاعل عَلَیْهِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سَلِّمُوا فعل امر واو ضمیر فاعل تَسْلِيمًا مفعول مطلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جراب نداء، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہو

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

**آیت نمبر ۵۷:** اِن حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول يُؤْذُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اللہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باسمران کلام لَعَنَ فعل ہو ضمیر منصوب مفعول بہ، اللہ فاعل فی حرف

جاءَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ مَجْرُورٍ، جَدَّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ بِجُمْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوِ عَاطِفٌ أَعَدَّ لَعَلَّ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ لَهْمُ جَدَّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ عَدَا بِنَاءٍ مُؤَبِّنًا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ، جُمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ خَبْرِيَّةً، بِاسْمٍ وَخَبْرٍ جُمْلَةٍ أَسِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ

وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ

### إِثْمًا مُبِينًا ۝

آیت نمبر ۵۸: وَاوِ عَاطِفٌ الْوَالِدِينَ اسْمٌ مَوْصُولٌ يُؤَدُّونَ فَعَلٌ وَوَاوِ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ بِنَاءِ حَرْفٍ جَدَّ غَيْرُ مَضَافٍ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ اِكْتَسَبُوا فَعَلٌ بِدَاوِ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ سَلْبٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِ مَضَافٍ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِمَضَافٍ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَدَّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ بِجُمْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ سَلْبٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِ مَبْتَدَأٍ مُتَقَنَّصٍ مَعْنَى شَرْطٍ، فَاءُ جَزَائِيَّةٍ قَدْ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ اِحْتَمَلُوا فَعَلٌ وَوَاوِ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ بُهْتَانًا مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوِ عَاطِفٌ اِثْمًا مُبِينًا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ، جُمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ أَسِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ

﴿ رُكُوعٌ نُمْبَرٌ ۸ ﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْوَاجِكُمْ وَ بَنَاتِكُمْ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ ۚ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

آیت نمبر ۵۹: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اسْكُرْ تَرْكِبٌ بِيَهْتِ مَرْجَبٌ كَزَرْجِي هِيَ بِهِيَ نَدَاءٌ هُوَ قُلْ فَعَلٌ اِمْرَأَتِكَ مُسْتَرْتَابٌ كَا فاعِلٌ لَامٌ حَرْفٌ جَدَّ اِزْوَاجِكُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوِ عَاطِفٌ بَنَاتِكُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَعْفُوفٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفِينَ مَجْرُورٍ، جَدَّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ بِجُمْلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ قَوْلٌ، يُدْنِينَ (اصْلٌ مِنْ لِيُدْنِينَ) هِيَ رُوحُ الْعَالِي (لِيُدْنِينَ) فَعَلٌ اِمْرُونٌ مَفْتُوحَةٌ قَاعِلٌ عَلَيْهِنَّ جَدَّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ اِذْ، مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ جَدَّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ثَمَّ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقِينَ لِنَظَائِمِ جُمْلَةٍ فَعَلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْنَى جُمْلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ قَوْلٌ كَا مَقُولَةٌ، قَوْلٌ كَا مَقُولَةٌ، قَوْلٌ كَا جُمْلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ جَوَابٌ نَدَاءٌ، نَدَاءٌ بِاجْرَابِ نَدَائِيَّةٍ جُمْلَةٍ اِنشَائِيَّةٍ نَدَائِيَّةٍ هِيَ ذَٰلِكَ اسْمٌ اِشْرَافِيٌّ مَبْتَدَأٌ اِذْ اسْمٌ تَفْضِيلِيٌّ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ اَنْ، نَصْبٌ يُعْرَفْنَ فَعَلٌ بِجَهْلٍ نُونٌ مَفْتُوحَةٌ نَائِبٌ قَاعِلٌ، فَعَلٌ بِجَهْلٍ نَائِبٌ قَاعِلٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، فَاءُ عَاطِفٌ لَا يُؤْذَيْنَ فَعَلٌ بِجَهْلٍ نُونٌ مَفْتُوحَةٌ نَائِبٌ قَاعِلٌ، فَعَلٌ بِجَهْلٍ نَائِبٌ قَاعِلٌ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ مَنصُوبٌ بِنَزْعِ الْاِفْضَالِ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اسْمٌ تَفْضِيلِيٌّ كَا اسْمٌ تَفْضِيلِيٌّ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ شِبْهُ جُمْلَةٍ هِيَ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ أَسِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ وَوَاوِ اِسْتِنَائِيَّةٍ كَانِ فَعَلٌ نَاقِصٌ اَللَّهُ اسْمٌ كَا اسْمٌ غَفُورًا وَرَاحِمًا دَوْرٌ، كَانِ بِاسْمٍ وَخَبْرٍ، جُمْلَةٍ أَسِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ

لَٰكِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الدِّينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝

آیت نمبر ۶۰: لَمْ مَوْطَأٌ لِلْقَسَمِ اِدْرَاسٌ مَحذُوفٌ هِيَ اِنْ شَرْطِيَّةٌ لَمْ يَنْتَهَ فَعَلٌ الْمُنَافِقُونَ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوِ عَاطِفٌ الدِّينِ اسْمٌ



موصول فی قَوْلِهِمْ عَرَفَ مَسْتَقْرَ مَتَعَلِقِ ہوئے، فعل محذوف تَبَيَّنَ کے، مَرَضٌ فاعل، فعل بافاعل، متعلق صلہ، موصول باصلہ معطوف  
 ازل واو عاطفہ الْمُرْدُجُفُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل فی الْمَدِينَةِ متعلق سے مل کر معطوف مل، معطوف علیہ با معطوفین فاعل، فعل  
 بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے، لآءہ جوابیہ نُغْرَيْنَ فعل تَحَنَّنَ مستتر فاعل کاف ضمیر  
 مفعول بہ، بیہم متعلق سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ لَا يَجَاوِزُونَ فعل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، فَيُنْفِقُ مَا جَاءَ بِجُودٍ متعلق بِالْأَلَا  
 حرف استثناء قَلِيلًا بواسطہ موصوف محذوف وَمَا تَأْكُلُ مفعول فیہ، فعل بافاعل، متعلق و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب  
 قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

### مَلْعُوزِينَ ۷۱ اَيْنَمَا تُقِفُوا اُخِذُوا وَ قَتِلُوا اَتَقْتِيلًا ۷۱

آیت نمبر ۷۱: مَلْعُوزِينَ حال ہے فعل محذوف کے نائب فاعل سے، تقدیر عبارت ہے ثُمَّ يُخْرَجُونَ مَلْعُوزِينَ اَيْنَمَا  
 شرطیہ مفعول فیہ مقدم تُقِفُوا فعل باواو ضمیر نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم شرط واُخِذُوا فعل مجہول باواو ضمیر نائب فاعل معطوف علیہ،  
 واو عاطفہ قَتِلُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل تَقْتِيلًا مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ  
 شرطیہ ہو۔

### سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۷۲ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۷۲

آیت نمبر ۷۲: سُنَّةَ اللّٰهِ مرکب اضافی ذوالحال فی حرف جر الذّٰیْنِ اسم موصول خَلَوْا فعل واو ضمیر فاعل مِنْ قَبْلِ متعلق  
 سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہاں مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر حال بذوالحال باحال مفعول مطلق ہو، فعل محذوف سَنَّ کا اداریہ  
 دراصل سَنَّ اللّٰهُ سُنَّةً ہے۔ واو عاطفہ لَنْ تَجِدَ فعل اَلَتْ مستتر فاعل لِسُنَّةِ اللّٰهِ متعلق تَبْدِيلًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ  
 معطوفہ ہو۔

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۷۳ قُلْ اِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ اللَّهِ ۷۳ وَمَا يَذُرُّكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

### تَكُونُ قَرِيْبًا ۷۳

آیت نمبر ۷۳: يَسْئَلُكَ فعل کاف ضمیر مفعول بہ النَّاسُ فاعل عَنِ السَّاعَةِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متناہیہ ہو، قُلْ  
 فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول بَانَ حرف تَحْتِمْ مَا كَاذِبًا عَلَیْهَا مرکب اضافی مبتدأ عند اللّٰهِ مرکب اضافی نَايِبَاتِ کے متعلق  
 ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول باقول جملہ انشائیہ ہو۔ واو عاطفہ مَا سَأَلْتُمْ مَبْتَدَأُ يَذُرُّ فاعل هُوَ مستتر فاعل  
 کاف ضمیر مفعول بہ اِذْ لَعَلَّ حرف تَرْتِی السَّاعَةَ اس کلام تَكُوْنُ فعل ناقص ہی ضمیر مستتر سَأَلْتُمْ قَرِيْبًا خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ  
 خبر لَعَلَّ باس و خبر جملہ انشائیہ مفعول بہ ملنی، فعل بافاعل و مفعولین خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

سوال: تَكُوْنُ کلام مؤنث کی ضمیر ہے جس کا مرجع السَّاعَةُ مؤنث ہے تو اس کی خبر قَرِيْبًا نہ کر کیوں لائی گئی؟

جواب (۱): قَرِيْبًا خبر نہیں ہے بلکہ یہ بواسطہ موصوف محذوف شَيْئًا کے خبر ہے۔

جواب (۲): قَرِيبًا بوزن فَعِيلٍ ہے اور اس میں مذکر مؤنث برابر ہیں جیسا کہ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ میں ہے۔ (روح المعانی)

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝۱۰ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۙ لَا يَجِدُوْنَ وِلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝۱۱

**آیت نمبر ۱۰-۱۱:** اِنَّ حرف تحقیق اللّٰه اس کا اسم لَعَنَ فعل ہو مستتر فاعل الْكٰفِرِيْنَ مفعول بہ تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَعَدَّ فعل ہو مستتر فاعل لَهُمْ متعلق سَعِيْرًا مفعول بہ خَالِدِيْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل فِيْهَا متعلق اَبَدًا مفعول فیہ سے مل کر جبہ جملہ ہو کہ لَعَنَ کی ضمیر سے حال اولیٰ لَا يَجِدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل وِلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل ہا تامل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال دوم، ذوالحال با حال اَعَدَّ کا مفعول بہ، فعل ہا تامل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّ کی خبر اِنَّ ہا اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

يَوْمَ تَقْلَبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ لِيَلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ۝۱۲

**آیت نمبر ۱۲:** يَوْمَ مضاف تَقْلَبُ فعل مجہول وُجُوْهُهُمْ مرکب انسانی نائب فاعل فی النَّارِ جہد با مجرور متعلق، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ مقدم يَقُوْلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر جبہ فعلیہ خبریہ قول، یاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اَنَا مستتر فاعل مبادی مفعول بہ مخدوف ہے، فعل ہا تامل مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کہ نداء، لیت ہے حرف تمہنی تا ضمیر اس کا اسم اَطَعْنَا فعل تا ضمیر فاعل اَلرَّسُوْلَ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء، نداء ہا جواب نداء مفعول، قول ہا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَاَكْبَرْنَا عَنَّا فَاصْلُوْنَا السَّبِيْلًا ۝۱۳

**آیت نمبر ۱۳:** او استثنائیہ قَالُوْا فعل ہا واو ضمیر فاعل قول ہوا، رَبَّنَا صل میں یا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے اِنَّ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم اَطَعْنَا فعل تا ضمیر فاعل سَادَتَنَا مرکب انسانی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَكْبَرْنَا اَكْبَرْنَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل ہا تامل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَصْلُوْنَا فعل واو ضمیر فاعل تا ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ السَّبِيْلِ مفعول بہ یعنی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّ کی خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جواب نداء، نداء ہا جواب نداء مفعول، قول ہا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

رَبَّنَا اَتَيْتْهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَاَلْعَنَّا كَيْبَرًا ۝۱۴

**آیت نمبر ۱۴:** رَبَّنَا صل میں یا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے اِنَّ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ ضَعْفَيْنِ موصوف مِنَ الْعَذَابِ ظرف مستتر کَلْبَيْنِ کے متعلق ہو کہ صفت، موصوف ہ صفت مفعول بہ یعنی، فعل ہا تامل مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَلْعَنَّا فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَلْعَنَّا کی خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جواب نداء، نداء ہا جواب نداء مفعول، معطوف علیہ با معطوف

علیہ با معطوف جواب نداء نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نمائے ہوں

● رکوع نمبر ۹ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾

**آیت نمبر ۶۹:** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لا تَكُونُوا فاعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم کان حرف جار الَّذِينَ اسم موصول اذوا فاعل مؤنثی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فقاء عاطفہ بَرَأَ فاعل واؤ ضمیر منصوب مفعول بہ اَللّٰهُ تامل من جاہد ما اسم موصول قالوا فاعل ناقص واؤ ضمیر فاعل صل، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق، فعل ناقص مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صل، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور کَالَّذِينَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ جواب نداء نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نمائے ہوں، واؤ استثنائیہ کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم و جہتھا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول فی مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

**آیت نمبر ۷۰:** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اتَّقُوا فاعل امر واؤ ضمیر فاعل اَللّٰهُ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نمائے ہوں۔  
 با تامل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ، واؤ عاطفہ قُولُوا فاعل امر واؤ ضمیر فاعل قَوْلًا سَدِيدًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل ناقص مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صل، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق، فعل ناقص مفعول بہ اَللّٰهُ وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

**آیت نمبر ۷۱:** يُضِلِّحُ فاعل ہو مستتر فاعل لَكُمْ متعلق اَعْمَالَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَغْفِرُ فاعل ہو مستتر فاعل لَكُمْ متعلق ذُنُوبَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء ہے شرط مخدوف ان تَتَّقُوا اللَّهَ وَ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کی، کیونکہ یہ جواب امر میں واقع ہے۔ واؤ استثنائیہ مَنْ اسم شرط مبتدأ يُطِيعُ فاعل ہو مستتر فاعل اَللّٰهُ وَ رَسُوْلَهُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با تامل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط فقاء جزائیہ قَدْ حرف تحقیق فَازَ فاعل ہو مستتر فاعل فَوْزًا عَظِيْمًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستتر ہوں۔  
 اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَنَّا سَفَقْنٰ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

**آیت نمبر ۷۲:** اِنَّا حرف تحقیق نَحْمِلُهَا اسم موصول اَعْرَضْنَا فاعل ناسمیه فاعل الْاِمَانَةَ مفعول بہ، عَلٰی جہاد اَلسَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور متعلق، فعل با تامل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ اَبَيْنَ

فعل نون مفتوحه فاعل ان نصریحین فعل نون مفتوحه فاعل ها ضمیر مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ اَشْفَقْنَ فعل نون مفتوحه فاعل مِنْهَا متعلق سے مل کر معطوف اول، و او عاطفہ كَمَلْ فعل ها ضمیر مفعول بہ الْاِنْسَانِ فاعل سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ بِاعطوفین عَزَّوَجَلَّ کا معطوف، معطوف علیہ بِاعطوف ان کی خبر، ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ان حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم کَلُّوْا خبر اول جَهَّوْا خبر دوم، ناقص ہا اسم و خبر ان خبر ان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؕ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

آیت نمبر ۷۳: لا مر جاہہ تالیف لے عَذِّبَ فعل اللہ فاعل الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ معطوف علیہ ہا معطوفات ثلاثہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطفہ يَتُوبَ فعل اللہ فاعل علی جاہہ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ معطوف علیہ ہا معطوف مجرور، جہا با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف بتاویل مصدر مجرور، جہا با مجرور كَمَلْ کے متعلق ہوئے۔ و او استیناف کان فعل ناقص اللہ اس کا اسم غَفُورًا خبر اول رَحِيمًا خبر دوم، فعل ناقص ہا اسم و خبر ان جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہوں۔



## ترکیب سُورَةِ سَبَا

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَ  
لَهُ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ ۝ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝ یَعْلَمُ مَا یَلِیْجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا  
یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا ۝ وَهُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ۝

**آیت نمبر ۱:** اَلْحَمْدُ مبتدأ ماضی جارہ اللہ موصوف الذی اسم موصولہ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم  
ماہم موصول فی السَّمٰوٰتِ ظرف مستقر و مفعول کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ معطوف علیہ ہواؤ عاطفہ ماہم موصول فی الْاَرْضِ  
ظرف مستقر و مفعول کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ معطوف علیہ ہواؤ عاطفہ ماہم موصول فی الْاَرْضِ  
ظرف مستقر و مفعول کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْحَمْدُ والال فی الْاٰخِرَةِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مذکورہ الحال  
بالحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف صلہ موصول باصلہ اللہ کی صفت، موصوف ہفت مجرور، جارہ ہا مجرور  
ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہواؤ عاطفہ ہُو ضمیر مبتدأ الْحَكِیْمُ فہ اول الْخَبِیْرُ خبر ثانی  
مبتدأ خبرین، جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہواؤ

یَعْلَمُ فعل ہُو مستقر فاعل ماہم موصول یَلِیْجُ فعل اپنے ہُو ضمیر فاعل اور فی الْاَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ  
موصول باصلہ معطوف علیہ ہواؤ عاطفہ ماہم موصول یَخْرُجُ فعل اپنے ہُو مستقر فاعل اور و مفعول متعلق سے مل کر صلہ موصول باصلہ  
معطوف اول ہواؤ عاطفہ ماہم موصول یَنْزِلُ فعل ہُو مستقر فاعل مِنَ السَّمَآءِ متعلق سے مل کر صلہ موصول باصلہ معطوف ثانی ہواؤ  
عاطفہ ماہم موصول یَعْرُجُ فعل ہُو مستقر فاعل فِیْهَا متعلق سے مل کر صلہ موصول باصلہ معطوف ثالث، معطوف علیہ ہا معطوفات  
ثلاثہ یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل ہواؤ ضمیر فاعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ متناظر ہواؤ استثنائیہ ہُو ضمیر مبتدأ الذی الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ دونوں  
خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ متناظر ہواؤ

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَتَأْتِیَنَّكُمْ ۗ عَلَیْمُ الْغَیْبِ ۗ لَا  
یَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ  
اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ۙ

**آیت نمبر ۳:** ہواؤ استثنائیہ قَالَ فعل الَّذِیْنَ اسم موصول كَفَرُوا ہواؤ ضمیر فاعل ہاؤ ضمیر فاعل صلہ موصول باصلہ فاعل، فعل ہا فاعل  
قول، و کتابی فعل ناقص ضمیر مفعول بہ اَلْسَاعَةُ فاعل سے مل کر مفعول، قول ہا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہواؤ قول فعل امر آتت مستقر فاعل سے  
مل کر قول، بلی حرف ایجاب مفعول، قول ہا مفعول جملہ انتہائیہ ہواؤ ہواؤ قسمیہ جارہ رَبِّیْ مرکب اضافی مبدل منہ عاقلہ الْغَیْبِ مرکب

اضانی ذوالحال لایَعْدُبُ فعل عنده جہا بجز معلق ہوئے و مثقالاً ذَرَقَ مرکب اضانی ذوالحال فی السَّمَوَاتِ جہا بجز و معطوف علیہ، واو عاطفہ لآذ لہ فی الارض جہا بجز و معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر کائنا کے معلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ لآذ لہ ما صغرو اسم تفضیل ہو مستقر قائل من ذلک معلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لآذ لہ اسم تفضیل باہو مستقر قائل معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال لآحرف استہارہ فی حرف جر کتاپ مبینہ مرکب توصیفی مجرور، جہا بجز و کائینین کے معلق ہو کر حال ذوالحال باحال زنی کابل، مبدل منہ بادل مجرور، جہا بجز و معلق ہوئے فعل محذوف اقسیم کے، اقسیم فعل آکا مستقر قائل و معلق سے مل کر قسم بتکائین فعل ہی مستقر قائل کم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

**لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝**

**آیت نمبر ۳:** لامر جہہ تیلیہ یجزی فعل ہو مستقر قائل الذین اسم موصول آمنوا فعل باوا ضمیر قائل معطوف علیہ، واو عاطفہ عملوا فعل واو ضمیر قائل الصالحات مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتداول مصدر مجرور، جہا بجز و معلق ہوئے لایَعْدُبُ کے یا لتکائین کے، اولئک اسم اشدہ مبتدأ، لہم ظرف مستقر کائنا کے معلق ہو کر خبر مقدم مغفوة معطوف علیہ، واو عاطفہ رزق کریمہ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اولئک کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝**

**آیت نمبر ۵:** واو استہارہ فی آياتنا الذین اسم موصول سعوا فعل واو ضمیر قائل فی آياتنا معلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، معجزین حال ہے سعوا کی ضمیر قائل سے اولئک اسم اشدہ مبتدأ، لہم ظرف مستقر کائین کے معلق ہو کر خبر مقدم، عذاب موصوف من رجز کائین کے معلق ہو کر صفت اولی الیئم صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر اولئک کی خبر ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اسم موصول مبتدأ کی خبر ہے۔

**وَيَذَرِي الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَوَيَهْدِي إِلَىٰ**

**صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝**

**آیت نمبر ۶:** واو استہارہ فی الذین اسم موصول اوتوا فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل العلم مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قائل الذین اسم موصول انزل فعل مجہول ہو مستقر ذوالحال من ربک کائنا کے معلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب قائل الیک جہا بجز و معلق، فعل مجہول نائب قائل و معلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ یزی کا مفعول اذل ہو ضمیر فعل الحق مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متاخر ہو اور اکتویزی کی واو عاطفہ بتایین ہجر اس کا عطف یجزی ہے ہو گا۔ واو عالیہ یهدی فعل ہو مستقر قائل الی حرف جہا صراط مضاف العزیز الحمید مرکب توصیفی

مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ مجرور، جہد باجرور متعلق، فعل ہافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے الحقیق سے۔ اورا کرواؤ عاقلہ ہوتی ہے یعنی ہادیثا کے ہو کر الحقیقہ معطوف ہو گا اوراؤ کو او استیفاء یہ بھی بنا سکتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُبَيِّنُ لَكُمْ إِذَا مَرَّ قَوْمٌ كُلُّ مَرَّ قَوْمٍ إِنَّكُمْ

### لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۷﴾

**آیت نمبر ۷:** واو عاقلہ قال فعل الدین کفرؤ واموصول ہاسلہ فاعل، فعل ہافاعل قول، ہل حرف استفہام نَدُلُّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ علی حرف جار یُبَيِّنُ فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ اذ ان حرف تعین کُم ضمیر اس کا اسم لامر نہ ملتا ہے جہد خَلْقِ جَدِيدِ مرکب توسیلی مجرور، جہد باجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر بیان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول ثانی کے قائم مقام، فعل ہافاعل و مفعولین رَجُلٍ کی صفت، موصوف ہفت مجرور، جہد باجرور نَدُلُّ کے متعلق، فعل ہافاعل و مفعول یہ متول، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اذ ا مضاف مَرَّ قَوْمٌ فعل مجہول ضمیر نائب فاعل کُلِّ مَرَّ قَوْمٍ مرکب اضافی مفعول مطلق، فعل مجہول ہا نائب فاعل و مفعول مطلق مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ مفعول فی ہوا فعل مخدوف تُخَشَّرُونَ کا۔

أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَ

### الصَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ﴿۸﴾

**آیت نمبر ۸:** ہمزہ استفہامیہ افترى فعل ہو مستتر فاعل علی اللہ جہد باجرور متعلق کذباً مفعول بہ، فعل ہافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انتہائیہ معطوف علیہ، افر عاقلہ بہ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم جِنَّةٌ مبتدا خبر، مبتدا باخر معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف جملہ متانہ ہوا بیل حرف اضراب الدین اسم موصول لا یؤمنون فعل واو ضمیر فاعل بالآخِرَةِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہاسلہ مبتدا فی جہد الْعَذَابِ معطوف علیہ، واو عاقلہ الصَّلٰلِ الْبَعِيْدِ مرکب توسیلی معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف مجرور، جہد باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہوا۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ نَسْأَ  
تَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ

### عَبْدٍ مِّنِيْبٍ ﴿۹﴾

**آیت نمبر ۹:** ہمزہ استفہامیہ فاء عاقلہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے تقدیر عبارت آتَعَوْا اللَّهَ يَرَوْا فعل واو ضمیر فاعل الی جہد مآسم موصول بَيْنَ اَيْدِيهِمْ مرکب اضافی مفعول فی ہوا فعل مخدوف و تقع کا، پھر یہ صلہ ہوا موصول ہاسلہ معطوف علیہ، واو عاقلہ مآسم موصول خَلْفَهُمْ مرکب اضافی مفعول فی ہوا فعل مخدوف ثَبَّتْ کا، پھر یہ صلہ ہوا موصول ہاسلہ معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف، والال من جہد السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ معطوف علیہ ہامعطوف مجرور، جہد باجرور کائنات کے متعلق ہو کر حال، والال

باجل ای کا مجرور، جار مجرور متعلق، فعل با قائل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ متانفہ ہوں۔ ان شرطیہ نکتہ اشکال  
 یا نَحْنُ مستتر قائل شرطیہ نَحْنُ مَعْتَرِفٌ نَحْنُ لَمْ نَحْنُ مستتر قائل یَبْهَمُ متعلق، الْأَوْضُ مفعول بہ سے مل کر جملہ خبریہ معطوف علیہ، وَأَوْعَافِظُ  
 نُسِقِظُ نَحْنُ مستتر قائل عَلَیْهِمْ جار مجرور متعلق ہونے کی سبب موصوف من السَّمَاءِ کائینا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف  
 ہفت نُسِقِظُ کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط ہا جزاء جملہ  
 شرطیہ ہوں۔ ان حرف تحقیق فی ذلک ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لاہر مدح لفظ ایک موصوف لاہر جارہ کل مضاف عَبْدِ  
 مُنِیبِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف ہا مضرف الیہ مجرور، جار مجرور کائینا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت اسم مؤخر،  
 ان ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

● رکوع نمبر ۲ ●

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ إِيْحِبَالٌ أَوْ يَمِي مَعَهُ وَ الطَّيْرِ ۖ وَ آتَيْنَاهُ الْحَدِيدَ ۖ

آیت نمبر ۱۰: واوا استینافیہ لاہر موطن، قسم اور قسم مخدوف ہے۔ قذ علامت فعل، آتینا فعل نا ضمیر قائل دَاوُدَ مفعول بہ اول، مِنَّا  
 جار مجرور متعلق فَضْلًا معطوف علیہ، واو عطف الِطَّيْرِ معطوف (روح المعانی) معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و متعلق  
 و مفعولین جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ یاء حرف نداء اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل انا مستتر قائل حِبَالٌ مَطْلًا  
 منصوب مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول جملہ انشائیہ نداء اَوْ يَمِي فعل انا ضمیر قائل مَعَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر جواب  
 نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے (کشاف) واو عطف الِكَافِ نَحْنُ ضمیر قائل لہ جارہ مجرور متعلق الْحَدِيدَ  
 مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ آتینا م معطوف ہے۔

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَةً وَ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

آیت نمبر ۱۱: ان مصدریہ اعْمَلْ فعل امر آت مستتر قائل سَابِغَةً بواسطہ موصوف مخدوف حُرُوفِ عَاكٍ مفعول بہ، فعل با قائل  
 و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عطف قَدِّرْ فعل امر آت مستتر قائل فِي السَّرْدِ جارہ مجرور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف  
 اول، واو عطف اَعْمَلُوا فعل واو ضمیر قائل صَالِحًا مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتاویل مصدر منصوب بنزع  
 الخافض التنا کے متعلق ہوں۔ ان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کلام، بناء حرف جرہ اسم موصول تَعْمَلُونَ فعل باوا ضمیر قائل صلہ، موصول  
 باصلہ مجرور، جارہ مجرور متعلق مقدم بِصِيرٍ مینہ صفت ہو مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، ان ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
 مطلقہ ہوں

وَلِسَلِيمِ الْرِيحِ غَدُوهَا شَهْرٌ وَ رَوَاحِهَا شَهْرٌ ۖ وَ أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَ مِنَ

الْحِجْرِ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَذْنِ رَبِّهِ ۗ وَ مَنْ يَنْغِ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِنْ

عَذَابِ السَّعِيرِ ۝





فاعل، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزمہ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ فقاء عاطفہ لکن متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم نحو فعل ہو مستقر فاعل سے مل کر شرط تکینتک فعل الٰجین مبدل منہ آن محقق من اللہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم کو شرطیہ کا نوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم یغلبون فعل واؤ ضمیر فاعل الغیب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، معانیا یہ کہبوا فعل واؤ ضمیر اس کا فاعل فی حرف جار، العذاب المہین مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزمہ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ بدل اشتمال، مبدل منہ بادل تکینتک کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزمہ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتْنِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ كَاطِبَةٌ ۖ وَ رَبُّ عَفْوٌ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** لآہ موطئہ القلم اور قسم محذوف ہے قد حرف تحقیق کان فعل ناقص لآہ حرف جد سبأ والجال فی ہمدہ مسکنہم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کاتیبین کے متعلق ہو کر حال، والجال باحال مجرور، جار مجرور کاتیبہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم آیتہ مبدل منہ جنتانکنا موصوف عن جہہ یمنین و شیمال معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور کاتیبان کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت بدل، مبدل منہ بادل اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جواب قسم، قسم ہا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ کوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل من جہہ رزق ربکم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اشکروا فعل امر واؤ ضمیر فاعل کہ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ ہوا قول محذوف قیل، کا تقدیر عبادت ہے۔ قال لہم کتبہم کوا... الخ قول با مقولہ جملہ مستانہ ہوں۔ (روح المعانی) بکدہ کاتیبہ مرکب توصیفی مبتدا محذوف ہی کی خبر، مبتدا خبر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ رب عفو مرکب توصیفی مبتدا محذوف الٰئمینہم کی خبر، مبتدا خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

فَاعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيرِ ۚ وَ بَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ ذَوَاتِ الْأَكْلِ حَبِطٌ وَ أَثْلٍ وَ شَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝

**آیت نمبر ۱۶:** فقاء عاطفہ اعرضوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ ارسلا فعل ناقص خبر فاعل علیہم جار مجرور متعلق، سئل العریر مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، اؤل، واؤ عاطفہ بدلنا فعل ناقص ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ اؤل تاء حرف جار جنتیہم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق جنتین موصوف ذواتی مضاف اکل حبط مرکب توصیفی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اؤل معطوف اؤل، واؤ عاطفہ شئیء موصوف من سدر کاتیب کے متعلق ہو کر صفت اؤل، قلیل صفت ثانی، موصوف با صفتین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ذواتی کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ جنتین کی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔



متعلق بالیئیس نازل کائنہ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، بقاۃ عاطفہ اَیْبَعُوا فعل واو ضمیر مستثنیٰ منہ  
الآحرف استثناء فی یَقَامُ موصوف من التَّوْبِیْنِیْنِ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بصفت مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ  
منہ ہا مستثنیٰ قائل واو ضمیر مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جواب قسم، قسم ہا جواب  
قسم جملہ انتہائی قسمیہ ہوں۔

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي  
شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: او عاطفہ مانا یہ کان فعل ناقص لہ جاہد باجر در ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم علیہم طرف  
مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم من جاہد زائدہ سُلْطٰنٍ لِنَعْلَمَ جہر و در غلام رفوع ذوالحال مؤخر، ذوالحال ہا حال اسم مؤخر، فعل ناقص ہا  
اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔ آل آحرف استثناء لِنَعْلَمَ مستثنیٰ منہ محذوف ہے لِنَعْلَمَ مِنَ الْآخِرَةِ، لآہ حرف جاہد برائے تعلیل،  
اور اس کے بعد ان مقدر ہے نَعْلَمَ فعل لِنَعْلَمَ مستقر قائل منہ اسم موصول یُّؤْمِنُ فعل ہو مستقر قائل بِالْآخِرَةِ جاہد باجر در متعلق، فعل  
ہا قائل و متعلق صلہ، موصول بصلہ مفعول بہ من جاہد منہ اسم موصول ہو ضمیر مبتدا، مِنْهَا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم فی حرف  
جرشکّ ذوالحال مؤخر، ذوالحال ہا حال باجر در، جاہد باجر در کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر صلہ، موصول بصلہ جہر و، جاہد باجر در  
نَعْلَمَ کے متعلق، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر جہر و، جاہد باجر در مستثنیٰ مرفوع، مستثنیٰ منہ ہا مستثنیٰ  
کان کے متعلق ہے۔ او استثنائی رَبُّكَ مرکب اضافی مبتدا، حَفِيظٌ صیغہ صفت ہو مستقر قائل علی جاہد کُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی جہر و،  
جاہد باجر در متعلق مقدم، صیغہ صفت ہا قائل و متعلق خبر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿ ۳۸ ﴾ رُكُوعُ نِمْبر ۳ ﴿ ۳۸ ﴾

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا  
فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ ۗ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظٰهِرٍ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: قُلِ فعل امر اِنَّكَ مستقر قائل سے مل کر قول، ادْعُوا فعل واو ضمیر قائل الَّذِينَ، اسم موصول زَعَمْتُمْ فعل  
ہم ضمیر محذوف مفعول بہ اِنَّ اللّٰهَ محذوف موصوف من دُونِ اللّٰهِ کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بصفت مفعول بہ ثانی،  
فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول بصلہ ذوالحال لَا يَمْلِكُونَ فعل واو ضمیر قائل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مرکب اضافی مفعول بہ  
فی السَّمٰوٰتِ جاہد باجر در معطوف علیہ، او عاطفہ لآزائدہ فی الْأَرْضِ جاہد باجر در معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف متعلق ہوئے، فعل ہا قائل  
و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ مَا شَابِ "بہ لیس لہم جاہد باجر در ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر  
خبر مقدم فِيهَا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم من جاہد زائدہ شَرِكٍ مرفوع علاذ ذوالحال ہا حال اسم مؤخر، مَا ہا اسم و خبر  
جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اِنَّ، او عاطفہ مَا شَابِ "بہ لیس لہ کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِنْهُمْ کائنات کے متعلق ہو کر حال

مقدم، من جہدہ ظہیر مرفوع مَلَّوْا لِحَالِ مَوْخِرٍ ذُو الْحَالِ بِحَالِ اِسْمِ مَوْخِرٍ مَّا بِاسْمِ وَخِرْ جَمْلَہٗ اِسْمِہٖ خَبْرِہٖ مَعْطُوفٌ بِمَآئِیْنِ مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْطُوفِیْنَ حَالِ ذُو الْحَالِ بِحَالِ اُدْعُوْا كَامْفَعُولٍ بِہٖ، فَعْلٌ بِاِنْفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِہٖ جَمْلَہٗ اِنشَائِیَہٗ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقْتُولِہٖ جَمْلَہٗ اِنشَائِیَہٗ اَمْرِیَہٗ ہُو۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَہٗ اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ لَہٗ ۚ حَتّٰی اِذَا فُیِّعَ عَنْ قُلُوْبِہُمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّکُمْ ۚ قَالُوْا الْحَقُّ ۗ وَہُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ ﴿۳۸۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** اُوْا عَاطِفٌ لَا تَنْفَعُ فَعْلٌ الشَّفَاعَةُ فَاعِلٌ عِنْدَہٗ مُرَكَّبٌ اِضَائِیٌّ مَفْعُولٌ بِہٖ بِالْاَحْرَافِ اسْتِغْمَہٗ لِقَوْلِہٖ جَاہِدْ مِّنْ اِسْمِ مَوْصُولٍ اٰذِنَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِیرٌ قَائِلٌ لَّہٗ مُتَعَلِّقٌ سَعْلٌ کَرْمَلِہٖ، مَوْصُولٌ بِصَلِہٖ جَمْرُورٌ، جَاہِدْ بِمَجْرُورٍ، مَسْتَقْبَلٌ مَفْرَعٌ مُتَعَلِّقٌ ہُوئے، فَعْلٌ بِاِنْفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِہٖ وَمُتَعَلِّقٌ جَمْلَہٗ فَعْلِیَہٗ خَبْرِہٖ مَعْطُوفٌ ہُو۔ حَقِّیْ حَرْفِ غَایَہٗ جَاہِدْ اِذَا شَرَطِہٖ مَفْعُولٌ بِہٖ مَقْدَمٌ فُرِعَ فَعْلٌ بِمَجْہُولٍ عَنْ قُلُوْبِہُمْ جَاہِدْ بِمَجْرُورٍ نَائِبٌ قَائِلٌ، فَعْلٌ بِمَجْہُولٍ بِنَائِبِ قَائِلٍ وَمَفْعُولٌ بِہٖ مَقْدَمٌ شَرْطٌ، قَالُوْا فَعْلٌ بِاِدْوَابِ ضَمِیرِ قَائِلٍ قَوْلٌ، مَّا اسْتِغْمَہٗہٗ مَبْتَدَآءٌ اِسْمِیٌّ اَلَّذِیْہِ اِسْمٌ مَوْصُولٌ قَائِلٌ فَعْلٌ رَبُّکُمْ مُرَكَّبٌ اِضَائِیٌّ فَاعِلٌ سَعْلٌ کَرْمَلِہٖ، مَوْصُولٌ بِصَلِہٖ خَبْرٌ، مَبْتَدَآءٌ بِخَبْرِہٗ جَمْلَہٗ اِنشَائِیَہٗ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقْتُولِہٖ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَامِ مَلَّوْا جَمْرُورٌ، جَاہِدْ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ہُوئے فَعْلٌ مَحْذُوفٌ یَتَوَبَّنُونَ کَہٗ، اُوْرٌ عِنْدَ اِبْعَاضِ مُتَعَلِّقٌ بِہٗ وَعَنْتُمْ کَہٗ۔ قَالُوْا فَعْلٌ بِاِدْوَابِ ضَمِیرِ قَائِلٍ قَوْلٌ، اَلْحَقُّ بِوَاسِطَہٗ مَوْصُوفٌ مَحْذُوفٌ اَلْقَوْلَ کَہٗ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ ہُو، فَعْلٌ مَحْذُوفٌ قَالَ اللّٰہُ کَاہٗ، فَعْلٌ بِاِنْفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقْتُولِہٗ جَمْلَہٗ فَعْلِیَہٗ خَبْرِہٖ ہُو۔ سَوَاوَاوَا اسْتِغْمَہٗ ہُوَ ضَمِیرٌ مَبْتَدَآءٌ اَلْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ اِسْمٌ کِی دُوْخِہٖ، مَبْتَدَآءٌ بِخَبْرِہٖ جَمْلَہٗ اِسْمِہٖ خَبْرِہٖ ہُو۔

قُلْ مَنْ یُّزِیْرُکُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰہُ ۗ وَاِنَّا وَاِیَّاکُمْ لَعَلٰی ہُدٰی اَوْ فِی

**صَلٰی مَبِیْنِ ﴿۳۸۴﴾**

**آیت نمبر ۳۴:** قُلْ فَعْلٌ اِمْرَاۃٌ مُسْتَرْتَقِیۃٌ سَعْلٌ کَرْمَلِہٖ، مِّنْ اِسْمِ اسْتِغْمَہٗ مَبْتَدَآءٌ یُّزِیْرُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَقِیۃٌ کُمُ ضَمِیرٌ مَفْعُولٌ بِہٖ، مِّنْ جَمْلِہٗ اَلسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْطُوفِیْنَ جَمْرُورٌ، جَاہِدْ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ہُوئے، فَعْلٌ بِاِنْفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِہٖ وَمُتَعَلِّقٌ جَمْلَہٗ فَعْلِیَہٗ خَبْرِہٖ مَبْتَدَآءٌ بِخَبْرِہٗ جَمْلَہٗ اِنشَائِیَہٗ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقْتُولِہٖ جَمْلَہٗ اِنشَائِیَہٗ اَمْرِیَہٗ ہُو۔ قُلْ فَعْلٌ اِمْرَاۃٌ مُسْتَرْتَقِیۃٌ سَعْلٌ کَرْمَلِہٖ، اَللّٰہُ خَبْرٌ بِہٖ مَبْتَدَآءٌ مَحْذُوفٌ هُوَ کِ، یَا مَبْتَدَآءٌ خَبْرٌ مَحْذُوفٌ یُّزِیْرُ فَعْلًا کَاہٗ، مَبْتَدَآءٌ بِخَبْرِہٗ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقْتُولِہٗ جَمْلَہٗ اِنشَائِیَہٗ اَمْرِیَہٗ ہُو۔ سَوَاوَا عَاطِفٌ اَنْ حَرْفِ تَحْقِیْقِیۃٌ نَا ضَمِیرٌ مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ، اُوْا عَاطِفٌ اِیَّاکُمْ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْطُوفِیْنَ کَاہٗ، اَمْرٌ عَرَفٌ حَلَقٌ عَلٰی ہُدٰی جَاہِدْ بِمَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ، اُوْا عَاطِفٌ فِی جَاہِدْ صَلٰلٌ مَبِیْنِ مُرَكَّبٌ تَوْصِیْفِیٌّ جَمْرُورٌ، جَاہِدْ بِمَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْطُوفِیْنَ کَاہٗ تَوْصِیْفِیٌّ ہُو۔ خَبْرٌ بِاِنْبَاءٍ اِسْمِ دُوْخِہٗ جَمْلَہٗ اِسْمِہٖ خَبْرِہٖ مَعْطُوفٌ ہُو۔

قُلْ لَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا اٰجَرْنَا وَا لَا نَسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۸۵﴾

**آیت نمبر ۳۵:** قُلْ فَعْلٌ اِمْرَاۃٌ مُسْتَرْتَقِیۃٌ قَوْلٌ، لَا تُسْئَلُوْنَ فَعْلٌ بِمَجْہُولٍ اُوْا ضَمِیرٌ نَائِبٌ قَائِلٌ عَنْ جَاہِدِہٗ مَّا مَوْصُولٌ اَجْرْنَا مَبْتَدَآءٌ ضَمِیرٌ نَائِبٌ قَائِلٌ سَعْلٌ کَرْمَلِہٖ، مَوْصُولٌ بِصَلِہٖ جَمْرُورٌ، جَاہِدْ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ہُوئے، فَعْلٌ بِمَجْہُولٍ بِنَائِبِ قَائِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ، اُوْا عَاطِفٌ



اسیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔

﴿۲﴾ رکوع نمبر ۳

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا نُوَدِّعُ الْظَالِمِينَ مَوْفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلِ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۳﴾

آیت نمبر ۳۱: او عاقلہ لَوْ شرطیہ لَوْ كَرَىٰ فعل آت مستتر قائل اِذْ مَضَى الْقَالِيُونَ مبتدأ مَوْفُونَ اسم مفعول هُمْ ضمیر مستتر ذال حال يُوَدِّعُ فعل بَعْضُهُمْ مركب انشائی قائل اِلى بَعْضِ جملہ مجرور متعلق ہوں الْقَوْلِ مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبدل منہ، يَقُولُ فعل الَّذِينَ اسم موصول اسْتَضَعَفُوا فعل مجہول اِذْ ضمیر نائب قائل لآء جملہ الَّذِينَ اسم موصول اسْتَكْبَرُوا فعل اِذْ ضمیر قائل صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جملہ مجرور متعلق، فعل مجہول ہا نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ يَقُولُ کا قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَوْ لَا انتہایاً اَنْتُمْ مبتدأ اور اس کی خبر محذوف ہے مَوْفُونَ مبتدأ خبر جملہ اسیہ خبریہ ہو کر شرط، لآء جوابیہ لَكُنَّا فعل ناقص تَا ضمیر اس کا اسم مَوْفِينَ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جزاء، شرط ہا جزاء مقولہ، قول ہا مقولہ بدل، مبدل منہ ہا بدل حال ذال حال ہا صلہ مَوْفُونَ کا نائب قائل عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب انشائی مفعول فیہ، اسم مفعول ہا نائب قائل و مفعول فیہ شبہ جملہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسیہ خبریہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ كَرَىٰ کا مفعول فیہ، فعل ہا قائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے لَوْ اَنْتَ اَمْرًا اَفْطِنَاعًا (روح المعانی) شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا اَنْحَنُ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳﴾

آیت نمبر ۳۲: قَالَ فعل الَّذِينَ اسم موصول اسْتَكْبَرُوا فعل اِذْ ضمیر قائل صلہ، موصول ہا صلہ قائل لآء جملہ الَّذِينَ اسم موصول اسْتَضَعَفُوا فعل مجہول اِذْ ضمیر نائب قائل صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جملہ مجرور متعلق ہوں، فعل ہا قائل و متعلق مفعول فیہ خبریہ قول، ہمدہ حرف استفہام اَنْحَنُ ضمیر مبتدأ صَدَدُ قائل تَا ضمیر قائل لَكُنْمُ ضمیر مفعول فیہ، عَنِ الْهُدَىٰ جملہ مجرور متعلق ہوں بَعْدَ مضاف اِذْ مضاف جَاءَ فعل ہو مستتر قائل كُنْمُ ضمیر مفعول بہ سے ل کر مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ بَعْدَ کا مضاف الیہ، مضاف

ہامضاً الیہ مفعول فیہ، فعل ہاقبل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ مبتدأ باخبر جملہ انشائیہ مفعولہ، قول ہامقوله جملہ فعلیہ خبریہ ہول بکن حرف اضراب کُنْتُمْ مُجْرِبِیْنَ فعل ناقص ہاسم و خبر جملہ متانف ہول

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ النَّيْلِ وَ النَّهَارِ اِذَا تَامُوا وَ تَنَاكَانِ  
تَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ نَجْعَلْ لَهُ اَنْدَادًا ۗ وَ اسْرُو النَّدَامَةَ لَمَّا رَاُوا الْعَذَابَ ۗ وَ جَعَلْنَا

الْاَعْلَانَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ اَهْلٌ يُجْرَوْنَ ۗ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۳**، او عاقلہ قَالَ لَ الَّذِينَ اسْم موصول اسْتَضَعِفُوا فعل مجهول واؤ ضمیر نائب فاعل لامر جادہ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا موصول ہاسلم مجرور، جادہ باخبر و متعلق ہوئے، فعل مجهول ہانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلم فاعل، فعل ہاقبل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اور مفعول مخدوف ہے کہ تَنْكُنْ مُجْرِبِیْنَ ، بکن حرف اضراب مَكْرُ مصدر مضاف اَللَّيْلِ وَ النَّهَارِ معطوف علیہ ہامعطوف مضاف الیہ، اذ مضاف تَامُوا فَ فعل واؤ ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بیان ہاسم تَكْفُرَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل بِاللّٰهِ جادہ باخبر و متعلق ہوئے، فعل ہاقبل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاقلہ نَجْعَلْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل لہ جادہ باخبر و مفعول بہ، ثانی، اَنْدَادًا مفعول بہ اول، فعل ہاقبل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف بتاول مصدر تَامُوا فَ مفعول بہ، فعل ہاقبل و متعلق و مفعول ہرادا ک مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ مَكْرُ ک مفعول فیہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و مفعول فیہ سے مل کر مبتدأ اور اس کی خبر مخدوف ہے صَدَّكَ، مبتدأ باخبر جملہ اسیہ خبریہ متانف ہول او عاقلہ اسْرُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل اَلنَّدَامَةَ مفعول بہ، اَلتَّائِرِیۡہ مضاف رَاَوْا فعل واؤ ضمیر فاعل اَلْعَذَابِ مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ مفعول فیہ، فعل ہاقبل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاقلہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل الْاَعْلَانَ مفعول بہ اول، ہی حرف جادہ اعنای مضاف اَلَّذِیْنَ كَفَرُوا موصول ہاسلم مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ مجرور، جادہ باخبر و مفعول بہ، ثانی، فعل ہاقبل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف جملہ معطوف ہول ہل حرف استفہام يُجْرَوْنَ فعل مجهول واؤ ضمیر نائب فاعل الْاَحْرَفِ اسْتَهْمَا اسْم موصول کاؤا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم مَعْمَلُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہاسم و خبر صلہ، موصول ہاسلم مفعول بہ، فعل مجهول ہانائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ مطلقہ ہول

وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرِ اِلَّا قَالُ مُتَرَفُوْا هٰذَا اِنَّا بِنَا اَوْ سَلَّمْتُمْ بِهٖ كَيْفَرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۴**، او استینافیہ مَا اِنَّا اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل فی جادہ قَرْيَةٍ و احوال الْاَحْرَفِ اسْتَهْمَا قَالَ فعل متروک و احوال کرب انسانی فاعل سے مل کر قول، اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم ہنء، ہاء حرف جادہ اس موصول اَوْ سَلَّمْتُمْ فعل مجهول تُمْ ضمیر نائب فاعل بہ متعلق سے مل کر صلہ، موصول ہاسلم مجرور، جادہ باخبر و متعلق مقدم کافُرُونَ اسْم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر اِن کی خبر، اِن با اسم و خبر مفعولہ، قول ہامقوله حال ہذا و احوال باحال مجرور، جادہ باخبر و متعلق ہوئے، و من جادہ زائدہ نَّذِيْرِ منصوب علماً مفعول بہ، فعل ہاقبل و متعلق و مفعول بہ جملہ خبریہ متانف ہول



وَقَالُوا لَنْحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۚ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۵:** واو عاطفہ قائلوا فعل باو ضمیر قائل قول، نحن ضمیر مبتدا، اکثر ہذا اسم تفضیل نحن مستتر قائل اموالا واولاد کا معطوف علیہ، ما بطرف تہیز، اسم تفضیل باقائل و تہیز خبر، مبتدا باخر معطوف علیہ، واو عاطفہ ما خبر تہیز نحن اس کا اسم بہا جہہ زلما معددین کلاما منسوب مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ خبریہ متانہ ہوں۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

**آیت نمبر ۳۶:** قُلْ فعل امر انک متعلق ضمیر مستتر قائل سے ل کر قول، ان حرف تحقیق ربی مرکب اضافی اس کا اسم تہیسط فعل ہو مستتر قائل الرزق مفعول بہ، لا جہہ من اسم موصول یشاء فعل باهو مستتر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہہ باجرور متعلق، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یقدر فعل باهو مستتر قائل معطوف، معطوف علیہ با معطوفین کی خبر، ان با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں واو حال علیہ لیکن حرف استدراک اکثر الناس مرکب اضافی اس کا اسم لا یعلمون فعل باو ضمیر قائل خبر لیکن با اسم و خبر حال ہے تہیسط کی ضمیر قائل سے۔

﴿ ۳۷ ﴾

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا ۖ زُلْفَىٰ إِلَّا مَن أَمَنَ وَعَمِلَ

صَالِحًا ۚ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ۚ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ۝

**آیت نمبر ۳۷:** واو استثنائیہ ماشابہ "بہ لیس اموالکم مرکب اضافی معطوف علیہ، ما بطرف ما کا اسم بہا جہہ زلفا لقی اسم موصول تقرب فعل ہی مستتر قائل کم ضمیر مفعول بہ، اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ما کا اسم بہا جہہ زلفا لقی اسم موصول تقرب فعل ہی مستتر قائل کم ضمیر مفعول بہ، عیندنا مرکب اضافی مقربین کا مفعول بہ ہو کر کم ضمیر کا حال ہے زلفی مفعول مطلق من غیر نظر، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ لقا مجرور کلاما منسوب ما کی خبر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں الا بمعنی لیکن، من اسم موصول آمن فعل باهو ضمیر قائل معطوف علیہ، واو عاطفہ عمل فعل ہو مستتر قائل صالحا مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ متضمن معنی شرط مبتدا، فقہ ہائے اولیٰ اسم اشدہ مبتدا، انھم ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم جزاء مصدر مضارع الضعف مضاف الیہ، بام جہہ ما اسم موصول عملوا فعل باو ضمیر قائل صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جہہ باجرور متعلق ہوئے مصدر کے، مصدر مضاف ہاضاف الیہ و متعلق مبتدا، و خبر، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اولیٰ کی خبر، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہم ضمیر مبتدا، امنون اسم قائل ہذا ضمیر قائل فی الغرفات متعلق مقدم سے ل کر خبر، مبتدا باخر معطوف، معطوف علیہ با معطوف من کی خبر قائم مقام جزاء، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝

**آیت نمبر ۳۸:** واو استثنائیہ الذین اسم موصول یسعون فعل باو ضمیر ذوالحال معجزین حال، ذوالحال باحال قائل فی آیاتنا جہہ

ہا مجرد متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، اُوْلَئِكَ اَسْمَاءُ مَبْتَدَا، مُخَضَّرُوْنَ کَاسِمٌ مفعول  
 هُوَ ضمیر نائب فاعل فی الْعَذَابِ متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستقر ہو۔  
 قُلْ اِنَّ رَبِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهٗ اَوْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۹:** قُلْ اِنَّ رَبِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهٗ اَوْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ۝  
 آیت نمبر ۳۹: قُلْ اِنَّ رَبِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهٗ اَوْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ۝  
 اِسْمِ ضَائِقِ اس كلاس يَبْسُطُ فعل هُوَ مستتر فاعل  
 الرِّزْقُ مفعول بہ لام جادہ مِنْ اِسْمِ موصول بِشَاءَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ عِبَادِهِ طرف مستقر کا کئی  
 کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہا حال مجرور، جادہ باجروء متعلق ہوئے، فعل ہا قاع و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ  
 يَقْدِرُ فعل هُوَ مستتر فاعل جادہ باجروء و متعلق تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر اِنَّ اِسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول  
 ہا مقولہ جملہ انشائیہ ہوں واو عاطفہ مَا اِسْمِ شرط ذوالحال مِنْ شَيْءٍ طرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہا حال مفعول بہ  
 مقدم اَنْفَقْتُمْ فعل تُوْہ ضمیر فاعل و مفعول بہ سے مل کر شرط، قَاءَ جزائیہ هُوَ ضمیر مبتدأ، يُخْلِفُ فعل هُوَ مستتر فاعل هُوَ ضمیر مفعول بہ  
 سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدأ، خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ خبر معطوف،  
 معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِّلْمَلٰٓئِكَةِ اِهٰٓؤْاٰ اَيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۴۰:** وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِّلْمَلٰٓئِكَةِ اِهٰٓؤْاٰ اَيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝  
 آیت نمبر ۴۰: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِّلْمَلٰٓئِكَةِ اِهٰٓؤْاٰ اَيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝  
 اِسْمِ ضَائِقِ اس كلاس يَحْشُرُهُمْ مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ يَقُوْلُ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل لِّلْمَلٰٓئِكَةِ متعلق سے مل کر قول، ہمیزہ حرف  
 استفہام هُوَ لام اِسْمِ اَشَدَّ مَبْتَدَا، اَيَّاكُمْ مفعول بہ مقدم يَعْبُدُوْنَ کا، کائُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کلاس يَعْبُدُوْنَ فعل باواو ضمیر فاعل  
 و مفعول بہ مقدم خبر، فعل ناقص ہا اِسْمِ وَخبر مبتدأ کی خبر، مبتدأ خبر مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَوْمَ کا مضاف  
 الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل محذوف اَذْكُرْ کا، اَذْكُرْ فعل امر بآت مستتر فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

**قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَّلِيْنٰنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْتُوْهُمُ بِهِمْ**

**مُوْمِنُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۴۱:** قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَّلِيْنٰنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْتُوْهُمُ بِهِمْ  
 آیت نمبر ۴۱: قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَّلِيْنٰنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْتُوْهُمُ بِهِمْ  
 اِسْمِ ضَائِقِ اس كلاس سُبْحٰنَكَ فعل ناقص ہوں اَنْتَ مَبْتَدَا، وَّلِيْنٰنَا ذوالحال مِنْ دُوْنِهِمْ کا کئی کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہا حال خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ بَلْ  
 برائے اضرب کا کئی فعل ناقص واو ضمیر اس کلاس يَعْبُدُوْنَ فعل باواو ضمیر فاعل الْجِنَّ مفعول بہ، تینوں مل کر خبر، فعل ناقص ہا اِسْمِ وَخبر  
 جملہ فعلیہ خبریہ مستقر ہوں۔ اَكْتُوْهُمُ مرکب اضافی مبتدأ، بِهِمْ جادہ باجروء متعلق مقدم مُوْمِنُوْنَ اِسْمِ فاعل هُوَ ضمیر فاعل و متعلق مقدم  
 سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا  
عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: فَاذْذَاتِنَا الْيَوْمَ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ لَا يَمْلِكُ فَضْلٌ بَعْضُكُمْ مَرْكَبٌ اِسْمَانِي قَاعِلٌ لِبَعْضٍ جَدِ بِجَرٍ وَ مَتَّحِقٌ  
هُوَ كَفَعًا مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ ۗ وَ اَوْ عَاطِفٌ لَازِمٌ لَهُ ضَرًّا مَعْفُوفٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِاِصْفِ مَعْفُوفٍ بِهِ ۗ فَضْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَتَّحِقٌ وَ مَفْعُولِينَ جَمَلَةً فَلْيَعْلَمِ خَبْرِيه  
مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ ۗ وَ اَوْ عَاطِفٌ لِقَوْلِ لَنْحُنْ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ لَامٌ جَدِهَا الَّذِيْنَ كَلَّمَ اَوْ مَوْصُولٌ بِاسْمِ جَرٍ ۗ جَدِ بِاِجَرٍ وَ مَتَّحِقٌ فَضْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَتَّحِقٌ  
جَمَلَةً فَلْيَعْلَمِ خَبْرِيه قَوْلِ ذُو قَوْلَا فَضْلٌ اِسْمِ اِرْوَادٍ خَمِيرٍ قَاعِلٌ عَذَابِ مَضَافٍ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ كُنْتُمْ فَضْلٌ نَاقِسٌ ثُمَّ خَمِيرِ اِس  
كَا اِسْمٌ يَكْتَبُ يَوْمَ فَضْلٌ بِاِوَادٍ خَمِيرٍ قَاعِلٌ اَوْرِيهَا مَتَّحِقٌ مَقْدَمٌ سَعَلٌ كَرَبْرِيه فَضْلٌ نَاقِسٌ بِاِ اِسْمٍ وَ خَبْرِيه مَوْصُولٌ بِاسْمِ مَضَافٍ اِلَيْهِ مَضَافٍ  
بِمَضَافٍ اِلَيْهِ ذُو قَوْلَا كَا مَفْعُولٌ بِهِ ۗ فَضْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةً اِسْمِيه مَقُولٌ قَوْلٌ بِاِقَاعِلٌ مَعْفُوفٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِاِصْفِ جَمَلَةً مَسْتَرٌ هُوَ

وَ اِذَا تَنَلَى عَلَيْهِمْ اَيْتِنَّا بَيْنَيْكَ قَالُوا مَا هَذَا اِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ اَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا  
يَعْبُدُ اَبَاؤَكُمْ ۗ وَ قَالُوا مَا هَذَا اِلَّا اِفْكٌ مُفْتَرًى ۗ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْلَا لَحِقَ لَمَّا  
جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: وَ اَوْ اِسْتِثْنَاءِيه اِذَا ثَرِيه مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ تَنَلَى فَضْلٌ مَجْهُولٌ عَلَيْهِمْ جَدِ بِجَرٍ وَ مَتَّحِقٌ اِيَّا تِنَّا مَرْكَبٌ اِسْمَانِي  
ذُو اِلْحَالِ بَيْنَيْكَ مَالٌ ذُو اِلْحَالِ بِمَالٍ نَابِ قَاعِلٌ فَضْلٌ مَجْهُولٌ بِاَنْبِ قَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ جَمَلَةً فَلْيَعْلَمِ خَبْرِيه شَرْطًا قَالُوا فَضْلٌ بِاِوَادٍ خَمِيرٍ قَاعِلٌ  
جَمَلَةً فَلْيَعْلَمِ خَبْرِيه قَوْلِ مَا نَافِيه هَذَا اِسْمٌ اِشْرَاهُ مَبْدَا اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءِيه لَعَزَّ جُلٌّ مَوْصُولٌ يُرِيدُ فَضْلٌ هُوَ خَمِيرِ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ اَنْ نَاصِرِيه يَصُدُّ  
فَضْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ كَمْ خَمِيرِ مَفْعُولٌ بِهِ ۗ عَن جَدِهَا مَا اِسْمٌ مَوْصُولٌ كَانِ فَضْلٌ نَاقِسٌ هُوَ مَسْتَرٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ يَعْْبُدُ فَضْلٌ اِبَاؤُكُمْ مَرْكَبٌ  
اِسْمَانِي قَاعِلٌ سَعَلٌ كَرَبْرِيه فَضْلٌ نَاقِسٌ بِاِ اِسْمٍ وَ خَبْرِيه جَمَلَةً فَلْيَعْلَمِ خَبْرِيه مَوْصُولٌ بِاسْمِ جَرٍ ۗ جَدِ بِاِجَرٍ وَ يَصُدُّكُمْ مَتَّحِقٌ فَضْلٌ  
بِاِقَاعِلٌ وَ مَتَّحِقٌ جَمَلَةً فَلْيَعْلَمِ خَبْرِيه تَبَاوُلٌ مَعْدُورِيه اِنْ كَا مَفْعُولٌ بِهِ ۗ فَضْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ مَعْفُوفٌ بِاِصْفِ جَمَلَةً مَبْدَا بِاِجَرٍ جَمَلَةً  
اِسْمِيه خَبْرِيه مَقُولٌ قَوْلٌ بِاِقَاعِلٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ ۗ وَ اَوْ عَاطِفٌ قَالُوا فَضْلٌ بِاِقَاعِلٌ جَمَلَةً فَلْيَعْلَمِ خَبْرِيه قَوْلِ مَا نَافِيه هَذَا اِسْمٌ اِشْرَاهُ مَبْدَا اِلَّا حَرْفٌ  
اِسْتِثْنَاءِيه اِفْكٌ مُفْتَرًى مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِي خَبْرِيه مَبْدَا بِاِجَرٍ مَقُولٌ قَوْلٌ بِاِقَاعِلٌ مَعْفُوفٌ اِذِلٌ وَ اَوْ عَاطِفٌ قَالِ فَضْلٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ كَفَرُوا  
فَضْلٌ بِاِوَادٍ خَمِيرٍ قَاعِلٌ صِلَةٌ مَوْصُولٌ بِاسْمِ قَاعِلٌ لِحَقِي جَدِ بِجَرٍ وَ مَتَّحِقٌ هُوَ كَمَا تَرَفِيهِ مَضَافٍ جَاءَ فَضْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ هُوَ  
خَمِيرِ مَفْعُولٌ بِهِ سَعَلٌ كَرَبْرِيه مَضَافٍ اِلَيْهِ مَضَافٍ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيهِ ۗ فَضْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مَتَّحِقٌ وَ مَفْعُولٌ فِيهِ جَمَلَةً فَلْيَعْلَمِ خَبْرِيه قَوْلِ اِنْ نَافِيه  
هَذَا اِسْمٌ اِشْرَاهُ مَبْدَا اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءِيه سِحْرٌ مُّبِينٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِي خَبْرِيه مَبْدَا بِاِجَرٍ جَمَلَةً اِسْمِيه خَبْرِيه مَقُولٌ قَوْلٌ بِاِقَاعِلٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِاِصْفِ جَمَلَةً مَسْتَرٌ هُوَ

وَ مَا اَتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَ مَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ مِنْ نَذِيرٍ ﴿۳۵﴾

**آیت نمبر ۳۳:** وَاَوْاسْتَيْنَاهُ مَا نَانِيَةً اَنْتَيْمَا نَعْلُ نَا ضَمِيرٌ فاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مفعول به اَوَّلٌ، مِنْ جَارِهِ زَلَّوهُ كَتَبُ موصوفٌ يَدُ مَسُونٌ فاعِلٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ فاعِلٌ هَا ضَمِيرٌ مفعول به سے مل کر صفت، موصوف باصفت لفظاً مجرداً و مَعْلَاً منصوب مفعول به ثانی، فاعِلٌ بِفَاعِلٍ و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْ عاطفہ مَا نَانِيَةً اَنْتَيْمَا نَعْلُ نَا ضَمِيرٌ فاعِلٌ اَلَيْهَمْ جَد بجز در متعلق قَبْلِكَ مَرْكَبِ اِضَائِي مفعول فیہ، مِنْ جَارِهِ زَلَّوهُ كَتَبُ يَدُ مَعْلَاً منصوب مفعول بہ، فاعِلٌ بِفَاعِلٍ و متعلق و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا بَلَغُوا مِيعَشَارَ مَا اَتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِيْ س فَكَيْفِ

كَانَ نَكِيْرًا ﴿٣٥﴾

**آیت نمبر ۳۵:** وَاَوْ عاطفہ كَذَّبَ فاعِلٌ اَلَّذِيْنَ اسْمٌ موصولٌ مِنْ قَبْلِهِمْ جَد بجز در ظرف مستقر متعلق ہوئے فعل محذوف مَحْذُوْفَاكے بجز یہ صلہ ہے موصول باصلہ زوالحال وَاَوْ حالِہ مَا نَانِيَةً يَكْفُوْا فاعِلٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ فاعِلٌ مِيعَشَارَ مضافٌ مَآ اسْمٌ موصولٌ اَتَيْنَا فاعِلٌ نَا ضَمِيرٌ فاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فاعِلٌ بِفَاعِلٍ و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، زوالحال باحال فاعِلٌ، فاعِلٌ بِفَاعِلٍ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں فَاءَ عاطفہ كَذَّبُوا فاعِلٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ فاعِلٌ رُسُلِيْ مَرْكَبِ اِضَائِي مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر كَذَّبَ اَلَّذِيْنَ مَعطوف ہے فَاءَ نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے لَمَّا كَذَّبُوا رُسُلِيْ جَاءَهُمْ اَنْكَارٌ بِاَنْكَارٍ كَيْفٌ كَيْفًا کا مفعول فیہ ہو کر كَانِ كِ خیر مقدم، كَانِ فاعِلٌ نَاقِسٌ نَكِيْرًا اصل میں نَكِيْرًا ہی ہے یہ مَرْكَبِ اِضَائِي فاعِلٌ نَاقِسٌ کا اسم، فاعِلٌ نَاقِسٌ بِاسْمِ و خبر جملہ انشائیہ جہاں، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

www.kitabosunnat.com

﴿ ۳۶ ﴾ رُكُوْعٌ ۶ ﴿ ۳۷ ﴾

قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰی وَ فِرَادٰی ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۚ وَمَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَدِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٣٦﴾

**آیت نمبر ۳۶:** قُلْ فاعِلٌ امر اَرْدَتْ مستتر فاعِل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق مَآ كَانَا اَحِيْطُ فاعِلٌ اَنَا ضَمِيرٌ مستتر فاعِلٌ لَكُمْ مفعول بہ بآء جادہ و اِحْدٰی مبدل منہ اَنْ تَقُوْمُوْا فاعِلٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ زوالحال لِلّٰهِ جَد بجز در متعلق ہوئے مَثْنٰی وَ فِرَادٰی معطوف علیہ با معطوف حال، زوالحال باحال فاعِلٌ، فاعِلٌ بِفَاعِلٍ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَلَيْهَمْ عاطفہ تَتَفَكَّرُوْا فاعِلٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ فاعِلٌ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاول مصدر بدل، مبدل منہ ببدل مجرد، جَد بجز در متعلق، فاعِلٌ بِفَاعِلٍ و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متولہ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں مَآ شَايَ "بہ لَيْسَ بِصَاحِبِكُمْ كَيْفًا کے متعلق ہو کر خیر مقدم، مِنْ جَارِهِ زَلَّوهُ كَتَبُ يَدُ مَعْلَاً مَوْخَرٌ، مَآ اسْمٌ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تَتَفَكَّرُوْا کا مفعول بہ ہوں اِنْ نَافِيَةٌ ہُوَ ضَمِيرٌ مبتدأ، اِلَّا حرف استثناء نَدِيْرٌ موصیفہ صفت ہُوَ مستتر فاعِلٌ لَكُمْ متعلق سے مل کر موصوف بِيْنَ مضاف يَدَيْ مضاف الیہ مضاف عَذَابٍ شَدِيْدٍ مَرْكَبِ اِضَائِي مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف باصفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۗ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

## شہید

**آیت نمبر ۳۷:** قُلْ نِعْمَ الرَّبُّ الَّذِي اسْتَمِعْتُمْ اَصْوَاتَ الْغَيْبِ لَوْلَا ذُو الْجَنَابِ لَمَسَّكُمْ فَاِذَا هُمْ صٰرِقُوْنَ ۗ

ذوالجناہ ہمال مفعول بہ یعنی مقدم سناٹ فعل ت ضمیر قائل کُم ضمیر مفعول بہ اول، فعل بافاعل و مفعولین شرط، فقاء جزائیہ ہو ضمیر مبتدأ، لکم ظرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہولین نافیہ آخری مرکب اضافی مبتدأ، الآخر استثناء علی اللہ کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہولو او عطف ہو ضمیر مبتدأ، علی جملہ جملی ہو مرکب اضافی مجرور، جملہ مجرور متعلق مقدم شہید میں صفت باہو مستقر قائل و متعلق مقدم خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول

## قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ عِلْمًا مَّا الْغَيْبُ ۗ

**آیت نمبر ۳۸:** قُلْ نِعْمَ الرَّبُّ الَّذِي اسْتَمِعْتُمْ اَصْوَاتَ الْغَيْبِ لَوْلَا ذُو الْجَنَابِ لَمَسَّكُمْ فَاِذَا هُمْ صٰرِقُوْنَ ۗ

فاعل بِالْحَقِّ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اول، عِلْمًا مَّا الْغَيْبُ مرکب اضافی خبر دوم، اِنَّ اسم و خبرین مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہول

## قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يَبْدِيْ الْبَاطِلُ وَ مَا يَعْجِدُ ۗ

**آیت نمبر ۳۹:** قُلْ نِعْمَ الرَّبُّ الَّذِي اسْتَمِعْتُمْ اَصْوَاتَ الْغَيْبِ لَوْلَا ذُو الْجَنَابِ لَمَسَّكُمْ فَاِذَا هُمْ صٰرِقُوْنَ ۗ

آبِطاطل فاعل سے ل کر معطوف اول، و او عطف مآنایہ یعیید فعل باہو مستقر قائل معطوف جملی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہول

**قُلْ اِنْ صَلَّيْتُ فَانَّمَا اضِلُّ عَلَى نَفْسِيْ ۗ وَاِنْ اهْتَدَيْتُ فَمَا يُؤْتِيْ حِيَآلِيْ رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ۗ**

**آیت نمبر ۵۰:** قُلْ نِعْمَ الرَّبُّ الَّذِي اسْتَمِعْتُمْ اَصْوَاتَ الْغَيْبِ لَوْلَا ذُو الْجَنَابِ لَمَسَّكُمْ فَاِذَا هُمْ صٰرِقُوْنَ ۗ

اِنَّ حرف تحقیق مآ کا اضل فعل انا مستقر قائل علی نفسی متعلق سے ل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، و او عطف اِنَّ شرطیہ اهتدیت فعل ضمیر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائیہ مآ مصدریہ یؤتی فعل ربی مرکب اضافی قائل انا متعلق سے ل کر بتاویل مصدر مجرور، جملہ مجرور متعلق ہوئے فعل مخدوف اهتدیت کے، اَهْتَدَيْتُ فعل انا مستقر قائل و متعلق سے ل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہول اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ دو خبر اِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہول

وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوْا فَاَلَّا قُوْتًا وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۗ وَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهِ ۗ وَاَنْتَ

لَهُمُ التَّنٰوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۗ

**آیت نمبر ۵۱، ۵۲:** وَإِذِ اسْتَسْتَأْذِنُ لَوْ شِئْتَ لَفِي قَوْلٍ مِّنْ لَّدُنِّي فَذَرْنَاهُ فِئْتَانًا يَلْبَسُونَ۔  
 ایہ، مضاف بمضاف الیہ مفعول فیہ، فعل ہا قائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط عقابہ جتناسیہ لائقی جس قوت اس کا اسم اور اس کی خبر مخدوف ہے لہٰذا لائقی جس ہا اسم و خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ اُخْتُدُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل من جارہ مکان کَرِيبٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق، فعل مجہول ہائیب قائل و متعلق معطوف ازل، واو عاطفہ قَالُوا فعل ہا واو ضمیر نائب قائل قول، اَمَّا فعل تانصیر قائل اور یہ متعلق سے ل کر مفعول، قول، قول، بقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں، واو اعتراضیہ اَنْی کائین کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، لہٰذا ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر حال مقدم، اَلتَّكْوَانُ مَوْجُودٌ مصدر من جارہ مکان بَعِيدٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، مصدر ہا متعلق ذوالحال مؤخر ذوالحال ہا حال مبتدا مؤخر، مبتدا ہا خبر جملہ انشائیہ مترجمہ ہوں۔

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥١﴾

**آیت نمبر ۵۳:** وَإِذْ هُمْ يُقَالُونَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّيْرِ۔  
 قائل یہ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ يَقْذِفُونَ فعل ہا واو ضمیر نائب قائل بِالْغَيْبِ جار مجرور متعلق ازل، من جارہ مکان بَعِيدٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق دوم، فعل ہا قائل و متعلقین معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف حال ہے قَالُوا کی ضمیر قائل سے۔

وَجِيءَ يَبِيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي

شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٢﴾

**آیت نمبر ۵۳:** وَإِذْ هُمْ يُقَالُونَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّيْرِ۔  
 علیہ، واو عاطفہ بَيْنَ مضاف ما اسم موصول يَشْتَهُونَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر راجع بسوئے الخول مصدر نائب قائل يَبِيْنَهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ بَيْنَ مضاف ما اسم موصول يَشْتَهُونَ فعل مجہول ہا واو ضمیر نائب قائل ہا واو ضمیر نائب قائل صلہ، موصول ہا صلہ مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مفعول فیہ، مکان جارہ ما اسم موصول فُعِلَ فعل مجہول ہو ضمیر نائب قائل بِأَشْيَاعِهِمْ متعلق ازل، من قَبْلُ متعلق ثانی (حاشیہ الجمل) فعل مجہول ہائیب قائل و متعلقین صلہ، موصول ہا صلہ مجرور، جار مجرور متعلق کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف سَوَّلَا کے مفعول مطلق، فعل مجہول ہائیب قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں ان حرف تحقیق ہُمْ ضمیر اس کا اسم کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم فی جارہ شَكٍّ مُّرِيبٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر ان کی خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

## تَرْكِبُ سُورَةِ قَاطِرٍ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةِ  
رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَّةٌ ۖ وَرُبْعٌ مَّازِيدٌ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

**آیت نمبر ۱:** الْحَمْدُ مبتدا، لام جرہ اللہ موصوف قاطر مضاف السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ بمعطوف مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ مفت اول، جاعل مینہ مفت مضاف الْمَلِكَةِ مضاف الیہ معنی معقول بہ اہل، رُسُلًا موصوف اولیٰ مضاف أَجْنِحَةٍ مبدل مَثْنَىٰ وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ معطوف علیہ بمعطوفین بدل، مبدل منہ بدل مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ مفت، موصوف بہ مفت معقول بہ اہل، جاعل مینہ مفت دولوں معقولوں سے ل کر اللہ کی مفت ثانیہ، موصوف ہا متعین مجرور، جد ہا مجرور کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یَزِيدٌ فعل ہو متعلقا علی فی الْخَلْقِ جد ہا مجرور متعلق مآس موصول یَشَاءُ فعل ہا ہو متعلقا علی صلہ موصول ہا صلہ معقول بہ، فعل ہا تامل و متعلق و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس کی ترکیب واضح ہے اور متعدد گزریں ہیں۔

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ

بَعْدِهَا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

**آیت نمبر ۲:** مَا اس شرط ذوالحال من رَحْمَةٍ کا کائن کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہا حال معقول بہ مقدم ہا مفتوح فعل اللہ تامل لِلنَّاسِ متعلق و معقول بہ مقدم سے ل کر شرط عقاب جزائیہ لائی جس مُمْسِكَ اس کا اسم لہا جد ہا مجرور کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، لاسپے اسم و خبر سے ل کر جزاء شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مآس شرط معقول بہ یُمْسِكُ فعل ہا ہو متعلقا علی و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط عقاب جزائیہ لائی جس مُرْسِلَ لَاس کا اسم من بَعْدِهَا کا کائن کے متعلق ہوئے جو کہ خبر ہے بلکہ جد ہا مجرور کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، لاس اسم و خبر جزاء شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ بمعطوف جملہ متعلق ہوا۔ اِسْتِثْنَاءِیہ ہو ضمیر مبتدا، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دو خبر، مبتدا ہا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ اذْكَرُوا نِعَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَزِدْكُمْ مِنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا هُوَ ۚ قَاتَىٰ تُوقُونَ ۝

**آیت نمبر ۳:** يَأْتِيهَا النَّاسُ اس کی ترکیب متعدد گزریں ہیں اور یہ علامہ ہے اذْكَرُوا فعل واو ضمیر تامل نِعْمَةً اللہ مرکب اضافی ذوالحال عَلَيْكُمْ ظرف متعلق کا کائن کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہا حال معقول بہ، فعل ہا تامل و معقول بہ جملہ انتظامیہ امریہ جواب

نداء، نداء باجواب نداء، نداء انتہائی نداء ہے۔ ہول کھل حرف استفہام میں جارہ زائدہ خَالِقٍ لِقَاطِرٍ مَجْرُورٌ مَعْلَمٌ فَرُوحٌ موصوفٌ عَزَمَ اللّٰهُ مَرْكَبٌ اضافی باعتبار محل کے صفت، موصوف بہ صفت مبتدأ بِيَزُوقُ نَصْلٌ هُوَ مستترٌ فاعلٌ كُمُ ضميرٌ مفعولٌ به، ومن جاره اَلسَّمَآءِ وَ اَلْاَرْضِ مَعطوفٌ عليه باعتبار مجرور، جارٌ مَجْرُورٌ متعلق ہوتے، فعلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ وَمَتَعَلِقٌ جملہ فعلیہ خبریہ، خبر، مبتدأ خبر جملہ انتہائی استفہامیہ ہول کھل لای فی خبر اللہ اس کلام خبر مخدوف ہے عَزَمَ جُودًا مَوْجُودًا م مفعول ہُوَ ضميرٌ مستترٌ مبدلٌ منه، اِلَّا حَرْفٌ استثناء ہُوَ ضميرٌ بدل، مبدلٌ منه بدل نائب فاعل، اسم مفعول ہاتھ خبر، لا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ہول فاء استثنائی اَنِّي كَالَّذِينَ كَانُوا مَفْعُولٌ فِيہ ہو کر حال مقدم تُوَفَّقُونَ نَصْلٌ مجہول واؤ ضمیر ذوالحال مؤخر، ذوالحال بحال نائب فاعل، فعل مجہول ہاتھ فاعل جملہ انتہائی استفہامیہ ہول

وَ اِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ۝

**آیت نمبر ۳:** واؤ استثنائی ان شرطیہ یُكَذِّبُوكَ نَصْلٌ واؤ ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ قد حرف تحقیق كَذَّبَتْ فعل مجہول ورسُلٌ موصوفٌ مِنْ قَبْلِكَ جارٌ مَجْرُورٌ مَصْذُوكٌ ا متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت نائب فاعل، فعل مجہول ہاتھ فاعل جزاء، شرط ہول واؤ عاطفہ اِلَى اللّٰهِ جارٌ مَجْرُورٌ متعلق مقدم تُرْجَعُ نَصْلٌ مجہول الْاُمُورُ نائب فاعل و متعلق مقدم سے ل کر جملہ خبریہ معطوف ہول

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَا لَا يَغُرُّكُمُ بِاللّٰهِ

الْعُرُوْرُ ۝

**آیت نمبر ۵:** يَا أَيُّهَا النَّاسُ اس کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اِن حرف تحقیق وَعْدَ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اضافی اس کلام حقّ خبر اِن با اسم و خبر جواب نداء، نداء باجواب نداء، نداء انتہائی نداء ہے۔ ہول فاء نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا لَا تَغُرُّوْنَ نَصْلٌ نَمِي كُمُ ضميرٌ مفعولٌ به اَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ توصیفی فاعل، فعلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ جملہ انتہائی معطوف علیہ ہواو عاطفہ لَا يَغُرُّوْنَ نَصْلٌ نَمِي كُمُ ضميرٌ مفعولٌ به بِاللّٰهِ جارٌ مَجْرُورٌ متعلق الْعُرُوْرُ فاعل، فعلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَعَلِقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جملہ انتہائی معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط ہول واؤ جار جملہ شرطیہ ہول

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۗ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ

السَّعِيْرِ ۝

**آیت نمبر ۶:** اِن حرف تحقیق اَلشَّيْطٰنَ اسم لَكُمْ جارٌ مَجْرُورٌ كَاتِبًا كے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوٌّ ذوالحال مؤخر، ذوالحال بحال خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ہول فاء نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الشَّيْطٰنَ عَدُوًّا لَكُمْ فَاتَّخِذُوْهُ نَصْلٌ امر واؤ ضمیر فاعل ہُوَ ضميرٌ مفعولٌ به اَوَّلُ عَدُوًّا مَفْعُولٌ بہ ثانی سے ل کر جملہ انتہائی جزاء، شرط ہول واؤ جار جملہ شرطیہ ہول اِن حرف تحقیق مَا كَانُوا يَدْعُوْنَ نَصْلٌ هُوَ ضميرٌ مستترٌ فاعلٌ حِزْبَهُ مَرْكَبٌ اضافی مفعول بہ، لاکر جارہ اور اس کے بعد اِن مقدر ہے یَكُوْنُوْا نَصْلٌ ناقص واؤ ضمیر اس



کلام من اَصْحَابِ السَّعِيرِ کاتیلین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرد باجر و متعلق، فعل باقاعل و معقول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

آیت نمبر ۷: الَّذِينَ كَفَرُوا فعل باوا ضمیر قاعل صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، لَهْمُ جاد باجر و کاتیلین کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ شَدِيدٌ مرکب توصیفی مبتدأ موخر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِينَ كَفَرُوا اسم موصول امین قاعل فعل باوا ضمیر قاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل باوا ضمیر قاعل الصَّالِحَاتِ متعلق بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، لَهْمُ جاد باجر و کاتیلین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَغْفِرَةٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَجْرٌ كَبِيرٌ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ موخر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

﴿ ۲ ﴾

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

آیت نمبر ۸: هَمْزہ استفہامیہ قاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَمْ يَنْظُرُوا وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَن اسم موصول زُيِّنَ فعل مجہول لکہ جاد باجر و متعلق ہوئے، سُوءٌ عَمَلِهِ مرکب اضافی نائب قاعل، فعل مجہول نائب قاعل و متعلق معطوف علیہ، قاء عاطفہ زُيِّنَ فعل ہو مستتر قاعل ضمیر مفعول بہ ازل، حَسَنًا مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ قائم مقام شرط، قاء جزائیہ إِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم یضیل فعل ہو مستتر قاعل مَن يَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَهْدِي فعل ہو مستتر قاعل مَن يَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ باجر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں قاء نسبیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَتْ الْهُدَايَةُ فِي يَدِ اللَّهِ، لَا كَذَّهَبَ فعل نمی نفسک مرکب اضافی نائب قاعل عَلَيْهِمْ جاد باجر و متعلق ہوئے حَسْرَاتٍ مفعول لہ، فعل باقاعل و متعلق لہ جزاء، شرط محذوف جزاء جملہ شرطیہ ہولان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم عَلِيمٌ مینہ صفت ہو مستتر قاعل بَاء حرف جاد ما موصول یَصْنَعُونَ فعل باوا ضمیر قاعل صلہ، موصول باصلہ مجرد باجر و متعلق، مینہ صفت باقاعل و متعلق خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُعْبِرُ سَحَابًا فَأَسْقِنَهٗ إِلَىٰ بَدْرٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْآرَافَ  
بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ۝

**آیت نمبر ۹:** **وَإِذِ اسْتَأْنَفَى اللَّهُ مِنْ آلِ عَادِ الْكَافِرِينَ إِذْ هُمْ يُسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَتِهِمْ فَقَالُوا لَا بَدَءَ بِنَا وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ**  
**آیت نمبر ۱۰:** **وَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَأَنزَلْنَاهُ سُلْطٰنًا فَاخْلَعْنَا لَهُ مِثْقَالَ عَرَقِ النَّوْءِ عِلْمًا وَقَالُوا لَوْلَا نُنزِّلُ الْغَمْرَ لَدَلَّ لَئِن لَّمْ يَكُن لِّآيٰتِنَا اٰتَمَةٌ لَّكَانَ فَهْمًا لِّلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ بَلْ اَعْمٰتُ الْاَعْيُنِ لَعَنَهُ رَبُّهُمُ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ لِيَتَذَكَّرَ اٰلُ الْاِنْسٰنِ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّ اٰتٰنَا لَشَدِيْدَةٌ لَّوْلٰى اَنَّا نَخْلَعُ عَنْهُمْ اَشْفٰتَ الْاَبْصٰرِ لَمَلَّ اَعْيُنُهُمْ الْغَمْرَ فَقَالُوا هٰذَا اَسْمٰنٌ اُنزِلَتْ عَلَيْنَا لَوْلَا اَنَّا نَسْتَلِمْ اَنْفُسَنَا مِنْ سَفٰتِ الْاَسْمٰنِ اِنَّا لَنَرٰهَا كَافَاكٍ مَّوْبِقَةٍ لَّوْلٰى اَنَّا نَسْتَلِمْ اَنْفُسَنَا مِنْ سَفٰتِ الْاَسْمٰنِ لَمَلَّ اَعْيُنُهُمْ الْغَمْرَ فَقَالُوا هٰذَا اَسْمٰنٌ اُنزِلَتْ عَلَيْنَا لَوْلَا اَنَّا نَسْتَلِمْ اَنْفُسَنَا مِنْ سَفٰتِ الْاَسْمٰنِ اِنَّا لَنَرٰهَا كَافَاكٍ مَّوْبِقَةٍ لَّوْلٰى اَنَّا نَسْتَلِمْ اَنْفُسَنَا مِنْ سَفٰتِ الْاَسْمٰنِ لَمَلَّ اَعْيُنُهُمْ الْغَمْرَ**

**مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَا الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَا مَكْرٌ اُولٰٓئِكَ هُوَ**

**يَبُوْرُ**

**آیت نمبر ۱۰:** **مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَا الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَا مَكْرٌ اُولٰٓئِكَ هُوَ**  
**آیت نمبر ۱۱:** **مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَا الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَا مَكْرٌ اُولٰٓئِكَ هُوَ**

**وَا عٰطِفَةُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ نَّسَبِ الْاَقْرَبِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِيْ عِندِ رَبِّكَ اَمْرٌ وَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ نَّسَبِ الْاَقْرَبِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِيْ عِندِ رَبِّكَ اَمْرٌ**  
**وَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ نَّسَبِ الْاَقْرَبِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِيْ عِندِ رَبِّكَ اَمْرٌ**

**وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَا مَا تَحْمِلُنَّ مِنْ اَنْثٰى وَا لَا تَضَعْنَ اِلَّا بِعِلْمِهِ وَا مَا يَعْزَمُ مِنْ مَّعْمَرٍ وَا لَا يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهٖ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ**  
**ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ**

**آیت نمبر ۱۲:** **وَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ نَّسَبِ الْاَقْرَبِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِيْ عِندِ رَبِّكَ اَمْرٌ**  
**وَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ نَّسَبِ الْاَقْرَبِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِيْ عِندِ رَبِّكَ اَمْرٌ**

عاطف جَعَلَ لُفْلُفٌ هُوَ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ كُفُّ مَضْمُونٌ بِه اِثْلُ اَزْوَاجًا مَفْعُولٌ بِه مَثَلِيٌّ سَعَلٌ مَرْفُوعٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ خَبْرٌ، مَبْتَدَا  
بِخَبْرٍ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْتَوٌّ هُوَ اَوْ اِعْطَفَ مَآنَايَه تَحْمِيلٌ لُفْلٌ مِنْ جَدِه زَلَّه اُنْثَى مَلَامَرٌ فَرُوعٌ قَاعِلٌ، لُفْلٌ بِقَاعِلٍ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ  
مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، اَوْ اِعْطَفَ لَاقِطَعٌ لُفْلٌ هِيَ مَسْتَرٌ زَوَالٌ اِلَّا حَرْفٌ اِسْتَه بِعَلِيَّه مَعْلُومَةٌ كَ مَحْتَقٌ هُوَ كَرَالٌ زَوَالٌ بِمَالٍ قَاعِلٌ، لُفْلٌ  
بِقَاعِلٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَمَلٌ مَعْفُوفٌ هُوَ

اَوْ اِعْطَفَ مَآنَايَه يُعَدُّ لُفْلٌ مَجْمُولٌ مِنْ جَدِه زَلَّه مَعْتَرٌ مَلَامَرٌ فَرُوعٌ نَابٌ قَاعِلٌ، لُفْلٌ مَجْمُولٌ بِنَابٍ قَاعِلٍ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ  
عَلَيْهِ، اَوْ اِعْطَفَ لَاقِطَعٌ لُفْلٌ مَجْمُولٌ مِنْ جَدِه زَلَّه مَعْتَرٌ هَرْكَبٌ اِثْنَانِ مَلَامَرٌ فَرُوعٌ زَوَالٌ اِلَّا حَرْفٌ اِسْتَه فِي كِتَابٍ جَدِ بِمَجْمُورٍ  
مَكْتُوبًا كَ مَحْتَقٌ هُوَ كَرَالٌ زَوَالٌ بِمَالٍ نَابٌ قَاعِلٌ، لُفْلٌ مَجْمُولٌ بِنَابٍ قَاعِلٍ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَمَلٌ مَعْفُوفٌ هُوَ  
اِنْ حَرْفٌ حَقِيقٌ ذَلِكُمْ مَلَامَرٌ اس كَامٌ مَسِيئَةٌ مِيْنَه صَفْتٌ هُوَ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ عَلَيَّ اللّٰهُ مَحْتَقٌ مَقْدَمٌ سَعَلٌ كَر خَبْرَانٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٍ  
جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبٌ هُوَ

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَالِحٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ مِنْ  
كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخِرُ جُونَ حَلِيَّةٌ تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَآخِرَ  
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

آیت نمبر ۱۲، اَوْ اِعْطَفَ مَآنَايَه يَسْتَوِي لُفْلٌ الْبَحْرَانِ قَاعِلٌ سَعَلٌ كَر جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ هَذَا اِمْتِدَا عَذْبٌ مَوْصُوفٌ  
فُرَاتٌ صَفْتٌ اَوَّلٌ سَالِحٌ مِيْنَه صَفْتٌ شَرَابُهُ هَرْكَبٌ اِثْنَانِ قَاعِلٌ سَعَلٌ كَر صَفْتٌ ثَانِيَةٌ، مَوْصُوفٌ بِصَحْتِيْنِ خَبْرٌ، مَبْتَدَا خَبْرٍ جَمَلٌ  
اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، اَوْ اِعْطَفَ هَذَا اِمْتِدَا مِلْحٌ أُجَاجٌ هَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ خَبْرٌ، مَبْتَدَا خَبْرٍ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ الْبَحْرَانِ  
كَادِلٌ هُوَ اَوْ اِعْطَفَ مِنْ كُلِّ جَدِ بِمَجْمُورٍ مَحْتَقٌ مَقْدَمٌ تَأْكُلُونَ لُفْلٌ وَ اَوْ مَضْمُونٌ قَاعِلٌ لَحْمًا طَرِيًّا هَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَفْعُولٌ بِه، لُفْلٌ بِقَاعِلٍ  
وَمَفْعُولٌ بِه وَ مَحْتَقٌ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، اَوْ اِعْطَفَ تَسْتَخِرُ جُونَ لُفْلٌ وَ اَوْ مَضْمُونٌ قَاعِلٌ حَلِيَّةٌ مَوْصُوفٌ تَلْبَسُونَ لُفْلٌ  
مَضْمُونٌ قَاعِلٌ صَفْتٌ، مَوْصُوفٌ بِصَفْتِ مَفْعُولٍ بِه، لُفْلٌ بِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِه مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَمَلٌ مَعْفُوفٌ هُوَ

اَوْ اِعْطَفَ تَرَى لُفْلٌ اَلَّتْ مَسْتَرٌ قَاعِلٌ الْفُلْكَ زَوَالٌ مَوَآخِرَ عَالٍ سَعَلٌ كَر مَفْعُولٌ بِه فِيْهِ جَدِ بِمَجْمُورٍ مَحْتَقٌ، لُفْلٌ بِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِه  
وَ مَحْتَقٌ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ هُوَ لَآخِرٌ جَدِ اَدْرَاسِ كَ اِعْمَانٌ مَقْدَمٌ كَيْتَبْتَعُوا لُفْلٌ اِدْرَاسٌ مَضْمُونٌ قَاعِلٌ مِنْ فَضْلِهِ مَحْتَقٌ سَعَلٌ كَر  
بِتَاوِيلٍ مَعْدَرٌ مَجْمُورٌ، جَدِ بِمَجْمُورٍ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، اَوْ اِعْطَفَ لَعَلَّ حَرْفٌ تَرَى كُفُّ مَضْمُونٌ اِس كَامٌ تَشْكُرُونَ لُفْلٌ اِدْرَاسٌ مَضْمُونٌ قَاعِلٌ خَبْرٌ، لَعَلَّ بِاِسْمٍ  
وَ خَبْرٍ لِيَجَاؤُا تَشْكُرْكُمْ كَ تَاوِيلٍ مِيْنِ هُوَ كَر مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ مَحْتَقٌ سَعَلٌ كَر مَضْمُونٌ قَاعِلٌ مَعْدَرٌ سَعَلٌ كَر هَمَا كَ۔

يُولِجُ الْبَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْبَيْلِ وَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ مِنْ كُلِّ يَجْرِي  
لِاجْلِ مُسْتَقَى، ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ  
مِنْ قَظِيْرٍ ۝





وَلَا اَلَمْوَاتُ مَعْتُوفٌ عَلَيْهِ مَعْتُوفٌ قَاعِلٌ، فعل ہا قاعِل جملہ فعلیہ خبریہ ہولیان حرف تحقیق اللہ کلام سَمِعَ فعل ہُو مستتر قاعِل مَن یَشَاءُ موصول ہاسلہ مفعول بہ، فعل ہا قاعِل و مفعول بہ خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاظفہ مَآ نانیہ مجزیہ اکت ضمیر اس کلام ہا ہادہ زلذہ مُسْمِعِ اسم قاعِل اکت مستتر قاعِل مَن ہا موصول فی القَبْرِ ظرف مستقر ذوقن کے متعلق ہو کر صلہ موصول ہاسلہ مفعول بہ، اسم قاعِل ہا قاعِل و مفعول بہ لفظا مجرد و ملامتاً منصوب خبر، مَآ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متاثر ہول

### إِن أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: اِن نانیہ اکت ضمیر مبتدا، اَلْاَ حرف استثنائہ نَذِيرٌ خبر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول

### إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: اِن حرف تحقیق تا ضمیر اس کلام اَرْسَلْنَا فعل تا ضمیر قاعِل کاف ضمیر مفعول بہ بِالْحَقِّ جاد خبر و متعلق ہوئے، بَشِيرًا وَنَذِيرًا معطوف علیہ ہا معطوف حال ہے اَرْسَلْنَا کے مفعول بہ سے، فعل ہا قاعِل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول ہوا و عاظفہ اِن نانیہ و مَن ہادہ زلذہ اُمَّةٌ ملامتاً فروع مبتدا، اَلْاَ حرف استثنائہ خَلَا فعل فِیْهَا متعلق نَذِيرٌ قاعِل سے مل کر خبر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول

### وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: ہوا و عاظفہ اِن شرطیہ یَكْذِبُوكَ فعل و ضمیر قاعِل کاف ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہا اور اس کی جزاء محذوف ہے قَامُ بِہِمْ، فَاء تعلیہ قَدْ حرف تحقیق كَذَّبَ فعل الَّذِينَ اسم موصول مَن قَبْلِهِمْ جاد ہا مجرد ظرف مستقر كَذَّبُوا کے متعلق ہو کر صلہ موصول ہاسلہ ذوالحال جَاءَتْ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ رُسُلُهُمْ مرکب اضافی قاعِل بِالْبَيِّنَاتِ جاد ہا مجرد معطوف علیہ، ہوا و عاظفہ بِالزُّبُرِ جاد ہا مجرد معطوف اول، ہوا و عاظفہ بآء جادہ اَلْكِتَابِ الْمُنِيرِ مرکب توصیفی مجرد، جاد ہا مجرد معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین متعلق ہوئے، فعل ہا قاعِل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال ہا جال كَذَّبَ کاف قاعِل، فعل ہا قاعِل جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہول

### ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: ثُمَّ عاظفہ أَخَذْتُ فعل تا ضمیر قاعِل الَّذِينَ كَفَرُوا موصول ہاسلہ مفعول بہ، فعل ہا قاعِل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہول فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے لَمَّا أَخَذْتُهُمْ، كَيْفَ كَائِنًا کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، كَانَ فعل ناقص نَكِيرِ ذرا مل نَكِيرِ ہے یہ مرکب اضافی كَانَ کلام ہے، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ جزاء ہے، شرط محذوف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہول

● رکوع نمبر ۳ ●

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَأَنْزَلَ مِنَ

الْجِبَالِ جُدَدًا بَيْضًا وَحُمْرًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبُ سُوْدٌ ۝

**آیت نمبر ۲۷:** ھمزہ حرف استفہام کہ کو فعل آنک متزنا نعل اَنْ حرف تحقیق اللہ کاسم انزل نعل هو متزنا نعل  
وَمِنَ السَّمَاءِ متعلق مَاءً مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبر، معطوف علیہ معافہ اخْرَجْنَا نعل تا ضمیر ناعل بہ جاد ہجر متعلق  
ہوئے تَمَرَاتٍ موصوف مُخْتَلِفًا اسم ناعل اَلْوَانُ مرکب اضافی ناعل سے ل کر مفت، موصوف ہفت مفعول بہ، نعل ہا ناعل  
و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اَنْ کی خبر ہاَنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَعْرَ تَوْرَ کے دو مفعول بہ  
کے قائم مقام، نعل ہا ناعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہولو او عطفہ مِنَ الْجِبَالِ کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم جُدَدٌ  
موصوف بَيْضًا وَحُمْرًا معطوف علیہ ہا معطوف مفت اول، مُخْتَلِفًا اسم ناعل اَلْوَانُ مرکب اضافی ناعل سے ل کر شبہ جملہ ہو کر مفت  
ثانیہ، موصوف ہا مستقیم معطوف علیہ ہو او عطفہ عَرَايِبُ سُوْدٌ مبدل منہ ہادل (روح المعانی) معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مبتدا  
مؤخر، مبتدا ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ

عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝

**آیت نمبر ۲۸:** او عطفہ مِنَ حرف جاد اَلنَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ معطوف علیہ ہا معطوفین ہجر، جاد ہجر دو رکائین کے  
متعلق ہو کر خبر مقدم مُخْتَلِفٌ اسم ناعل اَلْوَانُ مرکب اضافی ناعل کَذَلِكَ جاد ہجر دو رکائین کے متعلق ہو کر واسطہ موصوف  
مخروف اِخْتِلَافًا کے مفعول مطلق ہا اسم ناعل ہا ناعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر واسطہ موصوف مخدوف صیغف کے مبتدا مؤخر، مبتدا  
ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہولین حرف تحقیق اور مَا کاذب ہے یَخْشَى نعل اَللَّهِ مفعول بہ مِنَ عِبَادِهِ کائنتہ کے متعلق ہو کر حال  
مقدم اَلْعُلَمَاءُ جو ذوالحال مؤخر، ذوالحال ہا ناعل ناعل، نعل ہا ناعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہولین حرف تحقیق اللہ کاسم عَزِيزٌ  
غَفُورٌ دو خبر ہاَنْ ہا اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

يُرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ۝ لِيُؤْتِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ

شَكُورٌ ۝

**آیت نمبر ۲۹:** ۳۰:۲۹: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول يَتْلُونَ نعل واو ضمیر ناعل كِتَابِ اللّٰهِ مرکب اضافی ناعل مفعول بہ سے ل  
کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہو او عطفہ اَقَامُوا نعل واو ضمیر ناعل الصَّلَاةَ مفعول بہ سے ل کر معطوف اول، او عطفہ اَنْفَقُوا نعل  
واو ضمیر ذوالحال سِرًّا وَعَلَانِيَةً معنی مَسْرُورِينَ وَ مُغْلِبِينَ حال، ذوالحال ہا ناعل ناعل، و مِنْ فَضْلِهِ مآس موصول و رَزَقْنَا نعل تا ضمیر

فاعل **هُم** ضمیر مفعول ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ باجمرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ ان کا ضمیر **جُون** فعل والا ضمیر قائل و تجارتی موصوف کن کیونکہ فعل حج ضمیر مستتر قائل لآمر جادہ ہوئی ہے فعل **هُم** مستتر قائل **هُم** ضمیر مفعول بہ ازل **أَجُوزَ هُمْ** مرکب اضافی مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ **يُرِيدُ** فعل **هُم** مستتر قائل **هُم** ضمیر مفعول بہ، ومن **فَضَلَهُ** متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جادہ باجمرور کن کیونکہ کے متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ تجارتی کی صفت، موصوف ہفت **يُرِيدُ جُون** کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ان حرف تحقیق **هُم** ضمیر اس کا اسم **عَفُودٌ مَشْكُورٌ** دو خبر بیان با اسم و خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ

### لَخَبِيرٌ بِبَصِيرٍ ۝

آیت نمبر ۳۱، واو استانیہ **الَّذِي** اسم موصول **أَوْحَيْنَا** فعل نا ضمیر قائل **إِلَيْكَ** متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال **مِنَ الْكِتَابِ** کا متعلق کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مبتدا ازل، **هُوَ** ضمیر مبتدا ثانی، **الْحَقُّ** ذوالحال **مُصَدِّقًا** قائل **هُوَ** مستتر قائل لآمر جادہ ہوا، **عَمَّا** موصول **يُرِيدُ** مرکب اضافی **وَقَعَ** کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ باجمرور متعلق ہوئے، اسم قائل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر حال ذوالحال باحال **هُوَ** کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا ازل کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ان حرف تحقیق **اللَّهُ** اس کا اسم لآمر **هُم** ملحق **خَبِيرٌ** **بَصِيرٌ** دو خبر بیان با اسم و خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور **بِعِبَادِهِ** جادہ باجمرور **بَصِيرٌ** کے متعلق ہے۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۝ وَمِنْهُمْ

مُقْتَصِدٌ ۝ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنَ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

آیت نمبر ۳۲، **ثُمَّ** حرف عطف **أَوْرَثْنَا** فعل نا ضمیر قائل **الْكِتَابِ** مفعول بہ ازل، **الَّذِينَ** اسم موصول **اصْطَفَيْنَا** فعل نا ضمیر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال **مِنَ عِبَادِنَا** کا متعلق کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوا **فَاء** تفریہ **مِنْهُمْ** کا متعلق کے متعلق ہو کر خبر مقدم **ظَالِمٌ** اسم قائل **هُوَ** ضمیر قائل اور **لِنَفْسِهِ** متعلق سے مل کر بواسطہ موصوف محذوف **عَبْدٌ** کے مبتدا و خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ **مِنْهُمْ** ظرف مستقر کا متعلق کے متعلق ہو کر خبر مقدم **مُقْتَصِدٌ** بواسطہ موصوف محذوف **عَبْدٌ** کے مبتدا و خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ **مِنْهُمْ** ظرف مستقر کا متعلق کے متعلق ہو کر خبر مقدم **سَابِقٌ** اسم قائل **هُوَ** مستتر قائل **بِالْخَيْرَاتِ** متعلق اول، **يَأْتِنَ** اللہ متعلق ثانی سے مل کر بواسطہ موصوف محذوف **عَبْدٌ** کے مبتدا و خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہوا **ذَٰلِكَ** اسم اشارہ مبتدا، **هُم** ضمیر فصل **الْفَضْلُ الْكَبِيرُ** خبر **مِنْهُمْ** خبر مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔



جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَوْلَا ۚ وَ لِبَاسِهِمْ فِيهَا

حَرِيْرٌ ۝

**آیت نمبر ۳۳:** جَنَّتْ عَدْنٌ مرکب اضافی مبتدا (روح المعانی) یَدْخُلُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال یَحَلَوْنَ فعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل فِيهَا جادہ باجورد متعلق مِنْ جادہ زلذہ اَسَاوِرٌ موصوف من ذَهَبٍ کَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف علیہ، واو عاطفہ لَوْلَا معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف مفعول ثانی، فعل مجهول ہائیب فاعل و متعلق و مفعول ثانی جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال باحال یَدْخُلُوْنَ کا فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، واو عاطفہ لِبَاسِهِمْ مرکب اضافی مبتدا، فِيهَا کَائِنَاتُ کے متعلق ہو کر حال مقدم حَرِيْرٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۗ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

**آیت نمبر ۳۴:** واو استینافیہ قَالُوا فعل باوا ضمیر فاعل قول، الْحَزْنَ مبتدا، لاہر جادہ اللّٰہ موصوف الذی اسم موصول اَذْهَبَ فعل ہو مستتر فاعل عَنَّا متعلق الْحَزْنَ مفعول بہ سے ل کر صلہ، موصول ہائسہ صفت، موصوف ہفت مجرور، جادہ باجور کائِنٌ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اِنَّ حرف تھمیں رَبَّنَا مرکب اضافی اس کا اسم، لاہر مذ حلقہ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ دو خبر، اِنَّ ہا اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہو۔

الَّذِيْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ لَا يَمْسُنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا

لُغُوْبٌ ۝

**آیت نمبر ۳۵:** الذی اسم موصول اَحَلَّ فعل ہو مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، دَارَ الْمُقَامَةِ مرکب اضافی مفعول بہ مِنْ فَضْلِهِ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہائسہ رَبَّنَا سے بدل ہے۔ لَا يَمَسُّنَا فعل نا ضمیر مفعول بہ، فِيهَا متعلق نَصَبٌ فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَمَسُّنَا فعل نا ضمیر مفعول بہ، فِيهَا متعلق لُغُوْبٌ فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف اَحَلَّ کے مفعول اول یا ثانی سے حال ہو۔

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ ۗ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَّ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ

عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كٰفِرٍ ۝

**آیت نمبر ۳۶:** واو استینافیہ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا موصول ہائسہ مبتدا، لَهُمْ کَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم نَارٌ جَهَنَّمَ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر اول، لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا کی تقدیر عبارت لَيْسَ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ فَيَمُوْتُوْا، لَيْسَ فعل ناقص عَلَيْهِمْ کائِنَاتُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْقَضَاءُ فَيَمُوْتُوْا ہامعطوف علیہ ہامعطوف اسم مؤخر، فعل ناقص !

اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا یُخَفَّفُ فعل مجہول عَنْهُمْ متعلق ہوئے، مِنْ جملہ زائدہ عَدَّ اِیَّهَا مَرْکَبِ اِشَانِی مَلَأ مرفوع نائب فاعل، فعل مجہول وَنَابِ قَاعِل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبری، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گدا لیک جملہ با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف جَزَّ آدَمُ کے مفعول مطلق مقدم تَجَزَّیَ فعل تَخُون مستتر قَاعِل کَلَّ کَفَّوْیَ مَرْکَبِ اِشَانِی مفعول بہ، فعل ہاتھل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

وَهُمْ یَضْطَرُّ خُونٌ فِیْهَا ۚ رَبَّنَا اٰخِرُ جُنَا نَعْمَلٍ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَاكُم نَعَزُّوْكُمْ مَا یَبْدُوْا کَرَفِیْهِ مَن تَدَّکَّرَ وَجَاءَ کُمْ التَّنْذِیْرُ ؕ اَفَدُوْا فَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ

### تَصْرِیْہٖ

آیت نمبر ۳۷: واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ یضطرُّ خُونٌ فعل واو ضمیر فاعل فیہا متعلق سے ل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ یضطرُّ خُونٌ فعل واو ضمیر فاعل فیہا متعلق سے ل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں رَبَّنَا کی اور اصل یَا رَبَّنَا ہے اور یہ علامہ اخرج فعل امر اکت مستتر قاعِل تا ضمیر مفعول بہ سے ل کر جواب علامہ، علامہ با جواب علامہ قَائِلِیْنَ مخدوف کا معقول ہو کر یضطرُّ خُونٌ کے قاعِل سے حال ہے نَعْمَلٍ فعل تَخُون مستتر قاعِل صَالِحًا بواسطہ موصوف مخدوف عَمَلًا کے مفعول مطلق غَیْرَ مضاف اَلَّذِیْ، م موصول کُنَّا فعل ناقص تا ضمیر اس کا اسم نَعْمَلٍ فعل با تَخُون مستتر قاعِل خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ موصول ہا صلہ کَرَفِیْهِ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل ہاتھل و مفعولین جزم ہے شرط مخدوف اِنْ تُخْرَجْنَا کی (کیونکہ نَعْمَلٍ جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے) ہمدیہ استنبہا میہ واو عاطفہ معطوف علیہ مخدوف ہے کَمْ لَبِثْکُمْ لَمْ نَعَزُّوْكُمْ فعل تَخُون مستتر قاعِل کُمْ ضمیر مفعول بہ مآکرہ بمعنی وَفَقَاتُوا موصوف یَبْدُوْا کَرَفِیْهِ جملہ با مجرور متعلق ہوئے مَن موصول تَدَّکَّرَ فعل ہُو مستتر قاعِل سے ل کر صلہ، موصول ہا صلہ قاعِل، فعل ہا قاعِل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہا صفت مفعول فیہ، فعل ہاتھل و مفعولین لَقَا جملہ انتہیہ اور معنی جملہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَاءَ کُمْ ضمیر مفعول بہ، اَلَّذِیْ تَدَّکَّرَ قاعِل سے ل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف معطوف علیہ مخدوف کا معطوف ہے، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ متانفہ ہوں لَقَا فیصح اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا مَا اَجْبَتْهُمُ التَّنْذِیْرُ، لِاِنَّ کَفَّوْتُمْ بِالَّذِیْ تَدَّکَّرُوْا فعل امر باواو ضمیر فاعل جملہ انتہیہ امریہ جزم، شرط ہا جزم جملہ شرطیہ ہوں قَاہ تعلیل ما مجازیہ لِلظَّالِمِیْنَ جملہ با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِنْ جملہ زائدہ نَعَزُّوْكُمْ مَلَأ مرفوع اسم مؤخر، مآ با م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

﴿ کوں نمبر ۵ ﴾

اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ غَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِیْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۝

آیت نمبر ۳۸: اِنَّ حرف تَحْقِیْقِ اِنَّ اللّٰهَ اسم عالم صیغہ صفت مضاف، غَیْبِ مضاف الیہ مضاف السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مفعول معطوف علیہ معطوف غَیْبِ کا مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ عالم کا مضاف الیہ معنی مفعول بہ، مضاف ہا مضاف الیہ خبر، اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ

اسیہ خبریہ ہولیان حرف تحقیق ضمیر اس کلام عَلَیْكُمْ مِنْهُ صفت ہو مستتر قائل بآء جملہ ذکات الصدوق مرکب اضافی مجرور، جملہ ہا مجرور متعلق، مینہ صفت ہا قائل و متعلق ہے جملہ ہو کر خبر بیان نام و خبر جملہ اسیہ خبریہ ہو۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْفًا فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا مَقْتًا، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۝

آیت نمبر ۳۹: ہو ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول جَعَلَ فعل ہو مستتر قائل کُم ضمیر مفعول بہ اول خَلْفًا موصوف فی الْأَرْضِ کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ یعنی، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسیہ خبریہ ہولفاء استیذانہ من شرطیہ مبتدا، كَفَرَ فعل ہا ہو مستتر قائل شرط جملہ جزائیہ عَلَیْهِ جملہ ہا مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، كُفْرُهُ مرکب اضافی مبتدا، موصوف، مبتدا خبر جزاء، شرط جزاء خبر، مبتدا خبر جملہ اسیہ خبریہ ہولوا و عاقلہ لایزید فعل الْكَافِرِينَ مفعول بہ اول، كُفْرُهُ مرکب اضافی ذوالحال عند زہمہ مرکب اضافی کائنات کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال ہا حال قائل الْأَحْرَفِ استثناء مَقْتًا مفعول بہ یعنی، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مطوف علیہ ہوا و عاقلہ لایزید فعل الْكَافِرِينَ مفعول بہ اول، كُفْرُهُ مرکب اضافی قائل الْأَحْرَفِ استثناء خَسَارًا مفعول بہ یعنی، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مطوف، مطوف علیہ ہا مطوف جملہ فعلیہ مطوفہ ہو۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، أَمْ أُنثِنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ، بَلْ إِنَّ يَبْعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝

آیت نمبر ۳۰: قُلْ فعل امر آت مستتر قائل قول، هَمْز کا استنباطہ رَأَيْتُمْ فعل کُم ضمیر قائل شُرَكَاءَ کُم مرکب اضافی موصوف الَّذِينَ اسم موصول تَدْعُونَ فعل ہا و ضمیر قائل هُمْ ضمیر منصوب مخدوف ذوالحال مِنْ دُونِ اللَّهِ کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہا حال مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاصلہ شُرَكَاءَ کُم کی صفت، مطبوع موصوف ہفت مفعول بہ اول، أَرُونِي فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ انتہائیہ مخرضہ ہول (روح المعانی)

مَا استنباطہ مبتدا، مَا بمعنی الَّذِي اسم موصول خَلَقُوا فعل ہا و ضمیر قائل مِنْ الْأَرْضِ متعلق سے ل کر صلہ، موصول ہاصلہ خبر، مبتدا خبر جملہ انتہائیہ رَأَيْتُمْ کا مفعول بہ یعنی، فعل ہا قائل مفعولین مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ انتہائیہ امریہ ہول امر عاقلہ لَهُمْ کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم شِرْكٌ مصدر فی السَّمَاوَاتِ متعلق، مصدر ہا متعلق مبتدا موصوف، مبتدا خبر مطوف علیہ، امر عاقلہ أُنثِنَهُمْ فعل نا ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، کِتَابًا مفعول بہ یعنی سے ل کر مفعول، مطوف علیہ ہا مطوف جملہ مطوفہ ہولفاء عاقلہ هُمْ ضمیر مبتدا، علی جملہ بَيِّنَاتٍ موصوف جملہ کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مجرور، جملہ ہا مجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسیہ خبریہ ہول بَلْ حرف اضراب ان نافیہ یبعُد فعل الظَّالِمُونَ مبدل مِنْ بَعْضُهُمْ مرکب اضافی بدل سے ل کر قائل بَعْضًا

مفعول بہ بالأحرف استثناءً وغروراً بواسطہ موصوف مخذوف وغدا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستأنفہ ہوں

إِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِذْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

**آیت نمبر ۳۱:** اِنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یُنْسِكُ فعل ہو مستتر فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اَنْ مصدر یَزُولُ فاعل بال الف ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتبادل مصدر بواسطہ صحافۃ مضایف مذرف کے مفعول لہ، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ کی خبر بانِ بِاسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اور او عاقلہ لہ موطنہ للقسیم اور قسم مخذوف ہے اِنْ شرطیۃ التکافل بال الف ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط بانِ نایہ اَمْسَكَ فاعل ہما ضمیر مفعول بہ من جارہ زلوا واحد موصوف من بعدہ جارہ مجرور کا تین کے متعلق ہو کہ صفت، موصوف ہفت علم فروع فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جارہ شرط جارہ جملہ شرطیہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انطوائیہ قسمیہ ہو، اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم حَلِيمًا غَفُورًا اور خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر بانِ بِاسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِحْدَىٰ الْأُمِيَّةِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

**آیت نمبر ۳۲:** او استینافیہ اَقْسَمُوا فعل او ضمیر فاعل بِاللَّهِ جارہ مجرور متعلق ہوئے جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ مرکب اضافی جاہدین کے معنی میں ہو کہ حال ہے ضمیر فاعل سے، فعل بافاعل و متعلق قسم لہ جارہ جوابیہ اِنْ شرطیہ جَاءَهُمْ ضمیر مفعول بہ نَذِيرٌ فاعل سے مل کر شرط اَيْمَانِهِمْ فاعل ناقص او ضمیر مخذوف اس کا اسم اَهْدَىٰ باسم تفضیل ہُم ضمیر مستتر اس کا فاعل من جارہ واحد اِيَّةِ الْأُمِيَّةِ مرکب اضافی مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے باسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جواب قسم، قسم با جواب قسم پہلی قسم کا جواب ہے اور شرط کی جارہ مخذوف ہے جس پر جواب قسم دال ہے۔ فقآء عاقلہ لَتَا ظرفیہ مقضیٰ معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَاءَهُمْ فعل ہُم ضمیر مفعول بہ نَذِيرٌ فاعل سے مل کر شرط، معانیہ زاد فعل ہو مستتر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ اول، الأ حرف استثناءً نُفُورًا مفعول بہ ثانی سے مل کر جارہ، شرط جارہ جملہ شرطیہ ہوں

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ ۚ وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

**آیت نمبر ۳۳:** اسْتِكْبَارًا مصدر فی الْأَرْضِ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، او عاقلہ مَكْرُ السَّيِّئِ مرکب اضافی ذوالحال و احوالہ لا یحییٰ فعل اَلْمَكْرُ السَّيِّئِ مرکب توسیعی فاعل، بالأحرف استثناءً، بِأَهْلِهِ جارہ مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ

خبر یہ حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مفعول لہ ہے زاد کا، فقاء عاطفہ هل حرف استنبہا یَنْظُرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل  
الاحرف استثناء شنیۃ الاُولَیْنِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ استنبہا یہ ہوا، فقاء تعلیل (روح المعانی) لَنْ تَجِدَ  
فعل اَنْتَ مستتر فاعل لِسُنَّةِ اللہِ جہد باجمر و متعلق تَبْدِیْلًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ لَنْ تَجِدَ فعل  
اَنْتَ مستتر فاعل لِسُنَّةِ اللہِ جہد باجمر و متعلق تَحْوِیْلًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معللہ  
ہو۔

اَوْ لَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فِیَنْظُرُوْا کِیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ وَ کَانُوْا  
اَشَدَّ مِنْہُمْ قُوَّةً ؕ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ لِیُعْجِزَہُ مِنْ شَیْءٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی الْاَرْضِ ؕ اِنَّہٗ  
کَانَ عَلَیْمًا قَدِیْرًا ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: ۳۴: ۳۴ حرف استنبہا، واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَنْ مَوْا مَسَا کِتْمَہُمْ اَلَمْ یَسِیْرُوْا فعل واؤ ضمیر  
فاعل فی الْاَرْضِ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فقاء عاطفہ یَنْظُرُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل کِیْفَ ظرف زمان کَانُوْا کا مفعول فیہ ہو کر کَانَ  
کی خبر مقدم، کَانَ فعل ناقص عَاقِبَةُ مضاف الِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ موصول باصلہ ذوالحال واو عالیہ کَانُوْا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم  
اَشَدَّ اسم تفضیل ہُوْا مستتر فاعل مِنْہُمْ متعلق قُوَّةً تَمِیز سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال،  
ذوالحال باحال عَاقِبَةُ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ کَانَ کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر مَعْلُوْمًا مَنسُوْبٌ یَنْظُرُوْا کا مفعول بہ، فعل  
باقال و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مجر معطوف علیہ مخدوف کا معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ انشائیہ استنبہا یہ  
ہو۔

واؤ استثنائیہ مآنایہ کَانَ فعل ناقص اَللّٰہُ اس کا اسم لاہر مجہد یہ اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یُعْجِزُ فعل ضمیر مفعول بہ، مین جہدہ  
زلکہ ہی ہی لِقَاطَا جمر و مَعْلُوْمًا فاعل موصول فی السَّمٰوٰتِ جہد باجمر و معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زَلَّ دَعْوِی الْاَرْضِ جہد باجمر و معطوف، معطوف  
علیہ بمعطوف کَانِیْنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت فاعل، فعل باقال و مفعول بہ بتاویل مصدر جمر و جہد باجمر و کَانُوْا  
کے متعلق ہو کر کَانَ کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانو ہو اِنَّہٗ کَانَ عَلَیْمًا قَدِیْرًا کی ترکیب اِنَّہٗ کَانَ کَلِیْمًا  
عَفُوْرًا کی مش ہے آیت نمبر ۳۱ میں گزر چکی ہے۔


وَ لَوْ یُوْا اِخْذُ اللّٰہُ النَّاسَ بِمَا کَسَبُوْا مَا تَرٰکَ عَلٰی ظَہْرِہَا مِنْ دَآئِبَةٍ وَ لٰکِن یُّوْخِزُہُمْ  
اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّیٍ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُہُمْ فَاِنَّ اللّٰہَ کَانَ بِعِبَادِہٖۤ اَبْصِیْرًا ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: ۳۵: ۳۵ واؤ استثنائیہ لَوْ شرطیہ یُوْا اِخْذُ فعل اَللّٰہُ فاعل اَنْتَ نَسَم مفعول بہ، بئاء جہدہ مآس موصول کَسَبُوْا فعل  
باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ جمر و جہد باجمر و متعلق ہوئے، فعل باقال و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مآنایہ  
تَرٰکَ فعل ہو مستتر فاعل عَلٰی ظَہْرِہَا جہد باجمر و متعلق، مین جہدہ زلکہ دَآئِبَةٍ لِقَاطَا جمر و مَعْلُوْمًا مَنسُوْبٌ مفعول بہ، فعل باقال و مفعول بہ

و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔  
 واو عاطفہ لیکن حرف استدراک مہمل یُوَیْحُوْهُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ هُمْ ضَمِیر مفعول بہ، اِنِّی جادہ اَجَلٌ مُّسْتَقْبَلٌ مَرْکَبٌ تَوْصِیْفِی جَبْرٌ،  
 جادہ یا جبرود متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ قَامَ عَاطِفٌ اِذَا شَرْطِیہ مفعول بہ مقدم جَاءَ فَعْلٌ اَجَلُهُمْ  
 مَرْکَبٌ اِنْسَانِی فاعل سے مل کر شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے فَعَلِیْجَازِیْہُمْ، قَامَ تَطْلِیْہِ اِنِّی حَرْفٌ تَحْقِیْقِ اَللّٰہِ اِسْ کَاسَمِ کَانَ فَعْلٌ  
 نَاقِصٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ اِسْ کَاسَمِ یَصِیْرٌ اَمِیْنٌ مَفْتُوحٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ یَعْبَادِہُ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا سَمِ  
 و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنِّی کی خبر اِنِّی ہا سَمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَعْلُوْمٌ ہوں۔

بِحَمْدِہِ تَعَالٰی بَرُوْزِ جَمْعَرَاتِ ۲۸، ۱۱، ۲۰۱۳ کو بوقت ۱۰:۱۷ بعد نماز عشاء سُورَةُ هٰذَا کی

ترکیب مکمل ہوئی۔



## ترکیب سورۃ یس

● رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یَس ۝ وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۝ اِنَّکَ لَیْمِنَ الْمُزْسِلِیْنَ ۝  
علی صراط مستقیم

**آیت نمبر ۱:** ۳۲، ۳۱، ۳۰ یس خبریہ مبتدا محذوف ہوگی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور تو قسمیہ جملہ القرآن الحکیم مرکب توصیفی مجرور، جملہ مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اقسیم کے اقسیم فعل آنا مستتر قائل اور متعلق سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر قسم بیان حرف تحقیق کا ضمیر اس کا لام نہ ملنے سے من الموزسین کا کائن کے متعلق ہو کر خبر اول، علی جملہ صراط مستقیم مرکب توصیفی مجرور، جملہ مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر ثانی، یا اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انتہیہ قسمیہ ہوں۔

### تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝

**آیت نمبر ۵:** تَنْزِیْلِ مضاف العزیز الرحیم مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول مطلق فعل محذوف تَنْزِیْلِ کا کائنات فعل مجہول ہو مستتر نائب قائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

### لِئَنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ۝

**آیت نمبر ۶:** لاہر جملہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر سے تَنْذِرَ فعل آت مستتر قائل قَوْمًا موصوف مانا یہ اَنْذِرَ فعل مجہول اَبَاؤُهُمْ مرکب اضافی نائب قائل سے مل کر مفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جملہ مجرور متعلق ہوئے مصدر تَنْذِرَ کے متعلق ہوئے فعل محذوف تَنْذِرَ کے ققاء تعلیہ ہُوَ ضمیر مبتدا، غَافِلُونَ اسم فاعل ہُوَ مستتر قائل سے مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

### لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَسْرِہُمْ فَہُمْ لَا یُؤْمِنُونَ ۝

**آیت نمبر ۷:** لاہر موطن لقیتم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل حَقَّ فعل القول قائل علی اَسْرِہُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم محذوف با جواب قسم جملہ انتہیہ قسمیہ ہوا ققاء تعلیہ ہُوَ ضمیر مبتدا، اَلْیُؤْمِنُونَ فعل وا ضمیر قائل سے مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

### اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِہُمْ اَغْلًا فَوٰی اِلٰی الٰذْقَانِ فَہُمْ مُّقْمَحُونَ ۝

**آیت نمبر ۸:** اِن حرف تحقیق کا ضمیر اس کا لام جَعَلْنَا فعل کا ضمیر قائل فی اَعْنَاقِہُمْ جملہ مجرور مضاف مفعول بہ ثانی مقدم اَغْلًا مفعول بہ اول، فعل با قائل و مفعولین اِن کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متاثر ہوا ققاء عاقلہ ضمیر مبتدا، اِنی

الَّذَانِ جَدَّابَجْرٍ وَكَانَتْهُمَا مَعْتَقًا هُوَ كَرَجْرٍ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، فاء تفریجیہ ہُمُ ضمیر مبتدأ، مُقْمَحُونَ اسم مفعول ہُمُ مستتر تائب فاعل ہے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ①

آیت نمبر ۹: واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل تام ضمیر فاعل من بَيْنِ اَيْدِيهِمْ مفعول ماضی، ثانی مقدم سَدًّا مفعول بہ اول، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا کا من بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا پر عطف ہے۔ فاء عاطفہ اَغْشَيْنَا فعل تام ضمیر فاعل ہُمُ ضمیر مفعول بہ ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ فاء تعلیلیہ ہُمُ ضمیر مبتدأ، لَا يُبْصِرُونَ فعل بلاوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطلہ ہوں

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ②

آیت نمبر ۱۰: واو استثنائیہ سَوَاءٌ معنی مُسْتَوٍ اور مُسْتَوٍ اسم فاعل ہُوَ مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ "الذَّارِكُ وَعَنْ ذِكْرِ الذَّارِكِ" کی تاویل میں ہے پھر یہ معطوف علیہ با معطوف مبتدأ موخر ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ ہُمُ ضمیر مبتدأ، لَا يُؤْمِنُونَ فعل بلاوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا یا پہلے جملے سے بدل ہوں

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ③

آیت نمبر ۱۱: اِن حرف تحقیق مَّا کا ذمہ ٹنذیر فعل اَنْتَ مستتر فاعل من اسم موصول اتَّبَعَ فعل ہُوَ مستتر فاعل الذِّكْرُ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ خَشِيَ فعل ہُوَ مستتر فاعل الرَّحْمَنُ ذوالحال بِالْعَلِيمِ ظرف مستقر کا تائید کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال بہ حال مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ موصول باصلہ تُنذِرُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ ہمہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاء فصیحہ اور اس کی شرط مدد ہے کہ لَمَّا أَجَدَّتْ فِيهِ النَّذَاةَ، بِشِّرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ بئام جارہ مَغْفِرَةٌ معطوف علیہ واو عاطفہ اَجْرٌ کریم مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

إِن تَحْنُ نَعْيِ الْمَوْتَىٰ وَكَتَبْتَ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ④

آیت نمبر ۱۲: اِن حرف تحقیق تَا ضمیر اس کا اسم تَحْنُ ضمیر مبتدأ، نَعْيِ فعل تَحْنُ مستتر فاعل الْمَوْتَىٰ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو عاطفہ نَكْتُبُ فعل تَحْنُ مستتر فاعل مَا قَدَّمُوا موصول قَدَّمُوا فعل بلاوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ معطوف علیہ واو عاطفہ آثَرَهُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ



فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف نخس کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ان کی خبر، ان باس و خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ہوا و او عاطفہ کلّ فعلی مرکب اضافی مفعول بہ ہے فعل مخدوف اخصیبتنا کا، اخصیبتنا فعل نا ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، اخصیبتنا فعل نا ضمیر فاعل، ضمیر مفعول بہ یعنی حرف جہاں ضمیر مفسرین مرکب توصیفی مجرور، جہاں مجرور متعلق، فعل ہا فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، مفسر ہا مفسر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا مِّنْ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ. إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۳﴾

**آیت نمبر ۱۳:** او او استیثانیہ اضرب، بمعنی اجعل فعل امر انت مستتر فاعل لہم طرف مستقر کا لیتا کے متعلق ہو کر حال مقدم مَثَلًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، معنی مقدم اصحاب القریۃ مرکب اضافی مبدل منہ از مضاف جآء فعل نا ضمیر مفعول بہ المرسلون فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ بدل، الا شمال، مبدل منہ لہا ل اضرب کا مفعول بہ اول، فعل ہا فاعل، مفعولین جملہ استیثانیہ امریہ مستتر ہوں

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِتَالِثٍ فَجَاءَ إِتْنَيْنِ مُرْسَلِينَ ﴿۱۴﴾

**آیت نمبر ۱۴:** اذ مضاف ارسلا فعل نا ضمیر فاعل الیہم جہاں مجرور متعلق اثنین مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ کذبوا فعل واو ضمیر فاعل ہما ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ عززنا فعل نا ضمیر فاعل بثالث متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ قالوا فعل ہا و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مرسلون اسم مفعول یہ نخس ضمیر مستتر نائب فاعل الیہم متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ان کی خبر، ان باس و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقول، قول ہا مقول، معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف بجر معطوف علیہ اول کا معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین اذ کا مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ بدل ہے پہلے اذ سے۔

قَالُوا مَا آتَانَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا بَاطِلٌ مِّثْلُ مَا نَحْنُ بِرَبِّهِمْ يُعَلِّمُونَ ﴿۱۵﴾

﴿ تَكْذِبُونَ ﴾

**آیت نمبر ۱۵:** قالوا فعل ہا و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ما نایہ انکم ضمیر مبتدأ الا حرف استثناء بشئ مَثَلًا مرکب توصیفی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفہ ما نایہ انزل فعل الکر نخس فاعل من جہاں نزلہ یعنی ہا منسوب ہوا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مقول، قول ہا مقول، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ان نایہ انکم ضمیر مبتدأ الا حرف استثناء تکذبون فعل ہا و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔

قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَمَّا يَتْلَوْنَ ﴿۱۶﴾

**آیت نمبر ۱۶:** قالوا فعل ہا و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ربنا مرکب اضافی مبتدأ، یعلّم فعل ہو ضمیر فاعل ان حرف

تحقیق لاکر فاعل موصول نَحْنُ مستتر نائب فاعل اَلَيْكُمْ متعلق مقدم سے مل کر جبہ جملہ ہو کر خبر بیان بااسم و خبر مَعْلَم کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

### وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝

**آیت نمبر ۱۷:** اوواظفہ ما نای علیکنا جاد باجر و کائون کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الا حرف استثناء الْبَلْغُ الْمُبِينُ مرکب

توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

**قَالُوا اِنَّا نَطِيْرُ نَا بِكُمْ ؕ لَئِنْ لَمْ نَنْتَهَوْا لَنَذْرَجُنْكُمْ وَا لَيْسَ لَكُمْ مِنَّا عِدَابٌ اَلَيْمٌ ۝**

**آیت نمبر ۱۸:** قَالُوا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول بیان حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم بکظیر نَا فعل نَا ضمیر فاعل بکُم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بیان کی خبر بیان بااسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لاکر موطن اللطم اور اس کی قسم محذوف ہے، اِن شرطیہ لَمْ نَنْتَهَوْا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط اَلْاَنْزَجْمَنْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، اوواظفہ لَیْسَ لَكُمْ ضمیر مفعول بہ و نَا جاد باجر و متعلق عِدَابٌ اَلَيْمٌ مرکب توصیفی فاعل مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم محذوف کا جواب ہے اور شرط کی جڑ محذوف ہے جس پر جواب قسم ہاں ہے۔

### قَالُوا طَا بِرُكُمْ مَعَكُمْ ؕ اِنَّ ذِكْرًا لَّكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۹:** قَالُوا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، طَا بِرُكُمْ مرکب اضافی مبتدأ مَعَكُمْ مرکب اضافی کائون کا مفعول نہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لاکر حرف استفہان شرطیہ ذِكْرًا لَّكُمْ فعل مجہول ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور اس کی جڑ محذوف ہے بکظیر نَا و شرط با جڑہ جملہ شرطیہ ہو لاکر حرف اضرب اَلَنْتُمْ ضمیر مبتدأ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہو۔

**وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يٰ قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اتَّبِعُوا مَنْ**

### لَا يَسْعَلْكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝

**آیت نمبر ۲۱، ۲۰:** وَا وَا ستیانہ جَاءَ فعل من جاد اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ مرکب اضافی مجرور، جاد باجر و متعلق ہوئے رَجُلٌ موصوف یَسْعَىٰ فعل باهو مستتر فاعل مفت، موصوف بعفت فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانہ ہو لاکر قال فعل باهو مستتر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، یَا قَوْمِ یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہے اور یہ ندا ہے اَتَّبِعُوا فعل باوا ضمیر فاعل الْمُرْسَلِيْنَ مفعول بہ سے مل کر جملہ اضافیہ امریہ مؤکدہ اَتَّبِعُوا فعل امر و ضمیر فاعل من نام موصول لَا يَسْعَلْ فعل باهو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، اَوَّلُ اَجْرًا مفعول بہ جہنی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ ذوالحال و او حالہ هُمْ ضمیر مبتدأ مُهْتَدُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ اضافیہ امریہ تاکید، مؤکدہ تاکید جواب

لما، واما باجواب تمام مقولہ، قولہ بقولہ جملہ فعلیہ خبریہ بتقدیر قَدْ رَجَعْنَا سے حال ہوں۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲:** وَاوْءَاعِلْفَه مآسَم اسْتفْهَام مَبْتَدَا لَه جَدَوِيَا مَعْمِر ذَوَالْحَال لَا أَعْبُدُ فَعْل اَنَا مَسْتَر تَا عَالِ الَّذِي مَبْنِي بِاسْم مَوْصُول فَكَلَمَةُ فَعْل هُوَ مَسْتَر تَا عَالِ نُون وَتَا يَه كَا يَتَا مَعْمِر مَفْعُول بِهِ، بِمَجْرِيَه مَعْلُوف عَلَيْهِ، وَاوْءَاعِلْفَه تُرْجَعُونَ فَعْل مَجْهُول دَاوْءُ مَعْمِر نَائِب تَا عَالِ اِلَيْهِ مَعْتَلَق مَقْدَم سے ل کر مَعْلُوف، مَعْلُوف عَلَيْهِ بِمَعْلُوف صِلَه مَوْصُول بِاصْلَه مَفْعُول بِهِ، فَعْل بِاِقْوَالِ مَفْعُول بِهِ جَمْلَه فَعْلِيَه خَبْرِيَه حَال ذَوَالْحَال بِهَال مَجْرُور، جَدَوِيَا مَجْرُور كَاثِرِيْن كَر مَعْتَلَق هُوَ كَر خَبْر، مَبْتَدَا بِاَجْر جَمْلَه اِنْشَائِيَه اسْتفْهَامِيَه هُوَ

ءَا تَخَذُ مِنْ دُونِهَا إِلَهَةً إِنْ يُرِيدُنَ الرَّحْمَنُ بِضَرْبٍ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۳:** هَمْزَه حَرْفِ اسْتفْهَام اَخْذُ فَعْل اَنَا مَسْتَر تَا عَالِ مِنْ دُونِهَا جَدَوِيَا مَجْرُور مَفْعُول بِهِ مَثَلِي اِلَهَةً مَفْعُول بِهِ اَنْتَل، فَعْل بِاِقْوَالِ مَفْعُولِيْن جَمْلَه اِنْشَائِيَه اسْتفْهَامِيَه هُوَ لِإِن شَرْطِيَّة يُوْرِي فَعْل نُون وَتَا يَه مَعْدُوفَه مَفْعُول بِهِ اَلرَّحْمَنُ تَا عَالِ بِضَرْبٍ مَعْتَلَق سے ل کر جَمْلَه فَعْلِيَه خَبْرِيَه شَرْطِ لَا تُغْنِي فَعْل عَقِي جَدَوِيَا مَجْرُور مَعْتَلَق شَفَا عَتَهُمْ مَرْكَب اِضَائِي تَا عَالِ شَيْئًا مَفْعُول بِهِ سے ل کر جَمْلَه فَعْلِيَه خَبْرِيَه مَعْلُوف عَلَيْهِ، وَاوْءَاعِلْفَه لَا يُنْقِذُونَ فَعْل دَاوْءُ مَعْمِر تَا عَالِ نُون وَتَا يَه كَا يَتَا مَعْدُوفَه مَفْعُول بِهِ، بِمَجْرِيَه مَعْلُوف عَلَيْهِ بِمَعْلُوف جَزَاه، شَرْطِ بِاَجْرَاه جَمْلَه شَرْطِيَه مَسْتَفْهَامِيَه هُوَ (رُوحِ الْعَالِي) اور بَعْضِ حَضْرَاتِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي مَعْنَى بِنَائِيَه اُورِيَه بِمَجْرِيَه دَرَسْت سے ہے۔

إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۴:** اِنَّ حَرْفِ تَحْمِيْن يَتَا مَعْمِر اِس كَا اِسْم اِنْفَا حَرْفِ جَوَابِ وَجَزَاه مَهْمَل لَاهُ مَعْدُوفَه حَرْفِ جَدَوِيَا لِي مُبِينٍ مَرْكَب تَوْصِيْفِي مَجْرُور، جَدَوِيَا مَجْرُور كَاثِرِيْن كَر مَعْتَلَق هُوَ كَر خَبْر اِنَّ بِاسْمِ وَخَبْر جَمْلَه اِسْمِيَه خَبْرِيَه هُوَ

إِنِّي أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿۲۵﴾

**آیت نمبر ۲۵:** اِنَّ حَرْفِ تَحْمِيْن يَتَا مَعْمِر اِس كَا اِسْم اَمَنْتُ فَعْل تَا كَا مَعْمُومَه تَا عَالِ بِرَبِّكُمْ جَدَوِيَا مَجْرُور مَعْتَلَق، فَعْل بِاِقْوَالِ وَمَعْتَلَق خَبْر اِنَّ بِاسْمِ وَخَبْر جَمْلَه اِسْمِيَه خَبْرِيَه هُوَ فَكَا مَعْمِر اِس كِي شَرْطِ مَعْدُوفَه فَعْل تَا كَا مَعْمُومَه تَا عَالِ بِرَبِّكُمْ جَدَوِيَا مَجْرُور مَعْتَلَق، فَعْل بِاِقْوَالِ فَعْل نُون وَتَا يَه كَا يَتَا مَعْدُوفَه مَفْعُول بِهِ، فَعْل بِاِقْوَالِ مَفْعُول بِهِ جَمْلَه اِنْشَائِيَه اِمْرِيَه جَزَاه، شَرْطِ بِاَجْرَاه جَمْلَه شَرْطِيَه هُوَ

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُومِينَ ﴿۲۷﴾

**آیت نمبر ۲۶:** قِيلَ فَعْل مَجْهُول هُوَ مَعْمِر مَسْتَر رَا بَعِ سُوْرَةُ مَعْدَا الْقَوْلِ نَائِب تَا عَالِ، فَعْل مَجْهُول بِهَاتِب تَا عَالِ قَوْلِ، اَدْخُلْ فَعْل اِمْرَا كَتَ مَسْتَر تَا عَالِ الْجَنَّةَ مَفْعُول بِهِ سے ل کر مَقْوَل، قَوْلِ بِاِقْوَالِ جَمْلَه فَعْلِيَه خَبْرِيَه هُوَ قَالَ فَعْل هُوَ مَسْتَر تَا عَالِ سے ل کر قَوْلِ يَتَا مَعْمِر (اِعْرَابِ الْقُرْآنِ) كَيْتَ حَرْفِ تَحْمِيْن قَوْمِي مَرْكَب اِضَائِي اِس كَا اِسْم يَعْصَمُونَ فَعْل دَاوْءُ مَعْمِر تَا عَالِ يَتَا مَعْمِر جَدَوِيَا مَجْرُور مَعْتَلَق، فَعْل بِاِقْوَالِ فَعْل نُون وَتَا يَه كَا يَتَا مَعْدُوفَه مَفْعُول بِهِ، فَعْل بِاِقْوَالِ فَعْل نُون وَتَا يَه كَا يَتَا مَعْدُوفَه مَفْعُول بِهِ، بِمَجْرِيَه مَعْلُوف عَلَيْهِ بِمَعْلُوف جَزَاه، شَرْطِ بِاَجْرَاه جَمْلَه شَرْطِيَه هُوَ

فی جہدہ باجہرہ متعلق رہتی مرکب اضافی فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اووا عطف جعل فعل ہو مستتر فاعل نون و قایہ کاتیام ضمیر مفعول پہ مِنَ الْمُکْرِمِیْنَ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ، با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ باجہرہ، جہدہ باجہرہ و یَعْلَمُونَ کے متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ کبریٰ ت با اسم و خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: ۱۸: اووا استثنائیہ مانائیہ، أَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَى قَوْمِهِ جہدہ باجہرہ متعلق، مِنْ بَعْدِهِ ظرف مستتر کا کئی کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِنْ جہدہ زائدہ جُنْدٍ لفظ باجہرہ و رُءُوسًا منصوب موصوف مِنَ السَّمَاءِ کا کئی کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہصفت ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول پہ، فعل با فاعل و مفعول پہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اووا عطف مانائیہ کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا ضمیر مُنْزِلِينَ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانہ ہوں

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: ۱۹: اِنْ نایہ کائنات فعل ناقص ہی مستتر اس کا اسم بِالْأَرْحِ اسثناء صَيْحَةً وَاحِدَةً مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، فاء عطف اذ ای امانا جاییہ هُمْ ضمیر مبتدا، خُمُودٌ خبر سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

يُخَسِّرُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: ۳۰: يُخَسِّرُ عَلَى الْعِبَادِ اَصْل میں يَأْتِيهِمْ يَأْتِي فعل ہضمیر ذوالحال الْإِذَا حَرْف استثناء کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم تَرْكِب محتاج بیان نہیں ہے واضح ہے، مَانَائِيہ يَأْتِي فعل ہضمیر ذوالحال الْإِذَا حَرْف استثناء کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَسْتَهْزِءُونَ فعل واو ضمیر فاعل پہ متعلق مقدم سے ل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال باحال مفعول پہ۔ جہدہ زائدہ و سُورِي لفظ باجہرہ و رُءُوسًا مفعول فاعل، فعل با فاعل و مفعول پہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: ۳۱: هَمْزہ حرف استنبہ اَلَمْ يَرَوْا فعل واو ضمیر فاعل كَمْ خبریہ ذوالحال مِنَ الْقُرُونِ جہدہ باجہرہ و کَانُوا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مفعول پہ مقدم، أَهْلَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل قَبْلَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول پہ جملہ فعلیہ خبریہ مبدل منہ، اَنْ حَرْف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم لَا يَرْجِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل إِلَيْهِمْ متعلق سے ل کر خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدل مبدل منہ بدل اَلَمْ يَرَوْا کا مفعول پہ، فعل با فاعل و مفعول پہ جملہ انشائیہ استنبہ امیہ ہوں

وَإِنْ كُلُّ لَمَنَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: ۳۲: اووا عطف اِنْ نایہ کُلُّ مبتدا، لَمَنَّا جَمِيعٌ خبر اَوْلِ الْمُحْضَرُونَ اسم مفعول هُمْ ضمیر مستتر نائب فاعل

لکھتا مرکب اضافی مفعول فی مقدم سے مل کر خبر ثانی، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

﴿۳﴾ رکوع نمبر

وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ مَحْيَيْنُهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** واو استثنائی آیت موصوف لہم کا کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتدا، الأرض المیتۃ مرکب تو صیغی ذوالحال آحییۃنا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اخرجنا فعل نا ضمیر فاعل و منها متعلق حبا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں قائم تقریر یا کون فعل واو ضمیر فاعل و منه متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّةً مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿۴﴾

**آیت نمبر ۳۴:** واو عاطفہ جعلنا فعل نا ضمیر فاعل و فیہا جاد با خبر و متعلق جنت موصوف من جادہ و نخیل و أعناب معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با خبر و جادہ کا کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ فججنا فعل نا ضمیر فاعل و فیہا جاد با خبر و متعلق کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مزدوجہ شقیقہ کے مفعول بہ (روح المعانی) فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور آحییۃنا م معطوف ہے۔

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۚ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۚ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۵﴾

**آیت نمبر ۳۵:** لاہ جادہ تیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یا کولوا فعل واو ضمیر فاعل من جادہ خبر مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول عملت فعل ہ ضمیر مفعول بہ ایدیہم مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ موصول ہاسلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با خبر و متعلق، فعل با فاعل و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جاد با خبر و متعلق ہوئے جعلنا کے، ہذہ حرف استفہام فاعل معطوف علیہ مخذوف ہے یزودن ہذہ النعمۃ، لا یشکرون فعل باواو ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ ہوں

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿۶﴾

**آیت نمبر ۳۶:** سبحان مضاف الذی اسم موصول خلق فعل ہو متعلق فاعل الأزواج کلہا موصولہ تاکا ذوالحال من جادہ ما اسم موصول تنبت فعل الأرض فاعل سے مل کر صلہ موصول ہاسلہ مجرور، جاد با خبر و معطوف علیہ، واو عاطفہ من أنفسہم جاد با خبر و معطوف اول، واو عاطفہ من جادہ ما اسم موصول لا یعلمون فعل باواو ضمیر فاعل صلہ موصول ہاسلہ مجرور، جاد با خبر و معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خلق مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ موصول ہاسلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول مطلق ہوا فعل مخذوف استیع کا... الخ

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٥﴾

**آیت نمبر ۳۵:** واو عطف آیت موصوف لہم طرف مستقر کا ذمہ کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت مبتدا، الکلین ذوالحال نسلخ فعل تعلق مستقر قائل عنہ متعلق انہا کے متعلق بہ سے ل کر حال ذوالحال باہل مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ قائل عطف اذا مفاعیلہم ضمیر مبتدا، مظلمون خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٦﴾

**آیت نمبر ۳۶:** واو عطف الشمس مبتدا تجری فعل ہی مستقر قائل لامر جاہ مستقر موصوف لہا طرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت مجرور، جاہ مجرور متعلق، فعل ہا قائل و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ ذلک اسم ائمہ مبتدا، تقدیر مضاف العزیز العليم مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٧﴾

**آیت نمبر ۳۷:** واو عطف القمر مفعول بہ ہے فعل مخدوف قدرنا کا قدرنا فعل با آنا ضمیر قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، قدرنا فعل نا ضمیر قائل ضمیر مفعول بہ ازل منازل مفعول بہ ثانی، حتی حرف غایہ و جر عائد فعل ہو مستقر قائل کان جاہ العرجون القديم مرکب توصیفی مجرور، جاہ مجرور متعلق، فعل ہا قائل و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جاہ مجرور قدرنا کے متعلق، فعل ہا قائل و مفعول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، مفسر ہا مفسر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿٣٨﴾

**آیت نمبر ۳۸:** لا نایہ الشمس مبتدا ینبغی فعل ہو مستقر قائل لہا جاہ مجرور متعلق ان نامہ تدرك فعل ہی مستقر قائل القمر مفعول بہ سے ل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف لا نایہ الشمس مبتدا سابق النهار مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ معطوف جملہ مستقر ہو۔ واو عطف کل کل واجب و منہم کی بتاویل میں ہو کر مبتدا یسبحون فعل واو ضمیر قائل اور فی فلک کے متعلق مقدم سے ل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٣٩﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا

يَرْكَبُونَ ﴿٤٠﴾

**آیت نمبر ۳۹، ۴۰:** واو عطف آیت موصوف لہم کا ذمہ کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہفت مبتدا، ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کلام حملنا فعل نا ضمیر قائل ذریئہم مرکب اضافی مفعول بہ فی حرف جاہ الفلک المشحون مرکب توصیفی مجرور، جاہ مجرور

متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ حَافِلَتْنَا فاعل نا ضمیر فاعل لَہُمْ جہد باجر و متعلق  
 میں مِثْلَہ جہد باجر و کاؤنٹا کے متعلق ہو کر حال مقدم ما اسم موصول یَزُو کَبُوْنُ فعل باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول ہاسلہ ذوالحال مؤخر،  
 ذوالحال باحال حَافِلَتْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر، ان با اسم و خبر بتاویل مفرد  
 خبر، مبتدا باجر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَ اِنْ نَّشَأْنُ غَرِقْتُمْ فَلَا صَرِيحَ لَہُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۳:** واو عاطفہ ان شرطیہ نَشَأْنُ فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، مُغْرِقُ فعل نَحْنُ مستتر  
 فاعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ سے ل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ فاء عاطفہ لَئِنِ جمل صَرِيحَ اس کا اسم لَہُمْ کاؤنٹا کے متعلق  
 ہو کر خبر، لا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَئِنِ نَشَأْنُ ضمیر مبتدا، يُنْقَدُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے ل  
 کر خبر، مبتدا باجر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰی حِيْنٍ ۝

**آیت نمبر ۳۴:** الا حرف استثناء رَحْمَةً موصوف متا طرف مستقر کاؤنٹا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف  
 علیہ، واو عاطفہ مَتَاعًا موصوف اِلٰی حِيْنٍ کاؤنٹا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف منصوب بجز  
 الفاعل يُنْقَدُوْنَ کے متعلق ہے۔

وَ اِذَا قِيْلَ لَہُمْ اَتَقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۵:** واو استیناف اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قِيْلَ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل لَہُمْ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ  
 خبریہ قول اِتَّقُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال لَعَلَّ حرف ترمیمی کُمْ ضمیر اس کا اسم تُرْحَمُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے ل کر خبر، لَعَلَّ  
 با اسم و خبر حال، ذوالحال باحال فاعل ما اسم موصول یَبِيْنِ اَيْدِيْكُمْ مرکب اضافی تَبِيْتِ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف  
 علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول خَلْفَكُمْ مرکب اضافی تَبِيْتِ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول ہاسلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف  
 اِتَّقُوْا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مقولہ، قول با مقولہ شرط اور جزاء محذوف ہے، اَعْرَضُوْا شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَ مَا تَأْتِيْہُمْ مِّنْ اٰیۃٍ مِّنْ اٰیۃٍ رَّبِّہُمْ اِلَّا کَانُوْا عَنْہَا مُعْرِضِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۶:** واو عاطفہ مَا تَاٰیۃٍ تَاٰیۃٍ لِّہُمْ ضمیر مفعول بہ میں جہد زائد اٰیۃ تَاٰیۃٍ تَاٰیۃٍ مِّنْ اٰیۃٍ رَّبِّہُمْ کاؤنٹا  
 کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت ذوالحال اِلَّا حرف استثناء کَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم مُعْرِضِيْنَ اسم فاعل ہُمْ ضمیر  
 مستتر فاعل عَنْہَا متعلق مقدم سے ل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔

وَ اِذَا قِيْلَ لَہُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْکُمْ اللّٰهُ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْظِعْمْ

مَنْ لَوْ یَسْأَلُ اللّٰهُ اَعْطَمَہُ مِنْ اَنْ تَعْمَہُ اِلَّا فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝

**آیت نمبر ۳۷:** واؤ عاظف اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قیل فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل اَلَهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اَلْتَقُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل ہون جاہہ ما اسم موصول و زَوَّیْ فعل کُھ ضمیر مفعول بہ، اَللّٰهُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مجرور، جہاں مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ شرط، کَانَ فعل اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا موصول باصلہ فاعل لامر جاہہ اَلَّذِيْنَ اَمَنُوْا موصول باصلہ مجرور، جہاں مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ، قول، هَمَزَ حرف استفہام نُظِعُوْہُ فعل تَجَمُّع مستتر فاعل من اسم موصول کو شرطیہ یَسَاءَ فعل اَللّٰهُ فاعل سے مل کر شرط اَطَعَمَ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء صلہ، موصول باصلہ نُظِعُوْہُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا لہذا نافی اَلْتَكْفُرِ ضمیر مبتدأ، اَلْاَحْرَفِ استفہامی جاہہ ضمایلی مَبِيْنِ مرکب توصیفی مجرور، جہاں مجرور کا یَتَوَنَّنُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسیہ خبریہ ہوں

**وَيَقُولُوْنَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۸﴾**

**آیت نمبر ۳۸:** واؤ استہانہ یَقُولُوْنَ فعل باؤ ضمیر فاعل قول، مَتَىٰ اسم استفہام کائِن کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم ہٰذَا الْوَعْدُ مرکب توصیفی باسندل منہ بدل مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانف ہوا لہذا شرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص اَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم صاِدِقِيْنَ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے قَمَتِيْ هٰذَا الْوَعْدُ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

**مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صٰبِحَةً وَّ اِحْدَاثًا اَخَذُوْهُمُ وَ هُمْ يَخْصِمُوْنَ ﴿۳۹﴾**

**آیت نمبر ۳۹:** مآنا فیہ لَیَنْظُرُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل اِلَّا حرف استفہام صٰبِحَةً موصوف و اِحْدَاثًا صفت اولیٰ، تَاخَذُوْہُ فعل ہی مستتر فاعل ہُم ضمیر زوال و احوالیہ ہُم ضمیر مبتدأ، یَخْصِمُوْنَ فعل باؤ ضمیر فاعل خبر، مبتدأ خبر حال، و ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صفت ثانیہ، موصوف با مستعین مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

**فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوَصِيَةً وَّ لَا اِلٰی اٰهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۴۰﴾**

**آیت نمبر ۴۰:** قآء عاظف لَیَسْتَطِيْعُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل تَوَصِيَةً مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاظف لآ نافی یَرْجِعُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل اِلٰی اٰهْلِهِمْ متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

﴿ ر کوع نمبر ۴ ﴾

**و نْفَعٌ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰی رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿۴۱﴾**

**آیت نمبر ۴۱:** واؤ استہانہ نَفَعٌ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل فی الصُّوْرِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قآء عاظف اذا عفا جاتیہ ہُم ضمیر مبتدأ، یَنْسِلُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل ہون الْاَجْدَاثِ جاہہ مجرور متعلق اول مقدم اِلٰی رَبِّهِمْ جاہہ مجرور متعلق ثانی مقدم، فعل بافاعل و متعلقین خبر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانف ہوں



قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

**آیت نمبر ۵۲:** قَالُوا اصل ہاؤ ضمیر فاعل قول ہوا، یَا یَوَيْلَنَا یہ اصل میں یَا قَوْمَ مَنَا اَنْظُرُوا یَا یَوَيْلَنَا ہے اور ترکیب واضح ہے، مَن اسم استفہامیہ مبتدہ، بَعَثَ فعل ہو، مَرَقَدِنَا فاعل کا ضمیر مفعول بہ، مَن مَوْقَدِنَا متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مبتدہ با خبر جملہ انتہائیہ استفہامیہ ہوا، هَذَا اسم اشارہ، مَا اسم موصول و وَعَدَ فعل اَلرَّحْمَنُ فاعل سے ل کر معطوف علیہ، وَاُوَاعَفَهُ صَدَقَ فعل الْمُرْسَلُونَ فاعل سے ل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف صلہ، موصول بصلہ خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدُنَّا مُخَضَّرُونَ ﴿٥٣﴾

**آیت نمبر ۵۳:** إِنْ نَابِہ فاعل ناقص ہی ضمیر مستتر اس کا اسم لآ حرف استثناء، صَيْحَةً وَاحِدَةً مرکب توصیفی خبریہ، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَمَا عَاطِفٌ إِذَا مَافَاتِیہ ہُمُ ضمیر مبتدہ، جَمِيعٌ موصوف مُخَضَّرُونَ اسم مفعول ہُمُ مستتر بآبِ فاعل اور لَدُنَّا مفعول فیہ مقدم سے ل کر صفت، موصول ب صفت خبریہ، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوف ہوا۔

قَالِيَوْمَ لَا تَنْظُرُونَ أَنفُسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

**آیت نمبر ۵۴:** فَمَا اسْتِثْنَائِیہ الْيَوْمَ مفعول فیہ مقدم لَا تَنْظُرُونَ فعل مجہول نَفْسُ نَابِہ فاعل اور شَيْئًا بواسطہ موصوف مجہول عَلَمًا کے مفعول مطلق، فعل نَابِہ فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاُوَاعَفَهُ لَا تُجْزَوْنَ فعل مجہول وَاُوَاعَفَهُ نَابِہ فاعل لِاَحْرَفِ اسْتِثْنَائِیہ موصول كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُونَ فعل ہاؤ ضمیر فاعل خبریہ، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول بصلہ مفعول بہ، فعل مجہول نَابِہ فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متنازعہ ہوا۔

إِنْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾

**آیت نمبر ۵۵:** إِنْ حرف تَحْتِیٰنِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ مرکب اضافی اسم الْيَوْمَ کا مفعول فیہ مقدم، فِي شُغُلٍ کَاكُنُونَ کے متعلق ہو کر خبر اول فَاكِهُونَ خبر ثانی، إِنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظُلُلٍ عَلَى الْأَرْبَابِكِ مُتَكَبِّرُونَ ﴿٥٦﴾

**آیت نمبر ۵۶:** هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ معطوف علیہ بمعطوف مبتدہ، فِي ظُلَالٍ کَاكُنُونَ کے متعلق ہو کر خبر اول مُتَكَبِّرُونَ اسم فاعل ہُمُ ضمیر فاعل عَلَى الْأَرْبَابِكِ متعلق مقدم سے ل کر خبر ثانی، مبتدہ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾

**آیت نمبر ۵۷:** لَهُمْ ظرف مستقر کَاكُنْتَ کے متعلق ہو کر خبر ثانی، مبتدہ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، لَهُمْ ظرف مستقر کَاكُنْتَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، فِيهَا کَاكُنْتَ کے متعلق ہو کر حال مقدم، فَاكِهَةٌ ذوالحال مؤخرہ ذوالحال باحال مبتدہ مؤخرہ، مبتدہ با خبر معطوف علیہ، وَاُوَاعَفَهُ لَهُمْ کَاكُنُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَا يَدْعُونَ موصول بصلہ مبتدہ مؤخرہ، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف

علیہ با معطوف جملہ فعلیہ خبریہ متنازعہ ہوں

**سَلَّمٌ قَدْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ ﴿۵۸﴾**

**آیت نمبر ۵۸:** سَلَّمٌ مبتداء، مِنْ جادہ رَّبِّ رَجِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جادہ با مجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، قَوْلًا مِّن مفعول مطلق ہے، فعل با قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں

**وَ اَمْتًا زُو الْيَوْمِ اَنْبِيَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۹﴾**

**آیت نمبر ۵۹:** او او استیناف، اَمْتًا زُو افعال باؤ ضمیر فاعل الْيَوْمِ مفعول فیہ سے مل کر جواب عائد مقدم اَنْبِيَا الْمُجْرِمُونَ اصل میں اَنْبِيَا الْمُجْرِمُونَ ہے، بیاہ حرف عائد قائم مقام اَدْعُوْكُمْ کے، اَدْعُوْكُمْ فعل اَنَا ضمیر فاعل اَنْبِيَا موصوف ہا، بے تسمیہ اَلْمُجْرِمُونَ صفت، موصوف با صفت مَعْلَا منصوب مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ عائد مؤخر، عائد با جواب عائد موقولہ ہے، قول معذوف يَقُولُ اللّٰهُ لَهَمْ کا، با جملہ متنازعہ ہے، قول با موقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

**اَلَمْ اَعْهَدْ لِيَوْمِ يَنْبِئُ اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۶۰﴾ وَ**

**اِنْ اَعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱﴾**

**آیت نمبر ۶۰:** هَمْز کا استفہامیہ لَمْ اَعْهَدْ فعل اَنَا مستتر فاعل اَلْيَوْمِ متعلق سے مل کر جواب عائد مقدم، بیاہ حرف عائد اَدْعُوْكُمْ کے قائم مقام، اَدْعُوْكُمْ فعل اَنَا ضمیر فاعل یقین اَدَمَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر عائد مؤخر، عائد با جواب عائد مقتر، اَنْ حرف تفسیر، لَا تَعْبُدُوا افعال باؤ ضمیر فاعل الشَّيْطَانَ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، او او عاطفہ اَنْ حرف تفسیر اَعْبُدُوا افعال باؤ ضمیر فاعل نون و کایہ کا، بیاہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقتر، مقتر با مقتر امتتاز و اکی تعلیل ہے (مظہری) اِنْ حرف تفتیح، ضمیر اس کا اسم لَكُمْ کائینا کے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوٌّ مُّبِينٌ مرکب توصیفی ذل حال مؤخر، ذل حال با حال خبر، اِنْ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطبوعہ ہوں، هٰذَا اسم اشرہ، مبتداء، صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ مرکب توصیفی خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متنازعہ ہوں (مظہری)

**وَ لَقَدْ اَصْلَحْنَا مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾**

**آیت نمبر ۶۲:** او او استیناف، لَمْ تَكُوْنُوْا لام موصوفہ، اللّٰم اور قسم معذوف ہے، قَدْ حرف تفتیح اَصْلَحْنَا فعل ہو مستتر فاعل مِنْكُمْ متعلق جِبِلًّا کثیر، امرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں، هٰذَا حرف استفہامیہ قاء عاطفہ معطوف علیہ معذوف ہے، لَا تَكْفُرُوْنَ افعال باؤ ضمیر اس کا اسم تَكُوْنُوْا افعال باؤ ضمیر اس کا اسم تَعْقِلُوْنَ فعل باؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متنازعہ ہوں

**هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾**

**آیت نمبر ۶۳:** هٰذِهِ اسم اشرہ، مبتداء، جَهَنَّمُ موصوفہ الَّتِي اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم تُوْعَدُوْنَ

فعل مجہول بادا ضمیر نائب قائل خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف بہ صفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں

### اَصْلُوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝۱۳

آیت نمبر ۱۳: اَصْلُوْهَا الْيَوْمَ الْفعل امر و ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ الْيَوْمَ مفعول فی بناء حرف جلد ما مصدریہ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ فعل ناقص ہا اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جہا با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعولین و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہوں

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ وَ تَكَلِّمُنَا اَيْدِيَهُمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا

### يَكْسِبُوْنَ ۝۱۴

آیت نمبر ۱۴: اَلْيَوْمَ مفعول فیہ مقدم نَخْتِمُ فعل نَحْنُ مستتر قائل عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاظُهُمْ تَكَلِّمُ فعل ناقص ضمیر قائل اَيْدِيَهُمْ مرکب انشائی قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاَوْعَاظُهُمْ تَشْهَدُ فعل اَرْجُلُهُمْ مرکب انشائی قائل بناء حرف جر ما مصدریہ كَانُوْا اَيْ كَسِبُوْنَ فعل ناقص ہا اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جہا با مجرور متعلق، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستانہ ہوں

### وَ لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰیٓ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنْتٰی يُبْصِرُوْنَ ۝۱۵

آیت نمبر ۱۵: وَاَوْعَاظُهُمْ لَوْ شرطیہ نَشَاءُ فعل نَحْنُ مستتر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لآءہ جوائیہ طَمَسْنَا فعل ناقص ضمیر قائل عَلٰی اَعْيُنِهِمْ جہا با مجرور متعلق، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاَمَّا عَاظُهُمْ فَاسْتَبَقُوا الْفعل وَاَوْعَاظُهُمْ قائل الْقِيَمَاتِ مفعول فیہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں فَاَمَّا عَاظُهُمْ اُنّٰی، یعنی کَيْفَ كَانُوْنَ کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم یُبْصِرُوْنَ فعل وَاَوْعَاظُهُمْ ذوالحال مؤخر بذوالحال با حال قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں

### وَ لَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰیٓ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَضَاعُوْا مِضْيَاً وَ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝۱۶

آیت نمبر ۱۶: وَاَوْعَاظُهُمْ لَوْ شرطیہ نَشَاءُ فعل نَحْنُ مستتر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لآءہ جوائیہ مَسَخْنَاهُمْ فعل ناقص ضمیر قائل عَلٰی مَكَانَتِهِمْ متعلق سے ل کر معطوف علیہ، فَاَمَّا عَاظُهُمْ مَا نَا فَاَسْتَضَاعُوْا الْفعل وَاَوْعَاظُهُمْ قائل مِضْيَاً مفعول فیہ سے ل کر معطوف اول، وَاَوْعَاظُهُمْ لَوْ يَرْجِعُوْنَ فعل با قائل ہا اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جہا با مجرور متعلق جملہ شرطیہ معطوف ہوں

### رکوع نمبر ۵

### وَ مَنْ نُعِزُّهُ نُؤْتِكْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ۝۱۷

آیت نمبر ۱۷: وَاَوْعَاظُهُمْ مَنْ اسم شرط مبتدأ، نُعِزُّهُ فعل نَحْنُ مستتر قائل ؕ ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، نُؤْتِكْهُ فعل نَحْنُ مستتر قائل ؕ ضمیر مفعول بی فی الْخَلْقِ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر،

مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ ہمہ اعراف استفہام فہاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے۔ لَا یَعْلَمُونَ، لَا یَقُولُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانفہ انشائیہ ہوں۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

آیت نمبر ۶۹: اواؤ استیفاء مانہ عَلَّمْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ اذل الشِّعْرَ مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اواؤ عاطفہ مانہ یَنْبَغِي فعل ہو، مستتر فاعل لہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانفہ ہوں۔ اِنْ نایہ ہو ضمیر مبتدا، اَلَا حرف استثناء، ذِكْرٌ معطوف علیہ، اواؤ عاطفہ قُرْآنٌ مُّبِينٌ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ بمعطوف خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

آیت نمبر ۷۰: لام جارہہ تلیلیہ يُنذِرُ فعل ہو، مستتر فاعل مَن ام موصول کان فعل ناقص ہو، مستتر اسم حَيًّا خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ مفعول بہ، فعل ہا فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اواؤ عاطفہ يَحِقُّ فعل الْقَوْلُ فاعل عَلَى الْكَافِرِينَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف بتاویل مصدر مجرور، جہد باجر و متعلق ہوتے فعل مخدوف اَوْسَلْنَا الرَّسُولَ کے... ا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَاتٍ آيِدِينَ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾

آیت نمبر ۷۱: ہمہ اعراف استفہام اواؤ عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے۔ يُنذِرُونَ خَلَقَ اللّٰهُ، لَمْ يَرَوْا فعل واؤ ضمیر فاعل اَنْ حرف تَحْقِيقِ نا ضمیر اس کا اسم خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَهُمْ جہد باجر و متعلق مَن جہد ما اسم موصول عَمِلَاتٍ فعل آيِدِينَ نا مرکب انسانی فاعل سے مل کر صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جہد باجر و رکابیتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم اَنْعَامًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خَلَقْنَا کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فہاء حرف عطف هُمْ ضمیر مبتدا، مَالِكُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل لَهَا متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا یا خبر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف اَنْ خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ يَرَوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل ہا فاعل مفعولین معطوف، معطوف علیہ مخدوف بمعطوف جملہ متانفہ انشائیہ ہوں۔

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفْلا

يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

آیت نمبر ۷۲، ۷۳: اواؤ عاطفہ دَلَّلْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ لَهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خَلَقْنَا پر معطوف ہے۔ فہاء استفہام تفریہ و مینھا جہد باجر و رکابیتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم رَكُوبُهُمْ مرکب انسانی مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، اواؤ عاطفہ يَأْكُلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل مینھا متعلق مقدم سے مل کر معطوف اذل، اواؤ عاطفہ لَهُمْ جہد باجر و رکابیتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم فینھا جہد باجر و رکابیتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ معطوف علیہ بمعطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال

بإحال مبتدأ خبر مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہول ہموزہ حرف استفہام قاء حرف عطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے یُنْكَرُونَ، لَا يَنْكُرُونَ فعل باو، ضمیر قائل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستأنف انشائیہ ہول

### وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿۴۳﴾

**آیت نمبر ۴۳:** واؤ عاظف اور معطوف علیہ مخدوف ہے اتَّخَذُوا عَالِهَةً (مظہری) اتَّخَذُوا فعل باو، ضمیر قائل مِنْ دُونِ اللّٰهِ جہ باجور مفعول بہ ثانی کی جگہ میں ہے الہۃ مفعول بہ اول، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہول لَعَلَّ حرف ترمیمی ہے ضمیر اس کا اسم یُنصَرُونَ فعل مجہول باو، ضمیر نائب فعل باو، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ تریبہ حال ہے اتَّخَذُوا کی ضمیر قائل ہے۔

### لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿۴۴﴾

**آیت نمبر ۴۴:** لَا يَسْتَطِيعُونَ فعل باو، ضمیر ذوالحال واؤ عالیہ ہُمْ ضمیر مبتدأ، لَعَلَّ جہ باجور و کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ مرکب توسیلی ذوالحال واؤ خبریہ، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال بإحال قائل نَصْرَهُمْ مرکب انشائی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول۔

### فَلَا يَحِزُّكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۵﴾

**آیت نمبر ۴۵:** قاء نصیرہ اور اس کی شرط مخدوف ہے إِذَا سَمِعْتَ الْوَعِيدَ لِلْكَافِرِينَ (مظہری) لَا يَحِزُّونَ فعل ثانی کی نام ضمیر مفعول بہ قَوْلُهُمْ مرکب انشائی قائل سے ل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہول، ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم نَعْلَمُ فعل نَحْنُ مستتر قائل مَا اسم موصول یُسِرُّونَ فعل باو، ضمیر قائل صلہ، موصول علیہ، واؤ عاظف مَا اسم موصول یُعْلِنُونَ فعل باو، ضمیر قائل صلہ، موصول ہول، معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلہ ہول۔

### أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانَ إِذَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۴۶﴾

**آیت نمبر ۴۶:** ہموزہ حرف استفہام واؤ عاظف اور معطوف علیہ مخدوف ہے یُنْكَرُوا الْإِنْسَانَ، قَدْ وَتَنَاعَلَ الْإِعَادَةَ لَمْ يَرِ فعل الْإِنْسَانَ قائل ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم خَلَقْنَا فعل نا ضمیر قائل ہ ضمیر مفعول بہ مِنْ نُطْفَةٍ جہ باجور و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر بیان با اسم و خبر لَمْ يَرِ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین معطوف اول، قاء عاظف اذ انفا جاتیہ مفعول فیہ مقدم ہُوَ ضمیر مبتدأ، خَصِيمٌ مُّبِينٌ مرکب توسیلی خبر، مبتدأ خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستأنف انشائیہ ہول۔

### وَ صَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُنحِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ﴿۴۷﴾

**آیت نمبر ۷۸:** واو اعطف صَرب فعل ہو مستزاع لکن متعلق مثلاً مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو اعطف لیبی فعل ہو مستزاع خَلَقَهُ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوف ہوں قَالَ فعل ہا ہو مستزاع قول، من اسم استفہام مبتدأ، یُحییٰ فعل ہو مستزاع اَلْبَعَاظَ ذوالحال واو حالیہ ہی زبیدیہ مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال ہا حال یُحییٰ کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

**قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٨﴾**

**آیت نمبر ۷۹:** قُلْ فعل امر اَنْتَ مستزاع ل سے مل کر قول یُحییٰ فعل ہا ضمیر مفعول بہ الَّذی اسم موصول اَنْشأَ فعل ہو مستزاع ہا ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ مَرَّةٍ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو اعطف ہو ضمیر مبتدأ، ہا جملہ کُلِّ خَلْقٍ مرکب اضافی مجرور، جملہ مجرور متعلق مقدم عَلِيمٌ مینہ صفت ہو مستزاع ل متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف صلہ، موصول ہا صلہ یُحییٰ کا فاعل، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

**الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٧٩﴾**

**آیت نمبر ۸۰:** الَّذی اسم موصول جَعَلَ فعل ہو مستزاع ل کُم جملہ مجرور مَعْلَا منصوب مفعول بہ ثانی مقدم مِّنْ جملہ اَلشَّجَرِ الْأَخْضَرِ مرکب توصیفی مجرور، جملہ مجرور و کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم نَارًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال ہا حال مفعول اَوَّل، فعل ہا فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء اعطف اِذَا مناجاتیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ، تُوقِدُونَ فعل ہا واو ضمیر فاعل مِّنْهُ متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف صلہ، موصول ہا صلہ بدل ہے الَّذی سے جو اہمہ کر ہے۔

**أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۗ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٠﴾**

**آیت نمبر ۸۱:** ہمزة حرف استفہام واو اعطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَيْسَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، لَيْسَ فعل ناقص الَّذی اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستزاع اَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ معطوف علیہ بمعطوف مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ لَيْسَ کلام ہیاء حرف جازئہ قَائِدِ اسم فاعل ہو مستزاع اَلْعَلَمِ جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ، یَخْلُقُ فعل ہو مستزاع اَلْعَلَمِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جملہ مجرور متعلق ہونے، اسم فاعل ہا فاعل و متعلق شبہ جملہ اتفاق مجرور مَعْلَا منصوب خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانہ انشائیہ ہوں بلی حرف ایجاب واو اعطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے وَهُوَ قَائِدٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ (مظہری) ہو ضمیر مبتدأ، اَلْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ دو خبر، مبتدأ با خبر ن جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانہ ہوں

## إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۸۲:** اِن حرف تحقیق مآ کا ذہ امر مصدر مضاف ء ضمیر مضاف الیہ معنی قائل إذا مضاف آزاد فعل ہو مستتر قائل شئیئاً مفعول یہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ مفعول فیہ ہو مصدر کا، مصدر مضاف ہامضاف الیہ معنی قائل و مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا، اَن ہامبر یَقُولُ فعل ہو مستتر قائل لہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، کُن فعل امر ہم آتے مستتر قائل سے مل کر مقولہ، قول ہامقولہ بتاویل مصدر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ بمقام عاطفہ یَکُونُ فعل مضارع ہو مستتر قائل سے مل کر خبر ہے مبتدا محذوف ہو کی، مبتدا خبر معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف جملہ متانفہ ہوں

## فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ یَبْدِیْہِہٖ مَلَکُوتُہٗ کُلِّ شَیْءٍ وَّ اِلَیْہِہٖ تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۸۳:** فام نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے إذا عَلِمْتُمْ فُدْرَةَ اللّٰہِ التَّمٰ کُورَةَ الْاُلُفَّةِ، سُبْحَانَ الَّذِیْ اسم موصول یبْدیہہ جملہ خبریہ موصولة کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَلَکُوتُہٗ کُلِّ شَیْءٍ ہو مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ تُرْجَعُوْنَ فعل مجہول ہوا ذہ ضمیر نائب فاعل اِلَیْہِہٖ متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف صلہ، موصول ہاسلہ مضاف الیہ، مضاف ہامضاف الیہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف سَبِّحُوْا کاسے یَسْبِحُوْا فعل امر ہوا ذہ ضمیر قائل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں

## ترکیب سُوْرَةِ الصَّفَاتِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَالصَّفَاتِ صَفًا ۝ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّلِیٰتِ  
ذِكْرًا ۝ اِنَّ الْهٰکُمْ لَوَ اٰحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۝ وَرَبُّ الْمَسَارِقِ ۝

**آیت نمبر ۱: ۵، ۴، ۳، ۲، ۱**: او تسمیہ جاہ الصفت اسم فاعل ہی مستتر قائل صفا مفعول مطلق سے ل کر معطوف علیہ، قاء عاقلہ الزجرات اسم فاعل ہی معطوف علیہ، او تسمیہ جاہ الصفت اسم فاعل ہی مستتر قائل ذکرا مفعول بہ سے ل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جاہ با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اقسیمہ کے، اقسیمہ فعل انا مستتر قائل و متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسم بان حرف تحقیق الہکد مرکب اضافی اس کا لام مذمطہ واحد خبر اول، رب مضاف السماوت معطوف علیہ، او عاقلہ الارض معطوف اول، او عاقلہ ما اسم موصول بینہما مرکب اضافی فعل محذوف بیت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، او عاقلہ رب المسارقی مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر ثانی، بان اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ تسمیہ ہوں

اِنَّا زَیْنًا السَّمَاۗءَ الدُّنْیَا بِزَیْنَةٍ الْکَوَاکِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ کُلِّ شَیْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝

**آیت نمبر ۲: ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱**: بان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم زینا فعل نا ضمیر فاعل السماء الدنیا مرکب توصیفی مفعول بہ، بآہ جاہ زینة مبدل من الکواکب بدل، مبدل منہ ہا بدل مجرور، جاہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاقلہ حیفظا مفعول مطلق ہے فعل محذوف حیفظنا کا، من جاہ کل مضاف شیطن مارید مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جاہ با مجرور متعلق، فعل با قائل و مفعول مطلق و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستاف ہوں

لَا یَسْمَعُوْنَ اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ الْاَعْلٰی وَ یُقَدِّفُوْنَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُوْرًا ۝ وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَّ اٰصِبٌ ۝

**آیت نمبر ۳: ۹، ۸، ۷**: لا یسمعون فعل واو ضمیر فاعل الی جاہ الملکات الاعلی مرکب توصیفی مجرور، جاہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاقلہ یقذفون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل من جاہ کل جانِب مرکب اضافی خبریہ مجرور، جاہ با مجرور متعلق ہوئے دحورا مفعول لہ ہے یا یقذفون کی ضمیر سے حال ہے بمعنی صدحورین ہو کر یا مفعول مطلق ہے من غیر فقہ، فعل مجہول ہائِب قائل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، او عاقلہ لهم طرف مستقر کل ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم عذاب و اصیب مرکب توصیفی مبتدا و خبر، مبتدا با خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستاف ہوں



### إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخُظْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثاقِبٌ ۝

**آیت نمبر ۱۰:** الّا حرف استثناء من اسم موصول خَطَفَ فعل هو مستتر قائل الخُظْفَةَ مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مفاد عطفہ اتّبع فعل ہ ضمیر مفعول بہ شہابٌ ثاقِبٌ مرکب توصیفی قائل، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف صلہ، موصول ہسلہ مستثنیٰ سے لَا یَسْتَعُونُ کی واو ضمیر قائل سے۔

### فَاسْتَقْتَفْتَهُمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنْ آتَانَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۝

**آیت نمبر ۱۱:** فاء فیصوہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ شِئْتَ أَنْ تُبَيِّنَهُمْ بِاسْتَقْتَفْتِ لَعَلَّ امْرَأَتَكَ مَسْتَرْتَقًا لَعَلَّ ضَمِير مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط ہا جزاء، جملہ شرطیہ ہوں ہم نے وہ حرف استثناء ہُمْ ضمیر مبتدأ، أَشَدُّ اسم تفضیل ہُمْ ضمیر قائل خَلَقْنَا تَمِيز سے مل کر شبہ، جملہ خبریہ مبتدأ، خبر جملہ انتہائیہ معطوف علیہ، اَمْ مَعطوف من اسم موصول خَلَقْنَا فعل نا ضمیر قائل سے مل کر صلہ، موصول ہسلہ مبتدأ، اور اس کی خبر محذوف ہے أَشَدُّ خَلْقًا، مبتدأ، خبر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ مستانہ ہوں اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم خَلَقْنَا فعل نا ضمیر قائل ہُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ جارہ طِینٍ لَازِبٍ مرکب توصیفی مجرور، جارہ باجرور متعلق، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق خبر بریل ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں۔

### بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۲:** بَلْ حرف اضرب و عطف اور معطوف علیہ مقدر ہے هُمْ لَا يُقْرُونَ، عَجِبْتَ فعل تاء مفتوحہ ذوالحال واو حالیہ یَسْخَرُونَ فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر مبتدأ، محذوف هُمْ کی، مبتدأ، خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال قائل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ مقدر بمعطوف جملہ مستانہ ہوں۔

### وَإِذَا دُكِرُوا لِآيَاتِكُمْ كُرُوا ۝

**آیت نمبر ۱۳:** واو عطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم دُكِرُوا فعل مجهول باوا ضمیر نائب قائل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَا یَدُکِرُونَ فعل باوا ضمیر قائل جزاء، شرط ہا جزاء، جملہ شرطیہ ہوں۔

### وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۴:** واو عطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم رَأَوْا فعل باوا ضمیر قائل آيَةً مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، یَسْتَسْخِرُونَ فعل باوا ضمیر قائل جزاء، شرط ہا جزاء، جملہ شرطیہ ہوں۔

### وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** واو عطفہ قالوا فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول یان بنیہ، هَذَا اسم ائمہہ مبتدأ، الّا حرف استثناء سِحْرٌ مُّبِينٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ، خبر جملہ اسمیہ خبریہ متولہ، قول یا مقولہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

عَرَا إِذَا مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظًا مَا عَرَانَا لَمَبْعُوثُونَ ۝ أَوْ آبَاءُ نَا الْأَوَّلُونَ ۝ قُلْ نَعْمَ وَ

## أَنْتُمْ دَاجِرُونَ ﴿۱۹﴾

**آیت نمبر ۱۹:** ﴿۱۹﴾: ھمزہ حرف استنبہا إذا شرطیہ مفعول فی مقدمہ یعنی ناسل تا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ و او عاطفہ مثنیٰ ناسل تا ضمیر اس کا اسم تاربا و عظاما معطوف علیہ۔ معطوف خبر، فعل ناقص بلاسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، ھمزہ حرف استنبہا ان حرف تحقیق ناسل تا ضمیر اس کا اسم لہر مذمقہ مینعوثون اسم مفعول نعن مستتر نائب قائل سے مل کر خبر، ان بلاسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، ھمزہ حرف استنبہا و او عاطفہ ابا و تا مرکب اضافی موصوف الآ و لون صفت، موصوف ہفت مبتداء اور خبر مخدوف ہے یبعثون، مبتداء خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں قائل امر آت مستتر قائل قول، نعم حرف ایجاب اور یہاں فعل یبعثون مخدوف ہے، یبعثون فعل مجہول و او ضمیر ذوالحال و او حالہ انکم ضمیر مبتداء داجرون اسم قائل یا انکم مستتر قائل خبر، مبتداء خبر حال، ذوالحال باحال نائب قائل، فعل مجہول ہائے نائب قائل مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

## فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۲۰:** ﴿۲۰﴾: قاء تالیلیہ اور مطلق مخدوف ہے لاکنتصعبوا ان حرف تحقیق ما کا فرج ضمیر مبتداء زجورۃ و احدۃ مرکب توصیفی خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، قاء عاطفہ اذا مفاعلیہ ھم ضمیر مبتداء، یَنْظُرُونَ فعل باو ضمیر قائل خبر، مبتداء با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہوں

## وَقَالُوا يَا أَيُّوَيْلَنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** ﴿۲۱﴾: استنہائیہ قائلوا قائل باو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، یاء حرف عداد ادعو کے قائم مقام ادعوا فعل آتا مستتر قائل و یکناکرکب اضافی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ علامہ، جواب علامہ مخدوف ہے اُحْضِرُوا فَهَذَا أَوْ لَنْكَ، علامہ با جواب علامہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متناہی ہوں، ہذا اسم اشارہ مبتداء یَوْمِ الدِّينِ مرکب اضافی خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ متناہی ہوں

## هَذَا يَوْمَ الدِّينِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲:** ﴿۲۲﴾: ہذا مبتداء یَوْمِ الدِّينِ مرکب اضافی موصوف الَّذِي ماسم موصول کُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم تکرر قائل باو ضمیر قائل پہ متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ صفت، موصوف ہفت خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

﴿۲﴾ رکوع نمبر ۲ ﴿﴾

أُحْشِرُوا الَّذِينَ كَلِمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۲۳﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿۲۴﴾ وَقَفَّوْهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿۲۵﴾

**آیت نمبر ۲۲، ۲۳، ۲۴:** أَحْسَرُوا نَصْلُ امْرَأَةٍ ضَمِيرُ قَاعِلِ الَّذِيْنَ كَلِمَةُ امْرَأَةٍ مَوْصُولٌ بِاسْمِهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفٌ أَوْ وَاوُ اجْتِهَمُ مَرْكَبٌ اِنشَائِيٌّ مَعْطُوفٌ اِثْلُ وَوَاوُ عَاطِفٌ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ كَانُوا نَصْلُ نَاقِصٌ وَوَاوُ ضَمِيرِ اسْمِ كَلِمَةٍ كَعَمَلُ وَنُفْعٌ بِوَاوُ ضَمِيرِ قَاعِلِ خَبْرٌ، نَصْلُ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ لِعَلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ مَوْصُولٌ بِاسْمِهِ ذَوَالِ اِلْحَالِ مِنْ كُنُوْنَ اللّٰهُ كَاوِيْنَا كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرَجَالٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ بِاِحَالٍ مَعْطُوفٌ اِثْلِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفِيْنَ مَعْطُوفٌ بِهِ، نَصْلُ بِاِنْفَاعِ وَ مَوْصُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ هُوَ كَرَجَالٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَعَاءٌ عَاطِفَةٌ اِهْتِدَاوُ نَصْلُ امْرَأَةٍ ضَمِيرِ قَاعِلِ هُمُ ضَمِيرِ مَوْصُولٌ بِهِ اِلَى جَدِهِ صَوَاوِطِ الْجَحِيْمِ مَرْكَبٌ اِنشَائِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدٌ مَجْرُورٌ مَتَعَلِقٌ هُوَ، نَصْلُ بِاِنْفَاعِ وَ مَوْصُولٌ بِهِ وَ مَتَعَلِقٌ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اِثْلُ، وَوَاوُ عَاطِفٌ وَقَفَا نَصْلُ امْرَأَةٍ ضَمِيرِ قَاعِلِ هُمُ ضَمِيرِ مَوْصُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اِثْلِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفِيْنَ جُمْلَةٌ مَسْتَقَرٌّ هُوَ اِنْ حُرِفَ تَحْقِيقُ هُمُ ضَمِيرِ مَوْصُولٍ اسْمِ كَلِمَةٍ مَعْتَمِدُوْنُ اِسْمِ مَوْصُولٍ بِاِهْمُ ضَمِيرِ مَسْتَقَرٍّ نَاقِبِ قَاعِلِ خَبْرٍ اِنْ بَا اسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هُوَ

**مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ۷۸**

**آیت نمبر ۲۵:** مَا اسْمٌ اِسْتِفْهَامٌ مَبْتَدَا، اَلَا هُوَ جَدُهُ كُمُ ضَمِيرُ ذَوَالِ اِلْحَالِ لَا تَنصَرُونَ نَصْلُ بِوَاوُ ضَمِيرِ قَاعِلِ حَالٍ، ذَوَالِ اِلْحَالِ بِاِحَالٍ مَجْرُورٌ، جَدٌ مَجْرُورٌ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَاوِيْنِ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرَجَالٌ، مَبْتَدَا بِاِخْبَرِ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَقُولَةٌ هِيَ بِعَقَالِ لَهْمُ مَحذُوفٌ كَا، قَوْلٌ بِاِقْتَوْلِ جُمْلَةٌ لِعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

**بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۷۹**

**آیت نمبر ۲۶:** بَلْ حُرْفٌ اِضْرَابٌ وَوَعَلْفُ هُمُ ضَمِيرِ مَبْتَدَا، مُسْتَسْلِمُونَ اِسْمٌ قَاعِلِ هُمُ مَسْتَقَرٌّ قَاعِلِ الْيَوْمِ مَوْصُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ سَلٌّ كَرَجَالٌ، مَبْتَدَا بِاِخْبَرِ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

**وَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۸۰**

**آیت نمبر ۲۷:** وَوَاوُ اِنشَائِيَّةٌ اِقْبَلْ نَصْلُ بَعْضُهُمْ مَرْكَبٌ اِنشَائِيٌّ ذَوَالِ اِلْحَالِ يَتَسَاءَلُونَ نَصْلُ بِوَاوُ ضَمِيرِ قَاعِلِ حَالٍ، ذَوَالِ اِلْحَالِ بِاِحَالٍ قَاعِلٌ عَلَىٰ بَعْضٍ جَدٌ مَجْرُورٌ مَتَعَلِقٌ هُوَ، نَصْلُ بِاِنْفَاعِ وَ مَتَعَلِقٌ جُمْلَةٌ لِعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْتَقَرٌّ هُوَ

**قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَآ عَنِ الْيَمِيْنِ ۸۱**

**آیت نمبر ۲۸:** قَالُوا نَصْلُ بِوَاوُ ضَمِيرِ قَاعِلِ قَوْلِ اِنَّ حُرْفٌ تَحْقِيقُ كُمُ ضَمِيرِ اسْمِ كَلِمَةٍ، كُنْتُمْ نَصْلُ نَاقِصٌ هُمُ ضَمِيرِ اسْمِ كَلِمَةٍ تَاْتُوْنَ نَصْلُ وَوَاوُ ضَمِيرِ ذَوَالِ اِلْحَالِ عَنِ الْيَمِيْنِ جَدٌ مَجْرُورٌ كَاوِيْنِيْنَ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرَجَالٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ بِاِحَالٍ قَاعِلٌ نَاقِبًا مَعْطُوفٌ بِهِ، نَصْلُ بِاِنْفَاعِ وَ مَوْصُولٌ بِهِ خَبْرٌ، نَصْلُ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرَانِ كِي خَبْرَانِ، اِسْمٌ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاِقْتَوْلِ جُمْلَةٌ لِعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

**قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۸۲**

**آیت نمبر ۲۹:** قَالُوا نَصْلُ بِوَاوُ ضَمِيرِ قَاعِلِ قَوْلِ بَلْ حُرْفٌ اِضْرَابٌ اِبْتِطَالٌ لَمْ تَكُونُوْا نَصْلُ نَاقِصٌ بِوَاوُ ضَمِيرِ اسْمِ مُؤْمِنِيْنَ خَبْرٌ، نَصْلُ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ لِعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاِقْتَوْلِ جُمْلَةٌ لِعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۰: واو عطف ما نانی کان فعل ناقص لانا جہد باجرور کا بیٹا کے متعلق ہو کر حال مقدم جملہ ذلہ سلطان ملام فرخ ذوالحال موخر ذوالحال باحال اسم موخر، فعل ناقص ہا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔ بکن حرف اضرب ابطالی کنتم فعل ناقص تم ضمیر اس کا اسم قوما کا غایب مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص ہا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۙ اِنَّآ كَذَّبْنَا قَوْلَ ۝

آیت نمبر ۳۱: فَا حرف عطف حق فعل علینا جہد باجرور متعلق ہوئے قَوْل رَبِّنَا مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اِنَّ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم، لامر مذلت ذَا اَقْوَمِ اسم فاعل نَحْنُ مستتر قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

فَاَعْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۲: فَا حرف عطف اعْوَيْنَا فعل تا ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔ اِنَّ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص تا ضمیر اسم غَوِيْنَ خبر سے مل کر اِنَّ کی خبر اِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

فَاَنهٰمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۳: فَا حرف نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِنَّ شَيْئًا اَنْ تَعْرِفَ مَا لَ الرَّؤُوسَا وَاَلْاَبْعَابِ اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم يَوْمَئِذٍ کا مبین کا مفعول فیہ ہو کر حال ہے هُمْ ضمیر سے مُشْتَرِكُوْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر قائل فی الْعَذَابِ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

اِنَّا كَذَّبْنَاكَ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۴: اِنَّ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم كَذَّبْنَاكَ جہد باجرور کا بیٹا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف فِعْلًا کے مفعول مطلق مقدم تَفْعَلُ فعل نَحْنُ مستتر قائل بِالْمُجْرِمِيْنَ متعلق سے مل کر خبر اِنَّ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

اِنَّهٗمْ كَانُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ وَ يَقُولُوْنَ اِنَّا لَتٰرِكُوْۤا

اِلٰهَتِنَا لِشٰعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝

آیت نمبر ۳۵: اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم كَانُوْۤا فعل ناقص وَا ضمیر اس کا اسم يَسْتَكْبِرُوْنَ فعل ہا وَا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف وَ يَقُولُوْنَ فعل ہا وَا ضمیر فاعل قول، هَمْوَا حرف استہزاء اِنَّ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم لَامر مذلت تَارِكُوْۤا اِلٰهَتِنَا مرکب اضافی اِنَّ کی خبر ہے لَامر جہد شٰعِرٍ مَّجْنُوْنٍ مرکب توصیفی مجرور، جہد باجرور تَارِكُوْۤا کے متعلق ہے،



موصوف لِّلشَّارِيَيْنِ جَد بجزور کائنۃ کے متعلق ہو کر لَدَّۃً کی صفت، موصوف ہفت گائیں کی صفت، موصوف ہفت ثلاث، موصوف ہفت ثلاث مجرور، جد بجزور یکتا کا نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ مکتومون کی صفت، موصوف ہفت ہم کی خبر، مبتدا بجزو جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ مستانہ ہوں۔

لَا فِيهَا عَٰوِلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ مِّنَ الظَّرْفِ عَيْنٌ ﴿٥﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٦﴾

**آیت نمبر ۴، ۵، ۶:** ۳۹، ۳۸، ۳۷۔ لاناہ فیہا ظرف مستقر کائیں کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَوِلٌ مبتدا مؤخر، مبتدا بجزو جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لاناہ ہفہ ضمیر مبتدا، یُنْزَفُونَ فعل مجہول بادا ضمیر نائب فاعل عَنْهَا متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا بجزو معطوف اول، واو عاطفہ عِنْدَهُمْ مرکب اضافی کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، قَصْرٌ مِّنَ الظَّرْفِ مرکب اضافی موصوف عین صفت اول، کَانَ حرف تشبیہ ضمیر اس کا اسم بَیضٌ مکتومون مرکب توصیفی خبر، کَانَ با اسم و خبر صفت ثانیہ، موصوف با مضمین مبتدا مؤخر، مبتدا بجزو معطوف ثانی، معطوف علیہ بمعطوفین گائیں کی صفت رابع ہے۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥﴾

**آیت نمبر ۵:** ۵۰۔ فآء عاطفہ اَقْبَلَ فعل بَعْضُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال یَتَسَاءَلُونَ فعل بادا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال ہمال فاعل علی بَعْضٍ جَد بجزو و متعلق، فعل ہاقبال و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے یَتَسَاءَلُونَ... الخ یہ۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٦﴾ يَقُولُ أَتَيْكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٧﴾

**آیت نمبر ۵۱، ۵۲:** ۵۱، ۵۲۔ قَالَ فعل قَائِلٌ موصوف و منْهُمْ کائیں کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت فاعل، فعل ہاقبال قول، اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم کَانَ فعل ناقص لی جَد بجزو کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم قَرِينٌ موصوف یَقُولُ فعل مہو مستتر فاعل سے مل کر قول، ہَمْزہ حرف استہمان حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم لاہر مذ حلقہ مِّنَ الْمُصَدِّقِينَ جَد بجزو کائیں کے متعلق ہو کر خبر بیان، با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول ہاقولہ قَرِينٌ کی صفت، موصوف ہفت کَانَ کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر مقولہ، قول ہاقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

عِٰذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ؕ اِنَّا لَمَدِيْنُونَ ﴿٧﴾

**آیت نمبر ۵۳:** ۵۳۔ ہَمْزہ حرف استہمان اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم مِتْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کُنَّا فعل ناقص ناقص ضمیر اس کو اَبًا وَّعِظَامًا معطوف علیہ بمعطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف شرط، ہَمْزہ حرف استہمان حرف تحقیق ناقص ضمیر اس کا اسم لاہر مذ حلقہ مَدِيْنُونَ اسم مفعول نَحْنُ مستتر نائب فاعل سے مل کر خبر بیان، با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّظْلَعُونَ ﴿٨﴾ فَاَطَّلَعَ فَرَاةً فِي سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٩﴾



**آیت نمبر ۶۳:** ہمزہ حرف استفہام ذلک اسم اشدہ مبتدأ، حَیْرٌ اسم تفضیل ہُو مستتر قائل لُوْلاً تخریج سے ل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انتائیہ معطوف علیہ، اُمْرٌ عاقلہ شَجَرَةٌ الرَّقْمِ مرکب اضافی مبتدأ، اور اس کی خبر محذوف ہے حَیْرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انتائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متافر ہوں۔

**إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿۶۳﴾**

**آیت نمبر ۶۳:** اِنّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم جَعَلْنَا فعل نا ضمیر قائل ہَا ضمیر مفعول بہ اول فِتْنَةٌ موصوفہ لِلظَّالِمِينَ جاد باجر و رکابہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین، خبر اِنّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿۶۴﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿۶۵﴾**

**آیت نمبر ۶۴، ۶۵:** اِنّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم شَجَرَةٌ موصوفہ تَخْرُجُ فعل ہی مستتر قائل فی أَصْلِ الْجَحِيمِ جاد باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت اول، طَلْعُهَا مرکب اضافی مبتدأ، کَانَ حرف تشبیہ نا ضمیر اس کا اسم رُءُوسُ الشَّيْطَانِ مرکب اضافی خبر کَانَ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت دوم، موصوف با صفتین اِنّ کی خبر اِنّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**فَأِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا يَلْبُؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۶۶﴾**

**آیت نمبر ۶۶:** فَأَءٌ تعلیل اِنّ حرف تحقیق ہُمْ ضمیر اس کا اسم لَا مَرْدُ طَلْعُ الْبُطُونَ اسم قائل ہُمْ مستتر قائل مِنْهَا متعلق سے ل کر شبہ جملہ معطوف علیہ، فَمَا عاقلہ مَا الْبُطُونَ اسم قائل ہُمْ مستتر قائل مِنْهَا متعلق الْبُطُونَ مفعول بہ سے ل کر شبہ جملہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنّ کی خبر اِنّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔

**ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَيْبٍ ﴿۶۷﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ ﴿۶۸﴾**

**آیت نمبر ۶۷، ۶۸:** ثُمَّ حرف عطف اِنّ حرف تحقیق لَهُمْ ظرف مستقر کائیں کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَلَيْهَا جاد باجر و رکابہ کے متعلق ہو کر حال مقدم لَا مَرْدُ طَلْعُ شَوْبًا مصدرین حَيْبٍ جاد باجر و مصدر کے متعلق ہوئے (ظہری) مصدر با متعلق ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال اسم مؤخر اِنّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاقلہ اِنّ حرف تحقیق مَرْجِعَهُمْ مرکب اضافی اس کا اسم لَا مَرْدُ طَلْعُ اِنّ الجحیم جاد باجر و رکابہ کے متعلق ہو کر خبر اِنّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

**إِنَّهُمْ الْقَوَّاءُ أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿۶۹﴾**

**آیت نمبر ۶۹:** اِنّ حرف تحقیق ہُمْ ضمیر اس کا اسم الْقَوَّاءُ فعل واو ضمیر قائل اَبَاءَهُمْ مرکب اضافی ضَالِّينَ مفعول بہ اول، ضَالِّينَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین خبر اِنّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں (گلاب) مختلف عذاب آنے کی تعلیل ہے۔



## فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهَرَّعُونَ ﴿۷۷﴾

**آیت نمبر ۷۷:** فَاَعْلَفَهُمْ ضَمِيرٌ مُّبْتَدِئٌ يَهْرَعُونَ فاعل مجهول واو ضمير نائب فاعل على اثارهم متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

## وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۷۸﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ﴿۷۹﴾

**آیت نمبر ۷۸، ۷۹:** واو استثنائیہ لاکر موطن لقم اور قسم مخدوف ہے قد حرف تحقیق ضل قبلہم مرکب اضافی مفعول فی اکثر الاولین مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل ومفعول فی جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف علیہ، واو عطف لاکر موطن لقم اور قسم مخدوف ہے قد حرف تحقیق ارسلنا فاعل نائب فاعل فیہم متعلق منذریین مفعول بہ سے مل کر جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

## فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿۸۰﴾

**آیت نمبر ۸۰:** فاء نصیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اذا کان الحال مأمور، انظر فعل امر آت مستتر فاعل کیف کا نیتا کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم مکن فعل ناقص عاقبۃ المنذریین مرکب اضافی اسم موخر مکن با اسم واو خبر جملہ انشائیہ استغماہیہ علا منصب انظر کا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

## إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۸۱﴾

**آیت نمبر ۸۱:** الأحراف استثناء یعنی لیکن کیونکہ یہ استثناء منقطع ہے عباد اللہ مرکب اضافی موصوفہ المخلصین مفت، موصوفہ ہفت مستثنیٰ منقطع ہے۔

﴿ رُكُوعٌ خَمْسَةٌ ﴾

## وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنعَمْ الْمُجِيبُونَ ﴿۸۲﴾

**آیت نمبر ۸۲:** واو استثنائیہ لاکر موطن لقم اور قسم مخدوف ہے قد علامت فعل نادى فعل نائب مفعول بہ نوح فاعل سے مل کر جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف علیہ، فاء عطف لاکر موطن لقم اور قسم مخدوف ہے نغم فعل مدح المجیبون فاعل سے مل کر خبر مقدم ہا اور موصوم بالمدح مبتدایہ مخدوف ہے لکن، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جواب قسم، قسم باجواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانہ ہوں۔

وَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۸۳﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿۸۴﴾ وَتَرَكْنَا

## عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۸۵﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿۸۶﴾

**آیت نمبر ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶:** واو عطف لاکر موطن لقم اور قسم مخدوف ہے، واو معنی مع آهله مرکب اضافی مفعول مدح، من جده الكرب العظيم مرکب توصیفی مجرور، جملہ با مجرور متعلق، فعل بافاعل ومفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ،

واو عاطف جملتنا فعل نا ضمیر فاعل ذَرَبْتَهُ مَرَك اضافی مفعول بہ اذل هُوَ ضمیر فعل الْبَاقِيْنَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین معطوف اول، واو عاطف كَرَّمْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِ جلد باجرور كَرَّمْنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف ثناء کے مفعول بہ، فی الْاٰخِرِيْنَ جلد باجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسَّرٌ سَلَّمَ مبتدا (اس میں دعا کا معنی ہے اس لئے کمرہ کا مبتدا ہونا جائز ہے) عَلٰی لُوْحٍ مُّطَّرِفٍ مستتر کالین کا متعلق اول فی الْعَالَمِيْنَ متعلق ثانی، اسم فاعل بَلَّغُوْا مستتر فاعل و متعلقین خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفسَّرٌ یا مفسَّرٌ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین پھر کادای پر معطوف ہے۔

### اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۰: اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم کَذَلِكَ جلد باجرور كَرَّمْنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جَزَّآءُ کے مفعول مطلق مقدم نَجْزِيْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل الْمُحْسِنِيْنَ مفعول بہ و مفعول مطلق مقدم سے مل کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطلہ ہوں۔

### اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۱: اِن حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم مِنْ جلد عِبَادِنَا مَرَك اضافی موصوف الْمُؤْمِنِيْنَ صفت، موصوف ہفت مجرور، جلد باجرور كَرَّمْنَا کے متعلق ہو کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطلہ ہوں۔

### ثُمَّ اَعْرَفْنَا الْاٰخِرِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۲: ثُمَّ حرف عطف اَعْرَفْنَا فعل نا ضمیر فاعل الْاٰخِرِيْنَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے نَجْزِيْنَا پر۔

### وَاِنْ مِنْ شَيْعَتِهٖ لَابْرٰهِيْمَ ۝

آیت نمبر ۸۳: واو استثنائیہ اِنْ حرف تحقیق مِنْ شَيْعَتِهٖ کالین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لامر مذ حلقہ اِيْرٰهِيْمَ اسم مؤخر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستغر ہوں۔

### اِذْ جَاءَ رَبُّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝ اِذْ قَالَ لِاٰيٰتِهٖ وَ قَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝

آیت نمبر ۸۴، ۸۵: اِذْ حرف زمان مضاف جَاءَ فعل رَبُّهٗ مَرَك اضافی فاعل بَاء جلد قَلْبٍ سَلِيْمٍ مَرَك توصیفی مجرور، جلد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبدل من، اِذْ مضاف قَالَ فعل ہو مستتر فاعل لامر جلد اِيْتِهٖ مَرَك اضافی معطوف علیہ، واو عاطف قَوْمِهٖ مَرَك اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جلد باجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَاذَا اسم استفہام مفعول بہ مقدم تَعْبُدُوْنَ فعل باواو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ پہلے اِذْ سے بدل، مبدل من بدل مفعول فیہ، فعل محذوف اَذْكُرْ کا اَذْكُرْ فعل اَنْتَ مستتر فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

### اِنْفَكَ الْهَيَّةَ دُونَ اللّٰهِ تَرِيْدُونَ ﴿۸۶﴾

**آیت نمبر ۸۶:** ہمزہ حرف استفہام اِنْفَكَ مفعول لہ مقدم الہیۃ موصوف ذُوْنَ اللّٰہ مرکب اضافی کائیدۃ کا مفعول فیہ ہو کر مفت، موصوف ہفت مفعول یہ مقدم تَرِيْدُونَ فعل ہاوا ضمیر فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ ہوں۔

### فَمَا كُنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾

**آیت نمبر ۸۷:** قاء عاطفہ مآ اسم استفہام مبتدا، لکن مصدر مضاف کُم ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جہا بحر و متعلق، پھر یہ خبر ہے، مبتدا باخبر جملہ اسیہ انشائیہ معطوف ہوں۔

### فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿۸۸﴾

**آیت نمبر ۸۸:** قاء عاطفہ نظروہ فعل ہو مستتر فاعل نظروہ مفعول مطلق فی النُّجُوْمِ متعلق سے ہا کر مبتدا سببیہ خبریہ ہوں۔

### فَقَالَ اِنِّي سَقِيْمٌ ﴿۸۹﴾

**آیت نمبر ۸۹:** قاء عاطفہ قَالَ فعل ہا مستتر فاعل قول اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم سَقِيْمٌ خبر اِنَّ ہا م و خبر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

### فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿۹۰﴾

**آیت نمبر ۹۰:** قاء عاطفہ تَوَلَّوْا فعل واو ضمیر و ذوالحال مُدْبِرِيْنَ حال، ذوالحال اِجَال فاعل عَنْهُ جہا بحر و متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

### فَرَاغَ اِلَى الْهَيْهَتُمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۹۱﴾

**آیت نمبر ۹۱:** قاء عاطفہ رَاغَ فعل ہو مستتر فاعل اِلَى الْهَيْهَتُمْ جہا بحر و متعلق ہوئے، فعل ہا فاعل و متعلق معطوف علیہ، قاء عاطفہ قَالَ فعل ہا ہو مستتر فاعل قول، ہمزہ حرف استفہام اَلَا تَاْكُلُوْنَ فعل ہاوا ضمیر فاعل مقولہ، قول ہا مقولہ، معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوف ہوں۔

### مَا لَكُمْ لَا تَنْظِقُوْنَ ﴿۹۲﴾

**آیت نمبر ۹۲:** مآ اسم استفہام مبتدا، لاکر جہا کُم ضمیر و ذوالحال لَا تَنْظِقُوْنَ فعل ہاوا ضمیر فاعل حال، ذوالحال اِجَال بحر و جہا بحر و رکائون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہے قَالَ اِنْزَا اِهْيَئْتُمْ قول مخدوف کا۔

### فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿۹۳﴾

**آیت نمبر ۹۳:** قاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے کُم یُجْمِلُوْا، رَاغَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوف ہوں صَرْبًا مفعول مطلق ہے فعل مخدوف یَضْرِبُ کا اور بِالْيَمِيْنِ یَضْرِبُ کے

متعلق ہے پھر یہ جملہ باغ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

### فَاتَّبِعُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٣﴾

آیت نمبر ۹۳: قَاءَ عاطفہ أَتَّبِعُوا فاعل واؤ ضمیر ذوالحال يَزْفُونَ فاعل باؤ ضمیر قائل حال ذوالحال باحال فاعل إِلَيْهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

### قَالَ اتَّعِبُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿٩٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

آیت نمبر ۹۴، ۹۵: قَالَ فاعل هو مستتر قائل همزة حرف استنبہا تَعْبِدُونَ فاعل واؤ ضمیر ذوالحال واو عالیا اللَّهُ مبتدأ، خَلَقَ فاعل هو مستتر قائل كُمْ ضمیر معطوف علیہ واو عاطفہ مَا اسم موصول تَعْمَلُونَ فاعل باؤ ضمیر قائل صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ باخبر حال، ذوالحال باحال تَعْبِدُونَ كَافَاعِلَ مَا اسم موصول تَنْجِتُونَ فاعل باؤ ضمیر قائل صلہ، موصول باصلہ مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

### قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٦﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٧﴾

آیت نمبر ۹۶، ۹۷: قَالُوا فاعل واؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، بَأْيُنُوا فاعل امر واؤ ضمیر قائل لَهْ متعلق بِنْيَانًا مفعول ہے۔ م ل کر معطوف علیہ، قَاءَ عاطفہ اَلْفُوهُ فاعل امر واؤ ضمیر قائل هُ ضمیر مفعول ہے فی الْجَحِيمِ متعلق ہے م ل کر جملہ انتہائی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ معطوف علیہ، قَاءَ عاطفہ اَرَادُوا فاعل واؤ ضمیر قائل بِهِ متعلق، كَيْدًا مفعول ہے سے م ل کر پھر معطوف علیہ، قَاءَ عاطفہ جَعَلْنَا فاعل نا ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول ہے اُولِ الْأَسْفَلِينَ مفعول ہے م ل سے م ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَالُوا پھر معطوف ہے۔

### وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِيَن ﴿٩٨﴾

آیت نمبر ۹۸: واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے فَخَرَجَ مِنَ النَّارِ سَالِمًا، قَالَ فاعل هو مستتر قائل سے م ل کر قول، إِنِّي حرف تحقيق، يَأْمُ ضمیر اس کا اسم ذَاهِبٌ اسم فاعل اَنَا مستتر قائل إِلَىٰ رَبِّي متعلق سے م ل کر خبر، إِنِّي قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں، سَيَّهْدِيَن علامت فعل سَيَّهْدِيَن فاعل هو مستتر قائل نون برائے وقایہ، يَأْمُ ضمیر محذوف مفعول ہے سے م ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ یا مستتر ہوں۔

### رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٩﴾

آیت نمبر ۹۹: رَبِّ دراصل يَأْمُ کی علامت ہے، هَبْ فاعل امر اَنْتَ مستتر قائل لی جار مجرور متعلق مِنَ الصَّالِحِينَ ظرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف سو کدکد کے مفعول ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول ہے جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ ہے قول محذوف قَالَ اِيْزَاهِيْمُ كَا۔

## فَبَشِّرْهُ بِغُلْمٍ خَلِيلٍ ﴿۱۰۱﴾

**آیت نمبر ۱۰۱:** فَاء عاطفہ بَشِّرْ تَا فِعْل تَا ضَمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ یاء جادہ غُلْمِ خَلِيلِ مرکب توصیفی مجرور، جادہ مجرور متعلق، فاعل ہا فاعل ہ مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوف ہو۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اُذْبِحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ  
قَالَ يَا بَتِ اِفْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

**آیت نمبر ۱۰۲:** فَاء اثبتیہ لَمَّا ظرف زمان، متضمن معنی شرط مفعول بہ مقدم بَلَغَ فاعل ہو مستتر فاعل مَعَهُ مرکب انسانی کا یثنا کا مفعول بہ ہو کر حال مقدم ہا السَّعْيِ ذوالحال مؤخر ذوالحال ہا حال مفعول بہ، فاعل ہا فاعل ہ مفعولین شرط، قَالَ فاعل ہا ہو مستتر فاعل قول، یاء حرف علامہ اذْعُوْا کے قائم مقام، اذْعُوْا فاعل اَنَا مستتر فاعل بَنَى مرکب انسانی مفعول بہ سے ل کر علامہ اِن حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم، اَرَى فاعل اَنَا مستتر فاعل فی الْمَنَامِ جادہ مجرور متعلق ہوئے، اَن حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اذْبِحُ فاعل اَنَا مستتر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اَن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتلاوی مفرد اَرَى کا مفعول بہ، فاعل ہا فاعل ہ متعلق و مفعول بہ خبر، اَن ہا اسم و خبر جواب علامہ علامہ ہا جواب علامہ مقولہ، قول ہا مقولہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَاء فیحیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، اَنْظُرْ فاعل امر اَنْتَ مستتر فاعل مَا اِذَا اسم استفہام مفعول بہ مقدم تَرَى فاعل اَنْتَ مستتر فاعل و مفعول بہ سے ل کر مَعْلَا مَوْصُوْب اَنْظُرْ کا مفعول بہ، فاعل ہا فاعل ہ مفعول بہ جملہ انتہایہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ قَالَ فاعل ہا ہو مستتر فاعل ہا ہو مستتر فاعل قول، یَا بَتِ فاعل اصل میں یَا اِنِّي ہے اور یہ علامہ ہا فاعل امر اَنْتَ مستتر فاعل مَا اسم موصول ہُوْا فاعل ہا ہو مستتر نائب فاعل سے ل کر صلہ، موصول ہا صلہ مفعول بہ، فاعل ہا فاعل ہ مفعول بہ جواب علامہ علامہ ہا جواب علامہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ یسین علامت فاعل تَجِدُ فاعل اَنْتَ مستتر فاعل لَوْنِ برائے وقایہ یاء ضمیر مفعول بہ اول، مِنَ الصّٰبِرِيْنَ جادہ مجرور مفعول ہا کی جگہ میں ہے، فاعل ہا فاعل ہ مفعولین وال برجزایمان شرطیہ شَاءَ فاعل اَللّٰهُ فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، شرط اپنے وال برجزاء سے ل کر جملہ شرطیہ ہو۔

فَلَمَّا اَسْلَمْنَا وَ تَلَّہُ لِلْجَبِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ وَ تَادِيْنُهُ اَنْ يَّابُرْ هَيْمًا ۙ قَدْ صَدَقْتَ الرَّعْيَا عِرَانَا  
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۴﴾

**آیت نمبر ۱۰۳:** فَاء عاطفہ لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول بہ مقدم اَسْلَمْنَا فاعل ہا الف ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و اُوْا عاطفہ تَلَّ فاعل ہُوْا مستتر فاعل ہ ضمیر ذوالحال لِلْجَبِيْنَ کا یثنا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہا حال مفعول بہ، فاعل ہا فاعل ہ مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف شرط، اور اس کی جزاء محذوف ہے مَعْتَقَاتُ عُنُقِ الذّٰبِحِ، و اُوْا عاطفہ تَادِيْنَا فاعل تَا ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ سے ل کر مفسر اَن حرف تفسیر، یاء حرف علامہ قائم مقام اذْعُوْا کے اذْعُوْا فاعل اَنَا ضمیر فاعل اَبْرَ اِهْيَمًا مَعْلَا

منسوب مفعول بہ، فعل بافاعل ومنقول بہ علامہ، قد حرف تحقیق صدقت فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل الکریمیا منسوب تقدیر مفعول بہ سے ل کر جواب علامہ، علامہ، جواب علامہ مضمر، مفسر یا مفسر معطوف ہے جزاء محذوف پر۔ (مظہری) ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کلام، کذلک جہ باجر، رکائتا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جزاء کے مفعول مطلق مقدم، تجزی فعل نحن مستتر فاعل الْمُحْسِنِينَ مفعول بہ سے ل کر خبر ان ہام وغیر ہملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں (ابراہیم علیہ السلام احسان کرنے کی تعلیل ہے)

### إِنَّ هَذَا لَهُوَالْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۰۶﴾

**آیت نمبر ۱۰۶:** إِنَّ هَذَا لَهُوَالْبَلَاءُ الْمُبِينُ مرکب توصیفی خبریہ مبتدأ خبر ان کی خبر ان ہام وغیر ہملہ اسمیہ خبریہ ہوں

### وَقَدَيْنُهُ بِذَنبِ عَظِيمٍ ﴿۱۰۷﴾ وَتَوَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۰۸﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۰۹﴾

**آیت نمبر ۱۰۷:** ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷: او عاطفہ فَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ بئاء جارہ ذَنبِ عَظِيمٍ مرکب توصیفی خبر جارہ باجر، متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومنقول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ تَوَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کی ترکیب اہی رکوع میں گزری ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ بمعطوف پھر تَوَكَّنَا عَلَيْهِ معطوف ہے، سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ هَذَا الْقَوْلِ کی تاویل میں ہو کر تَوَكَّنَا عَلَيْهِ مفعول بہ ہے۔

### كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۱۰:** كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کی ترکیب چند سطریں پہلے گزری ہے۔

### إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱۱:** إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ کی ترکیب اسی رکوع کے شروع میں گزر چکی ہے۔

### وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۲﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا

### مُحْسِنٌ وَظَلِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿۱۱۳﴾

**آیت نمبر ۱۱۲، ۱۱۳:** او عاطفہ بَشَرْنَاهُ فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ بئاء جارہ إِسْحَاقَ ذُو الْحَالِ نَبِيًّا موصوف مِنْ الصَّالِحِينَ ظرف مستقر رکائتا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت حال، ذُو الْحَالِ بِحَالِ جارہ باجر، جارہ باجر اور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومنقول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ بَارَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِ جارہ باجر اور معطوف علیہ، او عاطفہ عَلَى إِسْحَاقَ جارہ باجر اور معطوف، معطوف علیہ بمعطوف متعلق، فعل بافاعل ومنقول معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوف ہوں او ایسی تبارہ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مرکب اضافی جارہ باجر اور رکائتا کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُحْسِنٌ معطوف علیہ، او عاطفہ ظَلِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ موصوف مستتر فاعل لِنَفْسِهِ متعلق سے ل کر موصوف مُبِينٌ صفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ متاخر ہوں



**آیت نمبر ۱۲۳:** اِذْ مَنَّا عَلٰی نُوْحٍ لَّمْ يَلْمِمْ مَشْرُقًا وَّلَمْ يَلْمِمْ مَغْرِبًا لَّمْ يَلْمِمْ اَحَدًا مِّنْ عَشْرَتِكَ اِلَّا الَّذِي كَفَرَ اِنَّكَ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الْعَلِيْمُ  
 قائل جملہ اظہار معقولہ، قول با مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، مَنَّا بمضاف الیہ مفعول بہ، نوح فعل محذوف اِذْ کَافُرًا۔

**آیت نمبر ۱۲۴:** اَكْتَفَىٰ نُوْحٌ بَعْلًا وَّكَذُوْنًا اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۗ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ وَّرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷:** اِذْ مَنَّا عَلٰی نُوْحٍ لَّمْ يَلْمِمْ مَشْرُقًا وَّلَمْ يَلْمِمْ مَغْرِبًا لَّمْ يَلْمِمْ اَحَدًا مِّنْ عَشْرَتِكَ اِلَّا الَّذِي كَفَرَ اِنَّكَ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الْعَلِيْمُ  
 فعل واو ضمیر قائل اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ مرکب اضافی مبدل منہ اللہ مبدل منہ رَبُّكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبُّ مضاف اَبَائِكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبُّ مضاف اَبَائِكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، موصوف بہفت مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ بہ معطوف بدل، مبدل منہ بدل اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ کا بدل، مبدل منہ بدل مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ بہ معطوف جملہ مستانہ اظہار ہوں۔

**فَكَذَّبُوْهُ فَاَتَاهُمُ الْمُخَضَّرُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۲۷:** فَكَذَّبُوْهُ فَاَتَاهُمُ الْمُخَضَّرُوْنَ ۝  
 الْقَوْلُ الْمَذْمُوْرُ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، فَاءِ فیصیرہ کڈبوا فعل باوا ضمیر قائل و ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء، اور شرط محذوف اِذَا قَالَ لَهُمُ الْقَوْلَ الْمَذْمُوْرُ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، فَاءِ فیصیرہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا وَجِدَ وَنَهَىٰ التَّكْذِيْبَ اِنَّ حَرْفَ تَحْقِيْقِ هُمُ ضمیر اس کلام، لام مدح حلقہ مُخَضَّرُوْنَ اسم مفعول ہُمْ ضمیر مستتر نائب قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنِّ بَا اسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۲۸:** اِلَّا حَرْفِ اسْتِثْنَاءِ عِبَادَ اللّٰهِ مُرَكَّبٌ اِثْنَانِ مَوْصُوفٌ بِالْمُخْلَصِيْنَ مَعْتَمِدٌ، مَوْصُوفٌ بِهَفْتٍ مَسْتَكْبِرٌ جَمْعٌ  
 کڈبوا کی واو ضمیر سے۔

**وَتَوَكَّرْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۗ سَلَّمَ عَلٰى اِلٰى يٰسِيْنَ ۝ اِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝**

**اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲:** وَتَوَكَّرْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ سَلَّمَ عَلٰى اِلٰى يٰسِيْنَ اِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ  
 ان آیت کی ترکیب اہم دلے رکوع میں کر رکھی ہے۔

**وَ اِنْ لُّوْكَالِيْنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۳۳:** وَ اِنْ لُّوْكَالِيْنَ الْمُرْسَلِيْنَ حَرْفِ تَحْقِيْقِ لُوْكَالٍ اِسْمٌ مِّنْ اَسْمَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَرَبِيَّةٌ مِّنْ اَسْمَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَرَبِيَّةٌ  
 ہو کر خبر اِنِّ بَا اسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

**اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ ۗ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغَيْرِيْنَ ۝ ثُمَّ دَمَرْنَا الْاَجْرِيْنَ ۝**



**وَإِنَّكُمْ لَتَمُوتُونَ عَلَيْهِمْ مُمْسِكِينَ ﴿۵﴾ وَالْيَلِيلَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶﴾**

**آیت نمبر ۵، ۶:** ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱: اذ مضاف دَجِيئًا فعل نا ضمیر قائل ۵ ضمیر مفعول بہ واو بمعنی مع ۱ اھلکے مرکب اضافی مؤکداً جَعِبْتِیْنَ تاکید، مؤکداً تاکیدی مشتق منراً لآحرف استثناء عَجُوزًا موصوف فی الغایہ یزین ظرف مستقر کا کئیٹا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مسطح، مسطح منہ ہا مشتق مفعول مد، فعل ناقص و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، تَقَرَّ عاطف ذمَّوْنَا فعل نا ضمیر قائل الْأَحْوَرِیْنَ ذوالحال واو حالہ اِنَّ حرف تحقیق کُم ضمیر اس کا اسم لاکہ مذ طلقت کَتَمُّوْنَا فعل واو ضمیر ذوالحال مُمْسِکِیْنَ حال، واو عاطف بِاللَّیْلِ جہ باجرور کا تینوں کے متعلق ہو کر حال ثانیہ ذوالحال ہا مائلن قائل عَلَیْہِمْ جہ باجرور متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال ہا حال ذمَّوْنَا کا مفعول بہ، فعل ناقص و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اذ کا مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ مفعول یہ ہے فعل محذوف اذ کُم کا اذ کُم فعل امر اَنْتَ مستقر قائل و مفعول یہ ہے ل کر جملہ انشائیہ امریہ ہول ہمزہ حرف استفہام قاء عاطف اور معطوف علیہ محذوف ہے لَتَفْعَلُوْنَا عَنْ ذٰلِکَ لَا تَعْقِلُوْنَا فعل واو ضمیر قائل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ انشائیہ متانہ ہول

**﴿۵﴾ رکوع نمبر ۵**

**وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳﴾**

**آیت نمبر ۱۳:** ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱: اذ مضاف اِبْنِ لُوطٍ مستقر قائل اِبْنِ جِدہ الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ مرکب توسیعی مجرور جہ باجرور متعلق ہو کر خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانہ ہول

**إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿۱۳﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۱۴﴾**

**آیت نمبر ۱۳، ۱۴:** ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱: اذ مضاف اِبْقَ فعل ہو مستقر قائل اِبْنِ جِدہ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ مرکب توسیعی مجرور جہ باجرور متعلق ہوئے، فعل ناقص و متعلق جملہ خبریہ معطوف علیہ فقاء عاطف سَاهَمَ فعل ہو مستقر قائل سے ل کر معطوف اذل فقاء عاطف فَکَانَ فعل ناقص ہو مستقر اس کا اسم مِنَ الْمُدْحَضِیْنَ ظرف مستقر کا کئیٹا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہی، معطوف علیہ ہا معطوف اذ کا مضاف الیہ، مضاف ہا مضاف الیہ الْمُرْسَلِیْنَ کا مفعول یہ ہے

**فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۱۵﴾**

**آیت نمبر ۱۵:** ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱: فقاء عاطف اور معطوف علیہ محذوف ہے الْقَوَّةِ فِي الْبَحْرِ بِالْتَقَمَ فعل ہا ضمیر مفعول بہ الْاَحْوَتُ ذوالحال واو حالہ ہو ضمیر مبتدأ مُلِیْمٌ خبریہ سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال ہا مائل قائل، فعل ناقص و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوف ہول

**فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْبِغِينَ ﴿۱۶﴾ لَلِکَبِ فِي بَطْنِهَا اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُونَ ﴿۱۷﴾**

**آیت نمبر ۱۶، ۱۷:** ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱: ناقص ہو ضمیر اس کا اسم

مِنْ الْمَسْتَجِيبِينَ لَظْفٍ مُسْتَعَارًا كَيْفَاكَ مُتعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر آن کی خبر، بَأْسٌ بِاسْمِ وَخَيْرِ جَمَلٍ اسْمِیہ خبریہ بتداول مفرد مبتدا اور اس کی خبر مَوْجُودٌ محذوف ہے، مبتدا باخبر جملہ اسْمِیہ خبریہ شرط، لَآءٌ جَوَابِیہ لَيْتٌ فعل هُوَ مُسْتَعَارٌ قَائِلٌ فِي تَطْبِئِهِ جَدٍ بِمَجْرُورٍ مُتعلق اَوَّلِ اِلَى حرف جَدِیوہ مضاف یُبَيِّنُونَ فعل مجہول باو ضمیر نائب قائل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیه، پھر یہ مجرور ہے، جَدٍ بِمَجْرُورٍ مُتعلق تَمَلُّ، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ جَزَاءٌ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہوں۔

فَتَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۞ وَانْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۞ وَارْسَلْنَاهُ إِلَىٰ

مَائَةِ آفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۞

**آیت نمبر ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴:** قَاءَ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اَمْرًا نَا الْحَوْتَ يَنْبِئِينَ، تَبَدَّلْنَا فعل نا ضمیر قائل نا ضمیر منصوب ذوالحال واو حالیہ هُوَ سَقِيمٌ مبتدا باخبر جملہ اسْمِیہ خبریہ حال ذوالحال باحال مفعول بہ بِالْعَرَاءِ جَدٍ بِمَجْرُورٍ مُتعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّلِ، واو عاطفہ انْبَتْنَا فعل نا ضمیر قائل عَلَيْهِ جَدٍ بِمَجْرُورٍ مُتعلق شَجَرَةً مَوْصُوفَةٌ مِنْ يَقْطِينٍ جَدٍ بِمَجْرُورٍ كَاثِرَةً کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ بصفت مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف تَمَلُّ، واو عاطفہ ارْسَلْنَا فعل نا ضمیر قائل نا ضمیر منصوب مفعول بہ اِلَى حرف جَدِیوہ مضاف الیه مَائَةِ آفٍ مِيزًا تَمِيزٌ مَعطوف علیہ اَوْ عاطفہ يَزِيدُونَ فعل باو ضمیر قائل معطوف، معطوف علیہ معطوف مجرور، جَدٍ بِمَجْرُورٍ مُتعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثَمَّ، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوفہ ہوں۔

قَامُوا فَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ۞

**آیت نمبر ۱۳۸:** قَاءَ عاطفہ اَمْرًا فعل باو ضمیر قائل معطوف علیہ، قَاءَ عاطفہ مَتَّعْنَا فعل نا ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ اِلَى حِينٍ مُتعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۞

**آیت نمبر ۱۳۹:** فَاَسْتَفْتَيْتُهُمْ اس کا عطف اس فَاَسْتَفْتَيْتُهُمْ ہے جو ابتدائی سورت میں ہے۔ هَمْزٌ هَا بَرَاءٌ اسْتِفْتَاهُمْ لِرَبِّكَ كَاثِرَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْبَنَاتُ مبتدا اوخر، مبتدا باخبر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَهُمُ كَاثِرُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْبَنُونَ مبتدا اوخر، مبتدا باخبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متساوہ انتہائی ہوں۔

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۞

**آیت نمبر ۱۵۰:** اَمْرًا عاطفہ خَلَقْنَا فعل نا ضمیر قائل الْمَلَائِكَةُ ذَوَالْحَالِ اِنَاثًا حال ذوالحال باحال پھر ذوالحال واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا شَاهِدُونَ اسم قائل ہا هُمْ ضمیر قائل خبر، مبتدا باخبر جملہ اسْمِیہ خبریہ حال ذوالحال باحال خَلَقْنَا كَاثِرًا مَعطوف بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انتہائی ہوں۔

أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْئِدَتِهِمْ لِيَقُولُونَ ۞

**آیت نمبر ۱۵۱:** اَلْاٰرْفَ حَمِيْرًا نَّحْرَفٍ تَمِيْمًا هُمْ ضَمِيْرًا كَلَامٌ مِّنْ جَدِيْدٍ اَفْكِهِمْ مَّرْكَبٌ اِنشَاءً مَّجْرُورٌ جَدِيْدٌ مَّجْرُورٌ مُّتَعَلِّقٌ  
مقدم لآمر نہ حلقہ یَقُوْلُوْنَ فعل باؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر اِنَّ ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانف ہوں۔  
وَكَذٰلِكَ اَنْتَهِمُ لَكِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

**آیت نمبر ۱۵۲:** وَكَذٰلِكَ نَصَلُّ اَللّٰهُ قَاعِلٌ دُونُوْنَ لِكِرْتُوْلِ كَا مَقُوْلٍ هُوَ اَوْ اَوْ اَعَالِي اِنَّ حَرْفٌ تَمِيْمًا هُمْ ضَمِيْرًا كَلَامٌ مِّنْ جَدِيْدٍ مَّقُوْلَةٍ  
کا ذیوْن خبر اِنَّ ہاں خبر یَقُوْلُوْنَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

**اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿۱۵۳﴾**

**آیت نمبر ۱۵۳:** هَمْزَةٌ بَرَاءَةٌ اَسْتَمْتَمَ اَصْطَفَى فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ اَصْطَفَى مَعْنَى اَصْطَفَى الْبَنَاتِ مَعْنَى اَصْطَفَى الْبَنِيْنَ مُتَعَلِّقٌ سَعَلَى كِرْجَلَةٍ فَعَلِيَةٍ  
انشائیہ ہوں۔

**مَا لَكُمْ تَدْكِيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿۱۵۴﴾ اَقْلًا تَدْكُرُوْنَ ﴿۱۵۵﴾**

**آیت نمبر ۱۵۴، ۱۵۵:** مَا اِسْمٌ اَسْتَمْتَمَ مَبْدَأُ لَكُمْ كَاثِرٌ كَثِيْرٌ مُّتَعَلِّقٌ هُوَ كِرْجَلَةٍ مَبْدَأُ خَرَجَ جَمَلٌ اِسْمِيَةٌ اِنشَائِيَةٌ هُوَ كَيْفَ كَاثِرٌ كَثِيْرٌ  
مفعول فیہ ہو کر حال مقدم تَحْكُمُوْنَ فعل باؤ ضمیر ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال فاعل، فعل باقال جملہ انشائیہ مَا لَكُمْ سے بدل ہے۔  
هَمْزَةٌ حَرْفٌ اَسْتَمْتَمَ قَاعِلٌ اَوْرُ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ مَحْذُوْفٌ هُوَ عَمِيْمَةٌ عَنِ الْحَقَائِقِ اَلَا نَايَةٌ تَدْكُرُوْنَ فِعْلٌ اَوْرُ اَوْرُ ضَمِيْرًا قَاعِلٌ مَعْطُوْفٌ،  
مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفٍ جَمَلٌ مَسْتَانَفٌ اِنشَائِيَةٌ هُوَ

**اَمْرٌ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵۶﴾**

**آیت نمبر ۱۵۶:** اَمْرٌ مَعْلُوْفٌ لَكُمْ كَاثِرٌ كَثِيْرٌ مُّتَعَلِّقٌ هُوَ كِرْجَلَةٍ مَبْدَأُ مَقْدَمٌ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ مَّرْكَبٌ تَرْتِيْبِيٌّ مَبْدَأُ مَوْخَرٌ مَبْدَأُ خَرَجَ جَمَلٌ  
اسیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

**فَاَتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۵۷﴾**

**آیت نمبر ۱۵۷:** فَاَتْ فَاَتْ فَعِيْرٌ اَوْرُسٌ كِيْ شَرْطٍ مَحْذُوْفٌ هُوَ اِذَا كَانَ كَذٰلِكَ اِيْتُوْا فِعْلٌ اَوْرُ اَوْرُ ضَمِيْرًا قَاعِلٌ اَبَاءٌ جَدِيْدٌ كِتٰبِكُمْ مَّرْكَبٌ  
انشائی مجرور، جَدِيْدٌ مَّجْرُورٌ مُّتَعَلِّقٌ، فِعْلٌ اِبْقَالٌ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ اِنشَائِيَةٌ دَالٌ بِرَجَاهٍ اِنَّ شَرْطِيَّةٌ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِعْلٌ نَاقِسٌ هَا م وَ خَرَجَ جَمَلٌ  
خبریہ شَرْطٌ، دَالٌ بِرَجَاهٍ سَعَلَى كِرْجَلَةٍ مَحْذُوْفٌ كِيْ شَرْطٍ مَحْذُوْفٌ بِرَجَاهٍ جَمَلٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

**وَ جَعَلُوْا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَّ لَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةَ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾**

**آیت نمبر ۱۵۸:** اَوْرُ اَوْرُ اِسْتَمْتَمَ جَعَلُوْا فِعْلٌ اَوْرُ اَوْرُ ضَمِيْرًا قَاعِلٌ بَيْنَهُ مَرْكَبٌ اِنشَائِيٌّ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ اَوْ اَوْ اَعَالِي بَيْنَ الْجَنَّةِ مَرْكَبٌ اِنشَائِيٌّ  
مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفٍ كَاثِرٌ كَثِيْرٌ كَثِيْرٌ مَعْنَى اِنشَائِيٌّ مَقْدَمٌ نَسْبًا مَعْنَى مَعْنَى اِنشَائِيٌّ، فِعْلٌ اِبْقَالٌ وَ مَعْطُوْلِيْنَ جَمَلٌ خَرَجَ  
مَسْتَانَفٌ هُوَ اَوْ اَوْ اَعَالِي لآمر مَوْخَرٌ لِقَسْمٍ اَوْرُ قَسْمٌ مَحْذُوْفٌ هُوَ قَدْ عَلِمْتِ فِعْلٌ اَلْجَنَّةُ قَاعِلٌ اِنَّ حَرْفٌ تَمِيْمًا هُمْ ضَمِيْرًا  
كَلَامٌ مِّنْ جَدِيْدٍ مَّقُوْلَةٍ مَحْضَرُوْنَ اِسْمٌ مَعْطُوْفٌ بِاَهُمْ ضَمِيْرًا نَسْبًا قَاعِلٌ خَرَجَ اِنَّ ہاں اِسْمٌ وَ خَرَجَ جَمَلٌ اِسْمِيَةٌ خَرَجَ عَلِمْتِ كِيْ دَعْوَى مَعْطُوْلٍ كِيْ دَعْوَى

مقام، فعل با قائل و مفعولین جواب، قسم، ہما جواب قسم جعلواہ معطوف ہے۔

**سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ ﴿۱۵۹﴾**

**آیت نمبر ۱۵۹:** سُبْحٰنَ مصدر مضاف لفظاً اللّٰهُ مضاف الیہ عَن حرف جار ما اسم موصول یَصِفُوْنَ فعل بلاؤ ضمیر قائل صلہ۔ موصول ہاسلہ مجرور، جار مجرور مصدر کے متعلق، مصدر مضاف ہامضاف الیہ و متعلق مفعول مطلق ہوا فعل مذبذوب سَبَّحَتْ کا، فعل با قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معترض ہوں۔

**إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۶۰﴾**

**آیت نمبر ۱۶۰:** إِلَّا حرف استثناء عِبَادَ اللّٰهُ مرکب اضافی، موصوف الہِ الْمُخْلِصِينَ صفت، موصوف ہفت محضَرُوْنَ کا مشبہ متعلق ہوں۔

**فَاتَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۱﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿۱۶۲﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿۱۶۳﴾**

**آیت نمبر ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳:** فَاذ استثنائی حرف تحقیق کُم ضمیر معطوف علیہ، ہواؤ عاقلہ ما موصول تَعْبُدُونَ فعل بلاؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف اِنْ کلام ما عاقلہ اِنَّکُمْ ضمیر اس کا اسم علیکہ جار مجرور متعلق مقدم بناؤ ذلکہ جار مفعولین اسم قائل اِنَّکُمْ ضمیر قائل اِلَّا حرف استثناء مَن اسم موصول ہُوَ ضمیر مبتدا، صَالٍ الْجَحِيمِ مرکب اضافی خبر، مبتدا مجرور صلہ، موصول ہاسلہ مفعول بہ، اسم قائل با قائل و مفعول بہ ملامتوب خبر، ہما ہاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنْ کی خبری اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

**وَمَا مِنَّا اِلَّا اَلَّذِيْ مَقَامًا مَّعْلُوْمًا ﴿۱۶۴﴾**

**آیت نمبر ۱۶۴:** ہواؤ استثنائی مَن اِنَّا و مَنَّا کاؤن کے متعلق ہو کر اَحَدُ کی صفت، موصوف ہفت مبتدا، اِلَّا حرف استثناء اَلَّذِيْ کاؤن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَقَامًا مَّعْلُوْمًا مرکب توصیفی مبتدا و خبر، مبتدا مجرور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کی خبر، مبتدا مجرور جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**وَ اِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفّٰوْنَ ﴿۱۶۵﴾ وَ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَبٰحُوْنَ ﴿۱۶۶﴾**

**آیت نمبر ۱۶۵، ۱۶۶:** ہواؤ عاقلہ اِنَّا حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لاہرہ حلقہ نَحْنُ مبتدا، الصّٰفّٰوْنَ خبر، مبتدا مجرور اِنَّا کی خبری اِنَّا ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ہواؤ عاقلہ اِنَّا حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لاہرہ حلقہ نَحْنُ ضمیر مبتدا، الْمُسْتَبٰحُوْنَ خبر، مبتدا مجرور اِنَّا کی خبری اِنَّا ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف جملہ معطوف ہوں۔

**وَ اِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿۱۶۷﴾ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۶۸﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ**

**الْمُخْلِصِيْنَ ﴿۱۶۹﴾**

**آیت نمبر ۱۶۷:** اَوْ عَاطِفَةً اِنْ مَخَضَ مِنَ الشَّجَرِ هُمْ خَمِيرٌ شَانِ اس کا اسم کا نوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم لاکر مذکر تَقْوُونَ فعل باوا ضمیر قائل قول، لُؤْلُؤُ حروف شرط ان حرف تحقیق عِنْدَ تَاكْرِبِ اِضَانِي كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہو گئی موصوف مِنَ الْاَوَّلِيْنَ جہ باجر و کاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت اُن کی کا اسم بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتادل مصدر ہو کر قائل ہوا فعل مخدوف سَبَّتَ کا فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لاکر جوابیہ لُكْنَا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم عِبَادَةُ اللّٰهِ مَرْكِبِ اِضَانِي موصوف اَلْمُخْلِصِيْنَ صفت، موصوف ہفت لُكْنَا کی خبر، لُكْنَا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط جزاء معقول، قول ہا معقول کا نوا کی خبر، کا نوا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِن کی خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو

**فَكَفَرُوا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۷۰:** فَاَمَّ نَعِيْمٌ اِذَا كَانَ لَهَا فَاَمَّ نَعِيْمٌ اِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهَا فَكَفَرُوا فَعَلِ اِذَا ضمیر قائل سے ل کر جزاء، شرط جزاء، جملہ شرطیہ ہو، فَاَمَّ عَاطِفَةً سَوْفَ عَلَامَتِ لَعَلَّ يَعْلَمُوْنَ فعل باوا ضمیر قائل جملہ خبریہ معطوف ہو

**وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَاِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳:** اِذَا وَ اِذَا اِشْتَرَا فِي لَاكِرِ مَوْطِ الْعَمِّ اور قسم مخدوف ہے قَدْ عَلَامَتِ لَعَلَّ كَلِمَتُنَا مَرْكِبِ اِضَانِي مَبْدَلِ مَبْدَانِ حَرْفِ تَحْقِيْقِ هُمْ ضَمِيْرُ اس لَاكِرِ مَذَلَعَةُ هُمْ ضَمِيْرُ لَعَلَّ الْمَنْصُورُونَ خَبْرُ اِنَّ اسْمٌ وَاِذَا وَ خَبْرُ جَمَلِ اسْمِيَّةِ خَبْرِيَّةِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَاِذَا عَاطِفَةٌ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيْقِ جُنْدُنَا مَرْكِبِ اِضَانِي اس لَاكِرِ مَذَلَعَةُ هُمْ ضَمِيْرُ لَعَلَّ الْغَالِبُونَ خَبْرُ اِنَّ اسْمٌ وَاِذَا وَ خَبْرُ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ہا مَعْطُوفٌ بَدَلِ مَبْدَلِ مَبْدَلِ سَبَقَتْ کا قائل لاکر جہاد عِبَادَتُنَا مَرْكِبِ اِضَانِي موصوف الْمُرْسَلِيْنَ صفت، موصوف ہفت مجرور، جہ باجر و متعلق، فعل ہا قائل و متعلق جوب قسم، قسم باجر و قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو

**فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ وَاَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝ اَفَبِعَدَا اِيْتَايَسْتَعْجِلُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶:** فَاَمَّ نَعِيْمٌ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ كَيْبَنَتْ حَقِيْقَةً اَمْرِهِمْ مَعُوْلُ لَعَلَّ اَلْتِ مَسْتَرْقَالُ عَنْهُمْ جہ باجر و متعلق حَتَّىٰ حِيْنٍ جہ باجر و متعلق وَاَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ عَلَامَتِ لَعَلَّ يَعْلَمُوْنَ فعل ناقص و متعلقین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، وَاِذَا عَاطِفَةُ اَبْصَرُ لَعَلَّ اَلْتِ مَسْتَرْقَالُ هُمْ ضَمِيْرُ مَعْطُوفٍ بِہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط ہا معطوف جزاء، جوابیہ سَوْفَ عَلَامَتِ لَعَلَّ يَعْلَمُوْنَ فعل باوا ضمیر قائل خبر ہے مَبْدَلُ مَخْدُوفِ هُمْ کی (تقریر) مَبْدَلُ اَخْبَرِ جَمَلِ اسْمِيَّةِ خَبْرِيَّةِ مَعْلَا جَرُورِ اِنْ تَفَعَّلَ شَرْطُ مَخْدُوفِ كِي جَزَاءِ، هَمْزًا اسْتِفْهَامِيَّةً فَاَمَّ عَاطِفَةُ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ مَخْدُوفٌ ہے لَا يَخَافُوْنَ عَذَابَ اللّٰهِ (تقریر) جَاءَهُ جَدَاهُ اِيْتَا مَرْكِبِ اِضَانِي جَرُورِ، جہ باجر و متعلق مَقْدَمُ اِيْتَسْتَعْجِلُونَ فعل باوا ضمیر قائل و متعلق مَقْدَمُ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ہا مَعْطُوفٌ جَمَلُ مَسَائِفِ اِنشَائِيَّةِ ہو

**فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۷۷:** فَاَمَّ عَاطِفَةً اِذَا شَرْطِيَّةِ مَعْطُوفٍ فِي مَقْدَمِ نَزَلَ لَعَلَّ هُوَ مَسْتَرْقَالُ اِيْتَا جَدَاهُ سَاحَتِهِمْ مَرْكِبِ اِضَانِي جَرُورِ، جہ

ہا مجرد متعلق، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول فیہ جملہ اعلیہ خبریہ شرطیہ قائمہ جزائیہ ساء فعل صبا ح المُنذِرِینِ مرکب اضافی قائل، فعل ہا قائل خبر مقدم، صبا حہم مرکب اضافی مخصوص بالذم مبتدا مخدوف ہے مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۷۸﴾ وَابْصُرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿۱۷۹﴾


آیت نمبر ۱۷۸، ۱۷۹: و تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَابْصُرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ان کی ترکیب ایسی گزری ہے۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸۰﴾

آیت نمبر ۱۸۰: سُبْحٰنَ رَبِّكَ مرکب اضافی مبدل منسرب العِزَّةِ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بدل مضاف الیہ، عن جارہ ماموصول یَصِفُونَ فعل باء ضمیر قائل صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، بدل با مجرور متعلق، مصدر مضاف ہامضاف الیہ و متعلق و مفعول مطلق فعل مخدوف سَبَّحْتَ کا، فعل ہا قائل و مفعول مطلق جملہ متناقد ہوں

وَسَلَّمَ عَلَی الْمُرْسَلِینَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿۱۸۲﴾

آیت نمبر ۱۸۱، ۱۸۲: وَاَوْعَاطِفہ سَلَّمَ مبتدا، عَلَی الْمُرْسَلِینَ کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفہ الْحَمْدُ مبتدا، لا جارہ اللّٰہ موصوف ربِّ الْعَالَمِینَ مرکب اضافی مفت، موصوف ہاسفت مجرور، بدل با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ ہامعطوف جملہ معطوف ہوں



# اخلاق السيرة النبوية

(مترجم حلیہ معرب)

نظر المراجعة: الناقد مولانا ظفر احمد العثماني القماني

ترجمہ و تشریح: مولانا

# اخلاق السيرة النبوية

مولانا نعیم احمد  
مدیر، جامعہ غیر المدارس، کراچی

مکتبہ المدنیہ  
کراچی۔ پاکستان